

امام طبرانی کی شہرہ آفاق کتاب المعجم الکبیر کی احادیث
کافقی ترتیب سے پہلی مرتبہ آسان سلیس اردو ترجمہ مع تخریج

جلد پنجم

المعجم الکبیر



تألیف الإمام الحافظ ابن القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني
المتوفى ٣٢٠ هـ

مترجم غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی
مدرس جامعہ رسولیہ شیعہ ازیر رضویہ بلال گنج لاہور

پروگریسو بکس

امام طبرانی کی شہرہ آفاق کتاب المعجم الکبیر کی احادیث
کافقی ترتیب سے پہلی مرتبہ آسان سلیس اردو ترجمہ مع تخریج



المعجم الکبیر

تالیف

الإمام الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب النخعی الطبرانی

المتوفى ۳۲۰ھ

مقدم

غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی

مدرس جامعہ رویشیہ شیرازیہ رضویہ ہلال منج لاہور



پروفیسر ڈاکٹر عزیز گل
ادوارہ لاہور

فون 042-37124354 گیس 042-37352795

پروگریس پبلیکیشنز

المعجم الكبير

بسم الله الرحمن الرحيم
جلد حق بنی نامہ محفوظ ہیں



غلام دستگیر حشقی سیالکوٹی
مدس جامعہ رسالہ شیرازہ رضویہ ہلال منج لاہور

الإمام الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمی الطبرانی
المتوفى ۳۲۰ھ

باراول اگست 2015
پرٹرز آصف صدیق، پرٹرز
تعداد 1100/-
ناشر چوہدری غلام رسول - میاں جواد رسول
میاں شہزاد رسول
قیمت = / روپے

ملنے کے پتے

ملٹ پبلی کیشنز

۱۲- گنج بخش روڈ لاہور فون 042-37112941
0323-8836776

ملٹ پبلی کیشنز

فیصل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111
E-mail: millat_publication@yahoo.com

دوکان نمبر 5- مکہ سنٹر نیوار دو بازار لاہور 0321-4146464
Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

بوسٹ آفیسٹ - غزنی سٹریٹ
اردو بازار لاہور

فون 042-37124354 فیکس 042-37352795

پروگریسو بکس

فہرست (بلحاظ فقہی ترتیب)

عنوانات	حدیث نمبر
فضائل امام حسین رضی اللہ عنہ	
حضور ﷺ کا حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو نماز کے دوران اپنے کندھوں پر اٹھانا	6963
امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان	7599
کتاب الایمان	
تقدیر کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے	7555
تقدیر کے متعلق	7558، 7556
اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا	7606
امانت دار ہونا ضروری ہے	7702
کتاب الطہارۃ	
جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے	6675، 6677
حضور ﷺ کی امت کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے	6908
دودھ پی کر رکھی وغیرہ کرنی چاہیے	6962
موزوں پر مسح کرنے کے متعلق	7097
موزوں پر مسح کرنے کی مدت	7267، 7261، 7255، 7211، 7207، 7203، 7201، 7199
ناپاک شی کے متعلق	7374
حضور ﷺ کی امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے	7385
آگ سے پکی ہوئی شی کھانے کے بعد وضو نہیں ہے	7426، 7427
موزوں پر مسح کرنے کے متعلق	7428
وضو کرنے کا طریقہ	7432
وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں	7438، 7440، 7441، 7442، 7451

7465	حیض کی مدت
7485, 7487	پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کرنا چاہیے
7530	دودھ پی کر کھنی کرنی چاہیے
7612	موزوں پر مسح کرنے کے متعلق
7613	دباغت کے متعلق
7641	جمعہ کے دن غسل کرنے کے متعلق
7645	مسواک منہ کے لیے پاکی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے
7655, 7665	با وضو رہنے کا ثواب
7667	وضو مؤمن کی شان
7752	تین پتھروں سے استنجاء کرنے کے متعلق
7754	مسواک کے متعلق
7755	آگ سے پکی ہوئی شے کھانے کے بعد کھنی کرنی چاہیے
7795	مسواک رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے
7871	وضو کا ثواب
7875	وضو کب ٹوٹتا ہے
7882	غسل کب فرض ہوتا ہے؟
7886	تیمم کے متعلق
7902	وضو کرنے کا ثواب
7958, 7987, 7988	وضو کا ثواب
7995	داڑھی کا خلال سنت ہے
7996	وضو کے لیے پانی

کتاب الصلوٰۃ

6589, 6594, 6595, 6596	حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے اذان سکھائی
6592, 6590	اذان کے کلمات
6598, 6599	الصلوٰۃ خیر من النوم
6600	اذان اور اقامت کے کلمات
6601, 6602	اذان کے آخری الفاظ: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
6604	اذان نیک آدمی کو دینی چاہیے

مغرب کا وقت

6605

عیدین کی نماز میں قرأت

6639۳6633

سورج کو گرہن لگے تو نماز پڑھنی چاہیے

66457۳6654

عذر کی بناء پر گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے

6678,6679

صلوٰۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے

6680,6683

جمعہ کے لیے جلدی آنے کا ثواب اور نہ آنے کا گناہ

6711

قرأت شروع کرنے سے پہلے خاموش رہنے کے متعلق

6732

جمعہ کے دن جلدی آنے کا ثواب

6737

نیک لوگوں کو امام کے قریب کھڑا ہونا چاہیے

6739

سجدہ میں میانہ روی کرنی چاہیے

6740,6741

امام جب سلام پھیرے

6747,6756

جس کا جمعہ رہ جائے

6768

نماز فجر پڑھنے کی فضیلت

6774

وتر پڑھنے کے متعلق

6782

جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

6783

نماز فجر کی فضیلت

6791

جب امام سلام پھیرے تو اپنا رخ نمازیوں کی طرف کرے

6795

نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ کر خاموش رہنا

6799

جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے

6803,6833

امامت کروائی چاہیے

6809

حالت مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے

6812

نماز کے متعلق

6815

جمعہ کے لیے جلدی آنے کا ثواب

6826

جس کی نماز رہ جائے تو

6836

بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے کا گناہ

6837

وتروں کے متعلق

6856,6857

نماز پڑھتے ہوئے اولگہ آئے تو

6859

جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے

6864۳6862

عصر کی نماز کی تاکید

6865

لگاتار دن رات روزہ رکھنا منع ہے

6866,6867

6870,6871	دو آدمی ہوں تو امامت کروالی چاہیے
6873,6874	التحیات کے متعلق
6876	التحیات میں بیٹھنے کے متعلق
6889	نماز اگر رہ جائے تو
6881,6882	گھر میں جس جگہ نماز پڑھنی ہو وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے
6891	نماز کے لیے سکون سے آنا چاہیے
6893	نماز میں اگر تھوک آ جائے تو
6918	چاند گرہن لگے تو نماز پڑھنی چاہیے
6935	جمعہ کے دن کی فضیلت
6936	حالت مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنی چاہیے
6941	پہلی صف میں تین لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے
6967	نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے
6988	جمعہ کے دن کا ثواب
7009	وقت پر نماز نہ پڑھنے والے لوگ
7040	کعبہ کے اندر نماز
7048	صلوۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے
7061	نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو
7078	سحری کا وقت
7159	باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب
7170	نفل نماز کے متعلق
7192	حضور ﷺ کی رات کی نماز
7193	جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے
7260	اذا السماء انشقت میں سجدہ تلاوت ہے
7269	نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے
7280	نفل نماز سواری پر جائز ہے
7336	سجدہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں
7339	تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے
7359	سحری صف میں نماز پڑھنے والے کے متعلق
7461	نہ زکاة ثواب
7508,7509	سفید و گناہ توبہ اور نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں

7535	نماز چاشت کا ثواب
7542, 7543	نفل پڑھنے والے کے لیے ثواب
7560	نماز چاشت کا ثواب
7587	امام کی اتباع ضروری ہے
7591 تا 7589	جمعہ کے دن کا ثواب
7592	مردوں اور عورتوں کیلئے اچھی صف کون سی ہے
7593	نماز کے بعد کی دعا کا اثر
7608	نماز قائم کرنے کے متعلق
7629	حصص درست رکھنی چاہئیں
7636, 7354	باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب
7633, 7664, 7666	ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کا ثواب
7642	نماز چاشت پڑھنے کا ثواب
7647	نماز ظہر کی سنتوں کی فضیلت
7668	نماز فجر باجماعت پڑھنے کا ثواب
7687	جنازہ میں تین حصص بنانی چاہئیں
7714	نماز کی اہمیت
7749	فجر کی سنتوں کا ثواب
7767	نماز میں حصص برابر ہونی چاہئیں
7800	نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا
7881	نفل روزہ کے متعلق
7900	اگر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھی جائے
7901	دو آدمی اگر ہوں تو جماعت کروائیں اگر چہ وہ پڑھ چکا ہو وہ نفل کی نیت سے شریک ہو
7907	نماز کا ثواب
7908	جمہرات اور جمعہ کا روزہ رکھنے کا ثواب
7925	سنتوں کے متعلق
7989	رات کی نماز
7990	نماز میں قرأت
8014, 8023	جن کی نماز قبول نہیں ہوتی
8022	امام ضامن اور مؤذن امانت دار ہونا چاہیے

کتاب العلم

6617	حدیث بیان کرنے میں احتیاط چاہیے
7149	حضور ﷺ کی حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے
7197, 7197	اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں
7268	علم اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ علماء نہیں رہیں گے
7346	علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے کے متعلق
7404	استاد کی عزت کرنی چاہیے
7479	حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے
7716	حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کہ علماء کے پاس بیٹھا کر
7724	علماء کی عزت نہ کرنے والا منافق ہوتا ہے
7775	علماء کے فوت ہو جانے سے ختم ہوگا
7794	علم سیکھنے کی ترغیب
7831	علماء کے فوت ہونے سے ختم ہوگا
7836	عالم کا مقام و مرتبہ
7837	علم حاصل کرنے والے کا مقام

کتاب الصوم

6811	لگاتار روزہ رکھنا منع ہے کہ دن رات کو افطار نہ کرنا
6838, 6841	سحری کا وقت
7335	روزہ اہم عبادت ہے
7488	روزے کی جزاء اللہ خود دے گا
7624	صرف ہفتہ کا روزہ رکھنا منع ہے
7652	شعبان کے روزوں کے متعلق
7712	اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا ثواب
7782	روزہ کا ثواب
7789	اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا ثواب
7827	اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا ثواب
7846	اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھنے کا ثواب

8014,8015

روزہ افطار کے وقت لوگ جنم سے آزاد کیے جاتے ہیں

کتاب فضائل القرآن

6710	قرآن کی قراتیں
6887	قرآن پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے
7000	جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے
7408	فرض نماز کے بعد آیہ الکرسی پڑھنے والا جنتی ہے
7421,7422	سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن شفاعت کریں گی
7431	ایسے لوگ ہوں گے جن کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا
7467	قرآن سیکھنے کا ثواب
7619	قرآن تین ملکوں میں اترتا: مکہ، شام اور مدینہ پاک
7643	اوپر اترتا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کا ثواب
7649	قرآن پڑھنے کا ثواب
7774	سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے لیے ثواب
7785	آیہ الکرسی کی فضیلت
7845	جو آیتیں عرش کے خزانوں سے اترتی ہیں
7860	اوپر اترتا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کا ثواب
7915	اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں
7929	چند سورتوں کی بڑی فضیلت
7937	قرآن سیکھنے کے متعلق
7952	حم الدخان پڑھنے کا ثواب

کتاب التفسیر

6773	اليوم اكملت لكم دينكم عرفہ اور جمعہ کے دن نازل ہوئی
7136	ومن الناس من يشتري نفسه كاشان نزول
7266	ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات کی تفسیر
7281	فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره کی تفسیر
7331	يسعى من ماء صديد يتجرعه کی تفسیر
7433	فيه رجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطهرين کی تفسیر

7544 راتحین سے مراد کون ہے؟

7569 لا تسألوا عن اشیاء کی تفسیر اور شان نزول

7574 اقم الصلوة طرفی النهار وزلفاً من الیل کا شان نزول

7650,7651 ومن الناس من یشتری لہو الحدیث کی تفسیر

7633 اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون عیا کی تفسیر

7763 ومن الناس من یشتری لہو الحدیث کی تفسیر

7806 وعبس وتولی ان جاء الاعمی کی تفسیر

7810 وانذر عشیرتک الاقربین کی تفسیر

7811 ونضع الموازین القسط بیوم القيامة کی تفسیر

7813 من ذالذی یقرض اللہ قرصاً حسناً کی تفسیر

7814 ان تبدوا الصدقات فنعمماہی کی تفسیر

7874 فرش المرفوعہ کی تفسیر

7960,7961 چند آیتوں کی تفسیر

7992 ما ضربوہ لک الا جدلاً بل ہم قوم خصمون کی تفسیر

کتاب الحج

6751,6895 حج اکبر

7314,7299 حالت احرام میں شکار منع ہے

7807 منی میں جانے کے متعلق

کتاب الجنة والجهنم

6742,6743 جنت الفردوس مانگی جا ہے

6746 جہنم میں عذاب گناہوں کے برابر ہوگا

6842,6845 رسول اللہ ﷺ کا ایک خواب اور مختلف لوگوں کو عذاب میں دیکھنا اس کی مکمل تفصیل

6942 جنت کے درخت کی لمبائی

6956 حضور ﷺ کو لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں

7076 جن لوگوں سے جہنم والے بھی پناہ مانگیں گے

7351,7352 جنتی آدمی کے متعلق

7354 حیاء و شرم دونوں جنت کے قریب کرنے والے عمل ہیں

7402

جولوگ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے

7420

جنت والے لوگ کھائیں پئیں گے

7430

دنیا میں ریشم پہننے والا آخرت میں ریشم سے محروم رہے گا

7562,7570

ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے

7623

جنت کا ماحول

7632

جولوگ جنت میں جائیں گے

7719

حورالعین، زعفران سے پیدا ہوئی ہے

7793

جہنم والے لوگ

7848

جنتی اور جہنمی لوگ اور حضرت عبدالرحمن کا خوف خدا

7863

جنتی لوگوں کے متعلق

7883

جنت والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے

7912,7913,7916

عورتیں اگر شوہر کی نافرمانی نہ کریں تو جنتی ہیں

7943

جہنم سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے

کتاب البیوع

6665۶6658

شفعہ کا حق پڑوسی ہے

6690

جب دواؤں کی بیع کریں

6695۶6691

بیع میں اختیار کے متعلق

6696,6697

جس شی کے خریدار دواؤں دی ہوں تو پہلا اس کا زیادہ حق دار ہے

6703۶701

عمر کی جائز ہے

6708۶704

جانور کی بیع کرنے کے متعلق

6726,6727

شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے

6777,6780,6798,6922,7102,7103,7104,7105

شفعہ کا حق دار پڑوسی ہے

6786,6787

شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے

6797

جانور کی بیع کے متعلق

6879,6880

دھوکہ منع ہے

6911

پھل پکے سے پہلے فروخت کرنا منع ہے

6920,6921

سامان منڈی میں فروخت کرنا چاہیے

6946

جانور رہن رکھنے کے متعلق

7191

اچھی تجارت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے

7471

پھل پکتنے سے پہلے فروخت کرنا ناجائز ہے

7473

وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اپنا حصہ فروخت کرنا ناجائز ہے

7673

جب شی پک جائے اُس وقت فروخت کر لی جاوے

7678

ذخیرہ اندوزی منع ہے

7709

گانے والیوں کے گانے کی تجارت حرام ہے

7769, 7770

جن کی کمائی حرام ہے

کتاب الجہاد

6576

بدر کے مقتولین سے حضور ﷺ کا خطاب

6759, 6757

بچوں کو مارنا ناجائز نہیں ہے

6855, 6850

جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا سامان قتل کرنے والے کے لیے ہے

6892

کافروں سے جہاد کرنے کے متعلق

6897

مسلمان پر اسلحہ لہرانا منع ہے

6992

کسی عورت کو قتل کرنا ناجائز ہے

7042

غزوہ خنین کا واقعہ

7118, 7116

فتح مکہ کے متعلق

7328, 7315

جہاد کے متعلق

7355

اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے ثواب

7434

تیر اندازی کرنے کے متعلق

7490, 7492

اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کا ثواب

7610

ربانیت اللہ کی راہ میں نگہبانی کرنا ہے

7648

جہاد کی نیت رکھنی چاہیے

7784

افضل جہاد

7805

جہاد کے متعلق

8007

افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے

کتاب النکاح

6698,6700	جس عورت کے دوولی ہوں تو پہلا نکاح کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے
6750	شادی کرنی چاہیے اگر وسائل ہوں تو
6755,6789	کسی کی معافی تروائی نہیں چاہیے
6765	جن دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں
6877	شادی کرنی چاہیے
6923	جس عورت کے دوولی ہوں
7148	حق مہر دینا ضروری ہے
7150	حق مہر ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن خائن کہلائے گا
7602	رضاعت سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب سے ہوتی ہے
7674	حاملہ عورتوں سے نکاح جائز لیکن وطی کرنا جائز نہیں ہے

کتاب آداب الطعام والشراب

6816,6817,6821	مؤمن کم کھاتا ہے اور کافر زیادہ
6825	صحابہ کرام مل کر کھانا کھاتے تھے
6898,6899	مؤمن کم کھاتا ہے
7074	زنا کرتے وقت اور شراب پیتے وقت ایمان نکل جاتا ہے
7181۷7179	گوشت کھانے کا طریقہ
7718	کھانا کھانے کا طریقہ
7725	شرید کے متعلق
7828	حضور ﷺ کے کھانے کی برکت
7829	دعوت قبول کرنی چاہیے
8009	کیا اہسن

کتاب المریض

6766,6846,7008۷7001,6986۷6978	بچھٹا گلوانے کے متعلق
6804,6805	بخار ہو تو غسل کرنا چاہیے
7059,7060	طاعون کی بیماری کے متعلق
7083	بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں

7154	پچھنا لگانے سے بیماری ختم ہوتی ہے
7264	ہر بیماری کی دوا ہے
7341	بخارِ جنم کی تپش سے ہے
7358	بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں
7662, 7663, 7706	بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہیں
7762	مریض کی عیادت کرنے کا ثواب

کتاب الدعاء

6575	دعا کرنے کے متعلق
6748	آمین کہنے پر دعا قبول ہوتی ہے
6754	اللہ عزوجل سے استقامت کا سوال کرنا چاہیے
6761, 6785, 6810, 6951	بارش کے لیے دعا
6808	ایک دعا
6903	نماز کے بعد کی دعا
6948	سفر سے واپس کی دعا
6989, 7011	جب لوگ مال جمع کر رہے ہوں تو کون سی دعا کرنی چاہیے
7082	دلوں کو اسلام پر مضبوطی کے لیے دعا
7145, 7149	جو دعا حضرت داؤد علیہ السلام مانگتے تھے
7146	جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کرنے کے لیے مانگی تھی
7345, 7342, 7372, 7519	کھانا کھا کر دعا کرنے کے متعلق
7377	دعا سب کے لیے کرنی چاہیے
7363	ایک اہم دعا
7615, 7621	جن موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے
7693	ایک دعا
7704	صبح و شام پڑھی جانے والی دعا
7717	ایک اہم دعا
7745, 7747	بیوی سے جماع کرنے سے پہلے دعا کرنے کے متعلق
7799	ایک اہم دعا

7815	فرض نماز کے بعد کی دعا
7853	فرض نماز کے بعد کی دعا
7909	ایک دعا
7910, 7911, 7917, 7923	وضو کا ثواب
7953, 7954	صبح و شام والی دعا

فضائل سید الانبیاء

6584	حضور ﷺ کا لعاب اطہر
6606, 6607	حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیشانی کے بال نہ کاٹنا کہ یہاں حضور ﷺ کا دست مبارک لگا ہے
6611	حضور ﷺ کی نگاہ نبوت کا کمال
6738	حضور ﷺ کے حوض کوثر پر بہت زیادہ لوگ آئیں گے
6953	حضور ﷺ کی اُمت کے لوگ خواہش کریں گے کہ مال و اولاد دے کر حضور ﷺ کی ایک جھلک دیکھیں
6961	حضور ﷺ کی دنیا سے نفرت
6966	حضور ﷺ کا دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھا
6996	حضور ﷺ کی معراج
7016	حضور ﷺ کی نگاہ مبارک کا کمال کہ بیت المقدس کے فتح کی خوشخبری دی
7017	حضور ﷺ کا ایک عمل
7041	حضرت شبیب بن عثمان کے اسلام لانے کا واقعہ اور حضور ﷺ کے دست مبارک کی برکت
7065	حضور ﷺ کے لعاب اطہر کے متعلق
7152	حضور ﷺ کے مذاق کا مبارک انداز
7161	حضور ﷺ کو دودھ پسند تھا
7169	حضور ﷺ کی دعا کی برکت
7155	اللہ اور اس کے رسول کی تکلیف
7285, 7286	حضور ﷺ اپنی اُمت کے لیے حوض کوثر پر انتظار کریں گے
7298, 7289	حلال و حرام کرنے کا حق اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے
7333, 7337	حضور ﷺ کی دعا
7356	حضور ﷺ کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہوگی
7188	حضور ﷺ کی ایک نگاہ کا کمال

7367	حضور ﷺ کی نگاہ مبارک کا کمال
7423	حضور ﷺ کی نگاہ کا کمال کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم اور نوح علیہما السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا
7424	حضور ﷺ کا حوض کوثر
7476, 7477	جس نے حضور ﷺ پر پتھر مارا اس کا بدترین انجام
7500	حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے
7517	حضور ﷺ نے شفاعت کو پسند کیا
7563	حوض کوثر کی وسعت
7564, 7465	حضور ﷺ کا ایک مبارک خواب
7568, 7566	حضور ﷺ کی نگاہ مبارک کا کمال
7576	حضور ﷺ کا ایک خطبہ
7577	حضور ﷺ کے دست مبارک کی برکت یعنی ایک نوجوان زنا کی اجازت مانگنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو پسند کرے گا کہ تیری ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرے تو آپ ﷺ نے اس نوجوان کے سینہ پر دست مبارک پھیرا
7578	کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا ☆ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام
7616	حضور ﷺ کا ایک مبارک خواب
7631	حضور ﷺ کا اپنا میلاد مبارک خود بیان کرنا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور آپ کی ولادت پر آپ کی والدہ نے شام کے محلات دیکھے
7660	حضور ﷺ کے دست مبارک کی برکت
7701	حضور ﷺ کی نگاہ مبارک کا کمال
7708	حضور ﷺ کو اللہ عز و جل نے تمام کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا
7721	حضور ﷺ اللہ کے دوست ہیں
7727	حضور ﷺ کی دعا کا اثر
7741	حضور ﷺ کی زندگی
7744	حضور ﷺ خوش طبع اچھی طبیعت والے تھے
7772	حضور ﷺ کا ایک خواب
7787	حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں
7788	انبیاء کی تعداد
7790, 7792	حضور ﷺ کی نگاہ مبارک کا کمال

7798	حضور ﷺ کا پیالہ مبارک
7819	حضرت جبریل علیہ السلام کا حضور ﷺ کی بارگاہ میں آنا
7844, 7983, 7984	حضور ﷺ کی شفاعت
7858, 7928	حضور ﷺ کی فضیلت
7931	جنت میں حضور ﷺ کی بیویاں
8021	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اور حضور ﷺ کا علم غیب
8028	حضور ﷺ کی گفتگو
7997	حضور ﷺ کی عاجزی

کتاب فضائل الصحابه

6577	ایک صحابی کا نام سرق تھا، کسی نے کہا کہ یہ غلط نام ہے تو اس نے جواب دیا: یہ نام میرے آقا حضور ﷺ نے رکھا میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا
6585	حضرت سبایہ بن عاصم رضی اللہ عنہ کا ذکر
6586	حضرت سیبہ کی عمر
6609, 6610	حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق
6744	دیہات کے لوگ مہاجرین کے پیچھے نماز پڑھیں
6823	ایک آدمی کا خواب اور خلفاء اربعہ کی خلافت
6964	رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی کی شہادت کی تمنا اور اللہ عزوجل کا اس کی تمنا کو پورا کرنا
7020	حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایک عمل
7045, 7046	حضرت شبیر رضی اللہ عنہ کا راہ خدا میں مال دینا
7052	حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی موت چھبیس بہت بڑی تھیں کسی نے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں تو فرمایا: ان پر حضور ﷺ کا دست مبارک پھیرا ہے
7055	حضرت شریصیل رضی اللہ عنہ کا نسب
7056	حضرت شریصیل رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی
7057	حضرت شریصیل رضی اللہ عنہ کا وصال ۱۷ ہجری کو ہوا
7058	حضرت ابو عبیدہ شریصیل ابو مالک کا وصال اکٹھے ہوا طاعون کی وجہ سے
7066	حضرت شریصیل رضی اللہ عنہ کی بہادری
7067	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے خوشخبری

7109	حضرت ابوسفیان کا وصال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا
7133	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا وصال ۸۸ سال کی عمر میں ہوا
7137	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی ذات کے لیے سب کچھ قربان کر دیا
7144, 7158	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو یحییٰ، حضور ﷺ نے رکھی تھی
7156, 7157	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے متعلق
7159	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا سب سے بڑا بد بخت ہے
7171	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت
7172	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت
7190	عمرو بن قرہ کا حضور ﷺ کی بارگاہ میں آنا
7279	حضرت صالح شقران نے حضور ﷺ کی قبر انور کے اندر چادر ڈالی تھی
7329, 7330	حضرت صدی بن عجمان رضی اللہ عنہ کے متعلق
7415	حضرت معاویہ بن معاویہ کی نماز جنازہ تبوک میں پڑھی گئی وصال مدینہ میں ہوا تھا وجہ سورۃ اخلاص سے محبت ہے
7675	حضرت قاسم بن عبد الرحمن ایک سو صحابہ سے ملے
7715	جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کا سنائی دینا
7732	حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تمام نیکی کے کام کیے
7803	حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی عیادت
7824	حضور ﷺ کے وصال مبارک پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پریشانی
7933, 7934	صحابہ و تابعین کا مقام
8024	حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا ایک خواب

کتاب مناقب الامة

6998, 6999	حضور ﷺ کی اُمت پتھروں، بتوں اور سورج و چاند کی عبادت نہیں کرے گی
7625	حضور ﷺ کی اُمت کی شان
7796	حضور ﷺ کی اپنی اُمت پر شفقت
7682	حضور ﷺ کی اُمت کے چہرے چمکنے والے ہوں گے

کتاب الزکوۃ والصدقة

6588	بکریوں کی زکوۃ
6820	علم سیکھنا سب سے بہتر صدقہ ہے

7630

زکوٰۃ خوش طبعی سے دینی چاہیے

7740

رشتے دار کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے

7783

افضل صدقہ

7841

افضل صدقہ دودھ والا جانور کسی کو دینا ہے

کتاب الذکر

6649

لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے

6712

سوتے وقت ذکر الہی کر کے سونا چاہیے

7026,7037

سید الاستغفار پڑھنے کا ثواب

7030,7028,7027

سوتے وقت کی دعا

7348

تو کلت علی اللہ پڑھنے کے متعلق

7160

گدھا جب بولتا ہے تو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے

7409

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ثواب

7410

سبحان واللہ و بحمدہ پڑھنے کا ثواب

7411

الحمد للہ پڑھنے کا ثواب

7412

اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب

7480

پریشانی کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے

7491

درود پاک پڑھنے کا ثواب

7659

جن سورتوں میں اسم اعظم ہے

7699,7705

سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ثواب

7730

جب کسی کو تکلیف پہنچے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے

7780

لاحول ولا قوۃ جنتی خزانہ ہے

7797

سبحان اللہ و بحمدہ کا ثواب

7852

جن سورتوں میں اسم اعظم ہے

7857

چند ذکر والے کلمات

7892

بازار میں جب کوئی آئے؟

7914,7919

ذکر کے چند الفاظ

7938,7954

نماز عصر اور فجر کے بعد ذکر کرنے کا ثواب

7950

ذکر کا ثواب

کتاب علامات الساعة والفتن

6714

قیامت کی نشانی

6775,6776

دجال کا حلیہ

6827,6829

قیامت کے دن عذاب گناہوں کے مطابق ہوگا

6932

قیامت کے قریب بیت المقدس کی طرف لوت اکٹھے ہوں گے

6938

دجال کا حلیہ

6939

قیامت کی نشانیاں

7032,7034

سب سے پہلے جوشی لوگوں کے دلوں سے نکالی جائے گی وہ امانت ہے

7437

قرب قیامت کے لوگ

7529

دجال کے متعلق

7658,7817

جن لوگوں پر قیامت آئے گی

7681

قیامت کے دن کا منظر

7835

افتوں کا زمانہ

7891

قیامت کی نشانی

7893

جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے

7896

جہنم والوں کے متعلق

7948

قیامت کی پہلی نشانی

کتاب الموارث

6910

کلامہ کے متعلق

7407

وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے

7495

بر وارث کا حق مقرر ہے

7676

حصہ تقسیم سے پہلے فروخت کرنا ناجائز ہے

کتاب اللباس

6772

شلوار کہاں تک ہونی چاہیے

6829

شلوار کہاں تک رکھنی چاہیے

7090

تہبند کہاں تک ہونا چاہیے؟

تہبند کہاں تک ہونا چاہیے؟

کتاب الجنائز

6835-6833

میت کو سفید کفن دینا سنت ہے

کتاب الشہید

7353

لہذا راہ میں شہید ہونے والے کے متعلق

7618

شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے

7868

شہید کا مقام و مرتبہ

کتاب البر

6579

جس پر کوئی معصیت آئے وہ حضور ﷺ کی معصیت یاد کرے

6587

ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا

6597

حضور ﷺ نے بنی عبدالمطلب کو پانی پلانے کی ذمہ داری لگائی

6622-6619

سفید کپڑے کی فضیلت

6653-6651

بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہئیں

6684, 6788

بچہ کا حقیقہ نہ کرنے کا نقصان

6689-6685

بچہ کا حقیقہ ساتویں دن کرنا چاہیے

6736

جو تین کام آدمی کے لیے باعث حسرت ہیں

6760

مہاجرین، مہاندہ اور انصار عبدالرحمن نام رکھتے تھے

6764, 6763

باسمہ یاد کرنے کے متعلق

6769, 6770

تقویٰ کے متعلق

6771

مشورہ نہانت ہوتا ہے

6800

وراثت چھوڑنا اچھی شے ہے

6813

حقیقہ کے متعلق

6814

جو اپنی جگہ سے اٹھے تو دوبارہ آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے

6819

اولاد کے مال سے ماں باپ بغیر اجازت کے لے سکتے ہیں

6820

افضل نیکی مسلمان سے تکلیف کو دور کرنا ہے

6824

سداقتہ دینا چاہیے

6830

میانہ روی بڑی عمدہ شے ہے

6847

عورت کے ساتھ میانہ روی سے پیش آنا چاہیے

6860

سننا کم اور رونا زیادہ چاہیے

6872

حضور ﷺ آپس میں محبت کرنے کا حکم دیتے

6884

نبوی کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے

6902

نرمی کے متعلق

6909

دوسری امتوں اور حضور ﷺ کی امت کی مثال

6912

اچھا خواب نبوت کا حصہ ہے

6915

راستہ بند نہیں کرنا چاہیے

6919

رشک صرف دو آدمیوں پر جائز ہے

6925

لا تعلقی تین دن تک ہے

6927

جس کو دعوت دی ہو صرف وہی جائے

6931

مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جانی ہیں

6937

حضور ﷺ کی عاجزی

6957

صبر کرنے والے کی مثال

6959

پریشانی کا حل ہے

6960

حضور ﷺ کی امت کے لوگ ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے

6965

نیت کا ثواب

6970, 6977

جب کسی شی کو ذبح کرنا ہو تو چھری تیز کرنی چاہیے

6990

انسان جو نیکی حالت صحت میں کرتا تھا حالت مرض میں اس کا ثواب ملتا ہے

7012

آخرت سے محبت کرنی چاہیے

7021

اللہ عزوجل کے لیے مکمل خلوص نیت سے کرنا چاہیے

7022

جب کوئی مر جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے

7023

اچھی نیت کے متعلق

7024

اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانا والا شہید ہے

7025

اپنے خاندان کے لوگوں پر خرچ کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے

7031

فقر مومن کے لیے خوبصورتی ہے

7035

صبح و شام مانگی جانے والی دعا

7044

جن کاموں میں مومن کا دل خائف نہیں ہوتا ہے

7047

کھلی جگہ بیٹھنا چاہیے

7049, 7050

حضرت ابوہاشم بن عقبہ کا خوف خدا

7051

دنیا کشی ہوئی چاہیے

7063

بخار گناہوں کے لیے کفار وہ ہے

7068, 7073

جنت میں ہر کوئی اللہ کے فضل سے ہی جائے گا

7075

چند چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کے متعلق

7079,7080

تشریق کے دن

7081

مؤمن کے عیب پر پردہ ڈالنے کا ثواب

7085

اللہ کی بخشش

7087,7088,7089

ایچھے اشعار سننے کے متعلق

7092,7093

بیٹھنے کا طریقہ

7106

مؤمن لوٹنے

7115,7112,7111

چند اچھی باتیں

7119,7120,7123

واقعہ ہرقل اور حضور ﷺ کی خوبیاں

7124,7125

جس کے کام میں برکت ہوتی ہے

7129

جس کو اللہ نے مال دیا ہو اس کا اثر بندہ پر نظر آنا چاہیے

7131

لوگوں کے لیے وہی شئی پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے

7132

نیکی کی تبلیغ کرنے کے متعلق

7134

سبقت لے جانے والے صحابہ

7143

واقعہ ہجرت

7162

جنت والے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے

7163,7164

مؤمن کے سارے کام اچھے ہیں

7165,7166

حضور ﷺ کی نگاہ مبارک کا کمال

7167,7168

ایک کا بن اور اس سے جا دو سیکھنے کے لیے آنے والے بچے کا واقعہ

7198,7208

آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا

7200,7209

توبہ کا دروازہ قیامت کے دن تک کھلا رہے گا

7257

مؤمن کی عبادت کرنے کا ثواب

7258

مرغ اللہ کی تسبیح کرتا ہے

7559

اذان کی فضیلت

7263

ایچھے اخلاق والا اللہ کو پسند ہے

7270

آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا

7276

یہ وقت کا خیال رکھنے کے متعلق

7277

سدرجی کے متعلق

7282

نبی جلالیت کے نیک کام کے متعلق

7283

پہلے کی خدمت دوسروں کو صدقہ دینے سے بہتر ہے

7284

حضور ﷺ کثرتِ امت کی بناء پر فخر کریں گے

7332, 7333

اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے

7349

اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے

7350

نری کو اللہ پسند کرتا ہے

7357

جنت میں لے جانے والے اعمال

7360

رزق کا ذمہ دار اللہ عزوجل کی ذات ہے

7361

ایکھ اخلاق والا جتنی آدمی ہے

7374, 7365

جو تین کام اللہ کے سپرد کیے جائیں

7369

مؤمن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے

7371

جن کے دل نرم ہیں

7375

کسی پر کوئی آزمائش آئے تو صبر کرے

7391

قریش کے متعلق

7395, 7400, 7401

سلام عام کرنا چاہیے

7397

حضور ﷺ کی امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے

7398

جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے

7399

خطبہ حجۃ الوداع

7403

قیامت کے دن جن کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے

7405

ٹھوڑوں کو تعلیم دینے کے متعلق

7406

حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق چند مفید باتیں

7413

منفیہ باتیں

7418, 7419

جس کو گناہ بڑا لگے اور نیکی اچھی لگے وہ مؤمن ہے

7429

جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرتا ہے

7457

صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا

7458

جس عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے

7460

ایکھ اشعار سننا جائز ہیں

7464

معاف کرنے کا ثواب

7468, 7469

جوانی میں عبادت کرنے والے کے لیے ثواب

7486

چالیس دن اللہ کی راہ میں شہیدانی کرنے کا ثواب

7493

اللہ کے لیے بعض اور محبت کرنے کا انعام

7507

خطبہ حجۃ الوداع

7510,7511	دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے
7513	خلوص کا ثواب
7514	حضور سید نبیؐ کی امت کی شان
7515	پروسی کی فضیلت
7518	مسجد میں آنے والوں کے لیے ثواب
7524	بات مختصر اور جامع ہونی چاہیے
7527	شام اور یمن والے لوگوں کے متعلق
7527,7528	یہ دین ہمیشہ رہے گا
7533,7534	تختہ واپس لینا جائز نہیں
7536	جس سے آدمی محبت کرتا ہوگا
7538	بردار کے لیے مدد کام
7541	نرم دل والے لوگ
7561,7575	خطبہ بیتہ الوداع
7581	قربانی کا اچھا ہونا
7594	بر کوئی آدمی اپنا رزق مکمل کر کے دنیا سے جائے گا
7597,7598	بندہ پر آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے
7601	جو کوئی مسلمان یہ کہتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ کا ثواب لکھا جاتا ہے
7603	بزرگوں کا ادب اور بچوں پر شفقت نہ کرنے والا
7604	مؤمن کی حفاظت کے لیے اللہ عزوجل نے ستر فرشتے کیے ہوئے ہیں
7607	اچھی بات کہنی چاہیے
7611	اچھے اخلاق والا بڑے عظیم ثواب والا ہے
7617	عورت کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں
7627	جس کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق مل جائے
7638	اونچی آواز ناپسندیدہ ہے
7639,7656	بہتے اخلاق والے کے لیے ثواب
7640	تین و شام میں مسجد میں آنے کا ثواب
7644	سرم میں ابتدا کرنے والا
7657	دین سے اضافہ ہوتا ہے
7670	حلال کی تعریف
7672	نیک سے پیارے کا ثواب

7683	جو کسی آدمی کے ہاتھ پر اسلام لائے
7688	خطبہ حجۃ الوداع
7689	منکر کبیر کے متعلق
7690, 7691	بندہ مؤمن پر جب کوئی آزمائش آئے
7692	نیک اعمال کے متعلق
7698	جس پر انعام خداوندی ہو تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے
7713	نیک کا حکم اور بُرائی سے منع کرنے کا ثواب
7720, 7766	سلام کی ابتداء کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے
7722	نیک عورت کی مثال
7726	یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے لیے انعام
7734	جن کو نیکی والے کام مل جائیں
7735	قابل رشک مؤمن کون ہے؟
7737	جن اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے
7738	بیعت کرنے کے متعلق
7739	نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے
7742	بچوں کی تمہیل کرنے والی عورت کی فضیلت
7746	نگاہوں کو نیچے رکھنے کے متعلق
7748	جس نے غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نگاہ نیچے کر لی اس کے لیے ثواب
7761	اپنے بھائی کی اچھی سفارش کرنا
7764, 7765	جن کو دُگنا ثواب ملتا ہے
7768	اچھا مؤمن کون ہے
7773	ایک جو تاپہن کر چلنا جائز نہیں ہے
7776	دین آسان ہے
7777	حضور ﷺ کی نگاہ کا عالم اور قبر پر پھول ڈالنے کا جواز
7778	حضور ﷺ کی گفتگو دلوں کو نرم کرتی تھی
7781	خاموش رہنا بہتر ہے
7786	افضل غلام
7801	نیک بیوی کا مل جانا بڑی نعمت ہے
7809	اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے کا ثواب
7818	برکت برزخوں کے ساتھ ہے

7820	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شوق جہاد اور حضور ﷺ نے والدہ کی خدمت کا حکم دیا اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دو سال تک کسی جہاد میں شریک نہ ہوئے والدہ کی خدمت کی وجہ سے
7821	زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے
7822	نیکی والے کام
7823	اللہ کے معاملہ میں سستی نہیں کرنی چاہیے
7825	نیک اعمال کی توفیق مل جانا
7832, 7833	مسلمان دوسرے مسلمان کو پناہ دے سکتا ہے
7838	جو جانور کوچھی طرح ذبح کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے
7843	آنسو کے دو قطرے جو اللہ کو پسند ہیں
7849	دارحیٰ پر مبنی مکانی چاہیے
7851	موت چھیں م اور دارحیٰ بڑھائی چاہیے
7855	تختہ دینا چاہیے
7856	تیمم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا ثواب
7859	اپنے اوپر اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے
7862	جن تین آدمیوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا
7866	عبادت اتنی کرنی چاہیے جتنی کوئی طاقت رکھتا ہے
7876, 7877	جو قرض ادا کرنے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے
7878	کسی کے پاس پیسے ہوں تو قرض دینا چاہیے
7880	انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے
7889	خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے
7890	جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا چاہیے
7898	جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے
7903	صدقہ دینے کا ثواب
7904	غلام کے متعلق
7906	قبر پر اذان دینے کا ثبوت
7918	صدقہ کے متعلق
7920	پیشہ کی نیکیاں
7926	میں میں صلح کروانے کا ثواب
7930	میں لکھنے والا فرشتہ
7939	غیر صدقہ دینے کا ثواب

7940	جنت میں لے جانے والا عمل
7941	گناہ معاف کرانے والے اعمال
7944	چھ کاموں کو چھوڑنے والا جنتی ہے
7945	جس آدمی میں تین باتیں ہوں وہ جنتی ہے
7946	بھلائی والے کام
7947	کامل مسلمان کی تعریف
7949	عیب پر پردہ ڈالنے کے متعلق
7957	گناہ معاف کروانے والا عمل
7962	سواوا عظیم
7999,8000	تبغ کے متعلق
8002	مصافحہ کا ثواب
8003,8004	میت کو غسل دینے کا ثواب
8008	جن چھ کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے جنت ملے گی
8010	بھائی چارہ کے متعلق
8011,8027	جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے کا ثواب
8012	جب قتل کو پیدا کیا گیا
8020	انقشور نے کا انداز
8025	نمازی آدمی کے متعلق
8029	غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے

کتاب الحدود

6674,6666	قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا
6719,6717	چوری والی شے مل جائے تو اس کا اصل مالک ہی اس کا مالک ہے
6784,6794	قتل کے بدلے قتل
6801,6802	مشکل کرنا منع ہے
7062	شرابی کی سزا
7077	زنا کی حد
7094	شراب کی حد
7347	لوگ شراب پیئیں گے اس کا نام بدل کر
7175,7173,7182,7183,7184,7185,7186	چور کی سزا

متفرق المسائل

6616، 6612	قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے
6582، 6580	ذبح کرنے کے متعلق
6583	عمیرہ کے متعلق
6618	جب برتنوں سے منع کیا گیا
6625، 6623	عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق
6749، 6632، 6626	مانگنے والے کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا
6641	گم شدہ شی کا حق دار مالک ہی ہے
6642، 6643	دو ماہ سا نھ دنوں کے نہیں ہوتے ہیں
6644، 6646	بچپن کی فضیلت
6647، 6648	گوہ کے متعلق
6715، 6716	لعنت کرنا جائز نہیں ہے
6720، 6724، 6725	جس نے کوئی شی خیر لی
6728، 6729، 6730	حضرت نوح علیہ السلام کے بچوں کے نام
6734، 6735	اگر کسی آدمی کو بھوک لگی ہوئی تو وہاں جانور ہو تو مالک کی اجازت سے دودھ پئے اگر مالک وہاں نہ ہو تو بھی پی لے
6745	انسان کے دل میں دو چیزوں کی محبت جو ان رہتی ہے دنیا اور لمبی عمر کی
6753	میت پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے
6762	کافروں کے ساتھ مل کے نہیں رہنا چاہیے
6778، 6779	بعد والے لوگوں کے متعلق
6793	عتیقہ کرنے کے متعلق
6806	لعنت کرنا جائز نہیں ہے
6818	زندہ جانور کا گوشت کا نسا منع ہے
6848	مشروکوں کے بچوں کے متعلق
6861	آدمی کا جی دنیا سے کبھی نہیں بھرتا ہے
6868، 6869	لعنت کرنا جائز نہیں ہے
6883	حلال و حرام چیزوں کے متعلق
6885	دن دنیا منع ہے
6886	قسم اللہ کے نام کی اٹھانی چاہیے
6888	حضرت نوح علیہ السلام کے بچوں کے متعلق
6894	چوری شدہ مال ملے تو مالک ہی اس کا زیادہ حق دار ہے

6896

بالغ عورت دوسری بالغ عورت کے ساتھ نہ لیئے

6901

حلال و حرام واضح ہیں

6905

لوثا منع ہے

6906

عورت میزگی پسلی سے پیدا ہوتی ہے

6914

مشکہ کرنا ناجائز ہے

6917

کسی کے جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نکالنا منع ہے

6923

گوہ کے متعلق

6929

یا تو گدھوں کا گوشت منع ہے

6940

دنیا حسرت کی جگہ ہے

6943

مؤمن کی مثال

6949

نبیذ کے متعلق

6950

غلو سے پرہیز کرنا چاہیے

6952

چند قبیلوں کے متعلق

6954

لوگوں کی مثال نمک کی طرح ہے

6955

فل کرنا ناجائز نہیں ہے

6958

چند قبیلوں کی نشانی

6968,6970

ختم مردوں کے لیے سنت ہے

6987

یعنی اشعار سننا منع ہے

6991

ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے

6993

دکھاوا شرک ہے

6994

لوگ پہلے لوگوں کے عمل کو اپنائیں گے

6995,6997

عقل مند اور غیر عقل مند

7013,7014

ریا کاری کے لیے اعمال کرنا منافقت ہے

7015

دھوکہ کے لیے اکٹھا ہونا

7018,7019

یہودیوں کی مشابہت منع ہے

7036

امارت شروع میں ندامت درمیان میں ملامت اور آخرت میں عذاب ہے

7043

تصویر لکائی نہیں چاہیے

7084

خضاب کے متعلق

7086

جس میں حیاء نہ ہو

7095

کسی جانور کو بلا وجہ مارنے کا گناہ

7099	زرائی کو روکنے کے لیے شکایت کرنا جائز ہے
7100	کسی کے ساتھ نیکی کرنا
7107	اچھی نذر ماننے کے متعلق
7108	امیہ بن صلت کے اشعار
7126	مردوں کو گالی نہیں دینی چاہیے
7127	کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے
7128	لا یعنی نذر ماننا جائز نہیں ہے
7141	سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے
7142	قرآن کے حرام کو حلال جانے والا مسلمان نہیں ہے
7189	ہجرت کے متعلق
7271	ذبح اضطراری جائز ہے
7273, 7275	نبیذ کے متعلق
7278	جس روں نے آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گی
7340	دین اسلام ختم کرنے والے کے متعلق حکم
7362	جن آدمیوں پر اللہ کی لعنت عرش سے پڑتی ہے
7370	ماں کا ذبح بچے کا ذبح ہے
7373	نفس کی پیروی کرنے والا
7378, 7381	کسی کے گھر جھانکنا جائز نہیں ہے
7379, 7383	مقروض آدمی کو قرض ادا کرنا چاہیے
7386, 7387	دنیا میں رشیم پہننا جائز نہیں ہے
7388, 7389	قرب قیامت کے لوگ طرح طرح کے کھانے اور مشروبات رنگ برنگے کپڑے اور شوخی والی گفتگو کریں گے ایسے لوگ بدترین ہوں گے
7392, 7394	ایکھ اور بڑے حکمران
7414	ناحق کسی کا مال لینا
7417	گناہ کی تعریف
7425	جن کے فرض و نواطل قبول نہیں ہوتے ہیں
7459	امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے
7470	نوحہ مع ہے
7448	نہائی لینا ناپسندیدہ عمل ہے
7481	جن لوگوں کو مسجد میں لانا منع ہے

7482,7483

اجانک موت آنے کے متعلق

7489

بزرگوں کو گالی دینے منع ہے

7496

نسب بدلنا ناجائز ہے

7499

آخر زمانہ کے لوگ صبح و شام اللہ کی ناراضگی میں کریں گے

7501

شیطان ہر روز بازار میں نکلتا ہے

7521

دھوکہ کرنا ناجائز ہے

7539

امت پر جن لوگوں کا خوف ہے

7540

قرض چھوڑنے کا گناہ

7544,7545

ریا کاری مؤمن کی شان نہیں ہے

7589

بیوی سے جماع کرتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے

7585

جس بُرائی کو بدلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو صبر کرے اللہ مدد کرے گا

7596

منہ پھٹ آدمی اللہ کو ناپسند ہے

7600

زرد رنگ کی انگلی پھیننا ناجائز نہیں ہے

7605

سورج کے ساتھ نافرشتے ہوتے ہیں جو اس پر ہر روز برف ڈالتے ہیں

7614

تصویر بنانے کے متعلق

7620

ملک شام کی فضیلت

7622,7626

پیشوا بننا

7628

سانپ اور چھکلی کو مارنے کے متعلق

7669

جب بُرائی سے منع نہ کیا جائے

7671,7684-7686

ریشم اور سونائیں پہننا چاہیے

7675

جن عورتوں پر لعنت کی گئی ہے

7679

حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے

7694,7696

راستہ تنگ ہونے کے متعلق

7695

جو جانور حرام ہیں

7700

ملک شام والوں کی فضیلت

7703

پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے

7723

نوحہ کرنے والیوں کے متعلق

7727

تکبیر کی تعریف

7733

جن پر حضور ﷺ نے لعنت فرمائی ہے

7736

غیر حرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے

7743	شیطان کے گھر
7758	ذبح اضطراری
7759	جاہلیت والے کام
7779	شیاطین اور جنوں سے پناہ مانگنے کے متعلق
7834	تہبند لگانا نہیں چاہیے
7839	الساونا جہنمی لوگوں کا طریقہ ہے
7842	جن کاموں سے منع کیا گیا ہے
7847	بزرگوں کا احترام اور بچوں پر شفقت نہ کرنے والے کے متعلق
7850	یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے
7854	دنیا کی طمع رکھنے والے کے متعلق
7865	جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا
7867, 7870	مخلوق کی پیدائش سے پہلے
7887	قبلہ کی جانب تھوکتا منع ہے
7897	انسان کا جی دنیا سے کبھی نہیں بھرتا ہے
7899	جو امانت دار نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے
7924	راتوں کو کھیل تماشا لگانے والوں کے متعلق
7932	شوہر کا عورت پر حق
7951	کسی کا خاتمہ دیکھو تو
7955, 7956	کسی کے گھر جھانکنا منع ہے
7963, 7964, 7965, 7966, 7981	خارجیوں کے متعلق
7993, 7994	ہلاک کی گئی بستیوں کے پاس سے گزرنے کے متعلق
8005	جن کو حضور ﷺ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی
8019, 8017	مسجد میں تھوکتا منع ہے
8026	جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں

فہرست (بالحاظ حروفِ تہجی)

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
67	☆ حضرت زید بن عقبہ فزاریؓ حضرت سرہ بن جندب سے	39	☆ حضرت آبی اللحم رضی اللہ عنہ
73	☆ حضرت حصین بن ابوجہؓ حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے	39	☆ جس کا نام سیدان ہے
75	☆ حضرت ربیع بن عمیلہؓ حضرت سرہ بن جندب سے	39	☆ حضرت سیدان ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ
76	☆ حضرت ثعلبہ بن عباد عبدیؓ حضرت سرہ سے	40	☆ جن کا نام سرق ہے
78	☆ حضرت امام حسن بن ابوالحسنؓ حضرت سرہ بن جندب سے	40	☆ حضرت سرق رضی اللہ عنہ
87	☆ حضرت قتادہؓ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں	42	☆ جن کا نام سابط ہے
89	☆ باب	42	☆ حضرت سابط ابو عبد الرحمنؓ رضی اللہ عنہ
91	☆ باب	442	☆ جن کا نام سیار ہے
92	☆ باب	42	☆ حضرت سیار بن بلزق ابوالی العشر اء داری
93	☆ باب	44	☆ جن کا نام سیاب ہے
94	☆ باب	44	☆ حضرت سیاب بن عاصم سلمی رضی اللہ عنہ
96	☆ باب	45	☆ حضرت سیمویہ رضی اللہ عنہ
98	☆ باب	46	☆ جن کا نام سندر ہے
99	☆ باب	46	☆ حضرت سندر ابو عبد اللہؓ حضرت زباج جذامی کے غلام
100	☆ باب	46	☆ جن کا نام سر ہے
102	☆ جس کا نام سمرہ ہے	46	☆ حضرت سمر الدؤلی رضی اللہ عنہ
102	☆ حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث	47	☆ جن کا نام سمرہ ہے
102	☆ باب	47	☆ حضرت سمرہ بن معیر ابو محذورہؓ رضی اللہ عنہ
106	☆ باب	59	☆ حضرت سمرہ بن جندب فزاریؓ آپؐ بصرہ آئے تھے
108	☆ باب	60	☆ حضرت سمرہ بن جندب کی روایات کردہ احادیث
128	☆ یحییٰ بن ابوکثیرؓ حضرت حسن سے اور وہ حضرت سمرہ سے	60	☆ عامر شعیؓ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں
129	☆ یونس بن عبیدؓ حضرت حسن سے اور وہ حضرت سمرہ سے	63	☆ حضرت عبد الرحمنؓ بن ابی الحلیؓ حضرت سمرہ سے
131	☆ مطر الوراقؓ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں	64	☆ علی بن ربیعہ والبیؓ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے
133	☆ اشعث بن عبد الملکؓ حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے	64	☆ حضرت میمون بن ابوشعیبؓ حضرت سمرہ سے
134	☆ ابو ترہ واصل بن عبد الرحمنؓ حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے	66	☆ حضرت عبد اللہ بن بریدہؓ حضرت سمرہ بن جندب سے

- ☆ ہشام بن حسان، حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے 134
- ☆ حسام بن مصعب، حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے 138
- ☆ اسماعیل بن مسلم کی، حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے 138
- ☆ مبارک بن فضالہ، حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے 142
- ☆ جریر بن حازم، حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے 143
- ☆ ابوبکر الہذلی، حضرت حسن سے وہ حضرت سمرہ سے 144
- ☆ عبدالرحمن ابواثعث، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے 145
- ☆ بیاض بن عمران، حضرت سمرہ بن جندب سے 146
- ☆ یزید بن عبد اللہ بن شیر ابوالعلاء، حضرت سمرہ بن جندب سے 147
- ☆ ابویوب عسکری، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے 147
- ☆ ابوہریرہ منذر بن مالک، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے 148
- ☆ اسحق بن اسلم، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 149
- ☆ ابوالدھما، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے 149
- ☆ مہلب بن ابی صفرة، حضرت سمرہ بن جندب سے 150
- ☆ ابوالقلا ب الجری کے چچا حضرت ابومہلب، سمرہ بن جندب سے 151
- ☆ ابوجحولا ثقیف بن حمید، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے 152
- ☆ قدامہ بن وبرة یحییٰ، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے 152
- ☆ ابورجاء عطارودی، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے 153
- ☆ سوادہ بن حنظلہ قشیری، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے 153
- ☆ محمد بن یرین، حضرت سمرہ سے روایت کرتے ہیں 170
- ☆ سلیمان بن سمرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 171
- ☆ حضرت سمرہ ابوجابر السوای رضی اللہ عنہ 121
- باب الشین**
- ☆ جس کا نام شداد ہے 212
- ☆ حضرت شداد بن ہادیش، یہ شداد بن اسامہ بن ہادی ہیں 212
- ☆ حضرت شداد بن اسید السلمی رضی اللہ عنہ 214
- ☆ حضرت شداد ابوالستور دقہری رضی اللہ عنہ 215
- ☆ حضرت شداد بن شرمیل النصاری رضی اللہ عنہ 216
- ☆ حضرت شداد بن اوس النصاری رضی اللہ عنہ 216
- ☆ حضرت شداد اسامہ بن عمیر ہذلی کی روایت کردہ احادیث 218
- ☆ جن کا نام شداد ہے 222
- ☆ جن کا نام شراہیل ہے 225
- ☆ حضرت شراہیل بن مرہ ہمدانی رضی اللہ عنہ 227
- ☆ جن کا نام شریک ہے 228
- ☆ شریک بن طارق بن سفیان، احد بنی ثعلبہ بن ذبیان 273
- ☆ حضرت شریک بن صبل شریک، صحابہ میں سے ایک آدمی ہے 276
- ☆ حضرت شریک بن حمید رضی اللہ عنہ 276
- ☆ حضرت شفی بن ماتع اصحی رضی اللہ عنہ 277
- ☆ حضرت شہل بن معبد مدنی رضی اللہ عنہ 278
- ☆ شیبان ابویحییٰ النصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابومہیرہ کے دادا 279
- ☆ جمیر بن نفیر، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 230
- ☆ ضمیرہ بن حبیب، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 233
- ☆ عبادہ بن نسی، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 234
- ☆ ابواسماء رجبی، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 236
- ☆ ابودار یس خولانی، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 239
- ☆ ابوعبید اللہ مسلم بن مشکم، حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے 240
- ☆ کثیر بن مرہ جعفری، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 241
- ☆ ابوالواح مرقائی، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 242
- ☆ یعلیٰ بن شداد بن اوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 242
- ☆ محمود بن ربیع، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے 245
- ☆ محمود بن لبید، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 246
- ☆ بشیر بن کعب عدوی، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 247
- ☆ خطلی، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 248
- ☆ حسن بن ابوصح، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے 251
- ☆ علاء بن زیاد عدوی، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 252
- ☆ عنبسہ بن ابوسفیان، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 253
- ☆ عمر بن ربیعہ، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں 254
- ☆ عبدالرحمن بن سابطا، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 254
- ☆ مغیرہ بن سعید بن نوفل، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں 255
- ☆ جن کا نام شیبہ ہے 255
- ☆ حضرت شیبہ بن عثمان بن طلحہ بن عبد العزی 255
- ☆ حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے خالو حضرت شیبہ بن عتبہ 261
- ☆ حضرت شیبہ بن ابی کثیر اصحی رضی اللہ عنہ 265
- ☆ حضرت شرمیل بن عور ابوشرفیابی ذوالجوشن رضی اللہ عنہ 271
- ☆ جن کا نام شراہیل ہے 273
- ☆ حضرت شراہیل بن مرہ ہمدانی رضی اللہ عنہ 273
- ☆ جن کا نام شریک ہے 273
- ☆ شریک بن طارق بن سفیان، احد بنی ثعلبہ بن ذبیان 273
- ☆ حضرت شریک بن صبل شریک، صحابہ میں سے ایک آدمی ہے 276
- ☆ حضرت شریک بن حمید رضی اللہ عنہ 276
- ☆ حضرت شفی بن ماتع اصحی رضی اللہ عنہ 277
- ☆ حضرت شہل بن معبد مدنی رضی اللہ عنہ 278
- ☆ شیبان ابویحییٰ النصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابومہیرہ کے دادا 279

- ☆ حضرت شرح بن ابرہہ رضی اللہ عنہ 279
- ☆ جس کا نام شہاب ہے 280
- ☆ صحابہ میں سے ایک آدمی حضرت شہاب رضی اللہ عنہ 280
- ☆ حضرت عاصم بن کلیب کے دادا حضرت شہاب بن مجنون 281
- ☆ حضرت شعیب بن فہیم رضی اللہ عنہ جن کا نسب معلوم نہیں ہے 282
- ☆ حضرت شعیب بن عمرو رضی اللہ عنہ آپ کا نسب معلوم نہیں 282
- ☆ حضرت عتبہ بن المذہب وداوود بن علی رضی اللہ عنہ 282
- ☆ حضرت شوبع رضی اللہ عنہ ان کا نسب معلوم نہیں 283
- ☆ شریک بن سوید ثقفی جو حدیثیں حضرت عمرو بن شریک اپنے والد سے 284
- ☆ ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت شریک رضی اللہ عنہ سے 292
- ☆ عطاء بن ابورباح حضرت شریک رضی اللہ عنہ سے 292
- ☆ عمرو بن رافع حضرت شریک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 293
- باب الصاد**
- ☆ جن کا نام صخر ہے 294
- ☆ صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ابوسفیان کی باتیں 294
- ☆ حضرت صخر بن جبر النصاری رضی اللہ عنہ 336
- ☆ حضرت صخر بن قعقاع باہلی رضی اللہ عنہ 336
- ☆ حضرت اخف بن قیس مخزوم رضی اللہ عنہ 337
- ☆ جن کا نام صہیب ہے 338
- ☆ حضرت صہیب بن سنان بن مالک بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ 338
- ☆ حضرت صہیب کی وفات اور آپ کی باتوں کے بیان میں 339
- ☆ حضرت صہیب کی روایات کردہ احادیث حضرت عبداللہ بن عمر 340
- ☆ حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں 340
- ☆ ابولیلیٰ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 342
- ☆ سعید بن مسیب حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں 343
- ☆ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم حضرت صہیب سے 345
- ☆ روایت کرتے ہیں 345
- ☆ حضرت کعب احبار حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں 346
- ☆ صفی بن صہیب حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں 348
- ☆ حضرت حمزہ بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 354
- ☆ حضرت عثمان بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 354
- ☆ عبید بن عمیر لیشی حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں 356
- ☆ عبدالرحمن بن ابولیلیٰ حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں 356
- ☆ ابوالسلیل حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 367
- ☆ حضرت صہیب بن نعمان رضی اللہ عنہ 367
- ☆ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث 371
- ☆ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ 379
- ☆ حضرت صفوان بن معطل کی روایت کردہ احادیث 379
- ☆ حضرت زربین جیش اسدی حضرت صفوان سے زبید الیامی حضرت 379
- ☆ زربین جیش سے اور وہ حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں 382
- ☆ طلحہ بن مصرف حضرت زربین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 384
- ☆ عاصم بن ابونجود حضرت زربین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 385
- ☆ عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ابولیلیٰ حضرت زربین صفوان سے 408
- ☆ عبداللہ بن سلمہ حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں 410
- ☆ ابوغریب عبد اللہ بن خلیفہ حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں 411
- ☆ ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں 412
- ☆ حضرت صفوان ابوالقاسم الزہری رضی اللہ عنہ 412
- ☆ حضرت صفوان بن قدامہ المرائی رضی اللہ عنہ 413
- ☆ صفوان بن محمد بعض نے کہا محمد بن صفوان بن محمد 413
- ☆ حضرت صفوان یا ابن صفوان رضی اللہ عنہ 414
- ☆ جن کا نام صحر ہے 415
- ☆ صحار بن عباس آپ کو ابن عباس العبدی بھی کہا جاتا ہے 415
- ☆ جس کا نام صلہ ہے 416
- ☆ حضرت صلہ بن حارث الغفاری رضی اللہ عنہ 417
- ☆ جن کا نام صرمہ ہے 417
- ☆ حضرت صرمہ العذری رضی اللہ عنہ 417
- ☆ جن کا نام صالح ہے 418
- ☆ رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت صالح شقران رضی اللہ عنہ 418
- ☆ حضرت صصہ بن معاویہ بن حصین بن عبادہ بن نزال 419
- ☆ صصہ بن ناجیہ بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم 420
- ☆ جن کا نام شناع ہے 423
- ☆ حضرت شناع بن امرئیل پھر جسی آپ کو ذائے تھے 423
- ☆ جن کا نام صعب ہے 426

- ☆ حصین بن اسود ہلالی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 534
- ☆ خدش حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 535
- ☆ ابو عامر البوزنی وہ حضرت ابوامامہ سے 535
- ☆ عبد الواحد بن قیس حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 535
- ☆ کھیل بن حرمہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 537
- ☆ مرتع بن مسروق البوزنی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 538
- ☆ غیلان بن معشر حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 539
- ☆ ابو راشد حمزانی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 539
- ☆ زید بن ارطاة حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 540
- ☆ عبد اللہ بن یزید بن آدم حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 541
- ☆ یزید بن خیر حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 545
- ☆ عبد اللہ بن غابر حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 545
- ☆ سلیم بن عامر حضرت ابوامامہ سے وہ سلیم بن عامر سے 546
- ☆ عبد الرحمن بن یزید سلیم بن عامر سے اور وہ حضرت ابوامامہ سے 550
- ☆ یزید بن شان ابو فروہ رھادی حضرت سلیم بن عامر سے 552
- ☆ صفوان بن عمرو حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں 554
- ☆ محمد بن ولید زبیدی حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں 556
- ☆ حریر بن عثمان حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں 559
- ☆ عفیر بن معدان حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں 561
- ☆ حضرت یزید بن ابوالکک حضرت سلیم بن عامر سے 575
- ☆ حضرت ہاشم بن زید حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں 576
- ☆ حضرت عبد اللہ بن دینار البہرائی حمصی حضرت ابوامامہ سے 576
- ☆ سلیمان بن عبد الرحمن حمصی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے 577
- ☆ لقمان بن عامر حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 578
- ☆ قاسم بن عبد الرحمن بن یزید الشامی حضرت معاویہ کے غلام حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 582
- ☆ کثیر بن حارث حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 592
- ☆ حضرت غیلان بن انس حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 593
- ☆ حضرت علاء بن حارث حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 594
- ☆ ابو معید حفص بن غیلان حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 595
- ☆ عروہ بن رویم حضرت قاسم سے وہ ابوامامہ سے 597
- ☆ عاصم بن رجاہ بن حیوہ قاسم سے وہ ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 599
- ☆ حضرت صعب بن جثامہ بن قیس لثقی رضی اللہ عنہ 426
- ☆ باب 435
- ☆ حضرت صدی بن عجلان ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ 440
- ☆ عبد اللہ بن بسر کھسی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے 441
- ☆ رجاہ بن حیوہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 442
- ☆ ابو ادريس خولانی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 445
- ☆ خالد بن معدان حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 447
- ☆ حضرت ضمرہ بن حبیب حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 465
- ☆ یزید بن شریح حضری حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 466
- ☆ ابو عقبہ کندی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 467
- ☆ حبیب بن عبد الرحمن حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 468
- ☆ شریح بن عبید حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 470
- ☆ محمد بن زیاد البہانی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 472
- ☆ ابوسلام اسود حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 485
- ☆ ابوطیہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 490
- ☆ یثیم بن یزید حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 490
- ☆ شہر بن حوشب حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 491
- ☆ مکحول الشامی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 500
- ☆ شریح بن مسلم خولانی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے 515
- ☆ صفوان الازہم طائی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 519
- ☆ اسد بن وداع حضرت ابوامامہ سے وہ حضور ﷺ سے 519
- ☆ شداد ابو عمار حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 520
- ☆ یزید القنی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 525
- ☆ قافہ بن ربیعہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 525
- ☆ سلمہ قیسی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 526
- ☆ عبد الاعلیٰ بن ہلال السلمی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے 527
- ☆ حاتم بن حرث طائی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 528
- ☆ عبد الرحمن بن میسرہ حضری حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے 529
- ☆ ابو الغازی عقی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 529
- ☆ زائدہ بن حسین حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 530
- ☆ ابوسفیان ریشی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 530
- ☆ ابو عبد اللہ حضری حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے 531

- ☆ عبد الرحمن بن یزید بن جابر حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 600
- ☆ عبد الرحمن بن عمرو داؤد بن زاعمی حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 602
- ☆ معاویہ بن صالح حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 603
- ☆ معاویہ بن یحییٰ صدیقی حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 604
- ☆ سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 605
- ☆ ثور بن یزید قاسم سے وہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 607
- ☆ ثابت بن عجلان حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 607
- ☆ عباس بن میمون حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 611
- ☆ عبد العزیز بن عبید اللہ حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 612
- ☆ عقبہ بن عبد الرحمن حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 613
- ☆ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حضرت قاسم سے 613
- ☆ ثابت بن ثوبان حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 615
- ☆ علی بن یزید از قاسم از علی بن یزید از حضرت قاسم روایت کرتے ہیں 615
- ☆ فرج بن فضالہ علی بن یزید سے وہ قاسم سے روایت کرتے ہیں 617
- ☆ عبید بن زحر علی بن یزید سے وہ عبید اللہ بن زحر سے 618
- ☆ یحییٰ عبید اللہ سے وہ علی سے وہ قاسم سے وہ حضرت ابوامامہ سے 626
- ☆ بکر بن حفص عبید اللہ بن زحر سے وہ حضرت علی بن زید سے 644
- ☆ لیث بن ابوسلمہ حضرت عبید اللہ بن زحر سے روایت کرتے ہیں 645
- ☆ خلاد الصفا حضرت عبید اللہ بن زحر سے روایت کرتے ہیں 646
- ☆ محمد بن عبید اللہ العزیمی حضرت عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں 646
- ☆ معان بن رفاعہ السلائی حضرت علی بن یزید سے 648
- ☆ عثمان بن ابوالعاتکہ حضرت علی بن یزید سے روایت کرتے ہیں 658
- ☆ ابو عبد الرحیم ابو عبد الملک سے وہ حضرت قاسم سے 668
- ☆ محمد بن عبید اللہ علی سے وہ قاسم سے وہ حضرت ابوامامہ سے 677
- ☆ عثمان بن ابی العاتکہ قاسم سے وہ ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 678
- ☆ ولید بن ابومالک قاسم سے وہ ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 678
- ☆ ولید بن سلمان بن ابوالاسباب قاسم سے روایت کرتے ہیں 680
- ☆ ولید بن جمیل دمشقی قاسم سے روایت کرتے ہیں 681
- ☆ عبد اللہ بن علاء بن زبرد دمشقی حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 686
- ☆ عیسیٰ بن سعید حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 688
- ☆ بشر ابولنصر حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 689
- ☆ عمر بن موسیٰ بن وجیہ حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں 708
- ☆ سعید بن عبد اللہ ادوی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 708
- ☆ اسماعیل الشامی ان کا نسب معلوم نہیں ہے حضرت ابوامامہ سے 710
- ☆ میمون بن مہران الجزری حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 710
- ☆ زبیر بن خریق حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 711
- ☆ جواہل کوفہ میں سے ہے جو حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں
- ☆ حضرت سالم بن ابوالجعد حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 712
- ☆ عامر الشعمی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 715
- ☆ فطر حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 715
- ☆ سحیح الزریات حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 716
- ☆ بصرہ والوں میں سے جو ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 717
- ☆ ابوالعالیہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 718
- ☆ لقیط ابوالمشاء حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 718
- ☆ حسن بصری حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 720
- ☆ عاصم بن عمرو بجلی حضرت ابوامامہ باہلی سے 720
- ☆ شعیب بن حجاب حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 721
- ☆ عبد اللہ بن حفص حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 721
- ☆ سیار الشامی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 722
- ☆ ابوشیح بن اسامہ ہذلی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 723
- ☆ یونس بن شعیب حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 724
- ☆ عبد الرحمن بن عداہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 725
- ☆ ایمن حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 725
- ☆ ابوالجعد حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 726
- ☆ عبد الرحمن ابو یزید حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 728
- ☆ حضرت زیاد کے غلام قرعہ بن یحییٰ حضرت ابوامامہ سے 729
- ☆ فضال بن جبیر حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 729
- ☆ ابوطالب ضعی حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 735
- ☆ ابو حکیم حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 735
- ☆ ابو صافہ الشامی یہ کوفہ میں آئے تھے حضرت ابوامامہ سے 736
- ☆ ابو مسلم حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں 737
- ☆ ابوغالب صاحب یحییٰ ان کا نام حزر ہے 738

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت آبی اللحم رضی اللہ عنہ

حضرت آبی اللحم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اجازت کے پاس دیکھا آپ نے اپنی تھیلیاں ڈھانپی ہوئی تھیں اور آپ دعا کر رہے تھے۔

آبِی اللَّحْمِ وَاسْمُهُ

6575 - حَدَّثَنَا مُطْلَبُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ عُمَيْرًا، مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي اللَّحْمِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، وَهُوَ مُقَنَّعٌ بِكَفِّهِ يَدْعُو

جس کا نام سیدان ہے

حضرت سیدان ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ

مَنْ اسْمُهُ سِيدَانُ
سِيدَانُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

حضرت عبد اللہ بن سیدان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بدر کے کنویں میں گرنے والوں کو جھانکا اور فرمایا: اے کنویں میں گرنے والو! کیا تم نے پایا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ تمہارے رب کا سچا وعدہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جس طرح تم سنتے ہو اسی طرح یہ بھی

6576 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الشَّامِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمَادٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ

6575 - رَوَاهُ أَحْمَدُ جلد 5 صفحہ 223، وأبو داؤد رقم الحديث: 1156، والنسائي جلد 3 صفحہ 158، 159، والترمذی رقم

الحديث: 554 إلا أن أحمد جعله من مسند عمير وكذا أبو داؤد. ثم لا يظهر لي وجه ذكر أبي اللحم في حرف

السين إذ الاختلاف في اسمه مشهور وليس فيها اسم أوله السين.

6576 - قال في المجمع جلد 6 صفحہ 91 وعبد الله بن سیدان مجهول. كذا في المجمع وكذا الاصابة عبد الله.

سنے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دیتے ہیں۔

الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَسْمَعُونَ؟ قَالَ:
يَسْمَعُونَ كَمَا تَسْمَعُونَ، وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ

جن کا نام سرق ہے حضرت سرق رضی اللہ عنہ

مِنْ اسْمِهِ سُرَّقٌ سُرَّقٌ

حضرت عبدالرحمن بن ہلمانی فرماتے ہیں: میں مصر میں تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا: میں آپ کو رسول کریم ﷺ کے ایک صحابی سے نہ ملواؤں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! پس اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے کہا: اللہ آپ پر رحم کرے! آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں سُرَّق ہوں۔ میں نے کہا: اللہ پاک ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنا یہ نام رکھیں حالانکہ آپ رسول کریم ﷺ کے صحابی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: بے شک رسول کریم ﷺ نے میرا نام سرق رکھا تھا! پس میں ہرگز اس کو کبھی بھی نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا: رسول کریم ﷺ نے آپ کا نام سرق کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا: جنگل سے ایک آدمی آیا اس کے پاس دو اونٹ تھے جو وہ بیچنا چاہتا تھا! پس میں نے اس سے وہ دونوں خرید لیے! پس میں نے اسے کہا: چل! میں تجھے ان کی قیمت دوں! پس میں اپنے گھر میں داخل ہوا! میں نے ان دو اونٹوں کی قیمت اپنی ضرورت پر

6577 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمُؤَصِّلِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَبْلٍ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ
الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ
الزَّجَّجِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي لَسَانَ، قَالَ: كُنْتُ بِمِصْرَ، فَقَالَ لِي
رَجُلٌ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى،
فَأَشَارَ إِلَيَّ رَجُلٌ بِجَنْبِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ
يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَنَا سُرَّقٌ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ
اللَّهِ مَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَمَّى بِهَذَا الْإِسْمِ وَأَنْتَ
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَمَانِي سُرْقًا، فَلَنْ أَدَّعَ ذَلِكَ أَبَدًا، قَالَ:
قُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ سُرْقًا؟ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ
أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِبَعِيرَيْنِ لَهُ يَبِيعُهُمَا، فَأَبْتَعْتُهُمَا

مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: انْطَلِقْ حَتَّى أُعْطِيكَ، فَدَخَلْتُ
بَيْتِي وَقَضَيْتُ بِشَمَنِ الْبَيْعَرَيْنِ حَاجَتِي، وَتَغَيَّيْتُ
'حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ قَدْ خَرَجَ، فَخَرَجْتُ
فَإِذَا الْأَعْرَابِيُّ مُقِيمٌ، فَأَخَذَنِي، فَقَلَّدَ مِنِّي إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ
السَّخْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا
حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَضَيْتُ
بِشَمَنِهَا حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَاقْضِهِ
قُلْتُ: لَيْسَ عِنْدِي قَالَ: أَنْتَ سُرَقٌ، اذْهَبْ بِهِ
يَا أَعْرَابِي فَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ فَجَعَلَ
النَّاسُ يَسْؤُمُونَهُ، وَيَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا
تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ نَفْدِيَهُ مِنْكَ، قَالَ:
قَوْلَ اللَّهِ إِنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحْوَجُ إِلَيَّ اللَّهُ مِنِّي،
اذْهَبْ فَقَدْ أَغْتَفَتَكَ

لگالی اور خود غائب ہو گیا یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ
اعرابی چلا گیا ہو گا، پس میں (گھر سے) نکلا تو اچانک
دیہاتی موجود تھا۔ پس اس نے مجھے پکڑ کر رسول
کریم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا اور آپ ﷺ کو بات
بتائی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کس وجہ سے تُو نے یہ کام
کیا؟ میں نے کہا: ان دونوں کی قیمت کے ساتھ میں نے
اپنی ضرورت پوری کی، اے اللہ کے رسول! فرمایا: اس کا
قرض ادا کرو۔ میں نے عرض کی: میرے پاس کوئی چیز
نہیں۔ فرمایا: تُو سُرَق ہے اے اعرابی! اس کو اپنے ساتھ
لے جا کر بیچ دو یہاں تک کہ تم اپنا حق پورا کر لو۔ پس لوگوں
نے اس کا مول لگانا شروع کر دیا اور وہ آدمی ان کی طرف
دیکھنے لگا۔ پس وہ کہتا ہے: تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا:
ہم چاہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے کر اس کو آپ سے چھڑا
لیں۔ اس نے کہا: قسم ہے! تم میں سے کوئی بھی اللہ کی
بارگاہ میں مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ جا! میں نے تجھے
آزاد کیا۔

حضرت عبد اللہ بن یزید، حضرت منبث کے غلام مصر
کے کچھ لوگوں سے روایت کرتے ہیں، اُن میں سے ایک
آدمی تھا جس کا نام سُرَق تھا، اُس نے کہا: حضور ﷺ نے
ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔

6578 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثنا
مُسَدَّدٌ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنَبِّثِ، عَنِ الرِّجَالِ، مِنْ
أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ سُرَقٌ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ
وَيَمِينٍ

مَنْ اسْمُهُ سَابِطٌ
سَابِطُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْجُمَحِيُّ

جن کا نام سابط ہے
حضرت سابط ابو عبد الرحمن
جمحی رضی اللہ عنہ

حضرت عبد الرحمن بن سابط اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے کیونکہ مجھ پر آنے والے مصائب بڑے ہیں۔

6579 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ، ثنا أَبُو بَرْدَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا أَكْثَرُ الْمَصَائِبِ عِنْدَهُ

مَنْ اسْمُهُ سَابِطٌ
سَابِطُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْجُمَحِيُّ

مَنْ اسْمُهُ سَيَّارٌ
سَيَّارُ بْنُ يَلْزُقِ أَبُو أَبِي
الْعُشْرَاءِ الدَّارِمِيُّ وَاسْمُ
الْعُشْرَاءِ بَلَّانٌ

جن کا نام سیار ہے
حضرت سیار بن بلزق ابوابی
العشراء دارمی اور عشراء کا
نام بلان ہے

حضرت ابو عشراء دارمی اپنے والد سے روایت کرتے

6580 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

قال في المجمع جلد 3 صفحہ 24 وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه غيره . قلت: ويحيى الحماني ضعيف . لكن للحديث شواهد ذكرها شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 3 صفحہ 97، 98 وصححه بشو بعده فراجع . أما الحافظ فقال في الإصابة جلد 4 صفحہ 3 وروى بقي بن مخلد والبارودي وابن شاهين من طريق أبي بردة عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه عن النبي - ثم ذكر الحديث - واسناده حسن لكن اختلف فيه على علقمة .

6580 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 334 وأبو داود رقم الحديث: 2808 والترمذي رقم الحديث: 1510 والنسائي

جلد 7 صفحہ 228 وأبو العشراء مجهول فهو ضعيف .

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ذبح، حلق اور لبہ کے درمیان ہوتا ہے آپ نے فرمایا: (اگر مجبوری کی بناء پر) توران میں بھی تیر مارے تو تیرے لیے کافی ہے یعنی ذبح ہو گیا۔

حضرت ابو عشاء داری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ذبح، حلق اور لبہ کے درمیان ہوتا ہے آپ نے فرمایا: (اگر مجبوری کی بناء پر) توران میں بھی تیر مارے تو تیرے لیے کافی ہے یعنی ذبح ہو گیا۔

حضرت ابو عشاء داری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ذبح، حلق اور لبہ کے درمیان ہوتا ہے آپ نے فرمایا: (اگر مجبوری کی بناء پر) توران میں بھی تیر مارے تو تیرے لیے کافی ہے یعنی ذبح ہو گیا۔

حضرت ابو عشاء داری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے عتیرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ

ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الِیْمُنْهَالِ، وَعَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا يَكُونُ الذَّكَاءُ إِلَّا مِنَ الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَةِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَعِيدِهَا لَأَجْزَأَتْ عَنْكَ

6581 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاءُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَةِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَعِيدِهَا لَأَجْزَأَتْ عَنْكَ

6582 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَعْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مَحْدُورَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاءُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَعِيدِهَا لَأَجْزَأَتْ عَنْكَ

6583 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَالِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ

نے اسے اچھا قرار دیا۔

الْفُرَاتِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ، ثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئَلَ
عَنِ الْعَتِيرَةِ فَحَسَنَهَا

حضرت ابو عشاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ
میرے والد فوت ہو گئے تھے آپ نے گردن سے لے کر
قدم تک اپنا لعاب اطہر لگایا، گویا میں اب بھی لعاب
اطہر کے ہلکے ہلکے ٹکڑے اپنے والد کے جسم پر دیکھ رہا
ہوں۔

6584 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
شَهْرَبَارٍ، ثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ
الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا سَعْدُ أَبُو الرَّضِيِّ، قَالَ: ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقَسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي يَمُوتُ
فَتَقَلَّ عَلَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ إِلَى قَدَمِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
رُضَاكِ الْبَزَاقِ عَلَى جَسَدِهِ

جن کا نام سیابہ ہے
حضرت سیابہ بن عاصم
سلمی رضی اللہ عنہ

مَنْ اسْمُهُ سِيَابَةُ
بِسِيَابَةِ بْنِ عَاصِمٍ
السُّلَمِيِّ

حضرت سیابہ بن عاصم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

6585 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ

6584 - أَبُو الْعَشْرَاءِ مَجْهُولٌ، وَفِي مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ كَلَامٌ وَخَاصَةٌ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَمْ أَرِ تَرْجُمَةً لِسَعْدِ أَبِي
الرَّضَا .

6585 - قَالَ فِي الْمَجْمَعِ جُلْد 8 صَفْحَة 219 'وَرَجَالَهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ . قُلْتُ : وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ
هَشِيمٍ بِهِ . وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سَنَنِهِ (2841) عَنْ هَشِيمٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ عَنْ سِيَابَةَ بِهِ
وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكَرٍ جُلْد 15 صَفْحَة 128 بِلَفْظٍ (خَذَهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ) قَالَ شَيْخُنَا
فِي سِلْسَلَةِ الصَّحِيحَةِ جُلْد 4 صَفْحَة 97 'وَهَذَا اسْتَدَاهُ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرُ اسْتِحَاقِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ الْخَطَّابِيُّ الْحِرَانِيُّ تَرْجُمَهُ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرَحًا وَلَا تَعْدِيلًا ثُمَّ قَالَ : فَالْحَدِيثُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ حَسَنٌ عَلَى أَقْلِ الدَّرَجَاتِ .

کہ حضور ﷺ نے حنین کے دن فرمایا: میں عواتک کا بیٹا ہوں۔

الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَا سَيَّابَةُ بْنُ عَاصِمِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ

سِيمُوِيَه

حضرت سیمویہ رضی اللہ عنہ

حضرت سیمویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا، میں نے آپ ﷺ کے منہ سے اور اپنے کان سے سنا، ہم نے بقاء سے مدینہ تک گندم اٹھائی، ہم نے فروخت کی اور ہم نے مدینہ کی کھجور خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن ہمیں منع کیا گیا، ہم حضور ﷺ کے پاس آئے، آپ کو بتایا تو آپ ﷺ نے انہیں فرمایا: جن کیلئے انہوں نے ہمیں منع کیا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کھانے کی رخصت اس مہنگی کھجور کے بدلے میں جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کو چھوڑ دو یہ اٹھائے پھریں، حضرت سیمویہ بقاء کے سورج کے پجاری نصرانی تھے، آپ اسلام لائے اور اچھا اسلام لائے، ایک سو بیس سال زندہ رہے۔

6586 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مَنَدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ قَطَنِ الْبَحَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْكِينٍ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَبِيحٍ، أَخُو الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، حَدَّثَنِي سِيمُوِيَه، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَمِعْتُ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي، وَحَمَلْنَا قَمَحًا مِنَ الْبَلْقَاءِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبَعْنَا وَارَدْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ تَمْرَ الْمَدِينَةِ، فَمَنْعُونَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَبَرْنَاهُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِينَ مَنْعُونَا: أَمَّا يَكْفِيكُمْ رُخْصُ هَذَا الطَّعَامِ بِقَلَاءِ هَذَا التَّمْرِ الَّذِي يَحْمِلُونَهُ، ذَرُوهُمْ يَحْمِلُونَهُ وَكَانَ سِيمُوِيَه مِنْ بَلْقَاءِ نَصْرَانِيًّا شَمَاسًا، فَاسْلَمَ وَحَسَنَ إِسْلَامَهُ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

6586 - قال في المعجم جلد 4 صفحہ 99 'وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم . ونسبه الحافظ في الاصابة جلد 4

صفحہ 238 الى ابن قانع وابن مندة أيضا ثم ظاهر سياق خبره عند الخطيب في المؤلف انه اسلم بعد النبي صلى

الله عليه وآله وسلم .

مَنْ اسْمُهُ سَنْدَرٌ

سَنْدَرٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

مَوْلَى زُبَاعِ الْجَذَامِيِّ

جن کا نام سندر ہے

حضرت سندر ابو عبد اللہ

زباع جذامی کے غلام

حضرت عبد اللہ بن سندر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت زباع بن سلامہ جذامی کے پاس تھے یہ ان پر ناراض ہوئے انہیں خسی کر دیا اور کان کاٹا وہ حضور ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو آپ حضرت زباع سے ناراض ہوئے اور ان سے آزاد کروادیا۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرمائیے! فرمایا: میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔

6587 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

صَالِحٍ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ،

ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ

رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطِ التَّجِيبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سَنْدَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الزُّبَاعِ بْنِ

سَلَامَةَ الْجَذَامِيِّ، فَغَضِبَ عَلَيْهِ فَأَخْصَاهُ

وَجَدَعَهُ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَأَغْلَظَ لِلزُّبَاعِ الْقَوْلَ، وَأَعْتَقَهُ

مِنْهُ، قَالَ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَوْصِي

بِكُلِّ مُسْلِمٍ

مَنْ اسْمُهُ سَعْرٌ

سَعْرٌ الدَّوْلِيُّ

جن کا نام سحر ہے

حضرت سحر الدولی رضی اللہ عنہ

حضرت ابو سحر الدولی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی ایک بستی میں تھا ایک مسلمان آدمی آیا میں اپنی بکریوں کے درمیان تھا میں نے

6588 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

إِسْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي

6587 - قَالَ فِي الْمَجْمَعِ جلد 4 صفحہ 239 رواه البزار (120-121 زوائد البزار) والطبرانی وفيه عبد الله ابن سندر ولم

أعرفه وبقيته رجاله ثقات .

6588 - ورواه أحمد جلد 3 صفحہ 414-415 وأبو داود رقم الحديث: 1566 والنسائي جلد 5 صفحہ 32-33 وأبو عبيد في

الأموال (1090) والبيهقي جلد 4 صفحہ 96 كلهم من طريق آخر .

من اسمه سندر أبو عبد الله من اسمه سحر سحر الدولي

کہا: آپ کون ہیں؟ اس نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کا بھیجا ہوا ہوں۔ میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے بھیجے ہوئے کو خوش آمدید! آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا: میں آپ کی بکریوں کی زکوٰۃ! اس نے کہا: میں حمل والی بکری لینے کے لیے آیا ہوں جب وہ پیدا ہوئی ہے جب اس نے بکریوں کو دیکھا تو اس نے کہا: اس میں ہمارا حق نہیں ہے، میں نے کہا: تمہارا حق کس میں ہے؟ اس نے کہا: دو سالہ اور چھ ماہ میں۔

مَرَارَةَ الْجَهَنِّي، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الدَّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ فِي نَاحِيَةِ مَكَّةَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِي غَنَمِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: مَرَحَبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَهْلًا، فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ صَدَقَةً غَنَمِكَ، قَالَ: فَجِئْتُهُ بِشَاةٍ مَخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ: لَيْسَ حَقَّنَا فِي هَذِهِ، قُلْتُ: فَفِيمَ حَقُّكَ؟ قَالَ: فِي الثَّيْبَةِ وَالْجَذَعَةِ اللَّحَةِ

جن کا نام سمرہ ہے

حضرت سمرہ بن معیر

ابو محذورہ نجی رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے مؤذن

یہ سمرہ بن معیر بن وہب بن دعووس بن سعد بن جح رضی اللہ عنہ ہیں آپ کے نام میں اختلاف ہے۔ ابن کلبی فرماتے ہیں: آپ کا نام اوس بن معیر ہے۔

حضرت ابن معیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ

مَنْ اسْمُهُ سَمُرَةٌ
سَمُرَةُ بْنُ مَعِيرٍ أَبُو مَحْذُورَةَ
الْجُمَحِيُّ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ سَمُرَةُ بْنُ مَعِيرٍ بْنِ وَهَبِ بْنِ دَعْمُوسَ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحٍ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي اسْمِهِ قَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: اسْمُهُ أَوْسُ بْنُ مَعِيرٍ
6589 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

6589 - ورواه أحمد جلد 3 صفحہ 408-409 جلد 6 صفحہ 401 و مسلم رقم الحديث: 379 و أبو داود رقم

الحديث: 496 تا 501 و الترمذی رقم الحديث: 191 و النسائی جلد 2 صفحہ 4-5 و الدارمی رقم الحديث: 1199

وابن الجارود رقم الحديث: 162 و ابن ماجه رقم الحديث: 709 و ابن خزيمة رقم الحديث: 377 تا 379 و ابن

حسان رقم الحديث: 1672 تا 1674 و الطحاوی فی شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 130 و البيهقی

جلد 1 صفحہ 392-393 و ما بين المعكوفين بن رواية فاطمة فقط و ليس عند المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 3548 و كلمة الأذان بين المعكوفين من مسند الشاميين .

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ،
حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَخْذُومَةَ، قَالَ: عَلَّمَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ،
فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ
أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ، فَيَقُولُ:
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى
عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، حَتَّى عَلَى
الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

6591 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ
الدِّمَشَقِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ النَّيْرُوتِيُّ، ثنا
عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَخْذُومَةَ، قَالَ:
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ
عَشْرَةَ كَلِمَةً

6592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ
الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو
مُوسَى، ثنا أَبُو عَاصِمٍ الصَّنَّاعِيُّ، ثنا
ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے مجھے اذان کے انیس کلمات اور اقامت
کے سترہ کلمات سکھائے۔

حضرت عبد اللہ بن محیریز بیان کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی، میں
نے ملک شام کی طرف جانے کی تیاری کی، میں نے حضرت
ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی: میں ملک شام کی طرف

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى
 الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ،
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ دَعَانِي
 حِينَ قَضَيْتُ التَّائِيْدِينَ، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ
 مِنْ فَضِيَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي
 مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ،
 ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اللَّهُ
 فِيكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 مُرْنِي بِالتَّائِيْدِينَ بِمَكَّةَ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ وَذَهَبَ
 كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي قَلْبِي مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ
 مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذْنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ
 عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6593 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ

الرُّمَائِيُّ الْمِصْبِصِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
 الْفَرِيَّابِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ،
 قَالُوا: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
 سَمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ،

الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جب
 میں اذان مکمل کر چکا تو آپ ﷺ نے مجھے بلایا مجھے ایک
 تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ ﷺ
 نے حضرت ابو محذورہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا پھر اسے ان
 کے چہرے پر پھیرا پھر ان کے سینے (جگر) پہ پھیرا پھر
 رسول کریم ﷺ کا ہاتھ مبارک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ
 عنہ کی تھیلی پر پہنچا پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
 تجھے اس میں برکت دے اور اللہ تجھ پر برکت فرمائے۔
 میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مکہ میں اذان دینے
 کی ذمہ داری مجھے دے دیں! آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے
 دے دیں۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں: رسول
 کریم ﷺ کے حوالے سے میرے دل میں جو ناپسندیدگی
 وغیرہ تھی سب ختم ہو گئی اس کی جگہ رسول کریم ﷺ کی
 محبت نے لے لی۔ پس میں رسول کریم ﷺ کے عامل
 حضرت عتاب بن اُسید کے پاس آیا تو میں نے رسول
 کریم ﷺ کے حکم کے تحت ان کے ساتھ نماز کیلئے اذان
 دی۔

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے مجھے اذان کا ایک ایک حرف سکھایا: اللَّهُ
 أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ،
حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي
مَحْذُورَةَ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ، يَقُولُ:
أَلْقَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
' أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى
عَلَى الْفَلَاحِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حضرت ابراہیم بن ابو محمد ورہ اپنے والد سے وہ ان
کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے میرے
دادا ابو محمد ورہ کو اذان دینے کا حکم دیا اس کے بعد اس کی
مثل حدیث ذکر کی۔

حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ دس نوجوانوں کے ساتھ حنین کی
طرف نکلا آپ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند
تھے انہوں نے اذان دی اور ہم کھڑے ہوئے ہم ان کا
مذاق اڑانے لگے حضور ﷺ نے فرمایا: ان نوجوانوں کو
میرے پاس لاؤ فرمایا: اذان وہ! انہوں نے اذان دی تو
میں ان اذان دینے والوں میں سے آخری تھا حضور ﷺ

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَّاعِ رَوْحُ بْنُ الْقُرَاجِ
الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ جَدَّهُ أَبَا مَحْذُورَةَ،
فَذَكَرَ مِثْلَهُ

6594 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ مَوْلَاهُمُ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ مَوْلَى
أَبِي مَحْذُورَةَ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
مَحْذُورَةَ، قَالَا: قَالَ أَبُو مَحْذُورَةَ: خَرَجْتُ فِي
عَشْرَةِ فُتَيَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى حُنَيْنٍ، وَهُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا، فَأَذَّنُوا

وَقَمْنَا نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتُونِي بِهِؤُلَاءِ الْفَتَيَانِ فَقَالَ: أَذْنُوا، فَأَذْنُوا، فَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ، اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَقُلْ لِعَتَابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، فَقَالَ: قُلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ ارْجِعْ، فَقُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِذَا أَذَنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، سَمِعْتُ؟ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ: لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ، وَلَا يَفْرُقُهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: عُثْمَانُ الَّذِي رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي جُمَحٍ

6595 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَنَى، ثنا

نے فرمایا: جس کی آواز میں نے سنی ہے آپ کی آواز اچھی ہے جاؤ! مکہ والوں کیلئے اذانیں دو اور حضرت عتاب بن اُسید سے کہنا: مجھے رسول کریم ﷺ نے حکم دیا ہے کہ میں مکہ والوں کے لیے اذان دوں اور ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ فرمایا: کہو! اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، اور دوبارہ کہو: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، دو مرتبہ پھر ترجیع کرو اور دوبارہ کہو: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ دو مرتبہ حَتّٰی عَلٰی الصَّلَاةِ دو مرتبہ حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ دو مرتبہ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اور جب صبح کی پہلی اذان کہو تو الصلوٰۃ خیر من النوم، الصلوٰۃ خیر من النوم کہو اور جب اقامت کہو تو دو مرتبہ کہو: قد قامت الصلوٰۃ۔ کیا تُو نے اچھی طرح سن لیا؟ پس حضرت ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ کی عادت یہ بن گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی پیشانی کے بالوں کو اتارا اور نہ کبھی ان میں مانگ نکالی کیونکہ رسول کریم ﷺ نے ان کو اپنا ہاتھ مبارک لگایا تھا۔ راوی حدیث حضرت ابوالقاسم عثمان جن سے اس حدیث کو حضرت ابن جریج نے روایت کیا ہے یہ بنو جحج کے غلام حضرت عثمان بن

سائب ہیں۔

حضرت محمد بن عبد الملک بن ابو محذورہ اپنے والد

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ
يَرْجِعُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى يَأْتِيَ إِلَى
آخِرِ الْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ

حضرت ابن ابومحذورہ اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں کہ حضور ﷺ نے بنی عبدالمطلب کے لیے پانی پلانا
اور بنی عبدالداری کے لیے چوکیداری اور ہمارے اور ہمارے
غلاموں کے لیے اذان کی ذمہ داری لگائی۔

6597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا
الْهَذِيلُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي
مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبْنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
السَّقَايَةَ، وَلِبْنِي عَبْدِ الدَّارِ الْحِجَابَةَ، وَجَعَلَ
الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
رسول اللہ ﷺ کے لیے فجر کی نماز کی اذان دیتا، میں پہلی
اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلوٰۃ خیر من النوم الصلوٰۃ
خیر من النوم پڑھتا تھا۔

6598 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ،
قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ إِذَا قُلْتُ فِي
الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ
مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

6598- ورواه أحمد جلد 6 صفحہ 401 قال في المجمع جلد 1 صفحہ 336 بعد أن نسبته لأحمد فقط وفيه راو لم يسم .

وقال جلد 4 صفحہ 285 رواه أحمد والطبرانی في الأوسط (154 مجمع البحرين) والكبير وفيه هذيل بن بلال

الأشعري وثقه أحمد وغيره وضعفه .

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پچھ
تھا میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین کے دن اذان
دی جب میں حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح پر پہنچا تو مجھے
حضور ﷺ نے فرمایا: اس کے ساتھ الصلوٰۃ خیر من النوم
ملا لے۔

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ کے
زمانہ میں آپ اذان کیسے دیتے تھے اور اذان کے آخر میں
کیا کلمات پڑھتے تھے؟ فرمایا: میں اذان اور اقامت کے
کلمات دو دو مرتبہ کہتا تھا اور اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ
پڑھتا تھا۔

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان
کے آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔

6599 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ،
قَالَا: ثَنَا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عِيَّاشٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُقَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا صَبِيًّا، فَأَذَنْتُ
بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
حُنَيْنٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى حَيٍّ عَلَى الصَّلَاةِ،
حَيٍّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الْحَقُّ فِيهَا: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

6600 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي

الْمِصْبِصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ لُؤَيْنٍ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ: كَيْفَ
كُنْتَ تُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمَى
شَيْءٍ كُنْتَ تَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِكَ؟ قَالَ: كُنْتُ
أَتْلُو الْأَذَانَ، وَأَتْلُو الْإِقَامَةَ، وَأَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

6601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ،
ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ،
قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اذان کے آخر میں کیا پڑھتا ہے؟ فرمایا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔

6602 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْرَقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ خَالِدٍ الْبَحَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ رَقِيعَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ عَنْ آخِرِ الْأَذَانِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے سحری و افطاری میں مسلمانوں کے امین ہیں۔

6603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهُسَيْرِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى الْهَمَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤَذِّنُونَ أَمْنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى فِطْرِهِمْ وَسُحُورِهِمْ

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: جب تو مغرب کی اذان دے تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی دے۔

6604 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَذَنْتَ الْمَغْرِبَ فَاحْذَرْهَا مَعَ الشَّمْسِ حَذْرًا

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے ساتھ ہے۔

6605 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ بْنِ كَامِلٍ السَّرَاجِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

6602 - قال في المجموع جلد 3 صفحہ 2 و اسنادہ حسن . قلت: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف .

6603 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 311 و اسنادہ حسن . قلت: فيه أيضًا يحيى الحماني .

أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ اخْذُوهَا مَعَ الشَّمْسِ

6606 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ صَفِيَّةَ
بِنْتِ مَجْزَأَةَ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ، كَانَتْ لَهُ قَصَّةٌ
فِي مُقَدِّمِ رَأْسِهِ، إِذَا قَعَدَ أَرْسَلَهَا، فَتَبْلُغُ
الْأَرْضَ، فَقَالُوا لَهُ: أَلَا تَخْلِقُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا
بِيَدِهِ فَلَمْ أَكُنْ لِأَخْلِقُهَا حَتَّى أَمُوتَ، فَلَمْ
يَخْلُقْهَا حَتَّى مَاتَ

6607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيِّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ،
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ وَلَهُ شَعْرٌ، فَقُلْتُ
لَهُ: أَلَا تَأْخُذُ شَعْرَكَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُحِفَّ
شَعْرًا مَسَحَ - أَمَرَ - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ

6608 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

حضرت صفیہ بنت مجزہ سے روایت ہے کہ حضرت
ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کے سر کے آگے بالوں کا گچھا تھا
جب بیٹھے تو چھوڑ دیتے تو بال زمین تک لٹکتے تھے آپ
سے عرض کی گئی: آپ ان کو کاٹتے نہیں ہیں؟ آپ نے
فرمایا کہ حضور ﷺ نے ان پر اپنا دست مبارک پھیرا
میں مرنے تک نہیں کٹاؤں گا آپ نے یہ مرتے وقت تک
نہیں کاٹے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن محیریز اپنے والد
سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ کے بال تھے میں نے
آپ سے عرض کی: کیا آپ بال نہیں کاٹتے ہیں؟ انہوں
نے فرمایا: میں ان بالوں کو کم نہیں کروں گا جن پر رسول
اللہ ﷺ نے دست مبارک پھیرا ہے۔

حضرت اوس بن خالد فرماتے ہیں کہ میں حضرت

6606- قال في المعجم جلد 1 صفحه 311 واسناده حسن .

6607- قال في المعجم جلد 5 صفحه 165 وفيه أيوب بن ثابت المكي قال أبو حاتم: لا يصح حديثه .

6608- في رواية فاطمة بدل مسح .

ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَدِمْتُ عَلَى أَبِي مَحْذُورَةَ سَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ، وَإِذَا قَدِمْتُ عَلَى الرَّجُلِ سَأَلَنِي عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ فُلَانٍ، وَإِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ سَأَلَنِي عَنْكَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَفُلَانٌ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آخِرُكُمْ مَوْتًا فِي النَّارِ فَمَاتَ أَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو مَحْذُورَةَ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ

سَمْرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ الْفَزَارِيُّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَمَاتَ بِهَا مِنْ أَخْبَارِهِ

6609 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ مَنَاسٍ عَنْ كَامِلِ السَّرَاجِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ سَمْرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ، مَاتَتْ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَرَكَ ابْنَهُ سَمْرَةَ وَكَانَتْ أَمْرًا جَمِيلَةً، فَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، فَخُطِبَتْ فَجَعَلَتْ نَقُولُ: لَا أَتَزَوَّجُ رَجُلًا إِلَّا رَجُلًا يَكْفُلُ لَهَا

ابومحذوره رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے مجھ سے ایک آدمی کے متعلق پوچھا جب میں اس آدمی کے پاس آیا تو مجھے حضرت ابومحذوره رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا میں نے حضرت ابومحذوره رضی اللہ عنہ سے کہا: جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فلاں کے متعلق پوچھا جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے آپ کے متعلق پوچھا۔ حضرت ابومحذوره رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اور حضرت ابوہریرہ اور فلاں شخص ایک گھر میں تھے حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے آخر میں جو مرے گا وہ جہنم میں ہوگا اس کے بعد حضرت ابوہریرہ اور ان کے بعد حضرت ابومحذوره کا وصال ہوا پھر اس آدمی کا وصال ہوا۔

حضرت سمرہ بن جندب فزاریؓ آپ بصرہ آئے تھے اور یہاں وصال ہوا اور آپ کی باتوں کے متعلق

حضرت عبدالحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی والدہ کا شوہر وصال کر گیا اور بیٹا سمرہ چھوڑ گیا ان کی والدہ خوبصورت تھیں مدینہ میں آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا آپ فرماتیں: میں ایسے آدمی سے شادی کروں گی جو سمرہ کے بیٹے کی بالغ ہونے تک خرچ کی ذمہ داری لے۔ انصار کے ایک آدمی نے اس شرط پر شادی کر لی آپ اپنی والدہ

کے ساتھ انصار میں رہے۔

بِنَفَقَةٍ اَيْنَهَا سَمُرَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ
مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَتْ مَعَهُ فِي
الْأَنْصَارِ

حضور ﷺ کو ہر سال انصار کے بیٹے پیش کیے
جاتے جو ان میں سے بالغ ہو جاتا اس کو آپ جنگ کے
لیے بھیجتے آپ پر بچے پیش کیے گئے تو آپ نے جنگ کے
لیے بھیجا اس کے بعد حضرت سرہ پیش کیے گئے تو آپ
نے واپس کر دیا۔ حضرت سرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی:
یا رسول اللہ! آپ نے بچے کو اجازت دی ہے اور مجھے
واپس کر دیا اگر آپ میری کشتی کروادیں تو میں گرا لوں گا۔
آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے! آپ کشتی کروائیں۔
حضرت سرہ فرماتے ہیں: میں نے گرا لیا تو مجھے جہاد
پر جانے کی اجازت دے دی گئی۔

6610 - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، يَعْرِضُ غُلَمَانَ الْأَنْصَارِ فِي كُلِّ عَامٍ،
فَمَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ بَعَثَهُ، فَعَرَضَهُمْ ذَاتَ عَامٍ، فَمَرَّ
بِهِ غُلَامٌ، فَبَعَثَهُ فِي الْبُعْثِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ سَمُرَةٌ
مِّنْ بَعْدِهِ فَرَدَّهُ، فَقَالَ سَمُرَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَجَزْتَ غُلَامًا، وَرَدَدْتَنِي، وَلَوْ صَارَ عَنِي
لَصَرَغْتُهُ؟ قَالَ: فَذُورُكَ، فَصَارَ عُهُ قَالَ:
فَصَرَغْتُهُ، فَاجِازَنِي فِي الْبُعْثِ

ما أسند سمرة بن جندب عامر الشعبي عن سمرة بن جندب

حضرت سرہ بن جندب کی روایات

کردہ احادیث

عامر شعبی، حضرت سرہ بن جندب

سے روایت کرتے ہیں

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

مَا أُسْنَدَ سَمُرَةٌ

بْنُ جُنْدُبٍ

عَامِرُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

6611- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَلْبِيُّ، ثَنَا

6610- قال في المجموع جلد 5 صفحہ 319 رواه الطبرانی مرسلًا ورجاله ثقات .

6611- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 11، 13، 20 والطائسی رقم الحديث: 1381 وأبو داؤد رقم الحديث: 3325 والنسائي

جلد 7 صفحہ 315 والحاكم جلد 2 صفحہ 25، 26 والبيهقي جلد 6 صفحہ 49 قال شيخنا في أحكام الجنائز

صفحہ 15 أخرجه بعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشجع وهو على الوجه الأول

صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . وقال في

حضور ﷺ نے نماز فجر پڑھائی، فرمایا: یہاں بنی فلاں کا کوئی ہے؟ فرمایا: تمہارا ساتھی جنت کے دروازے پر ہے اُسے قرض کی وجہ سے روک لیا گیا ہے۔

عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فَلَانٍ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ

6612- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّدْأِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ هَهُنَا مِنْ رَهْطِ فَلَانٍ؟ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ احْتَبَسَ عَنِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، لِأَمَّا أَنْ تَقْدُوهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَإِمَّا أَنْ تُسْلِمُوهُ

6613- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا الْفَضِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ؟ فَنَادَى ثَلَاثًا لَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَجَابَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتَنِي نِدَائِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ فَلَانًا الَّذِي تُوَفِّي مِنْكُمْ قَدْ احْتَبَسَ عَنِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی، پھر فرمایا: یہاں بنی فلاں کا رہنے والا کوئی ہے؟ فرمایا: تمہارے ساتھی کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے اس پر قرض ہونے کی وجہ سے یا تو تم اس کو اللہ کے عذاب سے فدیہ دے کر آزاد کرو یا اس کو عذاب کے حوالے کر دو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک دن فرمایا: یہاں کوئی بنی نجار کا رہنے والا ہے؟ تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، پھر ایک آدمی نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا: میں نے آواز سنی ہے اس نے عرض کی: جی ہاں! فرمایا: تمہارا ساتھی تم میں سے فوت ہوا ہے اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا اس کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ سے اگر تم چاہو تو اس کو جہنم میں ڈال دو اگر تم چاہو تو اسے عذاب الہی سے

بچالو۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی، پھر فرمایا: یہاں بنی فلاں کا رہنے والا کوئی ہے؟ فرمایا: تمہارے ساتھی کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے اس پر قرض ہونے کی وجہ سے یا تو تم اس کو اللہ کے عذاب سے فدیہ دے کر بچالو یا اس کو عذاب کے سپرد کر دو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک دن قوم کے پاس آئے فرمایا: یہاں کوئی بنی فلاں کا رہنے والا ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے آپ ﷺ جب کسی شے کی ابتداء کرتے تو صحابہ کرام خاموش ہو جاتے تھے پھر فرمایا: یہاں کوئی بنی فلاں کا رہنے والا ہے کوئی ہے لوگوں میں سے؟ ایک آدمی نے عرض کی: جی ہاں! یہ فلاں ہے آپ نے فرمایا: تمہارے ساتھی کو جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے اس کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ سے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کی: اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔

الْجَنَّةِ، مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَلَدِي عَلَيْهِ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَأَقْدُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ

6614- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَهْنَا مِنْ بَنِي النَّجَّارِ أَحَدٌ؟ فَنَادَى ثَلَاثًا، فَأَجَابَهُ رَجُلٌ فِي الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ بَدَائِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ فَلَانًا اخْتَبَسَ عَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَلَدِي كَانَ عَلَيْهِ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَأَقْدُوهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ

6615- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: هَهْنَا مِنْ بَنِي فَلَانٍ أَحَدٌ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَكَانَ إِذَا ابْتَدَأَهُمْ بِشَيْءٍ سَكَتُوا، ثُمَّ قَالَ: هَهْنَا مِنْ بَنِي فَلَانٍ أَحَدٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هَذَا فَلَانٌ، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسٌ دُونَ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: عَلَى دَيْنِهِ

6616- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ

الْبَقَاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشْنَجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثنا سَعِيدُ الْوَرَّاقِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشْنَجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَهْنَا أَحَدٌ مِنْ آلِ فُلَانٍ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُومَ فِي الْمَوْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أَتُوهُ بِاسْمِكَ إِلَّا لَخَيْرٍ، إِنَّ فُلَانًا رَجُلٌ مَاتَ مَا سُورَ بِدِينِهِ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَحْزَنُ بِأَمْرِهِ، قَالَ: فَقَضَوْا مَا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَمْعَانَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ أَبِي لَيْلَى

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا: بنی فلاں کا یہاں کوئی رہنے والا ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا؟ آپ نے تین مرتبہ فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں ہوں! حضور ﷺ نے فرمایا: تمہیں دو مرتبہ بلانے پر کھڑے ہونے سے کیا رکاوٹ تھی؟ میں نے تمہارا نام اچھائی کے لیے لیا ہے کہ فلاں آدمی جو مر گیا ہے وہ جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے قرض اس کے ذمہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اس کے گھر والوں کو پریشان دیکھا آپ نے فرمایا: اس کا قرض دو یہاں تک کہ کوئی شی باقی نہ رہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں سمعان کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ
حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو میرے حوالہ سے کوئی حدیث بیان کرے جبکہ اسے پتا ہو کہ (اس کی بیان کردہ حدیث) جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

علی بن ربیعہ والبی، حضرت
سمرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے دباہ و حرقت کے برتنوں سے منع کیا۔

حضرت میمون بن ابوشیبہ، حضرت

عَنْ سَمُرَةَ

6617- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُتَيْبِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ بْنِ كَامِلٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ
الْوَالِيبِيُّ عَنْ
سَمُرَةَ

6618- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا وَقَاءُ بْنُ إِيَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ، فَتَهَيَّ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمَرْقَةِ

مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

6617- رَوَاهُ أَحْمَدُ جلد 5 صفحہ 14، 19، 20، ومسلم في مقدمه صحيحه جلد 1 صفحہ 9، وابن ماجه رقم الحديث: 39

وابن حبان في صحيحه رقم الحديث: 29، وفي كتاب المجروحين جلد 1 صفحہ 7.

6618- رَوَاهُ أَحْمَدُ جلد 5 صفحہ 17 قال في المجمع جلد 5 صفحہ 58، وفيه وقاء بن إياس وثقه أبو حاتم وابن حبان

والثوري وضعفه غيرهم، وبقيته رجاله ثقات.

عَنْ سَمُرَةَ

سمره سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنو اور اس میں مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ زیادہ پاک اور خوبصورت ہیں۔

6619- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُسُوَا هَذِهِ الثِّيَابُ الْبَيَاضُ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنو اور اس میں مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ زیادہ پاک اور خوبصورت ہیں۔

6620- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، ثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُسُوَا الثِّيَابُ الْبَيَاضُ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنو اور اس میں مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ زیادہ پاک اور خوبصورت ہیں۔

6621- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَاوِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُسُوَا الثِّيَابُ

6619- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6198، 6199؛ وأحمد جلد 5 صفحہ 10، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 21؛ والنسائي

جلد 4 صفحہ 34؛ والترمذي رقم الحديث: 2962؛ وابن ماجه رقم الحديث: 3567؛ وابن الجارود رقم

الحديث: 523؛ والحاكم جلد 4 صفحہ 185؛ والبيهقي جلد 4 صفحہ 402، 403؛ وهو حديث صحيح كما قال

الترمذي والحاكم والذهبي والحافظ في الفتح جلد 3 صفحہ 135.

الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَظْهَرُ، وَكَفَّفُوا فِيهَا
مَوْتَانَكُمْ

6622- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ

التَّوَزِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَادٍ سَجَّادٌ، ثنا عَبْدُ
الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي
شَيْبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَظْهَرَ
ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَأَلْبَسُوهَا وَكَفَّفُوا فِيهَا
مَوْتَانَكُمْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدُبٍ

6623- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، وَحَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ثنا
هَمَّامٌ، ثنا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ
فِي نَفْسِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنو اور اس میں
مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ زیادہ پاک اور خوبصورت ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن بریدہ، حضرت
سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک عورت حضور ﷺ کے زمانہ میں حالتِ نفاس میں مر
گئی، حضور ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ اس
کے درمیان کھڑے ہوئے۔

عبد اللہ بن بریدہ عن سمرہ بن جندب

6623- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 14، 19، والبخاری رقم الحديث: 1331، 1332، ومسلم رقم الحديث: 964، وأبو داود

رقم الحديث: 3179، والنسائي جلد 4 صفحہ 72، والترمذي رقم الحديث: 1040، وابن ماجه رقم الحديث: 1493،

وابن الجارود رقم الحديث: 544، والطيالسي رقم الحديث: 777، والطحاوي جلد 1 صفحہ 490، والبيهقي

وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا

6624- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَزَيْدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَامَ وَسَطَهَا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔

6625- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، ثنا شَيْبَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي الْبَطْنِ، فَصَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ وَسَطَهَا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت پیٹ کی بیماری میں مری تو حضور ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔

زَيْدُ بْنُ عَقْبَةَ

الْفَزَارِيُّ عَنْ

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

حضرت زید بن عقبہ فزاری، حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں

6626- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، الْفَرِیَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مانگنے والا آدمی اپنے چہرے کو خراشے گا، جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

6624- رواہ ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 312 .

6626- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 10، 19، 22 و ابو داؤد رقم الحدیث: 1623 والترمذی رقم الحدیث: 676 وابن حبان

رقم الحدیث: 843، 842 .

جُنْدُب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَسَائِلُ كَذَّ يَكْذُ الرَّجُلُ بِهَا وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ

6627- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ

عَمْرٍو الْقَطَرَانِيُّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ،

أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ

بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْمَسَائِلُ

كُذُوحٌ يَكْذُحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ

أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ

ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا

6628- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ

بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَذَّ يَكْذُ بِهَا

أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ

أَوْ أَمْرًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ

6629- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ

بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مانگنے والا آدمی اپنے چہرے کو خراشے گا جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مانگنے والا آدمی اپنے چہرے کو خراشے گا جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مانگنے والا آدمی اپنے چہرے کو خراشے گا جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر

بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَذَّ يَكْذُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدْءًا

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مانگنے والا آدمی اپنے چہرے کو خراشے گا جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

6630- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَذَّ يَكْذُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مانگنے والا آدمی اپنے چہرے کو خراشے گا جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ (ایک روایت میں ہے:) ہاں اگر بادشاہ سے مانگے یا ضروری کام کے لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

6631- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ، أَوْ فُلَانِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَذَّ يَكْذُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ لِرَجُلٍ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مانگنے والا آدمی اپنے چہرے کو خراشے گا جو چاہے اپنے چہرے پر گوشت رکھے اور جو

6632- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ لَاسْفَاطِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأَشْنَانِيُّ، ثنا رَسْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

چاہے چھوڑ دے۔

عُقْبَةُ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَذُّ يَكْذُ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهَهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل

اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہو۔

6633- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى الْهَمَّانِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ

سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ

أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل

اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہو۔

6634- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَمَامٍ، ثَنَا أَبُو

بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ

بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل

اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہو۔

6635- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ

حَدَّثَهُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي

الْجُمُعَةِ سَبْحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ

حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6636- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو

نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل
اتاك حديث الغاشية پڑھتے ہو۔

نَعِيمٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ،
ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ
مَعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ
بِنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

6637- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثَنَا
مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَعْبِدِ بْنِ
خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ
جُنْدَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي
الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

6638- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَسُوَيْدُ بْنُ
نَصْرِ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ
أَرْطَاةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ
سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي الْأُولَى، وَفِي
الثَّانِيَةِ: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

6639- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ
الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأَشْجَنِيُّ، ثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ،
عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل
اتاك حديث الغاشية پڑھتے ہو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل
اتاك حديث الغاشية پڑھتے ہو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور هل
اتاك حديث الغاشية پڑھتے ہو۔

الْجُمُعَةِ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے آدمی کو دو انگلیوں کی دیت لینے سے منع
فرمایا۔

6640- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا
عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ الدَّاهِرِيُّ، عَنْ
مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
يُقَدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس کا سامان گم ہو گیا ہو اور وہ کسی
آدمی کے پاس پائے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے وہ مشتری
بائع سے پیسے واپس لے لے۔

6641- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى،
ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي
يَدِ رَجُلٍ بَعْنِيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرَى
عَلَى الْبَائِعِ بِالْثَمَنِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: دو ماہ ساٹھ دنوں کو مکمل نہیں کرتے ہیں۔

6642- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي
شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُتَمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6643- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

6640- ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2572.

6641- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 13، وابن ماجہ رقم الحديث: 2331. وفي اسنادہ الحجاج بن أرقطه وهو ضعيف.

6642- ورواه البزار رقم الحديث: 971 زوائد البزار قال في المجمع جلد 3 صفحہ 147، واسنادہ ضعيف.

نے فرمایا: دو ماہ ساٹھ دنوں کو مکمل نہیں کرتے ہیں۔

أُسَيْدُ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى
الرَّازِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُتِمُّ
شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا

حُصَيْنُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ عَنْ سَمُرَةَ

6644- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُتَيْبِيُّ،
وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطَرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو
بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: خَيْرٌ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ

6645- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا
عَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّامًا، فَحَجَّمَهُ بِقَرْنٍ
وَشَرْطَةِ شَفْرَةٍ، فَرَأَاهُ أَغْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَامَ تَدْعُ هَذَا يَقْطَعُ
لَحْمَكَ؟ قَالَ: هَلْ تَذَرِي مَا هَذَا الْحَجْمُ، وَهُوَ

حضرت حصین بن ابوحر، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: بہترین شی جو تم دواء کے طور پر لیتے
ہو وہ بچھنا ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے ایک بچھنا لگوانے والے کو بلایا اُس نے
آپ کو بچھنا لگایا، تلوار (یا نیزے) اور اس کی چونچ کے
نشر کے ساتھ بچھنا لگایا، بنی فزارہ کے ایک دیہاتی نے
دیکھا تو اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اس آدمی کو
کس بات پر چھوڑتے ہیں جو آپ کے گوشت کو کاٹتا ہے؟
آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بچھنے
میں کیا ہے؟ یہ بہتر ہے جو تم دواء کے طور پر لیتے ہو۔

خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ

6646- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

خَالِدٍ الْحَرَائِشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ أَبِي
السُّحْرِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا حَجَّامًا، وَأَمَرَهُ أَنْ
يَحْجِمَهُ، فَأَخْرَجَ مَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونٍ،
فَأَلْزَمَهُنَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ شَرَطَهُ بِطَرْفِ شَفْرَةٍ، وَصَبَّ
الدَّمَّ فِي إِنَاءٍ عِنْدَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
فَزَارَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ عَلَامَ
تُمْكِنُ هَذَا مِنْ جِلْدِكَ يَقْطَعُهُ؟ فَقَالَ: هَذَا
الْحَجْمُ قَالَ: هُوَ خَيْرُ مَا يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي السُّحْرِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6647- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو
عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَّاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
حضور ﷺ کے پاس تھا آپ نے پچھنا لگانے والے کو
بلایا اس کو پچھنا لگانے کا حکم دیا اس نے پچھنا لگانے کے
لیے کچھ کوتر کش سے نکالا وہ لگایا پھر تلوار کے ایک کنارے
سے نشتر لگایا اور خون آپ کے پاس برتن میں نکالا بنی فزارہ
کا ایک آدمی داخل ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟
کیا آپ اپنے جسم کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں آپ
نے فرمایا: یہ پچھنا ہے، بہترین دواء ہے جو لوگ لیتے ہیں وہ
پچھنا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی
مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک دیہاتی نے اس حالت میں رسول اللہ ﷺ سے
پوچھا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے وہ خطبہ کے دوران

6646- هكذا في الأصل معاجمًا والصواب معاجم .

6647- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 19، 21 والبزار رقم الحديث: 1216 'ورجاله ثقات كما قال في المجموع جلد 4

صفحہ 37 'وعند أحمد عن حصين رجل من بني فزاره وليس عنده عن رجل من بني فزاره ولعل نسخة الحافظ

الهيتمي كانت كذلك .

بول پڑا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے وہ آپ کی دائیں جانب تھا، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ گوہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل سے ایک اُمت کی شکلیں بگڑی تھیں، اللہ عزوجل زیادہ جانتا ہے کہ ان کی شکلیں بگاڑ کر کون سے جانور بنائے گئے ہیں۔

الْمُضَرِّي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَأَلَ أَغْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبَابِ؟ قَالَ: مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي أَيِّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: آپ گوہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل سے ایک اُمت کی شکلیں بگاڑی گئی تھیں، اللہ عزوجل زیادہ جانتا ہے کہ ان کی شکلیں بگاڑ کر کون سے جانور بنائے گئے ہیں۔

6648- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسَيْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَرِّ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ أَغْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُ فِي الضَّبَابِ؟ فَقَالَ: مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَيُّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَرِّ، عَنْ أَبِي الْحَرِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت ربیع بن عمیلہ، حضرت سرہ

الرَّبِيعُ بْنُ عُمَيْلَةَ،

بن جنذب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سرہ بن جنذب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کو چار باتیں بڑی پسند
ہیں: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد
للہ، تم جس کو بھی پہلے پڑھو کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت سرہ بن جنذب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کو چار باتیں بڑی پسند
ہیں: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد
للہ، تم جس کو بھی پہلے پڑھو کوئی حرج نہیں ہے۔

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

6649- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ
خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يَضُرُّكَ بَابِيهِنَّ
بَدَأَتْ

6650- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ بْنِ
الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْمُفْعَدُ، ح
وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا
يَعْقَبُ بْنُ الْحِمَّانِيِّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ
الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا
يَضُرُّكَ بَابِيهِنَّ بَدَأَتْ

الرَّبِيعُ بْنُ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ

6651- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَائِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْمِينَ غَلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَتَمُّهُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقَالُ: لَا، إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعٌ، وَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهِنَّ

6652- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْمُقْعَدُ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُعَادَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْمِ عَبْدَكَ رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا يَسَارًا

6653- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے بچوں کے نام یسار، رباح، نجح اور افلح نہ رکھو کیونکہ تو کہے گا: وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کہا جائے گا: نہیں! وہ تو چوتھا ہے ان پر اضافہ نہ کرو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے بچوں کے نام رباح، نجح، افلح اور یسار نہ رکھو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں اپنے غلاموں کے چار نام رکھنے سے منع کیا: نافع، افلح، رباح، یسار۔

نَسَمَى رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: نَافِعٍ، وَأَفْلَحَ،
وَرَبَّاحٍ، وَيَسَارٍ

ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَادٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ سَمُرَةَ

حضرت ثعلبہ بن عباد عبدی حضرت
سمره رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی آپ کی
آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔

حضرت ثعلبہ بن عباد عبدی فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو اپنے ایک خطبہ میں
فرماتے ہوئے سنا: اسی اثناء میں کہ میں اور ایک انصاری
جوان تیر اندازی (یا نشانہ بازی) کر رہے تھے کہ سورج
طلوع ہوا۔ پس وہ دیکھنے والے کی نظر میں دو یا تین نیزوں کی
مقدار تھا پھر وہ چکا حتیٰ کہ خوب روشن ہو گیا گویا کہ وہ
صحرائی درخت ہے پس ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی
سے کہا: ہمیں لے چلو! رسول کریم ﷺ ضرور اپنی امت
کے کام میں سورج گرہن کی حدیث بیان فرمائیں گے۔
پس ہم چل کر مسجد تک آئے کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد بڑی

6654- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا
أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
أَبِي عَبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي
كُسُوفِ الشَّمْسِ، لَا يَسْمَعُ لَهُ صَوْتُ

6655- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَرِّيَابِيُّ، ثنا جَبَّانُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْهَرَوِيُّ، ثنا سُؤَيْدُ بْنُ
نَصْرِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ
عَبَادٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ
فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
نَرْمِي غَرَضًا إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ فِي
عَيْنِ النَّاسِ ظِلٌّ عَلَى قَدَرِ رُمَحَيْنِ وَثَلَاثَةِ، ثُمَّ
أَشْرَقَتْ حَتَّى أَضَاءَتْ كَأَنَّهَا تَنُومَةٌ، فَقَالَ

6654- انظر ما بعده . ورواه الترمذی رقم الحديث: 559 وابن ماجه رقم الحديث: 1264 والنسائی جلد 3

صفحة 148، 149 قال الحافظ: وسنده قوى .

6655- انظر ما بعده .

أَحَدَنَا لِصَاحِبِهِ: أَذْهَبَ بِنَا، لِيَحْدِثَنَّ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ
 الشَّمْسِ فِي شَأْنِ أُمَّتِهِ حَدِيثًا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى
 الْمَسْجِدِ، فَإِذَا الْمَسْجِدُ مَلَانُ بَارِزٍ، وَوَافَقَ
 ذَلِكَ خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ، وَاسْتَقْدَمَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَنَحْنُ بَعْدَهُ، فَقَامَ
 بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ، لَا نَسْمَعُ لَهُ
 صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي
 صَلَاةٍ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا
 كَأَطْوَلِ السُّجُودِ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ
 فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَافَقَ تَجَلَّى الشَّمْسِ
 فَعُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ
 انْصَرَفَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ
 قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَسُولٌ
 أَذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنِّي قَصَرْتُ
 عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَّا
 أَخْبَرْتُكُمْ، فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي
 لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ، وَإِنْ كُنْتُ بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي
 لَمَّا أَخْبَرْتُكُمْ؟ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ
 رِسَالَاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ
 الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالًا
 يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَهَذَا
 الْقَمَرِ، أَوْ زَوَالِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ

مصیبت کی وجہ سے بھری ہوئی ہے اور یہ رسول کریم ﷺ
 کی آمد کی نشانی تھی۔ آپ ﷺ نے آگے ہو کر لوگوں کو
 نماز پڑھائی اور اس کے بعد تھے۔ پس آپ ﷺ نے
 ہمیں قیام کرایا اس سے لمبا جو نماز میں ہمیں کراتے تھے۔
 ہم آپ ﷺ کی آواز نہیں سن رہے تھے (کیونکہ دور تھے)
 معلوم نہیں آپ ﷺ نے کیا پڑھا) پھر ہمیں لمبا رکوع
 کروایا جتنا کہ نماز میں کراتے تھے ہم آپ ﷺ کی آواز
 نہیں سن سکتے تھے۔ پھر ہمیں اس سے لمبا سجدہ کروایا جو نماز
 میں کرواتے تھے لیکن ہم آپ کی آواز نہیں سن پا رہے
 تھے۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کیا جب رسول
 کریم ﷺ قعدہ کر کے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو گیا
 پھر آپ ﷺ نے سلام پھیرا۔ پس اللہ کی حمد و ثناء کی
 گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دی کہ
 آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا:
 اے لوگو! میں بشر رسول ہوں (فرشتہ رسول نہیں) مجھ سے
 اجنبیت محسوس نہ کرو) میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اگر تم
 جانتے ہو کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے سے کسی
 شے کی کمی کی ہے تو تم نے مجھے نہیں بتایا! پس میں نے اپنے
 رب کے پیغامات ایسے پہنچائے جیسے ان کو پہنچانے کا حق تھا
 اور اگر میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا تو تم نے مجھے
 بتایا کیوں نہیں۔ پس انہوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ
 آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور اپنی امت کیلئے
 مخلص ہیں اور آپ نے وہ فرض پورا کر دیا جو آپ کے اوپر
 تھا۔ پھر فرمایا: اس کے بعد بے شک کچھ لوگ گمان کرتے

ہیں کہ یہ سورج اور یہ چاند یا ستاروں کا اپنی طلوع کی جگہ سے ہٹ جانا زمین کے بڑے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے وہ جھوٹے ہیں بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کیلئے عبرت کا سامان کرتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ ان میں سے کون توبہ کرتا ہے۔ تحقیق یہاں کھڑے ہوئے مجھے دکھایا گیا اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تم اپنی دنیا و آخرت میں ملنے والے نہیں ہو اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تیس کذاب آئیں۔ ان کے آخر میں کانا دجال ہوگا اُس کی باتیں آنکھ گویا بوڑھے انصاری ابو تیحی کی آنکھ ہے۔ اس کے حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان ہے اور جب وہ نکلے گا تو گمان کرے گا کہ وہی خدا ہے پس جو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی اس کو اس سے پہلے کیا ہوا کوئی نیک عمل فائدہ نہ دے گا۔ جس نے اس کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا تو اس کے لیے اعمال میں سے کسی عمل پر سزا نہیں دی جائے گی وہ ساری زمین پر ظاہر ہوگا مگر حرم اور بیت المقدس میں نہیں آئے گا۔ مؤمن بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور بہت زیادہ تنگ اور پریشان ہوں گے۔ اسود بن قیس نے کہا: میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام ان میں صبح کریں گے۔ پس اللہ اس کو اور اس کے لشکر کو شکست دے گا حتیٰ کہ دیوار کا بقیہ اور درخت کی شاخ بھی پکار کر مؤمن کو بتائے گی کہ یہ کافر ہے۔ میرے ساتھ چھپ گیا ہے۔ آؤ اور آکر اسے قتل کر دو۔ یہ سارا کام اس طرح نہ ہوگا یہاں تک کہ تر

رِجَالٍ مِنْ عِظْمَاءِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنْ هُوَ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَغَيِّرُ بِهَا عِبَادَهُ، لِيَنْظُرَ مَنْ يُحَدِّثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، فَقَدْ أَرَبْتُ فِي مَقَامِي وَأَنَا أَصْلَى مَا أَنْتُمْ لَا قَوْلَ فِي دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَجْتُكُمْ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، أَخْرَجَهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَالُ، مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تَحْيَى - شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ - وَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَ بِهِ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيُظْهِرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ، وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ سَيُحْصِرُ الْمُؤْمِنُونَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَصْرًا شَدِيدًا وَيُؤْزِلُونَ أَزْلًا شَدِيدًا قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ فِيهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَهْزُمُهُ اللَّهُ وَجُنُودُهُ، حَتَّى إِنَّ جِذْمَ الْحَائِطِ وَغُصْنَ الشَّجَرِ لَيَنَادِي الْمُؤْمِنَ، يَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ اسْتَرَبَى، تَعَالَى فَاقْتُلْهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْهُ أَشْيَاءَ مِنْ شَأْنِكُمْ يَتَفَاقِمُ فِي أَنْفُسِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ ذَكَرْنَا نَبِيَّكُمْ مِنْ هَذَا ذِكْرًا؟ وَحَتَّى تَزُولَ الْجِبَالُ عَنْ مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَى ذَلِكَ الْقَبْضُ الْقَبْضُ

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَيُّ الْمَوْتِ

ایسی بڑی چیزیں دیکھو جو تمہارے نزدیک بڑی سنجیدہ ہوں یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرو گے کیا تمہارے نبی ﷺ نے تمہارے لیے ان میں سے کسی چیز کا ذکر کیا تھا؟ اور حتیٰ کہ پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے پھر اس کے بعد موت ہوگی موت ہوگی۔ حضرت ابن مبارک نے ”القبض“ کا معنی موت بیان فرمایا ہے۔

حضرت ثعلبہ بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو مشاہدہ کیا اس حال میں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے۔ پس انہوں نے اپنے خطبہ میں رسول کریم ﷺ کی ایک حدیث ذکر کی۔ فرماتے ہیں: میں اور ایک انصاری بچہ تیر اندازی کر رہے تھے رسول کریم ﷺ کا زمانہ تھا جب سورج طلوع ہوا تو وہ دین ولے کی آنکھ میں ایسے تھا جیسے افق سے ایک یا دو نیزوں کی قید میں ہے۔ پس وہ کالا سیاہ ہو گیا یہاں تک کہ (پھر) روشن ہو گیا گویا کہ وہ کلونچی کا دانہ ہے۔ پس ان دو میں سے ایک نے دوسرے ساتھی کو کہا: ہم مسجد نبوی میں چلیں۔ پس قسم بخدا! آپ ﷺ ضرور اپنی امت میں آج اس سورج کے حوالے سے کوئی بات کریں گے۔ فرماتے ہیں: پس ہم دوڑ کر مسجد کی طرف گئے۔ ادھر سے ہم گئے ادھر سے رسول کریم ﷺ لوگوں کی طرف نکلے۔ پس

6656- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَمَّانِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، قَالَ: شَهِدْتُ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضِينَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ فِي عَيْنِ النَّاطِرِ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ مِنَ الْأُفُقِ، فَاسْوَدَّتْ حَتَّى أَضَاءَتْ كَأَنَّهَا تَنُومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَوْلَ اللَّهِ لِيَحْدِثَنَّ لَهُ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ

6656- ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 1172 والنسائي جلد 3 صفحہ 140 وابن ماجہ مختصراً وابن حبان رقم

الحديث: 598، 597 والحاكم جلد 1 صفحہ 329-331 ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 16 قال في المجموع

جلد 7 صفحہ 342 ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن حبان. وكذا رواه أحمد جلد 5

صفحہ 16-17. ورواه البيهقي جلد 3 صفحہ 339.

الْشَّمْسِ الْيَوْمَ فِي أَمْتِهِ حَدِيثًا، قَالَ: فَدَفَعْنَا
إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَاسْتَقْدَمَ
فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ
قَطُّ، مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا
رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ
سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، مَا
نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَةً أُخْرَى
مِثْلَهَا ثُمَّ جَلَسَ، فَوَافَقَ جُلُوسَهُ تَجَلَّى
الْشَّمْسُ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ، فَحَمِدَ اللَّهُ
وَأَنَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُكُمْ
اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَدْ بَلَغْتُ رِسَالَةَ رَبِّي
لَمَّا أَخْبَرْتُمُونِي، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي
قَصَرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَلْيِغِ رِسَالَةِ رَبِّي لَمَّا
أَخْبَرْتُمُونِي، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَغْتَ رِسَالَةَ
رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي
عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ
أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَخُسُوفَ هَذَا
الْقَمَرِ، وَزَوَالِ النُّجُومِ عَنْ مَوَاطِعِهَا لِمَوْتِ
رِجَالٍ عَظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ
كَذَّبُوا، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِيَ آيَاتُ اللَّهِ، يَتَعَبَّرُ بِهَا
عِبَادُهُ، لِيَنْظُرَ مَنْ يُحَدِّثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَإِنِّي
وَاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مَا أَنْتُمْ لِأَقْوَنَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ
وَأَخِرَتِكُمْ، مُنْذُ قُمْتُ أُصَلِّي، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا

تعلية بن عبد العبدی عن سمرة

آپ ﷺ نے آگے ہو کر نماز پڑھائی۔ ہمیں لمبا قیام
کروایا اس سے جتنا کہ عام طور پر نماز میں کرواتے تھے۔
ہم آپ ﷺ کی آواز نہیں سن پا رہے تھے پھر آپ ﷺ
نے ہمیں لمبا رکوع کروایا جیسا کبھی نماز میں نہ کروایا تھا۔
ہمیں آپ ﷺ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی پھر آپ
نے ہمیں اتنا لمبا سجدہ کروایا کہ کبھی نماز میں اتنا لمبا سجدہ نہ
کروایا تھا۔ ہم آپ ﷺ کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ پھر
آپ ﷺ نے اٹھ کر ہمیں ایک اور رکعت پہلے کی طرح
پڑھائی پھر بیٹھ گئے۔ پس ادھر آپ کا بیٹھنا مکمل ہوا ادھر
سورج کی روشنی مکمل ہوئی۔ پس آپ ﷺ سلام پھیر کر
مڑے تو اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا: اے لوگو! میں تمہیں اللہ
کا نام دے کر پوچھتا اگر تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ
کا پیغام پہنچا دیا۔ یقیناً تم نے مجھے نہیں بتایا اور اگر تم جانتے
ہو کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی
ہے تو بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ لوگوں نے (بیک زبان
ہو کر) کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کا
پیغام پہنچا دیا اپنی امت کے لیے خوب نصیحت کی اور اپنا
فرض نبھا دیا۔ پھر فرمایا: اس کے بعد کچھ لوگ گمان کرتے
ہیں سورج اور ستاروں کا اپنے طلوع کی جگہ سے ہٹ جانا
اہل زمین کے کسی بڑے کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے بے
شک وہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان
کے ذریعے اس کے بندے عبرت حاصل کرتے ہیں تاکہ
وہ دیکھے ان میں سے کون توبہ کرتا ہے۔ قسم بخدا! میں نے
دیکھا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا کہ تم اپنے دنیا و

نَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا
 أَجْرُهُمُ الْأَعْوَرُ الذَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ
 الْبُسرَى كَانَهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَى شَيْخُ بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَإِنَّهُ مَتَى
 يَخْرُجُ فَسَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ
 وَصَدَّقَهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ،
 وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَقَاتَلَهُ فَلَيْسَ يُعَاقَبُ بِشَيْءٍ مِنْ
 عَمَلِهِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيُظْهِرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا
 غَيْرَ الْحَرَمِ، وَيَبْنِي الْمَقْدِسَ، وَإِنَّهُ يَسُوقُ
 النَّاسَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيُحْصَرُونَ حَصْرًا
 شَدِيدًا قَالَ: وَأَحْسِبُهُ أَنَّهُ قَالَ: فَيُصْبِحُ فِيهِمْ
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُهُ وَجُنُودُهُ، حَتَّى إِنَّ
 الْحَجَرَ أَوْ جِذْمَ الْحَائِطِ لَيَنَادِي: يَا مُسْلِمُ، أَوْ
 يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ مُسْتَرَبِّي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ،
 وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ
 شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ
 كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَكُمْ
 مِنْهَا ذِكْرًا؟ ثُمَّ قَالَ: عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ

آخرت کے امر کو نہیں ملو گے اور قسم بخدا! قیامت نہیں آئے
 گی یہاں تک کہ تمہیں جھوٹے آدمی پیدا ہوں ان میں سے
 آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا اس کی باتیں آنکھ لپٹی ہوئی ہو
 گی، گویا وہ ابوحیسی کی آنکھ ہے یہ انصار میں سے ایک بوڑھا
 آدمی تھا پس جب وہ نکلے گا تو وہ اپنے آپ کو خدا گمان
 کرے گا۔ پس جو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تو
 اس کو کوئی نیک عمل فائدہ نہ دے گا جو اس نے کیا ہوگا اور
 جس نے اس کا انکار کیا اور اس سے جنگ کی تو اس کو اس
 کے کسی عمل کی سزا نہ دی جائے گی۔ حرم شریف اور بیت
 المقدس کے علاوہ وہ ساری زمین پر ظاہر ہوگا۔ پس وہ
 لوگوں کو بیت المقدس کی طرف ہانک دے گا پس وہ بیت
 المقدس میں محصور ہو جائیں گے۔ راوی فرماتے ہیں: میرا
 گمان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: پس حضرت عیسیٰ بن
 مریم ان میں صبح کریں گے۔ اس کو اور اس کے لشکر کو قتل
 کریں گے حتیٰ کہ پتھر یا دیوار کا بقیہ حصہ پکارے گا: اے
 مسلمان! یا اے مؤمن! یہ کافر میرے ساتھ چھپا ہوا ہے
 آ کر اسے قتل کر دے۔ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا حتیٰ کہ تم بڑے
 بڑے کام نہ دیکھ لو تمہاری جانوں میں وہ بہت سنگین ہوں
 گے۔ تم ایک دوسرے سے پوچھو گے: کیا تمہارے نبی نے
 اس میں سے کسی چیز کا ذکر فرمایا تھا؟ پھر فرمایا: اس کے
 ساتھ ہی بعد میں موت ہوگی۔

حضرت ثعلبہ بن عبادہ عبدی فرماتے ہیں: میں نے
 ایک دن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا خطبہ دیکھا

6657- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

بُؤ غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

بُنْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَانِيُّ، ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا
 زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادِ
 الْعَبْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ
 جُنْدَبٍ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ
 الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضِينَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ
 الشَّمْسُ قَدَرُ رُمَحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ
 النَّاطِرِينَ مِنَ الْأَفْقِ، اسْوَدَّتْ حَتَّى أَضَاءَتْ
 كَأَنَّهَا تَنُومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا
 إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ، لَيُحْدِثَنَّ شَأْنٌ هَذِهِ
 الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ
 بَازِرٌ - يَعْنِي مُمْتَلِئٌ - فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ،
 فَاسْتَقْدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ
 قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطُولِ مَا
 رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ
 سَجَدَ كَأَطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا
 نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ
 ذَلِكَ، فَوَافَقَ تَجَلَّى الشَّمْسُ جُلُوسُهُ فِي
 الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَتَى
 عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ
 وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

قِيلَ: بِنَا عِبَادُ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَمُرَةَ

پس انہوں نے رسول کریم ﷺ سے روایت کر کے اپنے
 خطبہ میں ذکر کیا۔ فرمایا: اسی دوران کہ میں اور ایک انصاری
 بچہ تیر اندازی کر رہے تھے رسول کریم ﷺ کا زمانہ تھا
 حتیٰ کہ جب سورج افق سے دو یا تین نیزوں کی مقدار ہو
 گیا، دیکھنے والے کی آنکھ میں حتیٰ کہ سیاہ ہو گیا پھر روشن ہو
 گیا گویا کہ وہ کلونجی کا دانہ ہے۔ پس ہم میں سے ایک نے
 اپن بیا تھی سے کہا: ہمیں مسجد میں جانا چاہیے۔ پس قسم
 بخدا! اس سورج کے بارے میں رسول کریم ﷺ ضرور
 کوئی بات فرمائیں گے۔ پس میں مسجد میں گیا تو مسجد بھری
 ہوئی تھی، ہم نے رسول کریم ﷺ کی موافقت کی، جب
 آپ ﷺ لوگوں کی طرف تشریف لائے، پس آپ ﷺ
 آگے ہوئے، پس آپ نے ہمیں قیام کروایا، اس سے کہیں
 لمبا جو کبھی نماز میں آپ ﷺ قیام کرواتے تھے، ہم
 آپ ﷺ کی آواز نہیں سن پارہے تھے۔ پھر آپ نے لمبا
 رکوع کیا جتنا کبھی نماز میں رکوع نہ کیا ہو، ہم آپ کی آواز
 نہیں سن رہے تھے (آپ ﷺ نے کیا پڑھا) پھر
 آپ ﷺ نے لمبا سجدہ کیا، جتنا نماز میں کبھی نہ کیا۔ ہم
 آپ ﷺ کی آواز سننے سے محروم رہے۔ پھر آپ ﷺ
 نے دوسری رکعت میں بھی اسی کی مثل کیا، دوسری رکعت
 کے بعد آپ ﷺ نے لمبا قعدہ کیا یہاں تک کہ سورت
 خوب روشن ہو گیا پھر آپ نے سلام پھیرا۔ پھر اللہ نہ
 حمد و ثناء کی اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی اور یہ کہ
 آپ ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرمایا: اب
 لوگو! بے شک میں بشر رسول ہوں (فرشتہ نہیں) میں تمہیں

رَسُولٌ، فَأَنْشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي
قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَلْيِغِ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَّا
أَخْبَرْتُمُونِي، فَبَلَغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي
لَهَا أَنْ تَبْلُغَ؟ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَدْ بَلَغْتُ
رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَّا أَخْبَرْتُمُونِي؟ فَقَامَ النَّاسُ،
فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ،
وَنَصَحْتَ لِأَمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ
سَكَبُوا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَجُلًا يَزْعُمُونَ
أَنْ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَا
الْقَمَرِ، وَزَوَالَ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا
لِمَوْتِ رِجَالٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ
قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِيَ آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ يَتَغَيَّرُ بِهَا عِبَادُهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ
مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ رَأَيْتُ مِنْذُ أَقَمْتُ
أُصَلِّي مَا أَنْتُمْ لَأَقُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ
وَأَخْرَجْتُمْ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا أَخْرَجَهُمُ الدَّجَالُ الْأَعْوَرُ
مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَانَهَا عَيْنُ أَبِي تَحِيٍّ
شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حِينَئِذٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةٍ
عَائِشَةَ -وَإِنَّهُ مَتَى يَخْرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّ
اللَّهَ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ
صَالِحُ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ
يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ سَيُظْهِرُ
عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ، وَبَيَّتَ

اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اگر تم جانتے ہو کہ میں نے
اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی ہے تو تم لوگوں نے
مجھے بتایا نہیں؟ پس (جہاں تک مجھے معلوم ہے) میں اپنے
رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا جیسے پہنچانا چاہیے تھا (کیوں
نہیں! بتاؤ ناں)؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے رب
کا پیغام پہنچا دیا ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پس
(ایک دم) لوگ کھڑے ہو گئے۔ پس انہوں نے کہا: ہم
گوایں دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا
ہے اور اپنی امت کو خوب نصیحت کی اور جو آپ پر فرض تھا
اسے پورا کر دیا ہے پھر لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر
آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے بعد کچھ لوگ گمان کرتے
ہیں کہ یہ سورج و چاند کا گرہن اور ان ستاروں کا کبھی اپنی
طلوع کی جگہ سے ادھر ادھر ہو جانا اہل زمین کے بڑے
لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے بے شک ان لوگوں کا گمان جھوٹا
ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں ان
کے ذریعے اللہ کے بندے عبرت حاصل کرتے ہیں تاکہ
وہ دیکھیں کہ ان میں سے کون توبہ کرتا ہے اور بے شک جب
میں نماز میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ تم اپنے دنیوی و
دینی امر میں ملنے والے نہیں ہو اور قسم بخدا اقامت قائم نہ
ہوگی جب تک تیس جھوٹے نہ آئیں ان میں سے آخری
جھوٹا کانا دجال ہوگا اس کی بائیں آنکھ مسخ ہوگی، گویا کہ وہ
النصارى بوڑھے ابو تحیی کی آنکھ ہے اس وقت وہ آپ کے
اور حضرت عائشہ کے حجرہ کے درمیان تھا اور بے شک جب
وہ نکلے گا تو اس کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا ہے۔ پس جو اس

الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَحْضُرُ الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ
الْمَقْدِسِ، فَيُؤْزِلُونَ أَرْزَلاً شَدِيدًا، ثُمَّ يَهْلِكُهُ اللَّهُ
وَجُنُودُهُ، حَتَّى إِنَّ جَذَمَ الْحَائِطِ وَأَصْلَ
الشَّجَرَةِ لَيَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ، أَوْ يَا مُسْلِمُ، هَذَا
كَافِرٌ تَعَالَى أَقْبَلُهُ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا
أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، ثُمَّ
تَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا؟ وَحَتَّى تَزُولَ
جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ عَلَى إِنْ ذَلِكَ الْقَبْضُ
وَقَبْضٌ أَصَابَعُهُ، وَأَشَارَ يَمِينًا وَشِمَالًا، ثُمَّ
شَهِدَتْ خُطْبَةً لِسُمْرَةَ، فَذَكَرَ فِيهَا هَذَا
الْحَدِيثَ فَمَا قَلَدَمَ كَلِمَةً وَلَا أَخْرَهَا عَنْ
مَوْضِعِهَا

الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب

پرایمان لایا اس کی تصدیق کی اور اس کے پیچھے چلا۔ اس کو
اس کا کیا ہوا کوئی عمل نفع نہ دے گا اور جس نے اس کا انکار
کیا اور اس کو جھٹلایا اس سے اس کے کسی عمل کا مواخذہ
نہیں کیا جائے گا وہ حرم شریف اور بیت المقدس کے علاوہ
ہر جگہ آئے گا۔ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں محصور کر
دے گا وہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے سخت پریشان ہوں گے پھر
اللہ اس کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کرے گا حتیٰ کہ دیوار کا
بقیہ حصہ اور درخت کا تنا بھی کہے گا: اے مؤمن! یا اے
مسلمان! یہ کافر ہے (جو میرے ساتھ چھپا ہوا ہے) آ کر
اسے قتل کر دے۔ (اور یاد رکھو!) یہ سب کچھ نہیں ہوگا
یہاں تک کہ تم بڑے بڑے کم دیکھو جن کا معاملہ تمہارے
دلوں میں بہت سنجیدہ اور اہم ہوگا۔ پھر تم ایک دوسرے
سے سوال کرو گے کیا تمہارے نبی ان میں سے کوئی چیز
تمہارے لیے ذکر کی تھی؟ حتیٰ کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں
گئے پھر اس کے بعد موت ہوگی۔ آپ ﷺ نے اپنی
انگلیوں کو اکٹھا کیا اور دائیں بائیں اشارہ فرمایا پھر میں
حضرت سرہ رضی اللہ عنہ کے خطبہ میں شامل ہوا پس آپ
رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ذکر کی نہ تو انہوں نے کوئی کلمہ
آگے کیا اور نہ اپنی جگہ سے پیچھے کیا۔

حضرت امام حسن بن ابوالحسن بصری
حضرت سرہ بن جندب سے روایت
کرتے ہیں

الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جَنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَابُ قَتَادَةَ

عَنِ الْحَسَنِ

حضرت قتادہ، حضرت حسن سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پڑوسی کے لیے فیصلہ کیا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے دوسرے سے گھر اور زمین کا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے دوسرے سے گھر کا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کے شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔

6658- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نَعِيمٍ، وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْجَوَارِ **6659-** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَارُ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سُورَةَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ، وَالْأَرْضِ مِنْ غَيْرِهِ

6660- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عَمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ

6661- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِشَفْعَةِ الدَّارِ

6662- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

إِسْحَاقَ الدَّقِيقِيِّ التُّسْتَرِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ

عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حَسَنِ

بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ

قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ

بِالدَّارِ

6663- حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

سَيَّارِ الْبَيْرَازِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ

الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيُّ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

غَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى

بِالْجَوَارِ

6664- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْبَزَّازُ التُّسْتَرِي، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ

الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

6665- حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو

دَاوُدَ، ثنا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے دوسرے سے گھر
کا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے پڑوسی کے لیے فیصلہ کیا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے دوسرے سے گھر
کا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے دوسرے سے گھر
کا۔

وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

بَابُ

بَابُ

6666- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

6667- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُدُوْعِيُّ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَائِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

6668- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

6669- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا ہم اُس کے عضو کاٹیں گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا ہم اُس کا عضو کاٹیں گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا ہم اُس کا عضو کاٹیں گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا ہم اُس کا عضو کاٹیں گے۔

6666- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 10، 11، 12، 18، وأبو داود رقم الحديث: 4420، والترمذی رقم الحديث: 1432، وحسنه

النسائی جلد 8 صفحہ 21، وابن ماجه رقم الحديث: 2663، والدارمی رقم الحديث: 2363، والحاكم

جلد 4 صفحہ 367، وقال صحيح على شرط البخاری ولم يخرجاه وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم ذكره .

قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ
عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

6670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

الْشَّارِزِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ
عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

6671- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُتَيْبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ
عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

6672- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

إِسْحَاقَ الدَّقِيقِيِّ التُّسْتَرِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ فَضِيلٍ، ثنا
الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ
قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

6673- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس
کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا، ہم اُس کا عضو کاٹیں
گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس
کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا، ہم اُس کا عضو کاٹیں
گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس
کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا، ہم اُس کا عضو کاٹیں
گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم اُس کو قتل کریں گے، جو اس کا عضو کاٹے گا ہم اُس کا عضو کاٹیں گے۔ جو اپنے غلام کو خضی کرے گا ہم اس کو خضی کریں گے۔

سَعْدَوْنِيهِ الطَّاحِي الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو الْخَطَّابِ زَيْدَادُ بْنُ يَحْيَى، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا: ثنا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے غلام کو خضی کرے گا ہم اس کو خضی کریں گے، جو اس کے کسی عضو کو کاٹے گا ہم اُس کا عضو کو کاٹیں گے۔

6674- حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ نَفَّهُ جَدَعْنَاهُ

باب

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اُس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔

بَابُ

6675- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْقُرَازِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

فِيهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

6676- حَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6677- حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فِيهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

بَابُ

6678- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

الْمُؤَدَّبُ، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

بَابُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اُس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اُس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اُس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔

گھروں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دے۔

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ٹھنڈی رات میں اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دے۔

6679- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

باب

بَابُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں ساری نمازوں اور نماز وسطیٰ پر بیٹھنے کرنے کا حکم دیا اور ہمیں بتایا کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔

6680- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو الْجَمَاهِرِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَأَنبَأَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اللہ عزوجل کے اس ارشاد: ”ساری نمازوں پر بیٹھ کر اور (خاص کر) صلوٰۃ وسطیٰ پر۔“ (حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔

6681- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) (البقرة: 238) قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

6682- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثَنَا

مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى

بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ، ثَنَا خَالِدُ

بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ

الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

6683- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمٍ

الرَّازِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ مَرْزُوقٍ الرَّازِيُّ،

ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

بَابُ

بَابُ

6684- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، وَابْنُ عَائِشَةَ، قَالَا: ثَنَا

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْغُلَامُ مَرَّتَيْنِ بِعَقِيْقَتِهِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نمازِ وسطیٰ سے مراد نمازِ عصر ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نمازِ وسطیٰ سے مراد نمازِ عصر ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بچہ عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے۔

6684- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 7، 8، 12، 17، 18، 27، و أبو داؤد رقم الحديث: 2820، 2821 والنسائي جلد 7

صفحہ 166، والترمذی رقم الحديث: 1559، 1560، وابن ماجه رقم الحديث: 3165، والحاكم جلد 4 صفحہ 237

وهو حديث صحيح حيث قال (5472) حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد

قال امرئى ابن سيرين أن أسال الحسن ممن سمع حديث العقیقة فسأله فقال من سمرة بن جندب . وانظر الفتح

جلد 9 صفحہ 593 .

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جائیں (اور نام رکھا جائے)۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جائیں (اور نام رکھا جائے)۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جائیں (اور نام رکھا جائے)۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جائیں

6685- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ

6686- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَا: ثنا سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، وَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

6687- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى، وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ

6688- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، ثنا يَزِيدُ

اور نام رکھا جائے۔

بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهْنٌ
بِعَقِيْقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُلَطَّخُ رَأْسُهُ
وَيُسَمَّى

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: ہر بچہ عقیقہ کا گروی ہوتا ہے لہذا بچہ کا ساتویں
دن عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کاٹے جائیں
اور نام رکھا جائے۔

6689- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ،
وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

باب

بَابُ

ف.

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: دو بیچ کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک
دونوں علیحدہ نہ ہوں ہاں اگر دونوں کے درمیان
خرید و فروخت اختیار کی شرط کے ساتھ ہوں۔

6690- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشِيُّ، ثنا
مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثنا
قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا بِالْخِيَارِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: دو بیچ کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک
دونوں علیحدہ نہ ہوں۔

6691- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
الْقَزَّازُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

6692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عَمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ

6693- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

6694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

6695- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّلَمِيُّ الْغَزَّالُ، ثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں علیحدہ نہ ہوں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں علیحدہ نہ ہوں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں علیحدہ نہ ہوں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں علیحدہ نہ ہوں۔

بَابُ

بَابُ

6696- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلَيَّانَ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

6697- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ، فَأَلَّوْلُ أَحَقُّ، وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ بَيْعًا، فَأَلَّوْلُ أَحَقُّ

6698- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے دو ولی نکاح کریں ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دو آدمیوں سے خریدے تو ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے دو ولی نکاح کر دیں (عدم علم کی بنیاد پر آگے پیچھے) ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دو آدمیوں نے خریدے تو ان میں سے پہلا زیادہ حقدار ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک

6696- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 8، 11، 12، 18، 19، 22، وأبو داود رقم الحديث: 2074، والسنائي جلد 7 صفحہ 314، والترمذی رقم الحديث: 1116، وابن ماجه رقم الحديث: 2191 بالنسبة للبيع فقط. ورواه الحاكم جلد 2 صفحہ 35، 174، 175، وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبي. ورواه الدارمي رقم الحديث: 2200. ورواه المصنف فى مسند الشاميين رقم الحديث: 2649. قال الحافظ فى التلخيص جلد 3 صفحہ 165 حسنه الترمذی وصححه أبو زرعہ وأبو حاتم والحاكم... وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فان رجاله نقات. قلت: الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع فهو ضعيف.

عورت کا نکاح دو آدمیوں سے کر دیا جائے ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دو آدمیوں سے خریدے تو ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی۔

الْقَزَارُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نِكَحْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

6699- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الدَّقِيقِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلَيَّانٍ جَمِيعًا فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

6700- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، ثنا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَكَحَ الْوَلَيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے دو ولی نکاح کریں ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دو آدمیوں سے خریدے تو ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے دو ولی نکاح کر دیں تو ان میں سے پہلا زیادہ حق دار ہوتا ہے کوئی دو وکیل بیع کر دیں تو ان میں سے پہلے کے لیے ہوگی۔

باب

باب

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6701- حَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، وَأَبُو

نے فرمایا: آباد کردہ زمین انعام ہے۔

خَلِيفَةً، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمَرَى جَائِزَةٌ

6702- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيرِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ
الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِسِيُّ،
قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمَرَى
جَائِزَةٌ

6703- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، ثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

بَابُ ٦٩

باب

6704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

كَيْسَانَ الْمُضَيَّصِيَّ، ثَنَا حَبَابُ بْنُ هَلَالٍ، ثَنَا
أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے جانور کی بیع جانور کے بدلے ادھار کرنے سے منع کیا۔

6704- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 22, 21, 12، وأبو داود رقم الحديث: 3340 والنسائي جلد 7 صفحہ 292، والترمذی رقم

الحديث: 1255، وقال: حسن صحيح وفيه ما سبق من سماع الحسن من سمرة بالإضافة الى تدليس الحسن -

يُصْرَحُ بِالسَّمَاعِ -

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جانور کی بیچ جانور کے بدلے اُدھار کرنے سے منع کیا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جانور کی بیچ جانور کے بدلے اُدھار کرنے سے منع کیا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جانور کی بیچ جانور کے بدلے اُدھار کرنے سے منع کیا۔

6705- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدَّبُ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَيْسِنَةً

6706- حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا شِهَابُ بْنُ عَبْدِ عِبَادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَيْسِنَةً

6707- حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَيَّارِ الشِّيرَازِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيُّ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَيْسِنَةً

مَنْ اسْمُهُ سَمُرَةٌ
مَا اسْنَدَ سَمُرَةٌ
بْنِ جُنْدُبٍ
بَابُ

جس کا نام سمرہ ہے
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ
کی روایت کردہ احادیث
باب

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے جانور کی بیچ جانور کے بدلے ادھار کرنے سے منع کیا۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: جو اپنے ذی محرم غلام کا مالک بنا، وہ غلام آزاد
ہے۔

6708- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَيْسِنَةً
6709- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا
حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدَّبُ، ثنا سُرَيْجُ
بْنُ النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
التَّمَّارُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ، وَحَدَّثَنَا
يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ،
قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ اسْمُهُ سَمُرَةٌ مَا اسْنَدَ سَمُرَةٌ بِنِ جُنْدُبٍ بَابُ

6709- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 18، 20، وأبو داؤد رقم الحديث: 3930، والترمذی رقم الحديث: 1376، وقال: هذا
حديث لا نعرفه مستداً الا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن
عمر شيئا من هذا. ورواه النسائي في الكبرى. قال علي بن المديني حديث منكر وقال البخاري لا يصح.

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن تین قرأتوں پر نازل ہوا۔

6710- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنُ مَسَاوِدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَفَّانٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے لیے آؤ تو امام کے قریب ہو، کیونکہ آدمی امام کے قریب ہونے سے جنت کے مقام پر ہوتا ہے، جمعہ میں شریک نہ ہونا جنت میں پیچھے رہنے کا ذریعہ ہے۔

6711- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدَّبُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَا: ثنا سَرِيحُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْضَرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْمَنْزِلَةُ فِي الْجَنَّةِ، فَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْجُمُعَةِ، فَيُؤَخَّرُ عَنْهَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6712- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ

6710- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 22، 16، والبخاری جلد 2 صفحہ 212 زوائد البزار) قال في المجمع جلد 3 صفحہ 152

ورجال أحمد وأحمد واحد اسنادی الطبرانی والبزار رجال الصحيح بعد أن نسبة إلى الأوسط والصغير أيضا .

6711- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 10، والمصنف في الصغير جلد 1 صفحہ 126، 125 من هذا الطريق . ورواه أحمد

جلد 5 صفحہ 11، وأبو داود رقم الحديث: 1095، والحاكم جلد 1 صفحہ 289، والبيهقي جلد 3 صفحہ 238 . قال في

المجمع جلد 2 صفحہ 177 بعد أن نسبة إلى الصغير فقط: وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف . مع أنه بهذا

السند في المسند وفي الكبير .

6712- قال في المجمع جلد 5 صفحہ 9، رواه البزار (285-286 زوائد البزار) باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح

خلا سعيد بن بشير وقد وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره . ولم ينسبه إلى الطبرانی . وقال جلد 2

صفحہ 262 بعد أن نسبة للطبرانی وفيه الحكم بن عبد الملك القرشي وهو ضعيف . قلت: والحسن بن بشر قال

ابن خراش منكر الحديث .

نے فرمایا: شیطان کے پاس ایک سرمہ اور ایک چٹنی (مجنون) ہے جب وہ انسان کی آنکھ میں سرمہ ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں ذکرائی کے بغیر سو جاتی ہیں جب اس کو اپنی چٹنی (مجنون) چٹاتا ہے تو اس کی زبان سے بُرائی ہی نکلتی ہے۔

شُعَيْبُ السَّمْسَارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلشَّيْطَانِ كُحْلًا وَلَعُوقًا، فَإِذَا كَحَلَ الْإِنْسَانَ مِنْ كُحْلِهِ نَامَتْ عَيْنَاهُ عَنِ الذِّكْرِ، وَإِذَا لَعَقَهُ مِنْ لَعُوقِهِ ذَرَبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ

حضرت سرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے جو میرے ساتھ تھے جب وہ میری طرف اپنا سر اٹھائیں گے تو میرے آگے سے پردہ ہوگا میں عرض کروں گا: میرے رب! میرے صحابی! میرے صحابی! کہا جائے گا: آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا!

6713- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْبَغْدَادِيِّ الْبَصْرِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرِدُ عَلَى قَوْمٍ مِمَّنْ كَانَ مَعِيَ، فَبِأَذَا رَفَعُوا إِلَى رَأْسِهِمْ اخْتَلَجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: رَبِّي، أَصْحَابِي أَصْحَابِي؟ فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذُوا بِعَدَاكَ

حضرت سرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں بڑے بڑے کام دیکھیں گے جو تم نے نہیں دیکھے تھے۔

6714- حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا غَفِيرُ بْنُ مَعْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَزُولَ الْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا، وَتَرَوْنَ الْأُمُورَ

6713- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 365 رواه أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد

وثق علي ضعف فيه' ورواه الطبرانی باسناد ورجاله كرجال أحمد . قلت: ليس عند أحمد كما أن الطبرانی لم

يروه إلا بسند واحد ورواه في الأوسط (472 مجمع البحرين) بنفس السند .

6714- قال في المجمع جلد 7 صفحہ 326 وفيه غفير بن معدان وهو ضعيف .

الْعِظَامَ الَّتِي لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا

6715- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْبِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلَاعَنُوا بِلُغَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِالنَّارِ

6716- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْجَارُودِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلَاعَنُوا بِلُغَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِالنَّارِ

6717- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبِعِ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ

6718- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ، عَمْرُو السَّلَفِيُّ الْحِمَصِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب اور جہنم کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب اور جہنم کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنا مال پالے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے اور خریدنے والا فروخت کرنے والے سے اپنے پیسے لے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنا مال پہچان لے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے

6715- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 15، وأبو داؤد رقم الحديث: 4885، والترمذی رقم الحديث: 2042، والحاكم جلد 1

صفحہ 148، وصححه الترمذی والحاكم ووافقه الذهبي وفيه عننة الحسن البصري، وله شواهد.

6717- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 13، وأبو داؤد رقم الحديث: 3514، والنسائي جلد 7 صفحہ 313-314.

اور بیع کرنے والا اپنی بیع کو تلاش کرے جہاں وہ ہو۔

الْجَبَّارِ الْيَمُصِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
نَافِعِ بْنِ غَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ عَرَفَ مَالَهُ، فَلْيَأْخُذْهُ، وَيَطْلُبِ الْبَيْعَ بَيْعَهُ
حَيْثُ كَانَ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: ہاتھ پر جو اس ہاتھ نے پکڑا ہے یہاں کہ وہ ادا
کر دے۔

6719- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا
أَبُو عَمْرٍو الْحَوْضِيُّ، ثَنَا مُرْجِيٌّ بْنُ رَجَاءٍ،
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ
غَنَامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بِشْرِ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ
مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ

باب

بَابُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6720- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشِيُّ،

6719- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 12، 13، وأبو داؤد رقم الحديث: 3544 والدارمی رقم الحديث: 2599 وابن ماجه
رقم الحديث: 2400 والنسائی فی الكبرى وابن أبي شيبه فی المصنف جلد 6 صفحہ 146 والحاكم جلد 4
صفحہ 47 والبيهقی جلد 6 صفحہ 90 والقضاعی فی مسند الشهاب رقم الحديث: 280 وهو حديث ضعيف لأن
الحسن مدلس وقد عتبه .

6720- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 12، 21، وأبو داؤد رقم الحديث: 3061 وابن أبي شيبه جلد 7 صفحہ 76 والمصنف فی
مسند الشاميين رقم الحديث: 2628 وأبو داؤد الطيالسی رقم الحديث: 1396 والنسائی فی الكبرى وابن
الجارود فی المنتقى رقم الحديث: 1015 والبيهقی جلد 6 صفحہ 142 وله شواهد .

نے فرمایا: جس نے کوئی شی گھیر لی وہ اس کی ہے (جس نے زمین گھیر لی)۔

وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی شی گھیر لی وہ اس کی ہے (جس نے زمین گھیر لی)۔

6721- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّابُؤِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سَفْيَانَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی چار دیواری (باغ) گھیر لی وہ اس کی ہے (جس نے زمین گھیر لی)۔

6722- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا فَهِيَ لَهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی زمین گھیر لی وہ اس کی ہے (جس نے زمین گھیر لی)۔

6723- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصْبِصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُؤَيْنٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَاطَ عَلَى أَرْضٍ
حَائِطًا فَهِيَ لَهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی زمین گھیر لی وہ اس کی ہے (جس نے زمین گھیر لی)۔

6724- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ
الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ،
ثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مَطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى
أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

باب

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو پانی پر غالب آ گیا وہ اس کے
لیے ہے۔ حضرت وہب بن بقیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا
زیادہ حق دار ہے۔

بَابُ

6725- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، ثنا خَالِدُ، ح
وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ،
حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَلَبَ
عَلَى مَاءٍ فَهُوَ لَهُ وَقَالَ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ: فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے
شہری کو دیہاتی سے بیج کرنے سے منع فرمایا۔

6726- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى
الِدِمَشْقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَاشِدٍ
الِدِمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ

بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّ

6727- حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْعِ رُوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّائِيُّ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ، ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

6728- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافُثُ أَبُو الرُّومِ

6729- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمَزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَدُ نُوحٍ سَامٌ، وَيَافُثٌ، وَحَامٌ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دو سال کی بیچ سے منع فرمایا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سام عرب کا باپ ہے اور حام حبشہ کا باپ ہے اور یافث روم کا باپ ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام یافث اور حام تھے۔

6727- قال في المعجم جلد 4 صفحہ 104، ورجاله موثقون .

6728- ورواه الحاكم جلد 2 صفحہ 546، وصححه ووافقه الذهبي . وأورده شيخنا في ضعيف الجامع الصغير رقم

الحديث: 3214 .

6729- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2642 .

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، یافث اور حام تھے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: غلام کا وعدہ تین دن تک ہے۔

6730- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاثَةُ سَامٍ، وَيَافِثُ، وَحَامٌ

6731- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یاد کیا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ خاموش رہے اور جب قرأت سے فارغ ہوئے تو

6732- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

6730- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2643 .

6731- ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2244 قال في الزوائد: رجال اسناده ثقات الا أن سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة وعبد بن سليمان روى عنه قبل . وسماع الحسن من سمرة فيه مقال . قلت وتدلّس الحسن وقد عنعن . فهو ضعيف .

6732- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 7، 11، 12، 15، 20، 21؛ وأبو داؤد رقم الحديث: 762، 763؛ وابن ماجه رقم الحديث: 845؛ وهذه رواية الأكثرين كذلك ابن حبان رقم الحديث: 1798؛ والحاكم جلد 1 صفحہ 215 . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2650 . وأما رواية أحمد جلد 5 صفحہ 21، 23؛ وأبو داؤد رقم الحديث: 764، 765؛ والترمذی رقم الحديث: 251؛ وابن ماجه رقم الحديث: 844 فهي مخالفة لتلك وفيها عنعن الحسن البصري وهو مدلس بالاضافة الى أنها رواية الأقلين .

آپ خاموش رہے۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اس کو معیوب سمجھا، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف اس کے متعلق لکھا، حضرت ابی نے لکھا کہ حضرت سمرہ نے سچ کہا ہے اور فرمایا کہ حضرت سمرہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث یاد کی ہے۔

قَالَ: قَالَ سَمُرَةٌ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَنَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكَنَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبُوا إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ أَبُو: صَدَقَ سَمُرَةٌ. وَيَقُولُ: إِنَّ سَمُرَةَ حَفِظَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کیلئے (نماز میں) دو سکتے تھے۔

6733- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَنَتَانِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جانوروں کے پاس آئے تو اگر وہاں ان کا مالک موجود ہو تو اس سے اجازت مانگو اگر اجازت دے تو اس کا دودھ نکال کر پی لو اگر ان کا مالک وہاں موجود نہ ہو تو تین دفعہ آواز دے اگر تو مالک آجائے تو اس سے اجازت مانگو اگر وہاں نہ آئے تو دودھ نکال کر پی لے اور ساتھ لے کر نہ جائے۔

6734- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَدِنَ لَهُ، فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيَبْصُرْ ثَلَاثًا، فَإِنْ جَاءَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا

يَحْمِلُ

6735- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ،
 ثنا سَيْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سَرَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
 الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَةٍ
 فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ، وَإِلَّا حَلَبَ
 وَشَرِبَ

6736- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ
 الْمِصْبِصِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ
 الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
 عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشَدُّ حَسْرَاتِ بَنِي
 آدَمَ عَلَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ
 حَسَنَاءُ جَمِيلَةٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، فَمَاتَتْ،
 وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسْتَرْضِعُ لَابْنِهِ، وَرَجُلٌ كَانَ
 عَلَى فَرَسٍ فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى الْغَنِيمَةَ، فَسَابَقَ
 أَصْحَابَهُ إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا قَرَّبَ مِنْهَا وَقَعَ
 الْفَرَسُ، فَمَاتَ، وَوَاقَعَ أَصْحَابُهُ الْغَنِيمَةَ،

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
 نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جانوروں کے پاس سے
 گزرے تو تین دفعہ آواز دے اگر کوئی آواز سن کر جواب
 دے تو ٹھیک ورنہ دودھ نکال کر پی لو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
 نے فرمایا: انسان پر تین سخت قسم کی حسرتیں ہیں: (۱) ایک
 وہ آدمی جس کی خوبصورت بیوی ہو اس کے ہاں بچہ ہو اور
 وہ عورت مر جائے اور بچہ کو دودھ پلانے والی نہ ملے
 (۲) ایک وہ آدمی جو گھوڑے پر سوار کسی جنگ میں
 جائے مالی غنیمت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے آگے نکل
 جائے اور جب اس کے قریب ہو تو گھوڑے سے گر کر مر
 جائے اس کے ساتھی مالی غنیمت کے پاس آئیں اور وہ
 مالی غنیمت تقسیم کر لیں۔

6736- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 273 رواه البزار (149 زوائد البزار) للحافظ ابن حجر والطبرانی في الكبير

والأوسط (108 مجمع البحرين) واسناده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة . وم ج

المعكوفين من رواية فاطمة ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2637 .

فَاقْتَسَمُوهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ زَرْعٌ وَنَاضِحٌ،
فَلَمَّا اسْتَوَى زَرْعُهُ وَاسْتَخَصَّه، مَاتَ نَاضِحُهُ،
وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ

6737- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَمْرِو الدَّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْمِصْبِصِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا
سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْمُهْجَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدَى بِذَنَّةٍ، ثُمَّ
كَالْمُهْدَى بِقَرَّةٍ، ثُمَّ كَالْمُهْدَى شَاةً، ثُمَّ
كَالْمُهْدَى دَجَاجَةً

6738- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَمْرِو الدَّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْمِصْبِصِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا
سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا يَتَبَاهَوْنَ بِهِ، أَتَيْهِمْ أَكْثَرُ
وَارِدَةٍ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً

6739- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: جمعہ کے لیے جلدی آنے والے کو ثواب اونٹ
قربانی دینے کے برابر ثواب ملتا ہے پھر اس کے بعد آنے
والے کو گائے کی قربانی کرنے جتنا ثواب ملتا ہے پھر اس
کے بعد آنے والے کو مرغی کے صدقہ جتنا ثواب ملتا ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: ہر نبی کا حوض ہوگا جس کے ذریعہ وہ فخر کرے گا
ان میں کون ہوگا جس کے پاس زیادہ آئیں گے میں یقین
کرتا ہوں کہ میرے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6737- ورواہ ابن ماجہ رقم الحدیث: 1093 قال فی الزوائد: اسنادہ صحیح . ای اسناد ابن ماجہ . وسیاتی (6968)

ورواہ المصنف فی مسند الشامیین رقم الحدیث: 2644 .

6738- ورواہ الترمذی رقم الحدیث: 2560 وقال: حسن غریب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن

الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحدیث: 2645 .

6739- فی اسنادہ سعید بن بشر وهو ضعیف قال فی المجمع جلد 2 صفحہ 94 رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر واسنادہ

پسند کرتے تھے کہ نماز میں مہاجرین اور انصار قریب کھڑے ہوں تاکہ وہ آپ سے سیکھیں۔

الْصُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ فِي الصَّلَاةِ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور ﷺ حکم دیتے کہ سجدہ میں میانہ روی کریں اور اس انداز میں سجدہ نہ کریں کہ ابھی اٹھنے کو تیار ہیں۔

6740- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي السُّجُودِ وَلَا نَسْتَوْفِرَ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور ﷺ حکم دیتے کہ سجدہ میں میانہ روی کریں اور ایسے انداز میں سجدہ نہ کریں کہ اٹھنے کیلئے تیار ہیں۔

6741- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَبْرِ الصُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي السُّجُودِ وَلَا نَسْتَوْفِرَ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6742- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ

ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2646 .

6740- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 10 قال في المجمع جلد 2 صفحہ 127 وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام . وقال جلد 2 صفحہ 132 وفي الاحتجاج به اختلاف . ورواه الحاكم جلد 1 صفحہ 271 وصححه على شرط البخاري وعنده سعيد بن أبي عروبة بدل سعيد بن بشير .

6741- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2647 .

6742- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 398 رواه الطبرانی واليزار جلد 1 صفحہ 331 (زوائد اليزار) باختصار وزاد فيه فاد سألتم الله فسلوه الفردوس ، وأحد أسانيد الطبراني رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . ورواه اليزار من طريق آخر قال في المجمع: وفيه يوسف بن خالد السمني وهو ضعيف .

نے فرمایا: جنت الفردوس بلند جنت کا ٹیلہ ہے جو بہتر اور اچھی ہے۔

الْمِصْبِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي هِيَ أَوْسَطُهَا وَأَحْسَنُهَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فردوس جنت کا ٹیلہ ہے وہ اوپر اور درمیانی ہے اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔

6743- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجُبَّاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَأَوْسَطُهَا، وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دیہاتی مہاجرین اور انصار کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ نماز میں ان کی اقتداء کریں۔

6744- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَقُمِ الْأَعْرَابُ خَلْفَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، لِيَقْتَدُوا بِهِمْ فِي الصَّلَاةِ

6743- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2648 .

6744- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 94 'وفيه سعيد بن بشير وقد اختلف في الاحتجاج به . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 2656 .

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: انسان بوڑھا ہو جاتا لیکن دو چیزیں اس کے دل میں جوان رہتی ہیں: (۱) مال کی حرص پر (۲) لمبی عمر کی خواہش پر۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جہنم میں کچھ جہنم کے لوگوں کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کے کانوں کی لو تک۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ جب امام سلام پھیرے تو ہم اس کا جواب دیں۔

6745- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ صَدَقَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ، وَيَشَبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: الْحَرُصُ عَلَى الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ

6746- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَتَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِلَى حَقْوَيْهِ، وَإِلَى تَرْقُوتَيْهِ

6747- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِرْقٍ الْحِمَاصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ

6745- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2657 والحدیث وان كان اسنادہ غیر صحیح . فہر فی الصحیح من حدیث انس .

6746- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2654 .

6747- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2641 .

6748- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَتِيَّةَ الْعَسْقَلَانِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ
الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (الفتاحه: 7)، فَقُولُوا:
آمِينَ، يُجِبْكُمْ اللَّهُ

6749- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَرَسِيَّابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ
الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ
جُنْدَبٍ، ح وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقَيْةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَسْأَلَةُ كُذُوحٌ
وَحُدُوحٌ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ
أَبَاهُ، أَوِ الْأَمِيرَ الَّذِي عَلَيْهِ

6750- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ
هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو اللہ عزوجل تمہاری دعا قبول کرے گا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مانگنا آدمی کے چہرے میں خراش اور خرابی کا باعث ہے مگر یہ کہ وہ اپنے باپ سے مانگے یا اس امیر سے مانگے جو اس پر مقرر ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بغیر شادی کے رہنے سے منع کیا پھر حضرت قتادہ نے دلیل کے طور پر پڑھ بے شک ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے ان کے لیے ہم نے بیویاں اور

6748- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 113 وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام .

6750- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 17 والنسائي جلد 6 صفحہ 59 والترمذي رقم الحديث: 1089 وابن ماجه رقم

الحديث: 1849 وله شواهد .

اولاد بھی بنائی۔

عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ، ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً)

(الرعد: 38)

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حج اکبر کا دن وہ ہے جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا۔

6751- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

الْمَعْمَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَرَوْرَةَ، ثنا
مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
يَوْمَ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت حوّا کے ہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی شیطان نے آپ سے کہا: اس کا نام عبدالحارث رکھو تو وہ زندہ رہے گا آپ نے یہ نام رکھا اور یہ بھی شیطان کے

6752- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ
الْمُثَنَّى، وَأَبُو خَلِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ
الْمَازِنِيُّ، قَالُوا: ثنا شَاذُّ بْنُ الْفَيَّاضِ، ثنا عُمَرُ

6751- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 29 'ورجاله رجال الصحيح الا ان معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي -

6752- ورواه الترمذی رقم الحديث: 5073 'وقال: حسن غریب لا نعرفه الا من حديث عمر بن ابراهيم عن قتادة -

وأحمد جلد 5 صفحہ 11 'والحاكم جلد 2 صفحہ 545 'وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي - ورواه ابن بشران في

الأمالي جلد 2 صفحہ 158 'وابن جریر رقم الحديث: 15513 'وابن أبي حاتم وان مردويه في تفسيرهم - قال

الحافظ ابن كثير في تفسيره جلد 2 صفحہ 274 هذا معدول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن ابراهيم هذا هو

البصري وقد وثقه ابن معين 'ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به ثم ذكر له متابعا - الثاني: أنه قد روى من قول

سمرة نفسه ليس مرفوعا - الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا 'فلو كان عنده هذا مرفوعا لما عدل عنه -

انظر تفسير ابن كثير جلد 2 صفحہ 274، 275 'والتيبان في أقسام القرآن صفحہ 246 لابن القيم - قلت: العنة

الحقيقية أن الحسن مدلس بل كثير التدليس 'فاذا قال في حديث عن فلان ولم يصرح بالسماع ضعف الاحتجاج

به - وما أعل به الحافظ ابن كثير يدل على ضعف الحديث هذا - كما أن في سماع الحسن من سمرة خلافا

مشهورا 'واذا لم يصرح بالسماع فلا يقبل كما هو هنا -

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَوَاءَ كَانَتْ لَا يَعْيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ لَهَا الشَّيْطَانُ: سَمِيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعْيشُ، فَسَمَوُهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ فَحَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا لَمْ يَسْتَبِينَ، فَمَرَّتْ بِهِ لَمَّا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا

الہام کرنے اور کہنے پر۔ پس حضرت حوا حاملہ ہوئیں لیکن حمل ہلکا اور خفیف تھا زیادہ ظاہر نہیں تھا، پس جب ان کا حمل ظاہر ہو گیا تو وہ اس کے پاس سے گزریں۔

6753- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا عَمْرُو بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھردالوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔

6754- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحُجُّوا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور حج کرو اور عمرہ کرو، استقامت مانگو تمہیں استقامت دی جائے گی۔

6753- قال في المجمع جلد 3 صفحہ 16، وفي عمر بن ابراهيم الأنصاري وفيه كلام وهو ثقة .

6754- ورواه الصغير جلد 1 صفحہ 52، والأوسط (141 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 3 صفحہ 205، وفيه عمران

القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره . وقال جلد 1 صفحہ 46، وقد استشهد به البخاري وثقه

أحمد وابن حبان وضعفه آخرون .

وَاعْتَمِرُوا، وَاسْتَقِيمُوا، يُسْتَقَم بِكُمْ

6755- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ
الْمُقَدَّمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحَمَّانِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو

دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عُمَرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ

قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ

الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ

6756- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا

الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ

عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي

بَكْرِ الْهَذَلِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَرُدُّوا عَلَيْهِ

6757- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: آدمی اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نہ
بھیجے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: جب امام سلام پھیرے تو اس کا جواب دو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مشرکوں کے بڑوں کو مارو

6755- ورواہ أبو الطیالسی رقم الحدیث: 1552 قال فی المجمع جلد 4 صفحہ 276 رواہ البزار (1420 زوائد البزار)

والطبرانی وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحدیث: 2653 . وصحيح من حدیث ابن عمر .

6756- فی اسنادہ اسماعیل بن عیاش وأبو بکر الهذلی وهما ضعيفان ورواه عن هشام به ابن ماجه رقم الحدیث: 921 .

6757- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 12، 13، 20 وأبو داؤد رقم الحدیث: 2653 والترمذی رقم الحدیث: 1632 وقال

حدیث حسن صحیح . وأورده شيخنا فی ضعيف الجامع الصغير .

ان کے بچوں کو کچھ نہ کہو۔

الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَنِيُّ، ثنا
الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ،
وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مشرکوں کے بڑوں کو مارو
ان کے بچوں کو کچھ نہ کہو۔

6758- حَدَّثَنَا عُبيدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ
الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ
6759- حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ دَحِيمٍ
الِدَمْشَقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ،
وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مشرکوں کے بڑوں کو مارو
ان کے بچوں کو کچھ نہ کہو۔

6760- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ
الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ،
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کی
نشانی عبد اللہ اور انصار کی نشانی عبد الرحمن تھی۔

6759- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2639 .

6760- ورواه أبو داود رقم الحديث: 2578 وفي اسناده الحجاج بن أرتاة وهو ضعيف بالاطافة الى الحسن البصري

الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ

6761- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمٍ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي
زَائِدَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْ فِي أَرْضِنَا
زَيْتَهَا وَسَكَنَهَا

6762- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ

الْأَصْبَهَانِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَقِيُّ
الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ
الْعُرُوقِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا هَمَّامٌ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَارِكُوا
الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَهُمْ أَوْ
جَامَعَهُمْ، فَهُوَ مِنْهُمْ

6763- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6761- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 215 رواه الطبرانی والبخاری (662 كشف الأستار و 76,75 زوائد البزار) للحافظ ابن
حجر باختصار واسنادہ حسن صحیح، یعنی اسناد البزار .

6762- ورواه أبو داود رقم الحديث: 2770 من طريق آخر عن سمرة . ورواه الحاكم جلد 2 صفحہ 141-142، وصححه
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وفيه عترة .

6763- ورواه أبو داود رقم الحديث: 988 من طريق أبي الجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة به ورواه ابن ماجه رقم
الحديث: 922، والبزار كما في البدر المنير (2/58/3) من طريق عبد الأعلى بن قال ابن القطان: اسناد ابن ماجه
جيد . ورواه الحاكم جلد 1 صفحہ 270 من طريق أبي الجماهر به وصححه ووافقه الذهبي مع أن في اسنادہ سعيد
بن بشير وهو ضعيف . ورواه البغوي في شرح السنة رقم الحديث: 700، والبيهقي رقم الحديث: 800، وليس

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
جب بارش کے لیے دعا مانگتے تو یہ دعا کرتے: ”اللّٰهُمَّ
انزل فی ارضنا الی آخرہ“۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: نہ مشرکوں کے گھروں میں رہو نہ ان کے ساتھ مل
کر رہو جو ان کے گھروں میں رہا یا ان کے ساتھ مل کر رہا
وہ ان میں سے ہے۔

حضور ﷺ میں حکم دیتے کہ ہم اپنے غلاموں پر سلام کریں اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم فرماتے تھے۔

الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،
قَالَا: ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَقِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُقِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ
الْقَاسِمِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا
عَلَى بَعْضٍ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ میں حکم دیتے کہ ہم اپنی عورتوں اور ایک
دوسرے کو سلام کریں۔

6764- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَرَبَائِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْخَرَائِيُّ،
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى نِسَائِنَا، وَأَنْ يَرُدَّ
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: عورت اور اس کی پھوپھی اور خالہ کی موجودگی
میں نکاح نہ کیا جائے۔

6765- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْحَضْرَمِيُّ، وَعَبِيدُ الْعُجْلُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا
هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

عند أحدهم على أيماننا بل على أمتنا أو على الإمام ولكن هكذا هو في المخطوطة.

6765- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 263، ورواه البزار (1437 زوائد البزار) والطبرانی في الكبير والأوسط (200 مجمع البحرين) ورجال البزار ثقات. قلت: وكذا رجال الطبرانی وله شواهد في الصحيح وغيره عن جماعة من الصحابة.

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کرے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے تسمے کو دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر کاٹے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کا جودہ رہ جائے تو وہ ایک دینار صدقہ کرے اگر ایک دینار نہ پائے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔

6766- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيِّ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَادٍ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرِ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ

6767- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْأَهْوَازِيُّ الْكَاتِبُ، ثنا رَاشِدُ بْنُ سَلَامٍ الْأَهْوَازِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَادٍ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْزَرَ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ إِبْصَعَيْنِ

6768- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالََا: ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ

6766- قال في المعجم جلد 3 صفحہ 169 رواه البرار (1003 زوائد الزار) والطبرانی في الكبير وفيه يعلى بن عباد وهو ضعيف .

6768- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 14,8 وأبو داود رقم الحديث: 1040 والنسائي جلد 3 صفحہ 89 وابن ماجه رقم الحديث: 1128 .

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: حسب مال ہے اور سخاوت تقویٰ
ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: حسب مال ہے اور سخاوت تقویٰ
ہے۔

6769- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ،
قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا
سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
6770- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا يُونُسُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ،
وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

6771- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ
الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ،
حَضَرْتُ سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مشورہ امانت ہوتا ہے۔

6769- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 10، والترمذی رقم الحديث: 3325، وابن ماجہ رقم الحديث: 4219، والحاکم جلد 2
صفحہ 163، وصححه علی شرط البخاری ووافقه الذہبی۔ وصححه فقط جلد 4 صفحہ 325، ووافقه الذہبی
والدارقطنی جلد 3 صفحہ 302، والبیہقی جلد 7 صفحہ 135-136، والبغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 3545،
والقضاعي فی مسند الشہاب رقم الحديث: 21، وفی رواية سلام ابی مطیع عن قتادة ضعيف والحسن عن وهو
مدلس، ولكن له شاهدان من حديث ابی هريرة عند الدارقطنی جلد 3 صفحہ 302، وبريدة عند أحمد جلد 5
صفحہ 361، 353، والنسائی جلد 6 صفحہ 164، وابن حبان رقم الحديث: 1233، والدارقطنی جلد 3 صفحہ 1233،
والحاکم جلد 2 صفحہ 162، والبیہقی جلد 7 صفحہ 135، والقضاعي رقم الحديث: 982، وانظر تعليقنا علی مسند
الشہاب ورقم: 20، 21۔

6771- قال فی المجموع جلد 8 صفحہ 97 فیہ عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك. ولكنه صحح من حديث غيره.
ورواه القضاعي فی مسند الشہاب رقم الحديث: 4 من طريق آخر عن الحسن به فانظره۔

ثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

6772- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَارِثِ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ، ثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْضِعُ
الْإِزَارِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكُعْبَيْنِ

6773- حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة:
3) يَوْمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاَقْفَ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6774- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمٍ

الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ، ثَنَا كِنَانَةُ بْنُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تہبند پنڈلی تک ہونا چاہیے ٹخنوں
سے نیچے تہبند کے لیے کوئی جگہ نہیں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ
آیت: ”آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا اور تم پر
اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے اسلام کو پسند کیا“ نویں ذی
الحجہ کے دن نازل ہوئی اور حضور ﷺ عرفات میں جمعہ
کے دن کھڑے تھے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ کی

6773- قال في المجمع جلد 7 صفحہ 14 رواه الطبرانی والبخاری (203/1-2 زوائد البزار) وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو

ضعيف .

6774- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 10 وابن ماجه رقم الحديث: 3946 من غير هذا الطريق وفيه عن عنة الحسن وهو مدلس

وله شاهد في الصحيح من حديث جندب وتقدم .

ذمہ داری میں ہے اللہ عزوجل تم سے اپنے ذمہ کی کوئی شے نہیں مانگے گا۔

جَبَلَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبُكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ

6775- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَالِدِ الرَّقِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبَلٍ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الشِّمَالِ، فِيهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، وَإِنَّهُ يَبْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُعْجِي الْمَوْتَى، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَبِّي، فَقَدْ افْتَرَى، وَمَنْ قَالَ: رَبِّيَ اللَّهُ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَاللَّفْظُ لِلْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةٍ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دجال نکلے گا وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کے ناخن سخت وہ کوڑھ برص والوں کو ٹھیک کرے گا اور مرے ہوئے کو زندہ کرے گا لوگوں سے کہے گا: میں تمہارا رب ہوں میں نے کہا: میں نے کہا: تو میرا رب ہے اس نے جھوٹ باندھا جس نے کہا: اللہ میرا رب ہے اس نے جھوٹ باندھا جس نے کہا: اللہ میرا رب ہے اس پر ڈٹ گیا اللہ عزوجل اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ الفاظ حضرت خلیل بن مرہ کے ہیں۔

6776- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَسَّ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ،

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دجال نکلے گا وہ بائیں آنکھ سے کانا

ہوگا اس کے ناخن سخت وہ کوڑھ برص والوں کو ٹھیک کرے گا اور مرے ہوئے کو زندہ کرے گا لوگوں سے کہے گا: میں تمہارا رب ہوں جس نے کہا: تُو میرا رب ہے اس نے جھوٹ باندھا جس نے کہا: اللہ میرا رب ہے یہاں تک کہ اسی پر مر گیا اللہ عزوجل اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اس پر کوئی فتنہ نہ ہوگا جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ زمین پر رہے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام مغرب کی جانب سے آئیں گے محمد ﷺ کے دین پر ہوں گے دجال کو قتل کریں گے یہ ہی قیامت قائم ہونے کی نشانی ہے۔

ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدَّجَالُ خَارِجٌ، وَهُوَ أَعْوَرُ عَيْنِ السَّمَاءِ، عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، وَإِنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَبِّي، فَقَدْ فُتِنَ، وَمَنْ قَالَ: رَبِّيَ اللَّهُ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ، فَيَلْبُثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَجِيءُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقْتُلُ الدَّجَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ قِيَامُ السَّاعَةِ

یحییٰ بن ابوالکثیر، حضرت حسن سے
اور وہ حضرت سمرہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔

يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ.

6777- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِلْيَ
الْجَارُودِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ، ثَنَا خَلْفُ بْنُ
الْوَيْلِدِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ

عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَةَ

یونس بن عبید، حضرت حسن سے اور

وہ حضرت سمرة رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں

6778- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

حَجَّاجُ بْنُ الْمِسْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

مُحَمَّدَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ، ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:

ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ

الْعَجَمِ، ثُمَّ يَجْعَلَهُمْ أَسَدًا لَا يَفْرُونَ، فَيَقْتُلُونَ

مُقَاتِلِيكُمْ، وَيَأْكُلُونَ فَيَأْكُمُ

6779- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ

الْمَكِّيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس آدمی کی مثال جو موت

6778- رَوَاهُ أَحْمَدُ جلد 5 صفحہ 11، 17، 21، 22، والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح كذا قال في المجمع جلد 7

صفحہ 310، ورواه أبو نعيم جلد 2 صفحہ 24-25، وفيه عن عنة الحسن وهو مدلس، ورواه البزار (جلد 1 صفحہ 236

زوائد البزار للحافظ ابن حجر) والحاكم في المستدرک جلد 4 صفحہ 519، وصححه من حديث حذيفة فرده

الذهبي بقوله: بل محمد بن يزيد بن سنان واه كآبيه. أما الهيثمي فقال جلد 7 صفحہ 311 فيه يزيد بن سنان أبو

فروة وهو متروك، وورد من حديث أنس وفيه مجهول، ومن حديث عبد الله بن عمرو وفيه ضعيفان، انظر المجمع

جلد 7 صفحہ 310-311.

6779- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 320 رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ (14 مجمع البحرين) وفيه معاذ بن محمد

الهلذلي قال العجلي: لا يتابع على رفع حديثه. ورواه الراهر مزى في الأمثال صفحہ 110 من طريق آخر وفيه من

تکلم فيه. وعند الجميع فيه عن عنة الحسن وهو مدلس.

سے بھاگتا ہے اس لومڑ کی ہے جس کو قرض کی وجہ سے زمین تلاش کرتی ہے پس وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ تھک ہار کر اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے زمین اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے: اے لومڑ! میرا قرض کہاں ہے؟ پس وہ اس حال میں نکلتا ہے کہ اس کے بال جھڑ چکے ہوتے ہیں پس وہ اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی گردن کٹ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب دو ولی نکاح کر کے دیں تو جس نے پہلے کر کے دیا وہ زیادہ حقدار ہے اور جب دو بیع کرنے والے بیع کریں تو پہلے بیع کرنے والا زیادہ حقدار ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

الْهَدَلِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يَقْرُضُ الْمَوْتَ كَمَثَلِ الثَّعْلَبِ، تَطْلُبُهُ الْأَرْضُ بِدَيْنٍ، فَجَعَلَ يَسْعَى، حَتَّى إِذَا أَغْيَى وَانْتَهَرَ دَخَلَ جُحْرَهُ، فَقَالَتْ لَهُ الْأَرْضُ: يَا ثَعْلَبُ، دَيْنِي؟ فَخَرَجَ، وَلَهُ حُصَاصٌ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَقَطَّعَتْ عُنُقُهُ، فَمَاتَ

6780- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَبَابٍ الْمِصْبِصِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

6781- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ الْوَابِشِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَلَاوِلُّ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْبَيْعَانِ فَلَاوِلُّ أَحَقُّ

6782- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَيَانَ الْمُطَرِّزُ،

6782- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 252 رواه البزار رقم الحديث: 714, 713، والطبرانی في الأوسط (93-94) مجمع

البحرین) والكبير وأبو يعلى وإسناده ضعيف. قلت: قال البزار: تفرد به بصري ضعيف قدرى. في

المخطوطة ما قل أو كثر وهو خطأ مخالف لما في المراجع الأخرى. مع أنه في الأوسط بنفس الاسناد.

ہمیں رات کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، تھوڑی یا زیادہ اور یہ کہ ہم اس کو دہرایا۔

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي خُبْرَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُيَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَأَنْ نَجْعَلَ ذَلِكَ وَتَرًا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا ہے اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا زیادہ فضیلت والا ہے۔

6783- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُيَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَبَعِثَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے اپنے غلام کو قتل کیا (اس کے بدلے) ہم اس کو قتل کر دیں گے اور جس نے اپنے غلام کا عضو کاٹا (قصاص میں) ہم اس کا عضو کاٹ دیں گے۔

6784- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُصْغِرَةِ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُيَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَهُ جَدَّعْنَاهُ

مطر الوراق حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں

مَطَرُ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ جب بارش مانگتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! ہماری زمین میں اس کی برکت ڈال دے (یا رکھ دے)

6785- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَمْرَةَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْجَمَاهِرِ، ثَنَا

اور اس کی زینت اور اس کو ساکن فرمادے۔

سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا اسْتَسْقَى: اللَّهُمَّ
صَعْ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِينَتَهَا وَسَكَنَهَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے منڈی میں پینچنے سے پہلے سوداگر سے ملنے
کو منع فرمایا۔

6786- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ
الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا مُعَاذُ بْنُ
هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ حَتَّى تَبْلُغَ السُّوقَ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: شہری دیہاتی کے لیے بیچ نہ کرے۔

6787- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُنْثَى، ثنا
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ،
ثَنَا شَبَابُ الْمُصَفَّرِيِّ، قَالَا: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ،
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی
کریم ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گرونی
رکھا ہوا ہوتا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے بکرا ذبح کیا
جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال
اُتروائے جائیں۔

6788- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ،
يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

6789- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

کریم ﷺ نے کفار کے بارے فرمایا: ان کے بڑوں کو قتل کرو لیکن ان کے بچوں کو زندہ چھوڑ دو۔

التُسْتَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُفَّارِ: اقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ، وَاسْتَحْيُوا شُرَحَّهُمْ

6790- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا خَطَبَ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ

أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ

6791- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بَنْدَارٌ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ

6792- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ خطبہ دیتے وقت جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

اشعث بن عبد الملك، حضرت حسن سے وہ حضرت سرہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی تسبیح کو اپنی دو انگلیوں

6790- قال في المعجم جلد 2 صفحہ 216 'ورجاله موثقون الا اني لم اجد محمد بن راشد الاصبهاني شيخ الطبراني .

قلت: وسعيد بن بشير ضعيف .

کے درمیان رکھ کر کاٹے۔

أَشْعَثَ بَنِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
يَقْدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ

ابوحرہ واصل بن عبد الرحمن، حضرت
حسن سے وہ حضرت سمرہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے
گروہی رکھا ہوا ہوتا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح
کیا جائے اس کے سر کے سارے بال اتارے جائیں اور
اس کا خوبصورت نام رکھا جائے۔

أَبُو حُرَّةٍ وَاصِلُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ

6793- حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ
الْوَاسِطِيُّ، ثنا طَلْقُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ، ثنا
حَفْصُ بْنُ غُمَرَ النَّجَّارُ، عَنْ أَبِي حُرَّةٍ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ
سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى

هَشَامُ بْنُ حَسَّانَ
عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ

ہشام بن حسان، حضرت حسن سے
وہ حضرت سمرہ سے روایت
کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے غلام کو قتل کیا، ہم
اس کو قتل کریں گے اور جس نے اپنے غلام کا عضو کاٹا، ہم
اس کا عضو کاٹیں گے۔

6794- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
وَأَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحَبَّابِ، قَالَا: ثنا
عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَدِّبُ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
الْفِرْدَوْسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ
جَدَعَنَاهُ

عطاء بن ابی میمونۃ عن الحسن

عطاء بن ابی میمونۃ، حضرت حسن سے
روایت کرتے ہیں

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ جب سلام پھیرتے تو اپنے چہرے کو
سیدھا کرتے تھے۔

6795- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى
السَّاجِيُّ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا رَوْحُ
بْنُ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي،
وَحَفْصُ بْنُ الْمُنْكَرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً حِيَالَ وَجْهِهِ

6796- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَجَاءٍ
الْعَدَوِيُّ، ثنا شَاهِينُ أَبُو حَازِمٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ
عَطَاءٍ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى سُلْطَانٍ فَلَمْ يُجِبْ،
فَهُوَ ظَالِمٌ، لَا حَقَّ لَهُ

مجامع بن زبیر عتکی، حضرت حسن سے
وہ حضرت سرہ سے

مَجَاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
الْعَتَكِيُّ عَنِ الْحَسَنِ

6795- ورواه البيهقي جلد 2 صفحہ 179 والدارقطني جلد 1 صفحہ 358-359 وابن عدی فی الكامل ومن طريقه عبد الحق

فی احکامہ وروح بن عطاء ضعیف قدری وبعنه الحسن .

6796- قال فی المجمع جلد 4 صفحہ 198 ولفیه روح بن عطاء وثقه ابن عدی وضعفه الأئمة .

عَنْ سَمُرَةَ

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جانور کی بیع جانور کے بدلے ادھار کرنے سے منع فرمایا۔

6797- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَجَاعَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ
الْبَصْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھر کا پڑوسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔

6798- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَجَاعَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ

حمید طویل، حضرت حسن سے وہ
حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

حُمَيْدُ الطَّوِيلُ
عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
حضور ﷺ دو سکتے کرتے تھے جب نماز میں داخل ہوتے
اور جب قرأت سے فارغ ہوتے۔ پس حضرت عمران بن
حصین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا ہے، پس انہوں نے
اس بارے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا۔
انہوں نے ان کی طرف لکھا کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ
نے صحیح کہا ہے۔

6799- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ
مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَفَّانُ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ:
ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ سَكَّتَيْنِ إِذَا
دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ،

فَأَنكَرَ ذَلِكَ عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبُوا فِي
ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَنِي كَعْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنَّ
صَدَقَ سَمُرَةُ

عَنْسَبَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ
الْغَنَوِيُّ الْأَعْوَرُ
عَنِ الْحَسَنِ

6800- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى
الْحُلَوَانِيُّ، ثنا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيْقٍ النَّفْقِيُّ، ثنا عَبْدُ
الْوَهَّابِ النَّفْقِيُّ، ثنا عَنْسَةُ الْأَعْوَرُ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ بْنِ
جُنْدَبٍ: أَنَّ رَجُلًا أَغْتَقَ سِتَّةَ أَغْبِدٍ لَهُ عِنْدَ
الْمَوْتِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَغْتَقَ اثْنَيْنِ،
وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً

عَنْسَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ غَنَوِيُّ أَعْوَرُ
حضرت حسن سے روایت
کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت چھ غلام آزاد کیے اس
کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا حضور ﷺ نے
ان کے درمیان قرعہ ڈالا دو آزاد کر دیئے اور چار غلام
رہنے دیئے۔

يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ تَسْتَرِيْ حَضْرَتِ حَسَنِ
سے وہ حضرت سمرہ سے روایت
کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ مشلہ کرنے سے منع کرتے اور صدقہ دینے پر

يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ
التُّسْتَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ

6801 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو
الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بَنِي

6800- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 211 قلت: حديث عمران في الصحيح - عند مسلم رقم الحديث: 1668 - رواه

الطبرانی في الكبير والأوسط (180 مجمع البحرين) وفيه الفيز بن وثيق وهو كذاب .

6801- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 12، 20 ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2650 .

اُبھارتے تھے۔

كَاسِبٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُثَلَّةِ،
وَيُحْتُ عَلَى الصَّدَقَةِ

حسام بن مصك، حضرت حسن سے
وہ حضرت سمرہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
کریم ﷺ صدقہ پر اُبھارا کرتے تھے اور مثلہ سے منع
کرتے تھے۔

حُسَامُ بْنُ مِصْكٍ
عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ

6802 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو
الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا
سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصْكٍ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتُ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ
الْمُثَلَّةِ

اسماعیل بن مسلم کی، حضرت حسن
سے وہ حضرت سمرہ سے روایت
کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے وقت نماز
نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ

6803 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُتَيْبِيُّ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ،

طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْرَوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَتَغْرُبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

6804 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُتَيْبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

6805 - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا حُمَ دَعَا بِقِرْيَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرَغَهَا عَلَى قَرْنَيْهِ، فَأَغْتَسَلَ

6806 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَاَعَ بِلَغْنَةِ اللَّهِ، أَوْ بِغَضَبِهِ، أَوْ بِالنَّارِ

6807 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بخار جہنم سے ایک ٹکڑا ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرو۔

اور حضور ﷺ کو جب بخار ہوتا تھا تو آپ پانی منگواتے اپنے جسم پر ڈالتے اور غسل کرتے تھے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اللہ کی لعنت یا اللہ کے غضب یا آگ کے ساتھ ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی کوئی شی یا تمہ کاٹنے اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر لکڑی توڑنے کی طرح سے اور اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ گاڑے۔

6804 - قال في المعجم جلد 5 صفحہ 94 رواه الطبرانی والبخاری جلد 1 صفحہ 285 زوائد البخاری وفيه اسماعيل بن مسلم وهو متروك .

6807 - قال في المعجم جلد 2 صفحہ 106 واسناده حسن .

أَنْ يَقْطَعَ أَحَدُنَا الشَّيْءَ أَوْ السَّيْرَ بَيْنَ إَصْبَعَيْهِ
عَتَبَيْنِ: عَتَبَ الْقَطْعُ، وَيُغْرَزُ بِيَدِهِ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ یہ دعا کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ بَاعِدْنِي مِنْ
ذُنُوبِي إِلَى آخِرِهِ“۔

6808 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَعِيمٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْنِي مِنْ
ذُنُوبِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
وَنَقِيْنِي مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ
مِنَ الدَّنَسِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم تین ہوں تو ہم ایک کو
امامت کے لیے آگے کریں اور اگر دو ہوں تو ایک ہی صف
میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے۔

6809 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهُ،
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ،
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَرَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً
أَنْ نَقْدِمَ أَحَدُنَا، فَيَكُونَ إِمَامًا، وَإِذَا كُنَّا اثْنَيْنِ
صَفَّفَنَا صَفًّا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ حضور ﷺ جب بارش کے لیے دعا کرتے
تو اس طرح کرتے: ”اللّٰهُمَّ انْزِلْ فِي أَرْضِنَا زَيْتَهَا
إِلَى آخِرِهِ“۔

6810 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ
الْمَكِّيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

6808- ورواه الترمذی رقم الحديث: 323 'وله شواهد ولذا حسنه .

6810- قال فی المجمع جلد 3 صفحہ 158 رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر واسنادہ ضعیف . وقال جلد 3 صفحہ 148 'رفہ

اسماعیل بن مسلم المکی وهو ضعیف .

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى
قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْ فِي أَرْضِنَا زَيْتَهَا، وَأَنْزِلْ فِي
أَرْضِنَا سَكْنَهَا، وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

6811 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

الطُّوسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصِلَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ

6812 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا
نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَإِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

6813 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمٍ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ
هَاشِمٍ، وَالْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ،
يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے ہمیں لگاتار روزے رکھنے سے منع کیا، یعنی نہ رات کو
افطار کرنا نہ دن کو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
حضور ﷺ کے ساتھ سفر کرتے جب بارش ہوتی تو ہم
حضور ﷺ کی طرف سے اعلان کرنے والے کے اعلان
کو سنتے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم ﷺ نے فرمایا: بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی
ہوتا ہے اس کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے نام
رکھا جائے اور اس کا سر منڈ دایا جائے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اونگھ آنے لگے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے اور اپنے بھائی کو اس جگہ پر بٹھائے۔

6814 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا سَلَامُ بْنُ أَبِي خُبَيْرَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ، وَلْيُجْلِسْ أَخَاهُ فِي مَكَانِهِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نماز میں پنڈلی اور ران ملا کر کھڑی کر کے کولہوں کے بل بیٹھنے سے منع کیا۔

6815 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا سَلَامُ بْنُ أَبِي خُبَيْرَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

مبارک بن فضالہ حضرت حسن سے
وہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ
عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہوتا ہے۔

6816 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُبُلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ

6814- قال في المعجم جلد 2 صفحہ 136 'وفيه سلام بن أبي خبيرة وهو متروك .

6815- قال في المعجم جلد 5 صفحہ 21 فيه من لم أعرفه .

6816- قال في المعجم جلد 5 صفحہ 33 'رواه البزار (جلد 1 صفحہ 273 زوائد البزار) الطبرانی وله في رواية المناقب -

الكافر وفيه الوليد بن محمد الأبلی وقد روي عنه جماعة ولم يضعفه أحد وقد أورده ابن عدي في الكامل .

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْارْبَعَةَ

6817 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُبُلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُبَارَكُ بْنُ قُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ، وَالْمُنَافِقُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

6818 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

الْحَسَنِ الصَّابُونِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُقِيُّ، ثنا خَلَادُ بْنُ بَزِيعٍ الْهَرَانِيُّ صَاحِبُ الْمَحَامِلِ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ قُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُصَبَّرَ الْبَيْمَةُ، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إِذَا صُبِرَتْ

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
عَنِ الْحَسَنِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جانور کو باندھ کر مارنے سے منع کیا اور زندہ جانور کا گوشت کائنے سے منع کیا۔

جریر بن حازم، حضرت حسن سے وہ
حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے

6817- قال في الذهبى في الميزان جلد 1 صفحه 656 والتمتن محفوظ لكنه بسند آخر قال في المجمع جلد 4 صفحه 31

وفيه خالد بن بزيع ولم يعرجه أحد

6818- قال في المجمع جلد 4 صفحه 154 رواه البزار رقم الحديث: 1260 والطبرانی في الكبير والأوسط (170 مجمع

البحرين) وفيه عبد الله بن اسماعيل الجوداني قال أبو حاتم: لين' ببقية رجال البزار ثقات

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا باپ میرا مال پوچھے بغیر لے لیتا ہے آپ نے فرمایا: تُو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔

عَنْ سَمُرَةَ

6819 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكْرِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا أَبُو مَالِكٍ الْجُوْدَانِيُّ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي اجْتَاكَ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

ابو بکر الہذلی، حضرت حسن سے وہ
حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ
عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ افضل صدقہ زبان ہے عرض کی: یا رسول اللہ! زبان کے صدقے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: قیدی کو آزاد کروانا، کسی کی جان کی حفاظت کرنا، اپنے مسلمان بھائی سے نیکی اور احسان کرنا اور اس سے کوئی ناپسندشی دور کرنا۔

6820 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهَذَلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اللِّسَانُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا صَدَقَةُ اللِّسَانِ؟ قَالَ: الشَّفَاعَةُ يُفَكُّ بِهَا الْأَسِيرُ، وَيُحَقَّنُ بِهَا

6819- قال في المعجم جلد 8 صفحہ 194 وفيه بكر الهذلي وهو ضعيف . قلت: ورواه المصنف في مكارم الأخلاق رقم

الحديث: 131 'والبيهقي في الشعب والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1279 .

6820- ورواه البزار جلد 1 صفحہ 272 زوائد البزار 'ولفظه (طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة .

اللہ تعالیٰ علی الجماعة) قال في المعجم جلد 5 صفحہ 21 'وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جدًا .

الذَّم، وَتَجَرَّبَهَا الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَانُ إِلَى
أَخِيكَ، وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْكَرِيهَةَ

6821 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا فَهْرٌ يَحْيَى بْنُ
زِيَادٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ
الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ

6822 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْدٍ بْنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِءُ، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلَمٍ الْهَجِيمِيُّ، ثنا عَوْنُ بْنُ
عُمَارَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ مِثْلَ
عِلْمٍ يُنْشَرُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ
أَبُو الْأَشْعَثِ
عَنْ سَمُرَةَ

6823 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ

الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَفَّانُ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُدَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: دو آدمیوں کا کھانا چار کے لیے اور چار کا آٹھ
کے لیے کافی ہوتا ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: علم پھیلانے سے زیادہ لوگوں پر
صدقہ کرنے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔

عبد الرحمن ابوالاشعث، حضرت سرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے خواب دیکھا
گویا کہ آسمان سے ایک ڈول اُترا، حضرت ابوبکر تشریف

6821 - قال في المعجم جلد 1 صفحہ 166 وفيه عون بن عماره وهو ضعيف . قلت وأبو بكر الهذلي ضعيف جدًا .

6822 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 21 قال في المعجم جلد 7 صفحہ 180 بعد أن نسبته إلى أحمد فقط ورجاله ثقات .

لائے آپ نے اس کے ڈنڈوں سے پکڑا اور پیا لیکن آپ کا پینا تھوڑا تھا پھر حضرت عمر آئے اور آپ نے اس کو اس کے ڈنڈوں سے پکڑا آپ نے سیر ہو کر پیا پھر حضرت عثمان آئے اور انہوں نے اسے اس کے ڈنڈوں سے پکڑا آپ نے بھی سیر ہو کر پیا پھر حضرت علی تشریف لائے اور آپ نے اس کو ڈنڈوں سے پکڑا تو آپ سے دور ہو گیا اور آپ نے چھڑک دیا۔

حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الطَّوِيلُ، أَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلَوًا دَلَيْتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بَعْرَاقِيهَا، فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بَعْرَاقِيهَا حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بَعْرَاقِيهَا، فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بَعْرَاقِيهَا، فَاشْتَطَّتْ مِنْهُ، وَانْتَضَحَ

هَيَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ
عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدَبٍ

6824 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنُ مُسَاوِرٍ، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُثَلَّةِ، وَيَحُكُّ عَلَى الصَّدَقَةِ

ہیاج بن عمران حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول کریم ﷺ کو مشلہ سے منع فرماتے ہوئے اور صدقہ پر ابھارتے ہوئے سنا۔

يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الشَّخِيرِ، أَبُو الْعَلَاءِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

6825 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَنَى، ثنا

يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ

هَارُونَ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَتَى بِقِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَوَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيِ

الْقَوْمِ، فَتَعَاقَبُوهَا إِلَى الظُّهْرِ مِنْ غُدُوءٍ يَقُومُ

قَوْمٌ، وَيَجْلِسُ آخَرُونَ فَقَالَ رَجُلٌ لِسَمُرَةَ:

أَكَانَتْ تُمَدُّ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ

تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَهْنَا، وَأَشَارَ

بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ

أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ

عَنْ سَمُرَةَ

بْنِ جُنْدُبٍ

6826 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ،

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ

يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَخِيرِ ابِو الْعَلَاءِ

حضرت سمرہ بن جندب سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ کے پاس ثرید کا پیالا لایا گیا، آپ نے لوگوں

کے ہاتھوں کے درمیان دست مبارک رکھا، لوگ صبح سے

لے کر ظہر تک لگا تار کھاتے رہے، کچھ لوگ کھا کر اٹھتے تو

دوسرے آ جاتے، ایک آدمی نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ

سے کہا: کیا وہ لمبا تھا؟ حضرت سمرہ نے کہا: تمہیں کیا ش

تعجب میں ڈالتی ہے؟ وہ یہاں تک لمبا تھا، آپ نے اپنے

ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

ابوایوب عتکی، حضرت سمرہ بن

جندب رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے اس کی مثال بیان فرمائی جو جمعہ کے لیے

جلدی آتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا اونٹ کی قربانی والے کو ملتا ہے اور اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے اس کے بعد بکری کی قربانی والے کی مثل ثواب ملتا ہے اس کے بعد آنے والے کو پرندہ صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے آپ نے چڑیا تک کی مثال بیان کی۔

ابونضرہ منذر بن مالک حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اہل نارسہ وہ بھی ہوں گے جن کے ٹخنوں تک اور بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کی کمر تک اور بعض کے گلے تک آگ آرہی ہوگی۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: دو زخیوں میں سے بعض آگ ٹخنوں سے، بعض کو گھٹنوں سے، بعض کو کمر سے اور بعض کو گلے سے پکڑے گی۔

قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ مَثَلَ الْمُهِجِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَالنَّاجِرِ بَدَنَةً، وَكَذَابِجِ الْبَقَرَةِ، وَكَذَابِجِ الشَّاةِ، وَكَذَابِجِ الطَّيْرِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْعُصْفُورَةِ

أَبُو نَضْرَةَ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ

6827 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَزَةَ الدِّمَشْقِيِّ، ثنا أَبُو الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى كَعْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْرَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرَاقِيهِ

6828 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَنَبْرِ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التُّرَيْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ابونضرہ منذر بن مالک عن سمرہ

مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ
تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى
تَرْفُوتِهِ

الْأَسْقَعُ بْنُ الْأَسْلَعِ عَنْ سَمُرَةَ

6829 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
السَّوْطِيُّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا وَهَبُ بْنُ
خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمُ
أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي
هِنْدٍ، عَنْ أَبِي قَرْعَةَ، عَنِ الْأَسْقَعِ بْنِ الْأَسْلَعِ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْبَازَارِ
فِي النَّارِ

أَبُو الدَّهْمَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

6830 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ، ثنا
إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا
حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اسقع بن اسلع، حضرت سمرہ رضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو کتھوں سے نیچے تہبند کا کپڑا لٹک
رہا ہو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔

ابوالدھماء، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب رزق حلال ملے پھر تم میں
سے کوئی بھی اپنی بھوک دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو
تکلیف نہ دے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ مَا يَسْدُ بِهِ
الْجُوعَ إِذَا أَصَابَ حَلَالًا

مہلب بن ابی صفرة حضرت سمرہ بن
جندب رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے وقت نماز
نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے دو سیٹلوں کے درمیان
طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي
صُفْرَةَ عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدَبٍ

6831 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

السَّوْطِيُّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ
خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو النُّعْمَانِ،
ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،
حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ،
عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ
بْنَ أَبِي صُفْرَةَ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ
جُنْدَبٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا تَصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلَا حِينَ
تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
وَتَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ

6832 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا
شُعْبَةُ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے وقت نماز
نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے دو سیٹلوں کے درمیان
طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

جُنْدُب، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ

أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

ابو قلابہ الجرمی کے چچا حضرت
ابو مہلب، حضرت سمرہ بن جندب
سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سفیدی تم پر لازم ہے تاکہ تمہارے زندہ لوگ اس کو اپنا لباس بنائیں اور تم ان میں اپنے مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہے۔

6833 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ، لِيَلْبَسَهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم پر سفیدی لازم ہے تمہارے زندہ لوگ اس کا لباس پہنیں اور اس میں تم اپنے مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہے۔

6834 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ، لِيَلْبَسَهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم پر یہ سفید کپڑے لازم ہیں پس چاہیے کہ تمہارے زندہ اس کو پہنیں اور ان میں اپنے فوت شدگان کو کفن دو۔ اور حضرت ابن علیہ نے ابو مہلب کا ذکر نہیں کیا۔

ابو مجلز لاحق بن حمید، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کو پڑھ لے جب دوسرے دن وقت آنے کی وجہ سے اسے یاد آئے۔

قدامہ بن وبرہ عجمی، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

6835 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسُهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَلِيَّةَ أَبَا الْمُهَلَّبِ

أَبُو مَجْلَزٍ لَأَحِقُّ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ

6836 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ

قَدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيُّ عَنْ

6835 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 322 ورجاله رجال الصحيح . قلت: أبو مجلز لاحق بن حميد قال ابن المديني لم يلق سمره ثم انه مخالف للأحاديث الصحيحة .

6836 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 41، 8 و أبو داؤد رقم الحديث: 1040، 1041 والنسائي جلد 3 صفحہ 89 وفي اسنادہ قدامه بن وبره وهو مجهول وفي اسناد أبي داؤد الثاني جهالة وانقطاع ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1128 بسند آخر قال المنذرى: منقطع .

سَمُرَة

کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے بغیر عذر کے جمعہ چھوڑا، وہ ایک دینار صدقہ دے جو ایک دینار نہ پائے وہ آدھا دینار صدقہ کرے۔

6837 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ الْمُسْدِرِ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالُوا: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْصِفْ دِينَارٍ.

سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ

الْقُشَيْرِيُّ عَنْ

سَمُرَة

سوادہ بن حنظلہ قشیری، حضرت

سمرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہیں بلال کی آذان دھوکہ میں نہ ڈالے نہ وہ سفیدی جو بحری کے وقت بلندی پر دیکھی جاتی ہے۔

6838 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، قَالَا: ثنا حجاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ، إِمَامُ مَسْجِدِ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا يَغْرَتُكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ يُرَى
بِأَعْلَى السَّحَرِ

6839 - حَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، ثنا

عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَوَادِ بْنِ
حَنْظَلَةَ الْقَشِيرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ
جُنْدَبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْرَتُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا
السَّوَادُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ هَكَذَا وَقَالَ بِيَدِهِ عَرْضًا

6840 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْبِيُّ، ثنا

حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ ح
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطَرَانِيُّ،
ثنا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الزَّيَّادِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالُوا: ثنا أَبُو
هَلَالٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يَمْنَعُكُمْ مِنَ السُّحُورِ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الصُّبْحُ
الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنَّ الصُّبْحَ الْمُسْتَطِيلَ فِي
الْأُفُقِ وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجِ بْنِ نَصِيرٍ

6841 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثنا عَارِمُ أَبُو الشَّعْمَانِ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تمہیں بلال کی اذان اور یہ سیاہی
دھوکہ میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس طرح سفیدی نہ ہو
جائے آپ نے اپنے ہاتھ سے چوڑائی کی طرف اشارہ
کیا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تمہیں بلال کی اذان اور صبح کا پھیلنا
نہ کہ وہ صبح جو افق پر پھیلتی ہے وہ سحری کھانے سے نہ
روکے۔ یہ الفاظ حدیث حجاج بن نصیر کے ہیں۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تمہیں بلال کی اذان دھوکہ میں نہ

6841 - رواہ أحمد جلد 5 صفحہ 8-9، والبخاری رقم الحديث: 7047, 6096, 4674, 3354, 1143 مختصر ومطول -

والنسائی فی الكبرى واستدرکہ الحاکم علی الشیخین جلد 4 صفحہ 397 فأخطأ. ورواه ابن أبي شیب

ڈالے نہ وہ صبح کی سفیدی اس طرح (اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا) یہاں تک کہ وہ آسمان کے کناروں میں پھیل جائے اور آپ نے چوڑائی میں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغُرَّتْكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الصُّبْحِ هَكَذَا - سَوَّرَ يَدَيْهِ - حَتَّى يَطِيرَ فِي الْأَفْقِ، وَعَرَّضَ بِيَدِهِ

ابورجاء عطار دی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

6842 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

الْمُرْدَبُ، ثنا هُوْدَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، ثنا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ قَالَ: فَتَقْصُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْصُ، قَالَ: فَقَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ اثْنَانِ، أَوْ آتِيَانِ فَاِتَعَنَانِي، وَقَالَا لِي: انْطَلِقْ، فَاِنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، فَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَنْلَغُ رَأْسُهُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اس بات میں ہوتے تھے جو آپ ﷺ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے: کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ راوی کا بیان ہے: پس آپ ﷺ کے سامنے ہم بیان کرتے جو اللہ چاہتا کہ ہم بیان کریں۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک دن آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک شان یہ ہے کہ آج رات میرے پاس دو آدمی آئے یا دو آنے والے پس انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا: چلو! پس میں ان کے ساتھ چلا، ہم ایک پہلو کے بل لیٹے ہوئے آدمی کے پاس آئے۔ پس ایک دوسرا آدمی اس پر چٹان کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ وہ اس کے سر کے لیے چٹان کو نیچے

فَيَذْهَبُ الْحَجَرُ فَيَذْهَبُ هَهُنَا، فَيَبْعُهُ فَيَأْخُذُهُ
'فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ' حَتَّى يَبْصَحَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ،
ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ فِعْلِ الْمَرْءِ الْأُولَى،
قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَا لِي:
انْطَلِقْ، فَاَنْطَلَقْنَا، فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ
لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا
هُوَ يَأْتِي إِحْدَى شِقَى وَجْهِهِ، فَيَشْرِشُ شَذْقَهُ
إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ،
فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْهُ حَتَّى يَبْصَحَ
ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ، فَيَفْعَلُ
بِهِ كَمَا فَعَلَ الْمَرْءُ الْأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا:
سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ،
فَاَنْطَلَقْنَا، فَاتَيْنَا عَلَى بِنَاءٍ مِثْلِ التَّنُورِ، قَالَ:
فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ: فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَأَصْوَاتًا -
قَالَ: فَطَلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
عُرَاةٌ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ،
فَإِذَا أَنَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا قُلْتُ لَهُمَا:
سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ -
قَالَ: فَاَنْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ
قَالَ: - أَحْمَرُ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ
يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ
عِنْدَهُ حِجَارَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا
يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ
حِجَارَةً فَيَفْعُرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِيهِ حَجَرًا، فَيَذْهَبُ

ابو جلد الطبرانی عن سميرة بن جندب

کرتا ہے۔ پس وہ اس کا سر پکڑ دیتا ہے۔ پس پتھر لڑھک
جاتا ہے۔ پس وہ اس کو پکڑ لیتا ہے پس وہ اس کی طرف
واپس نہیں آتا ہے یہاں تک کہ اس کا سر درست ہو جاتا
ہے جس طرح پہلے ہوتا ہے پھر وہ لوٹتا ہے تو اسی طرح کرتا
ہے جس طرح اس نے پہلے کیا ہوتا ہے (یہ عمل مسلسل
جاری ہے)۔ میں نے ان دو آدمیوں سے کہا: اللہ پاک
ہے! یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا: چلو! پس ہم چلے پس
ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو گدی کے بل چٹ لیٹا
ہوا ہے۔ جبکہ ایک دوسرا آدمی لوہے کی موٹی سلاخ لے کر
کھڑا ہے اور اچانک وہ آتا ہے اس کے چہرے کے
دونوں حصوں میں سے ایک کے پاس۔ پس وہ اس کی باچھ
سے اس کی گدی تک درانتی کی طرح دندانے بنا دیتا ہے پھر
وہ دوسری طرف پھر جاتا ہے۔ پس اس کے ساتھ بھی وہی
کام کرتا ہے پس وہ اس کام سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہوتا
ہے یہاں تک کہ اس کی پہلی طرف درست ہو جاتی ہے
جس طرح پہلے تھی پھر وہ اس کی طرف لوٹتا ہے پس وہ اس
کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔
آپ ﷺ فرماتے ہیں: میں نے ان سے کہا: یہ دو کیا
ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! پس ہم چلے تو ایک تنور
جیسی دیوار پر آئے۔ راوی کا بیان ہے: میرا گمان ہے کہ
آپ نے فرمایا: پس میں نے اوٹ پٹانگ باتیں اور
آوازیں سماعت کیں۔ فرماتے ہیں: ہم نے اس میں
جھانک کر دیکھا تو ہماری نظر پڑی کہ کچھ ننگے مرد اور عورتیں
ہیں اور اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ آتا ہے۔

فَيَسَّحُ مَا يَسَّحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، كُلَّمَا رَجَعَ فَعَرَّ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ، فَاَنْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهٍ الْمَرَاةَ، كَأَنَّهُ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ رَجُلًا مَرَاةً، وَإِذَا نَارٌ يَحْشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَقَالَ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ، فَاَنْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا رَوْضَةً مُعْشَبَةً فِيهَا مِنْ كُلِّ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِنَا الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَنْ أَرَى رَأْسَهُ طَوَّلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُ، وَأَحْسَنُهُمْ فَقَالَ قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ وَمَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ، فَاَنْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرِ دَوْحَةً قَطُ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَلَا أَحْسَنَ فَقَالَ قَالَا لِي: ارْزُقْ فِيهَا، فَارْتَقَيْنَا، فَاَنْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَنِيَّةٍ بَلْبِنِ ذَهَبٍ وَلَبَنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَاَهَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاَهَا، فَتَلَقَانَا فِيهَا رَجُلًا شَطْرَ مَنْ خَلْفَهُمْ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ، وَشَطْرَ كَأَقْبَحَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ رَجُلًا فَقَالَ قَالَا: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ بِالْبَيَاضِ فَقَالَ: قَدْ هَبُوا فَرَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُمْ الشُّوءُ، وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ - قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَآهُوَ ذَاكَ

جب انہیں آگ کا شعلہ پہنچتا ہے تو وہ شور کرتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا: سبحان اللہ! یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! پس ہم چلے تو ایک نہر پر آئے۔ (راوی کہتا ہے:) میرا گمان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سرخ خون کی مانند۔ اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور اس نہر کے کنارے ایک آدمی تھا جس نے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے تیرنے والا آدمی تیرتا جتنا وہ تیرتا پھر وہ اس کے پاس آتا جس نے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے۔ پس وہ اس کے سامنے اپنا منہ کھولتا اور وہ اس میں ایک پتھر ڈال دیتا تھا۔ پس وہ چلا جاتا وہ تیرتا رہتا جتنا وہ تیرتا پھر ہولوٹ آتا جب بھی وہ لوٹتا تو وہ اپنا منہ کھولتا اور دوسرا آدمی اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! پس ہم چل کر ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو انتہائی بھیاںک منظر والا تھا جتنا نا پسندیدہ آپ نے کوئی نہ دیکھا ہوگا ایک آگ ہے جسے وہ بھڑکاتا ہے اور اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے دونوں سے کہا: یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا: چلو! پس ہم چلے۔ پس ہم ایک گھاس والے باغ پر آئے اس میں ہر قسم کی گھاس تھی اس باغ کے درمیان ایک لمبا ترنگا آدمی تھا قریب تھا کہ میں اس کے سر کو لمبائی میں آسمان میں جاتا ہوا دیکھوں اس کے ارد گرد بہت سارے خوبصورت بچے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے کہا: سبحان اللہ! یہ کیا ہے؟ اور یہ بچے کیا ہیں؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا: چلو! پس ہم ایک بہت بڑے پھیلے ہوئے گنجان

مَنْزِلُكَ، فَسَمَا بَصْرَى مُضْعِدًا - قَالَ - فَإِذَا
 قَصُرَ مِثْلُ الرِّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ - قَالَ: قَالَا: هُوَ
 ذَاكَ مَنْزِلُكَ، فَقُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا،
 خَلَيْتَانِي، ذَرَانِي أَذْخُلُهُ، قَالَا لِي: أَمَّا الْآنَ، فَلَا،
 وَأَنْتَ دَاخِلُهُ - قَالَ - قُلْتُ لَهُمَا: إِنِّي قَدْ
 رَأَيْتُ مِنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟
 قَالَ - قَالَا لِي: أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ
 الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَتْلُو رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ
 فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، وَيَسَامُ عَنِ الصَّلَاةِ
 الْمَكْنُونَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ
 يُشْرِشِرُ شِدْقَهُ وَعَيْنُهُ وَمِنْخَرَاهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ
 الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ
 الْآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي
 مِثْلِ بِنَاءِ التَّوْرِ، فَإِنَّهُمْ الزَّانَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا
 الرَّجُلُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ، وَيُلْقِمُ
 الْحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ أَكَلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي
 عِنْدَهُ الْكَرْبَةُ الْمَرَاةُ فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنْ جَهَنَّمَ،
 وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي فِي الرُّوضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ
 حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ عَلَى الْفِطْرَةِ - قَالَ: وَقَالَ
 بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ
 الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا
 الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرًا
 مِنْهُمْ قَبِيحًا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا

ابو داود الطيالسي عن سمرة بن جندب

درخت تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت
 درخت نہ دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں: ان دونوں نے مجھے کہا:
 اس میں چڑھیں! پس ہم ایک شہر تک پہنچے جو سونے اور
 چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا! پس ہم شہر کے دروازے
 کے پاس پہنچے! پس ہم نے اس کے کھلنے کی خواہش کی تو
 ہمارے لیے اسے کھولا گیا۔ پس ہم اس میں داخل ہوئے تو
 ہمیں اس میں کچھ لوگ ملے جن کی طرف تو اتنی خوبصورت
 تھی جیسی تُو نے دیکھی نہ ہو اور ایک طرف اتنی بدصورت کہ
 تُو نے ایسا آدمی نہ دیکھا ہو۔ آپ فرماتے ہیں: تو ان
 دونوں نے کہا: جاؤ! اس نہر میں داخل ہو جاؤ جبکہ وہاں
 ایک ایسی نہر تھی جس میں بہت زیادہ سفید پانی چلتا تھا۔
 فرماتے ہیں: وہ جا کر اس میں داخل ہو گئے پھر لوٹ کر
 ہماری طرف آئے اس حال میں کہ وہ تکلیف اُن سے دور
 ہو چکی تھی! ان کی شکل خوبصورت ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں:
 ان دونوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور یہ وہ جگہ
 ہے جو آپ کی منزل ہے۔ پس میں نے اپنی نظروں کو اوپر
 اٹھایا۔ فرماتے ہیں: مجھے سفید بادل کی مانند ایک محل نظر
 آیا۔ فرماتے ہیں: انہوں نے مجھے بتایا: یہ آپ کی منزل
 ہے۔ میں نے ان سے کہا: اللہ آپ کو برکت دے! مجھے
 اجازت دو! مجھے چھوڑو! میں تو اس میں جاتا ہوں۔ انہوں
 نے مجھ سے کہا: لیکن ابھی آپ داخل نہ ہوں گے۔ فرماتے
 ہیں: میں نے ان سے کہا: بے شک آج رات میں نے
 تعجب خیز چیزیں دیکھی ہیں۔ پس یہ کیا ہے جو میں نے
 دیکھا ہے (لوگوں کی خاطر حکایت بنانے کیلئے پوچھا ورنہ

وَأَخْرَجْنَا سَيِّئًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ

آپ ﷺ کو علم تھا) انہوں نے مجھ سے کہا: (اب) ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ وہ پہلا آدمی جس پر آئے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے والا تھا لیکن فرض نماز کے وقت سو جاتا تھا بہر حال وہ آدمی جس پر آپ آئے اور اس کی باجھوں آنکھوں اور ناک کے دندانے بنائے جا رہے تھے تو وہ آدمی گھر سے نکلتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا جو آسمان کے کناروں میں پھیل جاتا تو وہ نگے مرد اور عورتیں جو تنور جیسی چادپواری میں تھے وہ زانی تھے لیکن وہ آدمی جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر نکل رہا تھا وہ سود کھانے والا تھا۔ بہر حال وہ آدمی جس کے پاس مکروہ صورت عورت تھی تو وہ خازن جہنم مالک تھا وہ آدمی جو باغ میں تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ راوی کا بیان ہے: اور بعض مسلمانوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا وہ مشرکین کے بچے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! وہ مشرکین کے بچے تھے اور وہ گروہ جن کی ایک طرف خوبصورت اور دوسری بدصورت تھی وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بعض اعمال اچھے کیے اور بعض اعمال بُرے کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی ان کو معاف کر دیا۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب بھی صبح کرتے تو صحابہ کرام سے فرماتے: کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ راوی کا بیان ہے: ایک دن رسول کریم ﷺ نے صبح

6843 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

الْمَكِّيُّ، بِمَصْرَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَطَاءٍ
الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ
الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ

فرمائی تو فرمایا: میں نے (خواب) دیکھا ہے گویا دو آدمی میرے پاس آئے کہا: چلو! پس میں ان کے ساتھ چلا۔ حتیٰ کہ ہم ایک سفید سر اور سفید ریش آدمی کے پاس پہنچے جو غمگین اور پریشان تھا اس کے پاس آگ تھی اور وہ اُسے بھڑکا رہا تھا اور اس سے اصلاح کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا: اللہ آپ کو برکت دے! یہ بوڑھا آدمی کون ہے اور یہ آگ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! میں ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ وہ مجھے ایک آدمی کے پاس لائے جس کے سر پر دوسرا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی وہ اس کے منہ سے اس کی گدی تک دندانے بنا رہا تھا درانتی کی طرح ناک سے گدی تک اور اس کی آنکھ سے گدی تک پھر وہ اس دوسری طرف سے ایسا کرتا ہے پس وہ دوسری طرف سے ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا کہ اس کا پہلا حصہ بالکل پہلے کی طرح درست ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا: اللہ آپ دونوں کو برکت دے! یہ دو آدمی کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: آگے چلو آگے چلو! پس میں ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ وہ مجھے ایک گدی کے بل لیٹے ہوئے آدمی کے پاس لائے اس کے سر پر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اس کے ساتھ وہ اس کا سر کچل دیتا ہے پس وہ پتھر لڑھک جاتا ہے ایک جگہ آہستہ آہستہ پس وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ لاتا ہے۔ پس وہ اس آدمی کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اتنے تک اس کا سر بھی درست ہو جاتا ہے پس وہ پہلے جیسا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا: اللہ آپ کو برکت دے! یہ دونوں کیا ہیں؟ ان دونوں

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا أَصْبَحَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ قَالَ: وَإِنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ النَّبِيَّ أَنِيَابِي، فَقَالَا: انْطَلِقِ انْطَلِقِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيْتُ بِي عَلَى شَيْخٍ أَبِيصَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، كَنِيْبٍ حَزِينٍ عِنْدَهُ نَارٌ وَهُوَ يَحْتَشِهَا وَيُضْلِعُ مِنْهَا، فَقُلْتُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ وَمَا هَذِهِ النَّارُ؟ فَقَالَا لِي: انْطَلِقِي انْطَلِقِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيْتُ بِي إِلَى رَجُلٍ، وَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَإِذَا بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَهُوَ يُشْرِشُرُ قَمَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْسُخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِهَذِهِ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، فَمَا يَفْرُغُ مِنْهَا حَتَّى تَعُودَ بِلَكَ النَّاحِيَةِ كَأَصَحِّ مَا كَانَتْ، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مَا هَذَا الرَّجُلَانِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقِي انْطَلِقِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى أَتَيْتُ بِي إِلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ، وَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ صَخْرَةٌ، وَهُوَ يَنْلَعُ بِهَا رَأْسَهُ، فَيَذْهَبُ الْحَجَرُ مَكَانًا أَتَاكَ أَتَاكَ، فَيَذْهَبُ فَيَأْخُذُهُ، فَمَا يَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَرْجِعَ رَأْسُهُ كَأَصَحِّ مَا كَانَ، فَيَفْعَلُ نَحْوَ مَا فَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقِي انْطَلِقِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيْتُ بِي إِلَى شَيْءٍ الْبَرْكَةِ، وَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ

يَسْبَحُ، وَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى شَفَةِ الْبُرْكِ بِيَدِهِ صَخْرَةً، فَيَجِيءُ السَّابِحُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ ذَلِكَ الْحَجَرَ، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا بِي إِلَى شِبْهِ النَّوْرِ، وَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَيَأْتِيهِمْ لَهَبٌ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَيَضَوْضُوا، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا بِي إِلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ كَأَنَّهَا الْفِضَّةُ، وَإِذَا فِيهَا كُلُّ نَوْرٍ رُبْعٍ، وَإِذَا رَجُلٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ كَأَجْمَلٍ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا عِنْدَهُ وَلَدَانِ فَهُوَ مُحَوِّشُهُمْ وَيُصْلِحُ مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ وَمَنْ هَؤُلَاءِ الْوِلَدَانِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا بِي إِلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ كَأَنَّهَا الْفِضَّةُ، وَإِذَا فِيهَا نَهْرٌ يَجْرِي، وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَصِفُ أَجْسَادَهُمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى، وَيَصِفُ أَجْسَادَهُمْ كَأَفْحَ مَا أَنْتَ رَأَى، فَيَدْخُلُونَ فِي ذَلِكَ النَّهْرِ كَأَنَّمَا أُمِرُوا بِهِ، فَيَخْرُجُونَ مِنْهُ كَأَنَّمَا دُهِنُوا بِالذَّهَانِ، فَقُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا: انْطَلِقِ انْطَلِقِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ جَنَّةٌ عَذْنٌ، وَذَلِكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا

نے کہا: چلو! پس میں ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ وہ مجھے لے کر ایک تالاب جیسی چیز کے پاس آئے۔ اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اس تالاب کے ایک کنارے پر دوسرا آدمی موجود تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ تیرنے والا اس کے پاس آ کر اپنا منہ کھولتا اور وہ آدمی وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا۔ میں نے ان سے کہا: اللہ آپ کو برکت دے! یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! چلو! حتیٰ کہ وہ مجھے لے کر تنوری کی مانند ایک چیز کے پاس آئے اس میں مرد اور عورتیں تھیں پس نیچے سے ان کے پاس آگ کا شعلہ آتا تو وہ شور مچا دیتے۔ میں نے کہا: اللہ آپ کو برکت دے! یہ کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! چلو! پس میں ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ وہ مجھے ایک سفید زمین تک لائے گویا وہ چاندی ہے اس میں موسم بہار کا ہر نور ہے اس میں سفید سردالا اور سفید ریش آدمی ہے ایسا خوبصورت کہ آپ نے لوگوں میں سے نہ دیکھا ہوگا اس کے پاس نیچے ہیں۔ پس میں نے ان سے کہا: اللہ تم کو برکت دے! یہ بزرگ کون ہیں اور یہ نیچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! چلو! پس میں ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ وہ مجھے لے کر ایک اور سفید زمین تک آئے گویا وہ چاندی ہے اس میں ایک نہر جاری ہے اور ایک گردہ آتا ہے جن کے آدھے جسم انتہائی خوبصورت ہیں اور آدھے بہت بدصورت پس وہ اس نہر میں داخل ہوتے ہیں گویا ان کو حکم دیا گیا ہے پس وہ اس سے نکلتے ہیں تو گویا ان کو خوبصورت بنانے والا تیل لگا دیا گیا ہے۔ پس میں نے کہا: اللہ تم کو

دَعَانِي فَأَدْخُلْنِي، قَالَ: لَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ،
قُلْتُ: يَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِنْدُ
السِّلِيلَةِ عَجَبًا، قَالَ: نُخَبِّرُكَ: أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ
أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةَ فَذَاكَ مَالِكُ خَازِنِ
جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ يُشْرِشِرُ فَمُهُ إِلَى قَفَاهُ
وَمَنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ فَذَاكَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ
يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ، فَيَشِيعُ فِي الْأَفَاقِ، وَأَمَّا
الَّذِي رَأَيْتَ يُشْلَعُ رَأْسُهُ، فَيَتْرَكَ كَأَنَّهُ خُبْرَةٌ،
فَذَاكَ الرَّجُلُ النَّمَامُ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي
الْبُرْكِ يُلْقِمُ حَجَرًا فَذَاكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَأْكُلُ
مَالَ الْيَتِيمِ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي شِبْهِ التَّنُورِ
فَإُولَئِكَ الزَّوَانِي وَالزُّنَاةُ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ
الْأَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةَ فَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ
اللَّهِ، وَالْوِلْدَانُ الَّذِينَ رَأَيْتَ فَذَاكَ وَلَدَانِ
الْمُسْلِمِينَ، وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،
وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَيْتَ يَصِفُ أَجْسَادَهُمْ كَأَنَّهُمْ مَا
أَنْتَ رَءٍ، وَنِصْفُ أَجْسَادِهِمْ كَأَنَّهُمْ مَا أَنْتَ
رَءٍ، فَإُولَئِكَ قَوْمٌ عَمِلُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ
سَيِّئًا، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ

تورجہ المطاری عن سیرۃ نبیہ

برکت دے! یہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں: چلو! پس میں
ان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ وہ مجھے لے کر سدرة المنتہی پہ آئے
وہ جنت عدن ہے یہ آپ کی منزل ہے میں کہتا ہوں: اللہ تم
کو برکت دے! مجھے چھوڑو! میں تو اس میں داخل ہوتا
ہوں۔ وہ دونوں کہتے ہیں: جی نہیں! آپ (اب) داخل
ہونے والے نہیں۔ میں نے کہا: اللہ آپ دونوں کو برکت
دے! میں نے رات سے عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ انہوں
نے کہا: ہم آپ کو بتاتے ہیں! بہر حال وہ آدمی جو سفید سر
والا اور سفید ریش آپ نے دیکھا تو وہ خازن جنت جناب
مالک تھے اور وہ آدمی جس کے منہ اور ناک سے گدی تک
درافتی کی طرح دنداں بنائے جا رہے تھے تو وہ ایسا آدمی
ہے جو گھر سے نکلتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ
دنیا میں عام ہو جاتا ہے اور وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا ہے
اور چھوڑ دیا جاتا ہے گویا کہ وہ روٹی ہے تو وہ چغل خور ہے
اور جو تالاب میں آدمی تھا اور پتھر نکل جاتا تھا تو وہ یتیم کا
مال کھانے والا ہے اور جو تنور کی مانند جگہ میں ہیں وہ زانی
مرد اور عورتیں ہیں اور وہ آدمی سفید سر والا اور سفید داڑھی والا
تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ بچے جو آپ نے
دیکھے وہ مسلمانوں کے بچے ہیں اور ہر بچہ فطرتاً ہی پیدا
ہوتا ہے اور جن لوگوں کے آدھے جسم خوبصورت اور آدھے
بدصورت ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بعض اعمال اچھے
اور بعض اعمال بُرے ہیں! پس اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6844 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُسَيْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مَنْ رَأَى رُؤْيَا؟، فَيَعْبُرُهَا لَهُ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ رَأَى رُؤْيَا؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: وَلَكِنِّي أَنَا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، أَنَّنِي رَجُلَانِ فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَمَرَّ بِي عَلَى رَجُلٍ فِي يَدِهِ صَخْرَةٌ، يَضْرِبُ بِهَا رَأْسَ رَجُلٍ فَيَنْتَرِدِمَاغُهُ، فَتَعُودُ الصَّخْرَةُ فِي يَدِهِ، وَيَعُودُ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ. قَالَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: انْطَلِقْ، فَمَرَّ بِي عَلَى رَجُلٍ فِي يَدِهِ كَلَابٌ مِنْ حَدِيدٍ يَشْقِي بِهِ شِدْقَ رَجُلٍ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَقْصَاهُ أَخَذَ فِي الْآخِرِ عَادَ هَذَا كَمَا كَانَ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَمَرَّ بِي عَلَى رَجُلٍ فِي نَهْرٍ مِنْ دَمٍ وَقَدْ أَلْجَمَهُ، وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ يُوقِدُ نَارًا فِيهَا حِجَارَةٌ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَ حِجْرًا مِنْهَا فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ فَرَجَعَ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَمَرَّ بِي عَلَى بَيْتٍ أَسْفَلُهُ أَضْيَقُ مِنْ أَغْلَاهُ، فِيهِ نَاسٌ عَرَاةٌ، يُوقِدُ النَّارَ تَحْتَهُمْ، كُلَّمَا أَوْقَدَتْ صَجُّوا فَبَادَا أُطْفِئَتْ سَكَنُوا، قُلْتُ: مَا هَذَا؟

رسول کریم ﷺ جب صبح فرمایا کرتے تھے تو ارشاد فرماتے: کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ (اگر کوئی خواب بیان کرتا) تو آپ اس کیلئے اس کی تعبیر بیان فرماتے یہاں تک کہ ایک دن آپ نے صبح کی تو فرمایا: تم میں سے کوئی ہے جس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ سارے خاموش رہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا: چلو! پس وہ مجھے ایک ایسے آدمی پر لے چلے جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس کے ساتھ وہ ایک آدمی کے سر کو مار رہا تھا اس کا بھیجا نکل کر بکھر جاتا! پس وہ پتھر اس کے ہاتھ میں لوٹ آتا اور اس کا سر بھی اپنی پہلی حالت میں لوٹ آتا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں: میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا: چلو! پس وہ مجھے لے کر ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی جس کے ساتھ وہ ایک آدمی کی باچھیں پھاڑ دیتا حتیٰ کہ جب وہ اس سے دور چلا جاتا تو وہ دوسری اٹھا لیتا اس آدمی کی باچھیں اپنی پہلی حالت پر آ جاتی۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ پس ان دونوں نے کہا: آپ چلیں! پس وہ مجھے لے کر ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو خون کی نہر میں تھا اور اسے لگام دی گئی تھی نہر کے کنارے پر دوسرا آدمی تھا جو آگ جلا رہا تھا جس میں پتھر تھے جب بھی وہ نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو (کنارے والا) وہ آدمی ان میں سے ایک پتھر پکڑ کر اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ پس وہ پیچھے لوٹ جاتا۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: آپ

قَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَمَرَّ ابْنِي عَلَى شَجَرَةٍ تَحْتَهَا رَجُلٌ يُوقِدُ نَارًا وَيُضْلِحُهَا، فَإِذَا تَفَرَّقَتْ جَمَعَهَا، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ لِي: انْطَلِقْ. حَتَّى أَتِيَ ابْنِي وَسَطَ شَجَرَةٍ، فَإِذَا مَنَازِلُ حَسَنٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقَا ابْنِي حَتَّى أَتَيْتُ ابْنِي أَعْلَى الشَّجَرَةِ، فَإِذَا مَنَازِلُ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا، وَإِذَا غُرَفٌ ثَلَاثَةٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: عَلَى رِسْلِكَ، أَمَّا الَّذِي فِي يَدِهِ صَخْرَةٌ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَسَامُونَ عَنِ الصَّلَاةِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا الَّذِي أُوتِيَ عِلْمًا فَهُوَ يُوقِظُ لَهُ - وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي يَدِهِ كُلابٌ يَشُقُّ بِهِ شِدْقَ رَجُلٍ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فَأُولَئِكَ أَكَلَةُ الرِّبَا، وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَيْتَ أَسْفَلَهُ أَضْيَقُ مِنْ أَعْلَاهُ، فِيهِ نَاسٌ غَرَاءَةٌ فَأُولَئِكَ زُنَاةُ الْأُمَّةِ، وَكَذَلِكَ يَكُونُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يُوقِدُ النَّارَ وَيُضْلِحُهَا فَمَالِكُ حَازِنُ النَّارِ، وَأَمَّا الْمَنَازِلُ الَّتِي رَأَيْتَ وَسَطَ الشَّجَرَةِ فَمَنَازِلُ الْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، وَهَذِهِ مَنَازِلُ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، وَهَذِهِ الْغُرُفَةُ لَكَ، وَأَنَا جَبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ

چلیں! پس وہ دونوں مجھے لے کر ایک ایسے مکان پر آئے جو اوپر کی نسبت نیچے سے زیادہ تنگ تھا اس میں ننگے لوگ تھے ان کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی جب آگ جلتی تو وہ شور مچاتے پس جب آگ بجھ جاتی تو وہ خاموش ہو جاتے۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا: آپ چلیں! پس وہ مجھے لے کر ایک ایسے درخت کے پاس آئے جس کے نیچے ایک آدمی آگ جلا رہا تھا اور اسے درست کر رہا تھا۔ پس جب وہ بکھر جاتی تو وہ اسے اکٹھا کر دیتا تھا میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا: آپ چلیں! حتیٰ کہ وہ مجھے لے کر درخت کے درمیان آئے پس وہاں خوبصورت منازل تھیں۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ چلیں! پس وہ دونوں مجھے لے کر اس درخت کی بلندی پر آئے وہ جو گھر تھے وہ پہلوں سے زیادہ خوبصورت تھے تین کمرے تھے۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اسی جگہ ٹھہرو! بہر حال وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ دوسرے آدمی کے سر کو مار رہا ہے تو یہ وہ ہے جو نماز سے سو جاتا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ وہ آدمی ہے جس کو علم عطا کیا گیا پس اس کے لیے اسے جگایا جاتا ہے۔ بہر حال وہ آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے اور اس کے ساتھ دوسرے آدمی کی باجھیں پھاڑ دیتا ہے تو ایسے لوگ چغلی میں کوشش کرنے والے ہیں۔ بہر حال وہ آدمی جو خون کی نہر میں آپ نے دیکھا ایسے لوگ سود کھانے والے ہیں ہیں۔ بہر حال وہ لوگ جن کے نیچے کی جگہ اوپر سے تنگ ہے اور

اس میں نکلے آدمی ہیں تو وہ زانی ہیں قیامت تک اسی طرح ہوں گے۔ بہر حال وہ آدمی جو درخت کے نیچے تھا آگ جلا رہا تھا اور اس کی اصلاح کر رہا تھا تو وہ جہنم کا خازن حضرت مالک تھا اور بہر حال وہ منازل درخت کے درمیان جو آپ نے ملاحظہ فرمائیں وہ عام مؤمنوں کی منازل تھیں اور نبیوں صدیقوں اور شہداء کی منازل ہیں اور یہ کمرہ آپ کے لیے مخصوص ہیں میں جبریل ہوں اور یہ حضرت میکائیل ہیں۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن رسول کریم ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو فرمایا: تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ (اگر دیکھا ہے) تو اسے چاہیے کہ بیان کرے پھر اس جیسی حدیث بیان کی۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر اس جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غِيْلَانَ الْعُمَانِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْغَطَارِدِيُّ، ثنا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَلْيَتَحَدَّثْ بِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو رَجَاءٍ الْغَطَارِدِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6845 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ

الْمِصْبِصِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَّارِ دِي، عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ
رُؤْيَا؟ فَإِنْ أَحَدٌ مَنَا رَأَى رُؤْيَا يَفْصُهَا عَلَيْهِ، قَالَ
فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَسَأَلْنَا يَوْمًا: هَلْ رَأَى أَحَدٌ
مِنْكُمُ رُؤْيَا؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَنَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَايَ، فَأَخَذَا بِيَدِي
' فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ أَوْ قُضَاءٍ،
فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ ' وَرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ
كَلْبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ هَذَا '
فَيَشْفُقُهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ
مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ بِهِ
مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ،
فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى
قَفَاهُ، وَرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى رَأْسِهِ بِصَخْرَةٍ ' أَوْ فِهْرٍ
يَشْدُخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَيَعْدُ هَذِهِ الْحَجَرُ، فَيَنْطَلِقُ
إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ
رَأْسَهُ، وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ،
فَهُوَ يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول کریم ﷺ ایک دن تشریف لائے جب آپ ﷺ
نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ فرمایا: آج
رات تم میں سے کسی ایک نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ پس
اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ کے
سامنے بیان کرتا جو اللہ چاہتا آپ ﷺ اس میں بیان
فرماتے۔ پس ایک دن آپ ﷺ نے ہم سے پوچھا: کیا
تم میں سے کسی ایک نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے
عرض کی: جی نہیں! نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے دو
آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے پس ان دونوں نے میرا
ہاتھ پکڑا۔ پس وہ مجھے لے کر ایک ہموار زمین یا کھلی فضا
میں گئے پس میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا جس کے
سر پر دوسرا آدمی لوہے کی سلاخ ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا وہ
اسے اس کی باچھ میں داخل کرتا اور اسے پھاڑ کے رکھ دیتا
حتیٰ کہ وہ اس کی گدی تک پہنچ جاتی پھر دوسری باچھ کے
ساتھ اسی کی مثل کرتا جبکہ اتنے میں وہ پہلی باچھ درست ہو
جاتی۔ پس وہ پہلی کی طرف لوٹ کر آتا تو اس کے ساتھ
وہی پہلا کام کرتا۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ (لوگوں کے لیے
حکایت بنانے کی خاطر آپ ﷺ نے سوال کیا) ورنہ
آپ ﷺ کو سب کچھ معلوم ہے۔ انہوں نے کہا: آپ
چلیں! پس ہم چل کر ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو
گدی کے بل چپٹ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے سر پر

6845 - رواہ أحمد جلد 5 صفحہ 14-15 'والبخاری رقم الحديث: 3235, 2791, 2085, 1386, 845 مطولاً ومختصراً'

والبغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 2053 .

انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتٍ قَدْ بُنِيَ
بِنَاءَ التَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، تَوْقُدُ
تَحْتَهُ نَارٌ، وَفِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَإِذَا أُرِقِدَ
تَحْتَهُ ارْتَفَعُوا، حَتَّى يَكَادُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُ،
وَإِذَا أُخِمِدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟
قَالَا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ
دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ، وَرَجُلٌ
بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ يَرْمِي الرَّجُلَ الَّذِي
فِي النَّهْرِ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ رَمَاهُ الرَّجُلُ
بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، قُلْتُ: مَا
هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى
رَوْضَةٍ حُمْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، فِي
أَصْلِهَا شَيْخٌ حَوْلَهُ صِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ، وَرَجُلٌ عِنْدَ
الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا وَيُحْشِئُهَا،
فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا
الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا، فَلَمْ أَرِ دَارًا قَطُّ
أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شَبُوحٌ، وَشَبَابٌ
وَصِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ، ثُمَّ صَعِدَا الشَّجَرَةَ
وَأَدْخَلَانِي دَارًا أُخْرَى، هِيَ أَحْسَنُ مِنَ
الْأُولَى، وَأَفْضَلُ مِنْهَا، فِيهَا شَبُوحٌ وَشَبَابٌ،
فَقُلْتُ لَهُمَا: إِنَّكُمَا قَدْ طَوَقْتُمَانِي مِنْذُ اللَّيْلَةِ،
وَشَفَقْتُمَا عَلَيَّ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ، قَالَا:
نَعَمْ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَأَيْتَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ
كَذَّابٌ كَانَ يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى

کھڑا ہے جس کے پاس ایک شخص پتھر یا لائم پتھر سے اس
کا سر کچل دیتا ہے پس وہ پتھر لڑھک جاتا ہے پس وہ آدمی
اسے پکڑنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے واپس لوٹنے
تک وہ درست ہو جاتا ہے اور اس کا سراپے ہی ہو جاتا ہے
جیسے پہلے تھا۔ پس وہ اس کی طرف لوٹ کر پھر مارتا ہے
پس وہ یہ کام کیے جا رہا ہے۔ پس میں نے کہا: یہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا: آپ چلیں! پس ہم چل کر ایک مکان تک
آئے جو تنور کی مانند بنا ہوا تھا اس کا اوپر والا حصہ تنگ اور
نیچے وسیع تھا اس کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی اس میں
کچھ مرد اور کچھ عورتیں تھیں جو ننگے تھے پس جب اس کے
نیچے آگ جلائی جاتی تو ان کی آواز بلند ہوتی حتیٰ کہ قریب
لگتا ہے کہ وہ اس سے نکل آئیں گے اور جب آگ بجھ
جاتی ہے تو وہ اس میں لوٹ آتے ہیں۔ پس میں نے کہا: یہ
کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: آپ چلیں! (بعد میں
بتائیں گے) پس ہم چل کر ایک ایسی نہر پر آئے جس میں
خون تھا اور ایک آدمی نہر کے درمیان تھا اور ایک دوسرا
آدمی تھا جس کے سامنے پتھر تھے پس وہ آدمی آگے بڑھ کر
اسے پتھر مارتا تھا جو نہر میں تھا پس جب بھی وہ نہر سے نکلنے
کا ارادہ کرتا تو وہ آدمی اس کے منہ میں پتھر پھینکتا پس
(اس طرح) وہ اس کو وہیں لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے ہوتا۔ میں
نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ چلیں! پس ہم چل
کر ایک سرخ باغ کے پاس آئے جس میں ایک بہت بڑا
درخت تھا اس کے مڈھ کے پاس ایک بزرگ ہیں جن کے
ارد گرد بچے اور عورتیں ہیں ایک اور آدمی درخت کے پاس

تھا جس کے سامنے آگ ہے وہ اسے جلاتا ہے اور اسے خوب بھڑکاتا ہے۔ پس میں نے ان دونوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ چلیں! پس ہم چل کر ایک درخت پر آئے پس انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا پس میں نے اس گھر جتنا خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا تھا اس میں بزرگ آدمی جو ان بچے اور عورتیں تھیں پھر وہ درخت پر چڑھے مجھے ایک اور گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے زیادہ خوبصورت تھا اور اس سے زیادہ فضیلت والا اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ پس میں نے ان سے کہا: تم دونوں نے رات سے پھر آیا اور مجھ پر مہربانی کی اب مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے! بہر حال پہلا آدمی جو آپ نے دیکھا تو وہ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی طرف سے سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ دنیا میں پھیل جاتا ہے پس آپ نے اس کے ساتھ جو ہوتا ہوا دیکھا ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا ہے تو یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن رات کے وقت سو گیا (نماز نہیں پڑھی) اور جو دن کو عمل کرتا تھا وہ بھی نہ کیا اور جو کام ہوتا ہوا آپ نے دیکھا ہے وہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور وہ جن کو آپ نے مکان میں دیکھا وہ اس امت کے زانی ہیں اور وہ جس کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا تو وہ سود خور تھے اور وہ بزرگ جنہیں آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ دیکھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ بچے جو آپ نے دیکھے وہ

تَبْلُغُ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ مَا رَأَيْتَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُشَدُّ رَأْسَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَتَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي الْبَيْتِ فَهُمْ زَنَاقَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي النَّهْرِ الدَّمُ، فَهُوَ أَكْلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ فَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَمَّا الصَّبِيَّانِ الَّذِينَ رَأَيْتَ فَأُولَٰئِكَ النَّاسُ، وَأَمَّا النَّارُ الَّتِي رَأَيْتَ، وَالرَّجُلُ الَّذِي يُوقِدُهَا، فَبَيْنَكَ النَّارُ، وَذَلِكَ خَازِنُ النَّارِ، وَأَمَّا الدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ، دَارُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ، وَأَنَا جَبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، قُلْتُ لَهُمَا: أَخْبِرَانِي، أَيُّنَ مَنْزِلِي؟ قَالَا: ارْقَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَرَقِي مِثْلَ السَّحَابَةِ، فَقَالَا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، فَقُلْتُ: دَعَايَ أَذْخُلُ مَنْزِلِي، فَقَالَا: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَكَ عَمَلٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ بَعْدُ، فَلَوْ قَدْ اسْتَكْمَلْتَ دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ

لوگوں کی اولاد ہیں اور جو آگ آپ نے دیکھی اور ایک آدمی جو اس کو جلا رہا ہے تو وہ دوزخ کی آگ ہے اور وہ آدمی خازنِ جہنم ہے۔ اور وہ گھر جس میں آپ داخل ہوئے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے اور یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے میں جبریل ہوں اور یہ حضرت میکائیل ہیں۔ میں نے ان سے کہا: مجھے بتاؤ! میری منزل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: آپ سر اوپر اٹھا کر دیکھیں! پس میں نے سر اٹھایا تو اپنے اوپر سفید بادل کی طرف ایک منزل پر میری نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا: وہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے کہا: مجھے چھوڑو تاکہ میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں! انہوں نے کہا: کیونکہ ابھی آپ کے لیے کچھ کام کرنا باقی ہے (آپ اگر اس میں داخل ہو گئے تو) وہ مکمل نہ ہوگا! پس اگر آپ نے مکمل کر لیا تو آپ اپنی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: افضل دواء جو لوگ لیتے ہیں وہ حجامہ ہے (یعنی پکھنا لگانا ہے)۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورت میزھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر سیدھی

6846 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمَعْلَى
الْبَيْهَقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ
بَذْرِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَفْضَلُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ الْحِجَامَةُ

6847 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ
الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا

کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اس کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارو۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ جنت والوں کے خادم ہوں گے۔

محمد بن سیرین، حضرت سمرہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابراہیم الصالح فرماتے ہیں کہ میں نے مطر الوراق سے پوچھا میں نے عرض کی: کیا آدمی ہر رکعت میں اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر سورت کے شروع میں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: مجھے حضرت قتادہ نے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے عمران بن حصین سے انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب سے وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: یہ دو سکتے ہیں آپ جب نماز شروع کرتے تو خود دل میں

جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْمُعْطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالْضِلْعِ، إِنْ أَقْتَمْتَهَا كَسَرَتْهَا، فِدَارِهَا تَعِشْ بِهَا

6848 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الضَّبِّيُّ، ثَنَا عَيْسَى بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

6849 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُقْبِلٍ

الْبَصْرِيُّ، ثَنَا رَيْحَانُ أَبُو عَسَانَ، ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَامٍ الْخَارِجِيُّ، ثَنَا عَوْفُ بْنُ مَعْمَرٍ الْعَوْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ، فَقُلْتُ: أَيَقْرَأُ الرَّجُلُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَيَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَفِي كُلِّ سُورَةٍ يَقْتَحِبُهَا؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي قَسَاةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ

ایسا کرتے تھے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھتے تھے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هُمَا السُّكُتَانِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ إِذَا افْتَسَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ

سُلَيْمَانُ بْنُ سَمُرَةَ

عَنْ أَبِيهِ

6850 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ،

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي

هَنْدٍ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا

فَلَهُ سَلْبُهُ

6851 - حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

حَمْرَةَ الزُّبَيْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا

الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

حَمْرَةَ الزُّبَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا

أَبُو مُضْعَبٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ ابْنِ

جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

طَارِقٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ

قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

6852 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا

دُحَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

سليمان بن سمره اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کا

سامان قتل کرنے والے کے لیے ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کا

سامان قتل کرنے والے کے لیے ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کا

سامان قتل کرنے والے کے لیے ہے۔

مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي
خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کا
سامان قتل کرنے والے کے لیے ہے جب وہ اس کو لے
لے۔

6853 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا
مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، ثَنَا خُبَيْبُ بْنُ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَنَا: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فَإِنَّ لَهُ سَلْبَهُ مِنَ الْفَقْرِ إِذَا مَا
لَقَفَهَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
حضور ﷺ کے ساتھ سفر کرتے جب بارش ہوتی تو ہم
حضور ﷺ کی طرف سے اعلان کرنے والے کے اعلان
کو سنتے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔

6854 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَمَّانِ، ح وَحَدَّثَنَا
عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا:
ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ
لِسْمَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ مَطِيرٍ، أَرَاهُ قَالَ: فِي
السَّفَرِ، نَادَى مُنَادِيَهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کا
سامان قتل کرنے والے کے لیے ہے۔

6855 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ
الْمِصْبِصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الطَّبَّاعُ، ثَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: قَالَ

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

6856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَمَا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُنَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَيَجْعَلَهَا وَتَرًا

6857 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا كَثُرَ أَوْ قَلَّ، وَيَجْعَلَهَا وَتَرًا

6858 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اما بعد! حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ ہم میں سے کوئی فرض
نماز کے بعد کم یا زیادہ رات کو نماز پڑھے اور اس کو
وتر بنائے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
اما بعد! حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ ہم میں سے کوئی فرض
نماز کے بعد کم یا زیادہ رات کو نماز پڑھے اور اس کو
وتر بنائے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو نماز جمعہ میں اونگھ آنے
لگے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَقْعَدِهِ

6859 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ

مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي

خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا

نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي جُمُعَةٍ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَقْعَدِهِ

فِي مَكَانٍ آخَرَ

6860 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا

مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ

جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ

سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَحْتُكُمْ

قَلِيلًا وَلَبَكَّيْتُمْ كَثِيرًا

6861 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو نماز جمعہ میں اونگھ آنے لگے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تم جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا سا اور زیادہ روؤ۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6860 - ورواہ البزار قال فی المجمع جلد 10 صفحہ 230 'وفی اسنادہ الطبرانی من لم أعرفهم واسناد البزار ضعیف . قلت :

کلہم مذکورون فی کتب الجرح والتعدیل ' مروان قال أبو حاتم: صدوق صالح الحدیث ' ومحمد بن ابراہیم

أوردہ ابن حبان فی الثقات وقال: لا یعتبر بما انفرد بہ من الاسناد ' وجعفر قال الحافظ: لیس بالقوی ' وخیب قال

الحافظ مجهول ' وسلیمان قال الحافظ مقبول .

6861 - قال فی المجمع جلد 10 صفحہ 244 ' ورواہ البزار وفی اسنادہ الطبرانی من لم أعرفهم وفی اسنادہ البزار یوسف

ہمیں فرماتے تھے: اگر تم میں سے کسی کے پاس نیچے سے
اوپر تک دو وادیاں مال کی ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ
تیسری بھری ہوئی وادی بھی ہو وہ کہے گا: اللہ کی قسم! اگر میں
طاقت رکھوں گا تو ضرور بھروں گا آدمی کا جی مال سے نہیں
بھرتا صرف مٹی سے بھرے گا۔

الْحَضَرَمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثَنَا
مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: إِنْ
أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ لَهُ وَادٍ مَلَأَ مَا بَيْنَ أَغْلَاهُ إِلَى
أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يَمْتَلِئَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، قَالَ: أَمَّا
وَاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْتُ لَأَمْلَأَنَّكَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا
تَمْتَلِئُ نَفْسُهُ مِنَ الْمَالِ حَتَّى تَمْتَلِئَ مِنَ
التُّرَابِ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ہمیں دن و رات کے کسی بھی وقت نماز پڑھنے
کا حکم دیتے، اور ہم طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز
پڑھنے سے منع کرتے، اور فرمایا: اس وقت شیطان ان کے
ساتھ غائب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے۔

6862 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا
دُحَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ
سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ
سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ
نُصَلِّيَ آيَةً سَاعَةٍ شِئْنَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، غَيْرَ
أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَتَجَنَّبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا،
وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَهَا، وَيَطْلُعُ مَعَهَا
حِينَ تَطْلُعُ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ہمیں دن و رات کے کسی بھی وقت نماز پڑھنے

6863 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا
مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

کا حکم دیتے، اور ہم طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے، اور فرمایا: اس وقت شیطان ان کے ساتھ غائب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے۔

إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصَلِّيَ آيَةَ سَاعَةِ شِتْنَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا، وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَهَا حِينَ تَغِيبُ، وَيَطْلُعُ مَعَهَا حِينَ تَطْلُعُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں تمام نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیتے، لیکن رسول اللہ ﷺ نماز وسطیٰ کی خاص کر وصیت کرتے اور ہمیں بتاتے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔

6864 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، وَأَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَبَنَانَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں تمام نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیتے، لیکن رسول اللہ ﷺ نماز وسطیٰ کی خاص کر وصیت کرتے اور ہمیں بتاتے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔

6865 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، وَأَوْصَى بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَبَنَانَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ

6866 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ، وَكَرِهَهُ، وَلَيْسَ بِعَزِيمَةٍ

6867 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ، يَكْرِهَهُ، وَلَيْسَتْ بِالْعَزِيمَةِ

6868 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَلْعَنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ

6869 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور ﷺ لگا تار روزے رکھنے سے منع کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے، حتیٰ پسند کرتے تھے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور ﷺ لگا تار روزے رکھنے سے منع کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے، حتیٰ پسند کرتے تھے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اللہ کی لعنت یا اللہ کے غضب یا آگ کے ساتھ ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اللہ کی لعنت یا اللہ کے غضب یا آگ کے ساتھ ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو۔

جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
تَتَلَاعَنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ أَوْ بِغَضَبِهِ، وَنَهَانَا أَنْ نَتَلَاعَنَ
بِالنَّارِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہمیں نماز کا وقت ملے اور ہم
تین یا اس سے زیادہ ہوں تو ہم (آگے) اپنے میں سے
ایک آدمی کو کھڑا کریں جو ہمارا امام ہو اور باقی دونوں
آدمیوں کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہمیں نماز کا وقت ملے اور ہم
تین یا اس سے زیادہ ہوں تو ہم ایک آدمی کو کھڑا کریں جو
ہمارا امام ہو اور باقی دونوں آدمیوں کو ایک ہی صف
میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6870 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا
مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا
جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا إِذَا
أَذْرَكْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
أَنْ يَقُومَ لَنَا رَجُلٌ مِنَّا، فَيَكُونَ لَنَا إِمَامًا، وَإِنْ كُنَّا
اثنَيْنِ أَنْ نَصِفَ مَعًا

6871 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
ذُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ
مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي
خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَذْرَكْنَا الصَّلَاةَ
وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ نَقْدِمَ لَنَا
رَجُلًا مِنَّا، فَيَكُونَ إِمَامًا، وَإِنْ كُنَّا اثنَيْنِ أَنْ
نَصِفَ جَمِيعًا

6872 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیتے تھے اور ایک دوسرے کو ملنے پر سلام کرنے کا۔

مَرَوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ حُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إِذَا تَقَيْنَا

6873 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ، أَوْ فِي حِينَ انْقِضَائِهَا، فَأَبْدَأُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ بِقَوْلِ: الْحَيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ وَالْمُلْكِ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ، ثُمَّ سَلِمُوا عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ

6874 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرَوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَمُرَةَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ حِينَ التَّسْلِيمِ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ، أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا، فَأَبْدَأُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا:

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم نماز کے درمیان میں ہوں یا جس وقت ختم کریں تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھنے کا حکم دیتے: تمام مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی اور حقیقی بادشاہی اللہ کے لیے ہے پھر نبیوں پر سلام بھیجو پھر اپنے رشتہ دار اور اپنے آپ پر سلام بھیجو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم نماز کے درمیان میں ہوں یا جس وقت ختم کریں تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھنے کا حکم دیتے: تمام مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی اور حقیقی بادشاہی اللہ کے لیے ہے پھر نبیوں پر سلام بھیجو پھر اپنے رشتہ دار اور اپنی جانوں پر سلام بھیجو۔

التَّحِيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ
وَالْمُلْكُ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلِمُوا عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَلَى
أَنْفُسِكُمْ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم اپنے سروں کو جبدہ سے اٹھائیں زمین پر اطمینان سے بیٹھیں اور ہم اپنے قدموں کے کناروں پر اس طرح نہ بیٹھیں کہ ابھی اٹھنے والے ہیں۔

6875 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْكُوفِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا سَمُرَةُ، حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلَاةِ، وَرَفَعْنَا مِنْ رُءُوسِنَا مِنَ السُّجُودِ أَنْ نَطْمِئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوسًا، وَلَا نَسْتَوْفِرَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بغیر شادی رہنے سے منع کرتے اور ایمان والوں کے گھروں میں گھسنے کو حرام قرار دیا۔

6876 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَبَلَّ، وَحَرَّمَ وَلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بغیر شادی رہنے سے منع کرتے اور ایمان والوں کے گھروں میں گھسنے کو حرام قرار دیا۔

6877 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ حُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ

سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَّبَلَ، وَيَحْرِمَ وَلُوجَ بَيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ

6878 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَتَمَ غَالًا فَهُوَ مِثْلُهُ، وَمَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

6879 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَتَمَ غَالًا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، وَمَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

6880 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ فرماتے: جس نے دھوکہ سے لی گئی چیز کو چھپایا تو وہ اسی کی مثل ہے اور جو بذات خود مشرک سے جا ملا اور اس کے ساتھ رہائش پذیر ہوا وہ اسی کی مثل ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے دھوکہ سے لیا ہوا مال چھپایا تو وہ اسی لینے والے کی مثل ہے اور جو مشرک سے مل کر اس کے ساتھ رہائش پذیر ہو گیا تو وہ بھی اسی کی مثل ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب ہم میں سے دو آدمی باہم بیع کریں تو ان میں سے ایک کو اس وقت بیع کا اختیار ہوگا یہاں تک کہ اس کا ساتھی اقرار کر لے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اختیار دے تو ان میں سے ہر ایک کو بیع میں

خُبَيْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا تَبَايَعَ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِنْ أَحَدُهُمَا يَبِيعُهُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَقَارَ صَاحِبَهُ، وَيَخِيرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَيَخْتَارُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ

6881 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، نا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَتُصْلِحَ صَنْعَتُهَا وَتُطَهَّرَهَا

6882 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسْجِدِ أَنْ تَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَتُحَسِّنَ صَنْعَتُهَا وَتُطَهَّرَهَا

6883 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَتَاهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ

اختیار ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ بنائیں اور ہم اس کو درست اور صاف رکھیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ بنائیں اور ہم اس کو درست اور صاف رکھیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات سے ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا کہ اس کے لیے کیا حلال ہے؟ جو جرام کرتا ہے اس کے مال اور قربانی اور جانوروں اور عترہ اور فرع کے اونٹ کے بچوں سے۔ حضور ﷺ نے اسے فرمایا: آپ کے لیے

عَنِ الرَّجُلِ: مَا الَّذِي يَحِلُّ لَهُ؟ وَالَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَنُسْكِهِ وَمَا شَيْتِهِ وَعَتْرِهِ وَقَرْعِهِ مِنْ نَسَاجِ إِبِلِهِ وَعُقْمِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ، وَأَحْرَمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثَ، إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامٍ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَأَنْتَ سَأَلَهُ الرَّجُلُ حِينَئِذٍ، فَقَالَ: مَا فَفَرَى الَّذِي أَكَلُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغْتُهُ، أَمْ غِنَايَ الَّذِي يُغْنِي عَنِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَجَاجًا فَتَبْلُغْ بِلُحُومِ مَا شَيْتِكَ إِلَى نَسَاجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو غِنًا فَتَصِيبُهُ مُذْرُغًا، فَتَبْلُغْ إِلَيْهِ بِلُحُومِ مَا شَيْتِكَ إِلَى نَسَاجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُو فَائِدَةً مَالِهَا، فَتَبْلُغْهَا بِلُحُومِ مَا شَيْتِكَ، وَإِذَا كُنْتَ لَا تَرْجُو مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَطُعِمَ أَهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ قَالَ لَا عَرَابِي: وَمَا غِنَايَ الَّذِي أَدْعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ؟ قَالَ: إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غُبُوقًا مِنَ اللَّيْلِ، فَخَبَبَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَمَّا مَا لَكَ فَبِهِ مَسُورٌ كُلُّهُ، لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ، غَيْرَ أَنْ فِي نَسَاجِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرَعًا، وَفِي نَسَاجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرَعًا، تَغْذُوهُ مَا شَيْتِكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَاطْعِمَهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِلُحْمِهِ وَأَمْرُهُ أَنْ يَغْتَرَّ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ مَائَةِ عَشْرًا

پاک چیزیں حلال قرار دے رہا ہوں اور تم پر خباثت کو حرام قرار دے رہا ہوں ہاں اگر تم کو کھانے کی محتاجی ہو تو اس کو بقدر ضرورت کھاؤ اس آدمی نے اس وقت پوچھا: محتاجی سے مراد کیا ہے؟ جس وقت کا میری وہ احتیاج جس کی وجہ سے میں کھاتا ہوں جب میں اس حالت کو پہنچوں یا میری وہ غنا جو مجھے اس سے بے پرواہ کر دے؟ تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تُو جانوروں کے بچوں کی امید کیا کرتا ہے تو تُو اپنے جانوروں کے گوشت سے اپنے جانوروں کے بچوں تک پہنچ گیا یا تو گھاس کی امید کرتا ہے پس تُو اس کو پانے والا ہے تو تُو اپنے جانوروں کے گوشت کو اپنے جانوروں کے بچوں تک پہنچانے والا ہوگا یا ان کے مال کے فائدہ کا امیدوار ہے تو اپنے جانوروں کے گوشت کے ساتھ اس کو پہنچے گا اور جب تجھے ان میں سے کسی چیز کی امید نہیں ہے تو جو چیز تیرے سامنے آئے تو اپنے گھر والوں کو کھلاؤ حتیٰ کہ تُو اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ دیہاتی نے کہا: جس کو میں چھوڑتا ہوں جب میں نے اس کو پالیا کیا وہ میری غنا نہیں ہے؟ فرمایا: جب تُو نے اپنے گھر والوں کو ایک گھونٹ دودھ بھی پلا لیا تو جو کھانا تیرے اوپر حرام ہے اس سے پرہیز کر اور بہر حال جو تیرا مال ہے تو اس کا استعمال تیرے لیے آسان بنا دیا گیا ہے وہ حرام نہیں ہے سوائے اس کے جو تیرے اونٹ کے بچے میں فرع ہے اور تیری بکریوں کے بچوں میں فرع ہے وہ تیرا چوپایہ بن جائے یہاں تک کہ ٹوغنی ہو جائے پھر اگر تُو چاہے تو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اور اگر تیری مرضی ہو تو اس

کا گوشت صدقہ کر دے اور آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی بکریوں سے ہر سو میں سے دس نکالے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ آدمی کو عورت کے ساتھ نرمی کرنے کا، ان کو فروخت کرنے اور بند کرنے کا اور ہمیں حکم دیتے کہ ان سے صدقہ کی کوئی شے نہ لیں اور ہمیں صدقہ نکالنے کا حکم دیتے، اس میں سے جسے بیچ کے لیے شام کیا جاتا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ گالی دینے سے ہمیں منع کرتے اور فرمایا: جب تم میں سے کسی نے اپنے ساتھی کو گالی دینی ہو تو اس پر بہتان نہ باندھے نہ اس کے والدین کو گالیاں دے نہ اس کی قوم کو گالی دے، لیکن اگر اس کے متعلق اس کو معلومات ہوں تو کہے: تو بخیل یا کہے: بزدل ہے یا کہے: تو جھوٹا ہے یا کہے: تو کمینہ ہے۔

6884 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَفِيقِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي هُوَ تِلَادُهُ، وَهُمْ فِي عَمَلِهِ، لَا يُرِيدُ بَعْضُهُمْ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ

6885 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَبَّ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ سَابًّا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ، فَلَا يَقْتَرِ عَلَيْهِ، وَلَا يَسُبُّ وَالِدَيْهِ، وَلَا يَسُبُّ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ،

6884 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 178 روی أبو داؤد منه رقم الحديث: 1547 كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي

نعد للبيع فقط وفي استاده ضعف .

6885 - ورواه البزار جلد 2 صفحہ 178 زوائد البزار وفي استاده البزار متروك وفي استاد الطبرانی مجاہیل كذا في

المجمع جلد 8 صفحہ 74 .

فَلْيَقُلْ: إِنَّكَ لَبَخِيلٌ، أَوْ لَيَقُلْ: إِنَّكَ جَبَانٌ، أَوْ لَيَقُلْ: إِنَّكَ كَذُوبٌ، أَوْ لَيَقُلْ: إِنَّكَ لَوُومٌ

6886 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ' عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاعِثِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ تَحْلِفُوا بِهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِشَيْءٍ مِنْ دُونِهِ

6887 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَمَا أُنْزِلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَنْزَلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ، لَا تَحْلِفُوا فِيهِ، وَلَا تُحَاجُّوا فِيهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ، فَاقْرَأُوهُ كَالَّذِي أُقْرِئْتُمُوهُ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں فرماتے تھے: نہ تو بتوں اور اپنے آباء کی قسمیں اٹھاؤ، قسم اللہ کے نام کی اٹھانی چاہیے کیونکہ مجھے اس کی قسم اٹھانا پسند ہے اس کے علاوہ کسی شی کی قسم نہ اٹھاؤ۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیتے جس طرح ہم پڑھیں اور فرمایا: قرآن تین قراتوں پر نازل ہوا ہے اس میں اختلاف نہ کرو اس میں نہ جھگڑو کیونکہ یہ بابرکت ہے اس کو پڑھو جس طرح اس کو نازل کیا گیا ہے۔

6888 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا
جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ
سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامَ
بْنِ نُوحٍ، وَإِنَّ الرُّومَ بَنُو يَافِثَ بْنِ نُوحٍ، وَإِنَّ
الْحَبْشَةَ بَنُو حَامِ بْنِ نُوحٍ

6889 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا
جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَأْمُرُنَا أَنْ شُغِلَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا
حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا الَّذِي تُصَلِّي فِيهِ، أَنْ
نُصَلِّيَهَا مَعَ الْيَتَى تَلِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

6890 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا
جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ لَا
يَكْمُلُ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً قَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ:

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

نے فرمایا: عرب سام بن نوح کی اولاد سے ہیں اور روم
والے یافث بن نوح کی اولاد سے ہیں اور حبشہ والے حام
بن نوح کی اولاد سے ہیں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی نماز پڑھنا
بھول جائے یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جائے جس میں نماز
پڑھی جاتی ہے ہم اس کو اس فرض نماز کے ساتھ پڑھ لیں
جو اس سے ملی ہوئی ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: مہینہ تیس دنوں کا مکمل نہیں
ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں: اس کا
مطلب ہے کہ ہر ماہ تیس دنوں کا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی
اتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے۔

مَعْنَاهُ: اللَّهُ لَا يَكْمُلُ كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ، أَيْ أَنَّهُ أَحْيَانًا يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ

6891 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَسْبِقُوا قَارِنَكُمْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ، وَلَكِنْ لِيَسْبِقَكُمْ تُذَرِّكُونَ مَا سَبَقْتُمْ بِهِ فِي ذَلِكَ، إِذَا كَانَ هُوَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ قَبْلَكُمْ، فَتُذَرِّكُوا مَا فَاتَكُمْ بِهِ حِينَئِذٍ

6892 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: إِذَا قَاتَلْتُمُ الْمُشْرِكِينَ فَاقْتُلُوا شَيْئَهُمْ، فَإِنَّ أَلَيْنَهُمْ قُلُوبًا شَرَّهُمْ

6893 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم نماز پڑھو تو امام سے پہلے رکوع و سجود قیام میں جلدی نہ کرو جو تم پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے تو وہ بعد میں پڑھ لو اپنا سر رکوع و سجود اور قیام میں پھیلا یا نہ کرو جو رہ جائے وہ پڑھ لو۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں فرماتے تھے: تم مشرکوں کو مارو ان کے بڑوں کو مارو کیونکہ ان کے بچوں کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز میں تھو کے تو اپنے

چہرے کے سامنے نہ تھو کے اور نہ دائیں جانب بلکہ اپنے قدموں کے نیچے تھو کے اور زمین پر مل دے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جس کا مال گم ہو جائے یا چوری کر لیا جائے تو اس کا اعلان کرے ایک سال تک اس کا اعلان کرے اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے گا وہ جس نے خریدا ہے اس کو پیسوں کے بدلے فروخت کر دے وہ جس نے خریدا ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فتح کے سال فرمایا: بے شک یہ حج اکبر کا سال فرمایا: مسلمان اور مشرکین تین دن لگا تار جمع ہوئے ہیں اس سال مسلمان، یہودی اور عیسائی لگا تار چھ دن جمع ہوئے اسی طرح اس سال سے پہلے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں جمع نہ ہوئے تھے اور اس سال کے بعد قیامت تک اکٹھے ہوں گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

نَفَتْ أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَنْفُتُ قَدَامَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَنْفُثْهَا تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَذِلْ لَهَا بِالْأَرْضِ

6894 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا أَنَّهُ مَنْ ضَلَّ لَهُ مَالٌ أَوْ اسْتَرْقَ فَعَرَفَهُ، وَجَاءَ عَلَيْهِ سَنَةٌ، فَإِنَّ مَالَهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ، وَإِنَّ الَّذِي ابْتَاغَهُ يَبِيعُ ثَمَنَهُ عِنْدَ بَيْعِهِ الَّذِي ابْتَاغَ مِنْهُ

6895 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَمَنَ الْفَتْحِ: إِنَّ هَذَا عَامُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ: اجْتَمَعَ حَجُّ الْمُسْلِمِينَ وَحَجُّ الْمَشْرِكِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَاجْتَمَعَ حَجُّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْرِكِينَ وَالنَّصَارَى، وَالْيَهُودِ الْعَامَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ كَذَلِكَ قَبْلَ الْعَامِ، وَلَا يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

6896 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ

6894 - ورواه البزار جلد 2 صفحہ 167 (زوائد البزار) .

6895 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 102 وفيه من لم أعرفهم . ورواه البزار جلد 1 صفحہ 190 (زوائد البزار) وفيه

يوسف بن خالد السمطي وهو ضعيف .

6896 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 291 وفيه من لم أعرفه . ورواه البزار وفيه إسناد يوسف بن خالد السمطي وهو

عورتوں کو منع کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی لیٹیں ہاں اگر درمیان کپڑا ہو تو کوئی حرج نہیں اور مرد کو مرد کے ساتھ لیٹنے سے منع کیا ہاں اگر درمیان میں کپڑا ہو تو کوئی حرج نہیں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا کہ مسلمان، مسلمان پر اسلحہ نہ سونتے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرات آنتوں میں کھاتا ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو اتنا کھانا بنائے جو دو آدمیوں کے لیے کافی ہو کیونکہ وہ تین کیلئے کافی ہوتا ہے یا تین کے لیے بنایا جائے تو وہ چار کے لیے کافی ہوتا ہے یا چار کے لیے بنائے وہ پانچ کے لیے کافی ہوتا ہے اسی طرح اس کی مقدار۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا حکم دیتے اور اس سے غائب ہونے سے منع فرماتے جب مسلمان جمعہ کے دن اکٹھے ہوں اور کھڑے ہوں تو ان میں سے ہر

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعْنَ مَعَ بَعْضٍ إِلَّا بَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ

6897 - بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى الْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِ السَّلَاحَ

6898 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

6899 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدَرًا مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً، أَوْ صَنَعَ لثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَرْبَعَةً، أَوْ لَأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً، فَكُنْ حَوِ ذَلِكَ مِنَ التَّعَدُّدِ

6900 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمُؤْمِنُونَ بِنُدْبَةِ يَوْمٍ

6899- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 170 بعد أن نسبہ الى البزار صفحہ 99 (زوائد البزار للحافظ ابن حجر) فقط وفيه

يوسف بن خالد السميتي وهو ضعيف .

6900- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 179 وفي اسنادہ ضعيف .

ایک اپنی اس جگہ میں بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے جب وہ واپس آئے (جس میں وہ پہلے بیٹھا تھا)۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے پاس دیہاتوں میں سے ایک آیا وہ فتویٰ مانگ رہا تھا اس چیز کے بارے میں جو اس کیلئے حلال ہے اور وہ چیز جو اس کیلئے حرام ہے اس کی قربانی مال موسیٰ بکریوں اور ان کے بچوں میں اور اونٹوں اور بھیڑوں کے بچوں میں سے؟ پس رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پاک و طیب چیزیں تیرے لیے حلال اور پلید و خبیث چیزیں تیرے لیے حرام ہیں مگر یہ کہ تو ایسا کھانا کھانے پر مجبور جو تیرے لیے حلال نہیں ہے پس تو اس میں بقدر ضرورت کھا۔ اور اسی وقت ایک آدمی نے سوال کیا: مجبوری کب معتبر ہوگی؟ اس میں سے جس کو میں کھاؤں جب میں اس تک پہنچوں وہ کیا ہے اور کب سمجھوں کہ میں اس سے بے پرواہ ہو گیا ہوں؟ تو رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: جب آپ کو جانوروں سے بچے ملنے کی امید ہو تو تیرے جانوروں کا گوشت تیرے (جانوروں) کے بچوں تک پہنچ جائے گا تجھے گھاس کی امید ہوتی ہے جس کے بارے میں تیرا گمان ہے کہ تو اسے پالے گا تو بھی اس تک تیرے جانوروں کا گوشت پہنچ جائے گا اور اگر ان میں سے کسی چیز کی تجھے امید نہیں ہے تو تو اپنے گھر والوں کو کھلا جو تیرے لیے ظاہر ہو حتیٰ کہ تو اس

الْجُمُعَةِ وَقَامُوا، فَإِنْ أَحَدُهُمْ هُوَ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ

6901 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ، وَفِي نُسُكِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَفِي عَزْرِهِ وَفَرْعِهِ مِنْ نَتِجِ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ، إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامٍ لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ حَبَشِيًّا، فَقَالَ: مَا فَقَرِي، وَمَا الَّذِي أَكُلُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغْتُهُ، وَمَا غَسَايَ الَّذِي يُغْنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتَ تَرَجُو نَتَجًا فَتَبْلُغُ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ إِلَى نَتِجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرَجُو غَيْثًا تَظُنُّهُ مُدْرِكَكَ، فَتَبْلُغُ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرَجُو مِيرَةً تَنَالُهَا، فَتَبْلُغُ إِلَيْهَا مِنْ لُحُومِ مَاشِيَتِكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَجُو مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَاطْعِمِ أَهْلَكَ بِمَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: مَا غَسَايَ الَّذِي أَدْعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غَبُوقًا مِنْ

سليمان بن سمره عن أبيه

اللَّبَنِ، فَاجْتَنِبْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَمَّا مَا لَكَ فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ لَكَ كُلُّهُ، لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنْ فِي نَتِجِكَ مِنْ إِبِلِكَ قُرْعًا وَفِي نَتِجِكَ مِنْ غَنَمِكَ قُرْعًا، تَغْذُوهُ مَا شِئْتَكَ حَتَّى تَسْتَغْنَى، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ وَأَمْرَهُ لِيَعْتَزَّ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ سَائِمَةٍ عَتِيرَةٍ.

سے بے پرواہ ہو جائے۔ پس دیہاتی بولا: میری اس غنا سے کیا مراد ہے؟ جس کو میں پاؤں تو اسے چھوڑ دوں؟ تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تُو نے اپنے گھروالوں کو ایک گھوٹ بھی دودھ پلا لیا تو جو کھانا تیرے لیے حرام ہے وہ انہیں مت کھلا لیکن جو تیرا مال ہے اس کو تُو استعمال کر سکتا ہے جس میں کوئی چیز تیرے لیے حرام نہیں ہے سوائے تیرے اونٹوں کے بچوں کے اور تیری بکریوں کے بچوں کے جو تیرے جانور بنیں گے یہاں تک کہ تُو مستغنی ہو جائے پھر اگر تُو چاہے تو اپنے گھروالوں کو کھلا اگر چاہے تو صدقہ کر اس کا گوشت اور اس کو حکم دیا کہ ہر چرنے والی بکری (اونٹنی) کی زکوٰۃ دے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ ان کی طرف سے صدقہ کی کوئی شے نہ دیں اور ہمیں صدقہ نکالنے کا حکم دیتے اس غلام سے جس کو بیع کے لیے تیار کر کے رکھا جاتا ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ دعا کرے: "اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي إِلَىٰ آخِرِهِ"۔

6902 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِرَفِيقِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي هُمْ يَلَادُوهُ وَهُمْ عَمَلَتُهُ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّفِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ

6903 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِّي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي عَنْ خَطِيئَتِي، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ أَحْنِنِي مُسْلِمًا، وَأَمْتِنِي مُسْلِمًا

6904 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا يَوْمًا: قَدْ قِيلَ لِي: اقْرَأْ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ فِدْعَاهُ فَأَمَرَ أَنْ يَحْضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا أُنْزِلَ، لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں ایک دن فرمایا: مجھے کہا گیا کہ ابن خطاب کو قرآن سناؤں آپ نے حضرت عمر کو بلوایا آپ نے قرآن لانے کا حکم دیا جب نازل ہوا تا کہ آپ پر پڑھا جائے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نوچنے سے منع فرماتے آپ بکری کے گوشت کو پکاتے وقت قافلے کو حکم فرماتے تھے: اس کو نہ کھاؤ۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اس کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارو۔

6905 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّهْبَةِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ الرَّفْقَةَ بِلَحْمِ الشَّاةِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ، يَقُولُ: لَا تَطْعَمُوهُ

6906 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالْضِّلَعِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا حَتَّى تَكْسِرَهَا، أَوْ تَتَرُكَهَا وَهِيَ عَوَّجَاءُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

6907 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

نے فرمایا: انبیاء قیامت کے دن ہر دو ایک دوسرے کے دوست ہوں گے دوسروں کے علاوہ میرے دوست ان میں سے اس دن خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: انبیاء فخر کریں گے کہ ان کی اُمت کے لوگ زیادہ ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ اس دن میں ان تمام سے زیادہ اُمت والا ہوں گا ان میں سے ہر ایک آدمی میرے بھرے ہوئے حوض پر کھڑا ہوگا اس کے ساتھ عصا ہوگا وہ بلوائیں گے اپنی اُمت جس کو پہچانیں گے ہر اُمت کی نشانی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نبی ان کو پہچان جائیں گے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: پہلی اُمتوں میں ایک اُمت کی مثال بیان کی گئی کہ اس آدمی کی طرح ہے جو مزدوری کرنے والا اُجرت لیتا ہے وہ سارا دن کام کرتا ہے تو اس کے لیے ایک قیراط مزدوری مقرر کی جاتی ہے انہوں نے محنت کی جب دن کا آدھا حصہ گزر گیا وہ تھک گئے تو انہوں نے آدمی سے کہا: ہمارا حساب لگائیں ان کا حساب لگایا گیا تو ان کے لیے نصف قیراط دیا گیا اس آدمی نے کہا: جو میرا کام رات تک کرے گا اُس کے لیے ایک قیراط

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ خَلِيلَانِ دُونَ سَائِرِهِمْ، قَالَ: فَخَلِيلِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيلُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6908 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَصْحَابًا مِنْ أُمَّتِهِ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ يَوْمَئِذٍ أَكْثَرَهُمْ كُلِّهِمْ وَارِدَةً، فَإِنَّهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ قَائِمٌ عَلَى حَوْضٍ مِلَّانٍ، مَعَهُ عَصَا، يَدْعُو مَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّتِهِ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سِمَاءٌ يَعْرِفُهُمْ بِهَا نَبِيُّهُمْ

6909 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْأُمَمِ أُمَّةٌ ضُرِبَ لَهُمْ مَثَلٌ كَمَثَلِ أُجْرَاءَ انْتَجَرَهُمْ رَجُلٌ، يَعْمَلُونَ لَهُ يَوْمًا كُلَّهُ، وَجَعَلَ لَهُمْ قِيرَاطًا، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ نَهَارُ سَمِعُوا، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: حَاسِبْنَا، فَحَسَبَهُمْ، فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ قِيرَاطٍ، فَقَالَ: مَنْ يَكْتَسِبْ بِي عَمَلِي إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَيَعْفُ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ

فَلْ فِي الْمَجْمَعِ جُلْد 10 صَفْحَة 363 وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ وَتَفَقَّهَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَقَالَ الْأَزْدِيُّ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ

وَفِيهِ رَجَالُهُ ثَقَاتٌ. قُلْتُ: بَلْ فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِمْ.

فَلْ فِي الْمَجْمَعِ جُلْد 10 صَفْحَة 70 وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

اجر ہوگا دوسرے لوگوں نے مزدوری کی جب نماز عصر کا وقت قریب ہوا تو وہ تھک گئے انہوں نے کہا: ہمارا حساب لگائیں انہوں نے حساب لگایا تو ان کے لیے نصف قیراط مقرر کیا آدی نے پسند کیا کہ اسکا کام رات سے پہلے ہو لوگوں نے کام شروع کیا رات تک دو قیراط پر۔ ہمیں حضور ﷺ نے فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم دو قیراط والے ہی ہو گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس انصار سے ایک آدمی کلالہ کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے بتائیں کہ کیا کلالہ آدمی اپنے بھائی کا حصہ لے گا اپنی ماں اور باپ سے؟ حضور ﷺ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس کے کہ آپ نے سورہ نساء کی آیت کلالہ پڑھی۔ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا اُس نے جب بھی پوچھا تو آپ ﷺ نے وہ آیت پڑھ دی وہ آدمی پریشان ہوا اس کی خواہش تھی کہ حضور ﷺ اس کے لیے بیان کریں آپ نے دوبارہ آیت پڑھی حضور ﷺ نے اسے فرمایا: اللہ کی قسم! جو مجھے دیا گیا میں اس پر اضافہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم! جو مجھے دیا گیا میں اس پر اضافہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ وہ (اللہ) اس پر اضافہ کرے اس وقت وہ آدمی بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

قَرِيبًا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَمِعُوا، فَقَالُوا: حَاسِبُنَا ، فَحَاسِبُهُمْ، فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ قِيرَاطٍ، وَأَحَبَّ الرَّجُلُ أَنْ يُقْضَى لَهُ عَمَلُهُ قَبْلَ اللَّيْلِ، فَانْتَجَرَ قَوْمًا عَلَى أَنْ يُكْمِلُوا مَا غَبَرَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ أَصْحَابُ الْقِيرَاطَيْنِ

6910 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الْكَلَالَةِ: أَتَبْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلَالَةُ الرَّجُلِ يُرِيدُ إِخْوَةً مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ، فَكَلَّمَا سَأَلَهُ قَرَأَهَا، حَتَّى أَكْثَرَ وَصَحِبَ الرَّجُلُ، فَاشْتَدَّ صَحْبُهُ مِنْ جَرُصٍ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرِيدُكَ عَلَى مَا أُعْطِيتُ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرِيدُكَ عَلَى مَا أُعْطِيتُ حَتَّى أَرَادَ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ حِينَئِذٍ الرَّجُلُ، وَسَكَتَ

6911 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى
رَبَّ السَّخْلِ أَنْ يَدِينَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ
مِنْ ثَمَرِهَا، مَخَافَةَ أَنْ يَدِينَ بَدِينِ كَثِيرٍ
تَفْسُدُ الثَّمَرَةُ، فَلَا تُؤْفَى عَنْهُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ
الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ،
وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي
السَّمْرِ أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يُكَالَ
الطَّعَامُ، فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا

6912 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَأَوَّلَ الرُّؤْيَا، وَإِنَّ الرُّؤْيَا
الصَّالِحَةَ حَظٌّ مِنَ النُّبُوَّةِ

6913 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعَنَ
الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَاةِ يَبْدُو بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ
يُبْعَثُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ،
فَقِيلَ لَهُ مَرَّةً: الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ
قَبِيلَةً: اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ بَنِي فَلَانٍ

6914 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

حَنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے کھجور کے مالک کو منع کیا کرتے کہ وہ پھل پکنے سے پہلے
فروخت کرے اس خوف کی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ قرض
کے بدلے فروخت کرے، ممکن ہے کہ اس کا پھل خراب ہو
جائے وہ اس کو پورا نہ کر سکے گا، کھیتی کے مالک کو منع کرتے
کہ اپنی کھیتی اُدھار دے یہاں تک کہ کھیتی پک جائے اور
اس کے مالک کو منع کرتے جب طعام پھل کے بدلے
فروخت کرتے کہ کھانا سونے کے بدلے فروخت کرے
یہاں تک کہ کھانا ناپ لیا جائے وہ سود کے ڈر سے اس پر
قبضہ کر لے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
فرمایا کرتے تھے: بے شک ابو بکر نے خواب کی تعبیر کی ہے
اور اچھا خواب نبوت کے حصے سے ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نماز میں مشرکوں پر لعنت کرتے تو قریش سے
ابتداء کرتے پھر اس کے بعد عرب کے بہت زیادہ قبائل
سے آپ سے ایک مرتبہ عرض کی گئی: قریش کے کافروں پر
لعنت کریں، حضور ﷺ جب کسی قبیلہ پر لعنت کرتے (تو
کہتے: اے اللہ! قریش کے بنی فلاں کے کافروں پر لعنت
فرما!

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
ہمیں فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ
يَجِدَعَ عَبْدَهُ، وَلَا يُخَصِّصَهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَعَلَ مِنْ
ذَلِكَ شَيْئًا نَفَعَلْ بِهِ مِثْلَهُ

6915 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:
لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَا بَيْنَ
السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ
يَكُنْ أَذَاهُ بِعَيْنَيْهِ، وَيُخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّكْبَةِ
يَسْقَى، وَلَا يُمْنَعُ الْمُحْفَرُ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ
خَمْسَةَ وَعَشْرِينَ ذِرَاعًا عَطْنَا لِلْمَاشِيَةِ

6916 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا
مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
خُبَيْبٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ
سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ
سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقْرَأُ الضَّيْفَ

6917 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

اپنے غلام کے کان کاٹے اور اس کو خسی کرے جس کے
متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرتا ہے تو ہم بھی اسی کی
مثل کریں گے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: راستہ ختم نہ کیا جائے زیادہ پانی سے نہ روکا جائے
مسافر کو ڈول رشتی حوض عاریتاً دینے سے منع نہ کرے جس
کے پاس اصل نہ ہو وہ اپنے درمیان اور اس کے درمیان
پانی نکالنے سے منع نہ کرے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ مہمان نوازی کرتے تھے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6915 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 125 وفي اسنادہ مستاتر . في رواية فاطمة ابن سبيل .

6916 - ورواه البزار رقم الحديث: 1924 'واسنادہ ضعیف کما فی المجمع جلد 8 صفحہ 175 .

6917 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 256 'وفي اسنادہ بعض الضعف ورواه البزار باسناد ضعیف . وقال جلد 3

صفحہ 12 رواه الطبرانی فی الكبير والأوسط بنحوه ورواه البزار وفي بعضها أشد حسرات بنی آدم علی ثلاث
رجل كانت له امرأة حسناء جميلة - فذكر نحوه باختصار وله سندان أحدهما حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير
وقد وثق .

حضور ﷺ منع کرتے تھے کہ آدمی کسی کے جانور کا دودھ مالک کی اجازت کے بغیر دھوئے فرماتے تھے کہ دودھ والے جانوروں کے تھنوں میں جو ہے وہ دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سورج و چاند کو تم میں سے کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو گرہن نہیں لگتا ہے بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اللہ عزوجل اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ جو ڈرے اور نصیحت حاصل کرے تو وہ شکر ادا کرے جب تم اللہ عزوجل کی بعض نشانیاں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اس کو یاد کرو اور ڈرو ایک دن سورج گرہن کے وقت ہمیں نماز پڑھائی پھر ہمیں وعظ کیا اور نصیحت کی پھر فرمایا: تم نے دنیا میں کوئی رنگ نہیں دیکھا ہوگا اور تمہیں جنت اور دوزخ کے متعلق خبر نہیں ہوگی مگر وہ اس دیوار کی طرف صورت بنا کر میرے سامنے کی گئی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی میں نے اس مسجد کی دیوار میں اس کو دیکھا تھا۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں فرماتے تھے کہ دنیا میں رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے: (۱) جو اس آدمی پر رشک کرے جس کو اللہ عزوجل نے بہت زیادہ مال دیا ہو وہ اس سے

جُنْدُب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُحْلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حَقِيلَتِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحْلَ مِنَ الْآخَرِ

6918 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفُ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ، وَلَا لِشَيْءٍ تُعَدُّونَهُ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَغْبِرُ بِهَا عِبَادُهُ لِيَشْكُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَيَذْكُرَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ بَعْضَ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَافْزِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، فَأَذْكُرُوهُ وَآخِشُوهُ، وَكَانَ صَلَّى لَنَا يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ وَعَظَنَا وَذَكَّرَنَا، ثُمَّ قَالَ: مَا رَأَيْتُمْ فِي شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا لَهُ لَوْنٌ، وَلَا نَبْتٌ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ وَلَا فِي النَّارِ إِلَّا وَقَدْ صَوَّرَ لِي فِي قَبْلِ هَذَا الْجِدَارِ مِنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ صَلَاتِي هَذِهِ، فَتَنَطَّرْتُ إِلَيْهِ مُنْظُورًا فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ

6919 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: الرَّجُلُ يَحْسُدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ اللَّهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ،

6918 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 209 وفيه ضعيف .

6919 - ورواه البزار رقم الحديث: 1325 قال في المجمع جلد 4 صفحہ 163 'واسناد الطبرانی فيه مستور واسناد الطبرانی

ضعيف قلت: أحدهما البزار .

زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دوسرا آدمی یہ عرض کرے: اگر میرے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو میں اس کی طرح خرچ کرتا اور اچھا خرچ کرتا یہ شک جائز ہے۔ (۲) ایک وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے اس کے پاس ایک آدمی جس کو قرآن کا علم نہیں ہے وہ اس کے قیام پر رشک کرتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اس کو سکھایا ہے وہ عرض کرے: اگر اللہ نے مجھے بھی اس کی طرح سکھایا ہوتا تو میں اس کی طرح قیام کرتا۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں فرماتے تھے: سامان منڈی میں آنے سے پہلے سامان لانے والوں سے مت ملو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دیہات والوں سے بیچ نہ کرو اگرچہ وہ تمہارا بھائی یا باپ یا ماں ہو۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے زمین فروخت کی یا گھر فروخت کیا تو زمین کا پڑوسی اور گھر کا پڑوسی اسے خریدنے کا زیادہ حق رکھتا ہے جب اس کے پاس پیسے ہوں۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے: جس عورت کا نکاح کر دیا گیا اور اس کا نکاح کرنے والے دو مختلف آدمی ہیں

فَيَسْفِقُ مِنْهُ فَيَكْثِرُ النِّفَقَةُ، يَقُولُ الْآخَرُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا لَأَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا يُنْفِقُ وَأَحْسَنَ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقُومُ بِهِ اللَّيْلَ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَا يَعْلَمُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ عَلَى قِيَامِهِ، وَعَلَى مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ، فَيَقُولُ: لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ

6920 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تَلْقُوا الْأَجْلَابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا

6921 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبْسَعُوا الْأَغْرَابَ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمُّهُ

6922 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا، فَإِنَّ جَارَ الْأَرْضِ، وَجَارَ الدَّارِ هُوَ أَحَقُّ بِإِنْبِئَاتِهَا إِذَا أَقَامَ لِمَنْهَا

6923 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْكِحْتَ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ

شَتَّى، كِلَاهُمَا مَوْلَى فَأَحَقُّ النَّكَحَيْنِ أَوْلَاهُمَا،
وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتِاعَ رَجُلَانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَبَانَ
أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوْلَاهُمَا

اور وہ دونوں حقدار ہیں تو نکاح کرنے والوں میں سے وہ
زیادہ حقدار ہے جس نے پہلے نکاح کر کے دیا اور بیع جو دو
آدمیوں نے ایک سامان خریدا تو اس مال کا حقدار وہ آدمی
ہے جس نے پہلے خریدا۔

6924 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ
جُنْدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بِالنِّسَاءِ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ عورتوں کے نکاح شغار سے منع کرتے تھے
(یعنی ادلہ بدلہ کا نکاح)۔

6925 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ
جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَنْهَى ثَلَاثَةً أَنْ يَنْتَحِجِيَ اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ
الْآخِرِ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ منع کرتے تھے کہ جب تین آدمی ہوں تو دو
آدمی آپس میں گفتگو کریں تیسرے کو چھوڑ کر۔

6926 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ
جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا، فَنَدْعَا رَجُلًا فِي
أُخْرَى الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الْأَوَّلُ، أَنْ يَنْتَظِرَهُ
حَتَّى يَلْحَقَ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب ہم جہاد کرتے تو حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے:
آپ دوسری قوم میں ایک آدمی نے پکارا پس کہا: اے
اول! انتظار کرنا یہاں تک کہ وہ پیچھے سے مل جائے۔

6927 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ منع کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کو کھانے کی

6924 - ورواه البزار وقال في المجموع جلد 4 صفحہ 266، واسنادهما ضعيف .

6925 - ورواه البزار رقم الحديث: 2057 قال في المجموع جلد 8 صفحہ 266، وفي اسناد الطبرانی من لم أعرفه، وفي اسناد

البزار يوسف بن خالد السمتي وهو متروك .

6926 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 266 رواه البزار رقم الحديث: 1682، والطبرانی وفيه يوسف بن خالد وهو ضعيف .

6927 - ورواه البزار رقم الحديث: 1246 (كشف الاستار) قال في المجموع جلد 4 صفحہ 55، واسناده ليس بالمطروح .

قلت: بل اسناد البزار مطروح فيه يوسف بن خالد السمتي وتقديم حاله مراراً .

دعوت دی جائے تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو لے آئے ہاں اگر جس نے دعوت دی وہ اجازت دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے آپ سے گوہ کھانے کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا: نہ میں کسی کو اسے کھانے کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں سوائے اس کے کہ آل محمد ﷺ نہیں کھاتے ہیں۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک رات ہمیں منع کیا ہم کنویں میں اترنے والے تھے کہ ہم پالتو گدھوں کا گوشت کھائیں جو ہمارے پاس گوشت تھا اسے پھینکنے کا حکم دیا ہم نے پھینک دیا۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں فرماتے تھے: اللہ کی قسم! مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پاس مکمل اُحد پہاڑ سونا ہو پھر میں اس کا وارث بناؤں۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں فرماتے تھے: تم میں سے ہر ایک کے

إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ عَلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُو مَعَهُ أَحَدًا، إِلَّا أَنْ يَأْتِرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ

6928 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَسْتُ أَمْرًا بِهِ، وَلَا نَاهِيًا عَنْهُ أَحَدًا، غَيْرَ أَنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَسْنَا طَاعِمِيهِ

6929 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدَبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ وَنَحْنُ عَلَى حُفْرَةٍ نَازِلُونَ أَنْ نَأْكُلَ لَحْمَ حِمَارٍ الْأَهْلِيِّ، وَأَمَرَنَا بِلَحْمٍ مَعَنَا، فَالْقَيْنَاهُ

6930 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدَبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَرَرَنِي أَنْ لِي أَحَدًا ذَهَبًا كُلَّهُ ثُمَّ أَوْرَثَهُ

6931 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6928 - ورواه البزار رقم الحديث: 1218 البزار قال في المجمع جلد 4 صفحہ 37 وفيه محمد بن ابراهيم بن عيب ولم

اعرفه . قلت: بل هو معروف .

6929 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 49 رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمطي وهو ضعيف .

6930 - قال في المجمع جلد 3 صفحہ 124 .

6931 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 252 رواه البزار والطبرانی باسناد ضعيف .

كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ لَأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلَاثَةٌ أَخِلَاءَ: مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِمَّا يَسْأَلُ، فَذَلِكَ مَالُهُ، وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ، وَلَا يُعْطِيهِ شَيْئًا، وَلَا يَضْحَكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ، وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ ذَاهِبٌ مَعَكَ حَيْثُ ذَهَبْتَ، وَلَكُنْتُ مُفَارِقَكَ أَبَدًا، فَذَلِكَ عَمَلُهُ، إِنْ كَانَ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَ شَرًّا

مرتے وقت تین دوست ہوتے ہیں: ان میں سے ایک وہ ہے جو منع کرے اس سے جو وہ مانگے یہ اس کا مال ہے ان میں سے ایک دوست جو اس کے ساتھ قبر میں داخل کرنے تک جاتا ہے اور اس کو کوئی شے نہیں دیتا اور نہ اس کا ساتھی بنتا ہے یہ اس کے رشتے دار ہیں اور ان میں سے ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے: اللہ کی قسم! میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو جہاں بھی جائے میں تیرا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑوں گا یہ اس کا عمل ہے اگرچہ اچھا ہو یا برا ہو۔

6932 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم بیت المقدس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے پھر قیامت کے دن جمع ہو جاؤ گے۔

6933 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَحْزَنَ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّ فِي ذَلِكَ عَيْنَيْنِ النَّيْنِ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر تسمہ کاٹیں پس فرماتے: بے شک اس میں دو چشمے یا دو آنکھیں ہیں۔

6934 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ، فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا، مَنْ أَبِي أَنْ يَجِيءَ فَلَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب ایک آدمی دوسرے سے لڑے تو ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو رسول ﷺ کی طرف بلائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے جو آنے سے انکار کرے تو

حَقَّ لَهُ

اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مؤمن مرد و عورتوں، مسلمان مرد و عورتوں کے لیے ہر جمعہ کے دن بخشش مانگتے تھے۔

6935 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُسْلِمَاتِ كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ جب ہم پر سفر میں بارش برستی تھی تو نماز کے لیے اذان دی جاتی، ہم پر مشقت کے خوف سے مؤذن کو حکم ہوتا اعلان کرنے کا کہ اپنے اپنے مقام پر نماز پڑھ لو۔

6936 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، مِنْ كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا، يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں فرماتے: میں تم پر غصہ کرتا ہوں اور تم سے معذرت کرتا ہوں پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں: میرے اور اپنے درمیان اے اللہ! جس کو میں نے برا کہا یا میں نے گالی دی یا میں نے ان پر سختی کی ان کے لیے یہ برکت اور رحمت اور بخشش اور رحمت بنا دے کیونکہ وہ میرے اہل ہیں اور میں ان کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں۔

6937 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنِّي أَتَغَيِّظُ عَلَيْكُمْ وَأَعْذِرُكُمْ، ثُمَّ أَذْعُو اللَّهَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ: اللَّهُمَّ مَا لَعَنْتَهُمْ أَوْ شَتَمْتَهُمْ أَوْ تَغَيِّظْتَ عَلَيْهِمْ، فَاجْعَلْ لَهُمْ بَرَكَاتٍ وَرَحْمَةً وَمَغْفِرَةً وَصَلَاةً، فَإِنَّهُمْ أَهْلِي وَإِنِّي لَهُمْ نَاصِحٌ

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دجال نکلے گا وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کے ناخن سخت وہ کوڑھ برص والوں کو ٹھیک کرے گا اور مرے ہوؤں کو زندہ کرے گا لوگوں سے کہے گا: میں

6938 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرَ عَيْنِ الشِّمَالِ، عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، وَإِنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ،

6935 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 190-191 رواه البزار رقم الحديث: 641 والطبرانی في الكبير وقال البزار: لا نعلمه

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا بهذا الاسناد وفي اسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف .

6937 - قال في المجمع في المجمع جلد 8 صفحہ 267 وفيه من لم أعرفهم .

تمہارا رب ہوں پس جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور اس نے کہا: میرا رب تو اللہ ہے پھر اس کا انکار کیا حتیٰ کہ فوت ہوا تو اس پر نہ عذاب ہے نہ آزمائش اور جس نے کہا: تو میرا رب ہے دجال کیلئے جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ زمین پر رہے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام مشرق کی جانب سے آئیں گے محمد ﷺ کے دین پر ہوں گے پھر دجال کو قتل کریں گے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب تم قیامت سے پہلے ایسے کام دیکھو گے جو تم ناپسند کرو گے تم کہو گے: ہم ہلاک ہو گئے ہمیں اس کے متعلق بیان کرو جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور جان لو کہ یہ قیامت کی ابتدائی نشانیاں ہیں عنقریب تم دیکھو گے کہ تدرستی سے ہے سستی اور آپ ہمیں فرماتے کہ قیامت آنے سے پہلے پتھر بتائے گا کہ یہودی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے مسلمان آدمی اسے تلاش کرے گا اس کو آگے پائے گا وہ چھپے گا تو پتھر کہے گا: اے اللہ کے بندے! یہ میرے پیچھے ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے: دنیا میں نہیں حسرت مگر تین میں: (۱) وہ آدمی جس کا کنواں ہو اور اس کی ایک

وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ، فَقَالَ: رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ أَبَى ذَلِكَ، حَتَّى يَمُوتَ، فَلَا عَذَابَ عَلَيْهِ وَلَا فِتْنَةَ، وَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَبِّي، فَقَدْ فُتِنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ يَلْبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَجِيءُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّتِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ

6939 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ تَسْتَكْبِرُونَهَا عِظَامًا، تَقُولُونَ: هَلَكْنَا، حُلَيْنَا بِهَذَا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ حَتَّى قَالَ: سَوْفَ تَرَوْنَ جِبَالًا تَزُولُ قَبْلَ حَقِّ الصَّبْحَةِ وَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَذُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ مُحْتَبِئًا كَانَ يَطْرُدُهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فَاطْلَعَ فُذَامُهُ، فَاخْتَفَى، فَيَقُولُ الْحَجَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا مَا تَبَغَى

6940 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسْرَةٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ:

اونٹنی ہو جس پر وہ اپنی زمین سیراب کرتا ہو پس جب اس کی زمین کی پیاس سخت ہو اور اس کا پھل نکل آئے تو اس کی اونٹنی مر جائے پس وہ اپنی اونٹنی پر حسرت محسوس کرتا ہے جس کو اس نے سیراب کرنا سکھایا کہ وہ اس جیسی دوسری پالے اور اپنی زمین کے پھل پر حسرت پاتا ہے کہ اس کو سیراب کرنے کا ک وئی حیلہ کرنے سے پہلے وہ خراب ہو جائے گی۔ دوسرا وہ آدمی جس کے پاس عمدہ گھوڑا ہو۔ پس کافروں کی جماعت سے اس کی ٹھہ بھینٹ ہو پس جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں تو اللہ کے دشمن شکست کھا جائیں پس وہ آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے نکل جائے۔ پس جب (اپنے لشکر سے) جاکر ملنا قریب ہو اس کے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ اس کے پاس کھڑا رہ جائے۔ وہ اپنے گھوڑے پر حسرت پائے گا کہ وہ اب اس جیسا نہ پائے گا اور اس پر بھی حسرت محسوس کرے گا جو کامیابی اس سے رہ گئی ہے جس پر وہ جھانک رہا تھا (یعنی کامیابی قریب تھی) تیسرا وہ آدمی جس کی بیوی ہو جس کی شکل اور دین پر وہ خوش ہو پس وہ بچہ پیدا کرے تو مر جائے پس وہ اپنی بیوی پر حسرت محسوس کرے گا جس کے بارے گمان کرتا تھا کہ اس سے اس قسم کا حادثہ نہ ہو گا یا وہ اس جیسی نہ پاسکے گا اور اس کے بچے پر حسرت پائے گا کہ جس کیلئے کوئی دایہ پانے سے پہلے اس کے مر جانے کا خوف ہے۔ فرمایا: یہ آخری پہلی حسرتوں سے بڑی حسرت ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رَجُلٌ كَانَ لَهُ سَقْيٌ، وَلَهُ سَائِبَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمًا أَرْضِهِ، وَخَرَجَ ثَمَارُهَا مَاتَتْ سَائِبَتُهُ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَائِبَتِهِ الَّتِي قَدْ عَلَّمَهُ السَّقْيُ أَنْ يَجِدَ مِثْلَهُ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسَدَ قَبْلَ أَنْ يُحِيلَ لَهَا حِيلَةً، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ فَرَسٌ جَوَادٌ، فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْهَزَمَ أَغْدَاءُ اللَّهِ، فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ، فَلَمَّا كَرَبَ أَنْ يَلْحَقَ كُسِرَتْ بِهِ فَرَسُهُ، وَتَرَكَ قَائِمًا عِنْدَهُ، يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ الَّذِي كَانَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيَاتَهَا وَدِينَهَا، فَتَفَسَّتْ غُلَامًا، فَمَاتَتْ بِنَفْسِهِ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهَا يَخْشَى أَنْ يَهْلِكَ ضَيْعَةً قَبْلَ أَنْ يَجِدَ لَهُ مَرْضِعَةً قَالَ: وَهَذِهِ أَكْثَرُ أَوْلِيكَ الْحَسَرَاتِ

6941 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ

حضور ﷺ مہاجرین و انصار کو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے: یہ نماز کے متعلق زیادہ جانتے ہیں، دیہات کے رہنے والے اور ان پڑھ لوگوں سے یہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ دیہات کے لوگ آگے ہوں اور ان کو نماز کے متعلق علم نہیں ہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے، وہ ایک شاخ پر کھڑا ہے اس کی ایک شاخ اتنی لمبی ہے جتنا کوئی ستر سال تک چلتا رہے۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مومن آدمی کا نام کتابوں میں کرم ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو اپنی تمام مخلوق پر عزت دی ہے، تم دیوار پر چڑھنے والی انگور کی تیل کو کرم کہتے ہو، اس کا نام حفر ہے، آدمی کرم ہے۔

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت الفردوس درمیانی جنت کا ٹیلہ ہے جو بلند اور خوبصورت ہے۔

جُنْدُب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارَ أَنْ يَكُونُوا فِي مُقَدِّمِ الصُّفْرِ، وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْأَعْرَابِ وَالسُّفْهَاءِ، وَيَأْتُمُّ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَابُ قُدَّامَهُمْ، لَا يَذُرُونَ كَيْفَ الصَّلَاةِ

6942 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مُسْتَقِلَّةً عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ، عَرْضُ سَاقِهَا مِيسِرَةُ سَبْعِينَ سَنَةً

6943 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فِي الْكُتُبِ الْكُرْمُ، مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ، وَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْحَائِطَ مِنَ الْعِنَبِ الْكُرْمَ، وَإِنَّمَا اسْمُهُ الْحَقَرُ، وَالرَّجُلُ هُوَ الْكُرْمُ

6944 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وَأَحْسَنُهَا

6942- قال في المعجم جلد 10 صفحہ 390 رواه البزار والطبرانی واسناد الطبرانی حسن .

6943- ورواه البزار رقم الحديث: 1989 قال في المعجم جلد 8 صفحہ 55، وفي اسناد الطبرانی مجاہیل وفي اسناد

الطبرانی مجاہیل وفي اسناد البزار يوسف بن خالد السمتی وهو متروک .

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں جانوروں کی قسم نہیں پاتا ہوں ایک جانور ان سے سو جانوروں سے بہتر ہو سوائے آدمی کے کہ ایک (اچھا) آدمی سو آدمیوں سے بہتر ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے زمین رہن رکھی اُس پر قرض ہوگا، وہ اس کا قرض اس کا خرچ دینے کے بعد ادا کرے گا، یا اپنے خرچ کا حساب لگا کر اس کا قرض دے گا، اس کا خرچ درمیانہ ہوتا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس دن آپ وارد ہوئے مدینہ کے مضافات میں حجر ثمود پر کہ اس کے کنویں سے پانی نہ پئیں، اپنے جانوروں کو بھی اس کا پانی نہ پلائیں، اور ان کے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا، ہمیں بتایا کہ اونٹنی کا بچہ میں نے لوگوں سے سنا کہ کنانہ کے نام سے پکارتے تھے، اونٹنی کے بچے کا اثر اس سے پیچھے واضح ہوتا ہے۔

6945 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنِّي لَا أَجِدُ صِنْفًا مِنَ الدَّوَابِّ، الدَّابَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ مِنْ صَوَاحِبِهِ غَيْرِ الرَّجُلِ، يَجِدُ الرَّجُلُ هُوَ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ

6946 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضَلَ بَعْدَ تَفَقُّطِهَا، وَيَقْضِي ذَلِكَ لَهُ مِنْ حِينِهِ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ لِمُصَاحِبِهَا الَّذِي عِنْدَهُ عَمَلُهُ، وَتَفَقُّتَهُ بِالْعَدْلِ

6947 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا يَوْمَ وَرَدَ حَجَرُ ثَمُودَ عَلَى رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ نَشْرَبَ مِنْهَا، أَوْ نَسْقِيَ بِهَا، وَنَهَى أَنْ نُوَلِّجَ بُيُوتَهُمْ، وَنَبَأَنَا أَنَّ وَلَدَ النَّاقَةِ ارْتَقَى فِي قَارَةٍ سَمِعَتْ النَّاسَ يَدْعُونَهَا كِنَانَةً، وَأَنَّ أَثَرَ وَلَدِ النَّاقَةِ مُبَيَّنٌ فِي قَبْلِهَا

6945- قال في المجموع جلد 5 صفحہ 318 وفيه من لم أعرفهم . ورواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمطي وهو ضعيف .

6946- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 142 وفي اسنادہ مسانیر .

6947- قال في المجموع جلد 10 صفحہ 290 وفيه من لم أعرفهم .

6948 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ، فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ: آيُّونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا عَابِدُونَ

6949 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْبٍ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ خُثَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَرَّةً: إِذَا جَاءَتِ الْأَحْزَابُ حَرَمَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَقَى السَّخْلَ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي أُحْرِمُ عَلَيْكُمْ احْتَرَقْتُمْ، وَإِنْ تَحْرِيمَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُطِيقُهُ الْجِبَالُ

6950 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا كُفَّكُمْ وَالْغُلُوَّ وَالزَّهْوَ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ غَلَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشَبٍ تَحْشُوهُمَا، ثُمَّ تَوَلِّجُ فِيهِمَا رِجْلَيْهَا، ثُمَّ تَعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب جہاد سے یا سفر سے واپس مدینہ کی طرف آتے تو آپ یہ دعا کرتے: ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے ایک آدمی نے ایک مرتبہ کہا: جب احزاب آئے تو آپ نے اہل مدینہ پر کھجور کی نیب حرام کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم پر حرام کروں تو تم جلا دو بے شک جس چیز کو انبیاء حرام کرتے ہیں، اسے پہاڑ بھی نہیں ٹال سکتے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: غلو کرنے سے بچو اور بد بوسے کیونکہ بنی اسرائیل نے بہت زیادہ غلو کیا یہاں تک کہ چھوٹے قد کی عورت لکڑی کے دو موزے بناتی، پھر اس میں دونوں پاؤں داخل کر لیتی پھر لمبی عورت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اس کے ساتھ چلتی، وہ یا تو اس کے برابر ہو جاتی یا اس سے

6948 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 130 'وفيه من لم أعرفهم ورواه البزار باسناد ضعيف .

6949 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 192 'وفيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي يتكلمون فيه وقال

الذهبي وله نسخة فيها مناكير .

زیادہ لمبی ہو جاتی۔

الطَّوِيلَةَ، فَتَمَشِي مَعَهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ سَاوَتْ بِهَا
أَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَا

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ بارش کے لیے یہ دعا کرتے: "اللَّهُمَّ أَنْزِلْ
فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا"۔

6951 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَسْقَى الْمَطَرَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْ فِي
أَرْضِنَا زِينَتَهَا، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: بنو غفار اور اسلم زیادہ لوگوں کی طرح فتنہ
ہیں کہتے ہیں: اگر بھلائی ہوتی تو اللہ ان کو پہلے لوگوں
میں نہ بناتا، قبیلہ غفار والوں کو اللہ نے بخشا ہے اور اسلم
والوں کو اللہ سے سلامت رکھا ہے۔

6952 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: بَنُو غَفَارٍ وَأَسْلَمُ
كَانُوا كَكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِتْنَةً، يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ
خَيْرًا مَّا جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَوَّلَ النَّاسِ فِيهِ، وَإِنَّهَا
غَفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: غنقریب تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنا
مال اور خاندان دے کر میری طرف ایک نظر دیکھے۔

6953 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ
بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ
بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: إِنْ أَحَدَكُمْ سَيُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ
أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً بِمَا لَهُ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: قریب ہے کہ تم میں کھانے میں

6954 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا

6952 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 46 رواه الطبرانی والبخاری وفيه من لم أعرفهم .

6953 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 18 رواه البخاری ولم يتكلم عليه . وقال جلد 9 صفحہ 39 ورجاله ثقات .

6954 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 333 رواه أحمد جلد 5 صفحہ 18 والطبرانی وفيه اسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف .

نمک کی طرح ہو اور کھانا نمک کے بغیر درست نہیں ہوتا۔

جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کے قیدی پر حسد نہ کرے جب اس کو پکڑے تو اسے قتل کرے۔

6955 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْتَبِطُ أَحَدُكُمْ أَسِيرَ صَاحِبِهِ إِذَا أَخَذَهُ قَتْلَهُ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے ہر ایک آدمی کی پیٹھ پکڑ کر جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔

6956 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا أَنَا مُمِسِكٌ بِخُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6957 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

6956 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 18 رواه البزار والطبرانی واسناد الطبرانی حسن .

6957 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 295 رواه الطبرانی والبزار رقم الحديث: 1711 وفي اسناد الطبرانی مستور وبقيہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جو تم میں سے صبر کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو وہ جنت میں ہوگا، اللہ کے راستہ میں شہید ہونے کی وجہ سے۔

دُحَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا: مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا مُقْبِلًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ

6958 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَشِعَارَ الْخَزَرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، وَشِعَارَ الْأَوْسِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، وَاسْمَى خَيْلَنَا: خَيْلَ اللَّهِ، إِذَا فَرَعْنَا **6959 -** وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعْنَا يَأْمُرُ بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا

6960 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مہاجرین کی نشانی: اے بنی عبد الرحمن! مقرر کی اور خزرج والوں کی نشانی: اے بنی عبد اللہ! اور اوس والوں کی نشانی: اے بنی عبید اللہ! ہمارے لیے اللہ کی دوستی کی مقرر کی ہے ہم پریشان ہوئے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب ہمیں پریشان دیکھتے تو جماعت اور صبر اور سکونت کا حکم دیتے، جب ہم لڑتے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْنَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

6961 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا سَمُرَةُ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَأَلِجُ هَذِهِ الْغُرْفَةَ مَا أَلِجُهَا حِينَئِذٍ إِلَّا خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَالٌ، فَأَتَوَّقِي وَلَكُمْ أَنْفِقُهُ

سَمُرَةُ أَبُو جَابِرٍ
السُّوَائِيُّ

6962 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكُونِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةِ وَمَاشِيَةِ، فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْبَابِلِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے اس کمرہ میں جانا ہے میں داخل نہیں ہوا اس ڈر سے کہ اس میں مال ہو اور میں اس حالت میں اللہ سے ملوں کہ میں نے اس کو خرچ نہ کیا ہو۔

حضرت سمرہ ابو جابر
السوای رضی اللہ عنہ

حضرت سمرہ السوای رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا میں نے عرض کی: ہم دیہات کے رہنے والے اور جانور رکھنے والے ہیں کیا ہم اپنے اونٹوں کا گوشت اور دودھ پی کر وضو کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: بکریوں کا گوشت کھا کر اور دودھ پی کر وضو کرنا ہے؟ آنے فرمایا: جی نہیں!

6961- قال في المعجم جلد 3 صفحہ 123 و اسنادہ حسن .

6962- قال في المعجم جلد 1 صفحہ 250 و اسنادہ حسن ان شاء اللہ . قلت: سليمان بن داود الشاذكوني متروك فكيف

وَالْبَانِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ تَنَوَّضًا مِنْ
لُحُومِ الْغَنَمِ وَالْبَانِيهَا؟ قَالَ: لَا

بَابُ الشَّيْنِ

مِنْ اسْمِهِ شَدَّادٌ

شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ

وَهُوَ شَدَّادُ بْنُ أُسَامَةَ

بْنِ الْهَادِ

وَأَسْمُ الْهَادِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ
بْنِ عُسْوَارَةَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ كَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسِ
بْنِ مُضَرَ

6963 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا جَرِيرُ
بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ
بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي إِحْدَى صَلَاتِي
النَّهَارِ: الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَهُوَ حَامِلٌ الْحَسَنَ
أَوِ الْحُسَيْنَ، فَتَقَدَّمَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِيهِ الْيُمْنَى،
فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَجْدَةً فَأَطَاعَهَا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ،

بَابُ الشَّيْنِ

جس کا نام شداد ہے

حضرت شداد بن ہادیش

یہ شداد بن اسامہ

بن ہاد ہیں

ہاد کا نام عمرو بن عبد اللہ بن جابر بن عتوارہ بن عامر
بن لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن
الیاس بن مضر ہے۔

حضرت شداد بن ہاد اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے پاس ظہر یا عصر کے وقت آئے
آپ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو
اٹھائے ہوئے تھے آپ آگے ہوئے تو ان میں سے کسی
ایک کو اپنی دائیں جانب آگے رکھا، حضور ﷺ نے لمبا
سجدہ کیا، میں نے لوگوں کے درمیان سر اٹھایا تو دیکھا کہ
رسول اللہ ﷺ سجدہ میں ہیں اور بچہ آپ کی پشت اطہر پر
سوار ہے، میں نے سجدہ کیا، جب حضور ﷺ نے سلام پھیرا
تو لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے آج نماز میں
اتنا لمبا سجدہ کیا، اس سے پہلے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا، کیا

آپ کو اس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا یا آپ کی طرف وحی آ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا: (ان میں سے) کچھ بھی نہیں تھا ماسوائے اس کے کہ میرا لخت جگر میرے اوپر سوار تھا، میں جلدی کرنے کو ناپسند کر رہا تھا تاکہ وہ مجھ پر اپنی ضرورت پوری کرے۔

فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ ظَهْرَهُ، فَعُدْتُ فَسَجَدْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ سَجَدْتُ فِي صَلَاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْتُ تَسْجُدُهَا، أَشَيْئًا أُمِرْتُ بِهِ؟ أَوْ كَانَ يُوحَى إِلَيْكَ؟ قَالَ: كُلُّ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ إِنِّي ارْتَحَلْنِي، فَكُفِرْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دیہات سے ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ پر آ کر ایمان لایا اور اتباع کی عرض کرنے لگا: میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا؟ حضور ﷺ نے صحابہ کو اس کی وصیت کی، جب خیر کا جہاد تھا یا حنین کا تو حضور ﷺ کو مال غنیمت میں کوئی شے ملی آپ نے تقسیم کی اور اس کا حصہ نکالا آپ نے اس کے ساتھیوں کو وہ حصہ دے دیا جو اس کیلئے نکالا تھا جبکہ وہ اونٹ چرا رہا تھا پس جب وہ آیا تو انہوں نے اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا: نبی کریم ﷺ نے تیرا حصہ نکالا ہے۔ پس اس نے لے لیا اور لے کر سیدھا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا عرض کی: اے محمد! یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ وہ حصہ ہے جو میں

6964 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ شَدَادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، وَقَالَ: أَهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ حُنَيْنٍ سَعَيْنِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسَمَهُ، وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفْعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قَسَمَ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَهُ فَعَجَّاهُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا هَذَا؟ قَالَ: قَسَمْتُ قَسْمَتَهُ لَكَ، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ، فَأَمُوتْ فَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِصَدَقَتِكَ، فَلْيُثْبِتُوا قَلِيلًا، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأَتَى بِهِ يُحْمَلُ، قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْوَ هُوَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَقَهُ، فَكَفَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ

شَدَادُ بْنُ أُسَيْدِ السَّلَمِيِّ

شَدَادُ بْنُ أُسَيْدِ السَّلَمِيِّ

6965 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَارُ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، قَالَ: ثنا

نے تیرے لیے نکالا ہے، عرض کی: میں نے اس کی شرط یا لالچ پر تو آپ کی اتباع قبول نہیں کی تھی بلکہ میں نے تو آپ کی پیروی اس لیے کی تھی کہ یہاں پر تیرے لگے اور اشارہ اپنے حلق کی طرف کیا اور میں درجہ شہادت پا جاؤں اور جنت میں داخل ہوں۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو نے اللہ سے سچ بولا ہے تو اللہ تیرا سچ قبول کرے گا۔ پس صحابہ کرام کچھ دیر ہی ٹھہرے پھر اٹھ کر دشمن سے جہاد کرنے لگے۔ پس اُسے اٹھا کر لایا گیا جبکہ جس جگہ کا اس نے ارادہ کیا تھا اسی جگہ تیر لگ چکا تھا۔ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ جواب ملا: جی ہاں! فرمایا: اس نے اپنے رب سے سچ بولا تھا تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، پس نبی کریم ﷺ نے اسے اپنے جبہ مبارک میں کفن دیا پھر اس کو آگے رکھ کر اس پر نماز پڑھائی۔ اس پر نماز پڑھتے وقت جو کلمات ظاہر ہوئے (وہ یہ تھے: اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکلتے، پس شہید کر دیا گیا۔ میں اس پر گواہ ہوں۔

حضرت شداد بن اسید السلمی رضی اللہ عنہ

حضرت شداد بن اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کے پاس آئے آپ نے ہجرت کرنے پر بیعت کی اس کے بعد بیمار ہوئے آپ نے فرمایا: اے

شداد! کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں بیمار ہوں! میں اگر بطحاء کا پانی پی لیتا تو میں ٹھیک ہو جاتا! آپ نے فرمایا: پینے سے کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے عرض کی: میری ہجرت! آپ نے فرمایا: تُو جا! تُو جہاں بھی ہو گا ہجرت کرنے والا ہو گا۔

زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْطِيٍّ بْنِ عَامِرٍ
بْنِ شَدَّادٍ بْنِ أَسِيدِ السُّلَمِيِّ الْمَدَنِيِّ، حَدَّثَنِي
أَبِي، عَنْ جَدِّهِ شَدَّادٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْهَجْرَةِ، فَاشْتَكَى،
فَقَالَ: مَا لَكَ يَا شَدَّادُ، قَالَ: قُلْتُ: اشْتَكَيْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، وَلَوْ شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ بَطْحَاءَ
كَبُرْتُ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ، قُلْتُ: هِجْرَتِي،
قَالَ: فَادْهَبْ فَإِنَّتِ مُهَاجِرٌ حَيْثُمَا كُنْتَ

شَدَّادُ أَبُو الْمُسْتَوْدِرِ الْفَهْرِيُّ

وَهُوَ شَدَّادُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَبَلِ بْنِ
الْأَجَبِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ
فَهْرٍ بْنِ مَالِكٍ

6966 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
السَّمِيدِ الْأَنْطَاكِيُّ، وَنُعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الطُّوَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصَبِيُّ،
ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْدِرِ
بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَإِذَا هِيَ
الْكَيْنُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلَاجِ

حضرت شداد ابوالمستورد فہری رضی اللہ عنہ

یہ شداد بن عمرو بن حسل بن الاحب بن عمرو بن
شیبان بن محارب بن فہر بن مالک ہیں۔

حضرت شداد بن مستورد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں حضور ﷺ کے پاس آیا! میں نے آپ کا دست
مبارک پکڑا! آپ کا دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم اور
برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔

شَدَّادُ بْنُ شَرْحِبِيلَ الْأَنْصَارِيُّ

6967 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

يَسْحَى بْنِ حَمْزَةَ الدَّمَشْقِيِّ، وَخَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ
الْمِصْرِيِّ، قَالَا: ثنا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ الْحِمَصِيُّ،
ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا
عِيَّاشُ بْنُ مُؤَنَسٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ شَرْحِبِيلَ
الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: مَهْمَا نَسِيتُ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ
إِلَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَائِمًا يُصَلِّي، وَيَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَائِمًا
عَلَيْهَا

شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ
يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ حَسَّانَ
بْنِ ثَابِتٍ
نَزَلَ الشَّامَ وَمَاتَ بِهَا

مَا أَسْنَدَ شَدَّادُ أُسَامَةَ بْنُ

حضرت شداد بن شرحبیل النصاری رضی اللہ عنہ

حضرت شداد بن شرحبیل النصاری رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں لیکن میں یہ نہیں بھولا
ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے
دیکھا ہے اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھے رکھا تھا۔

حضرت شداد بن اوس النصاری رضی
اللہ عنہ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے
اور یہ حسان بن ثابت کے
بھانجے ہیں

آپ ملک شام آئے تھے اور وہیں آپ کا وصال

ہوا۔

حضرت شداد اسامہ بن عمیر ہندلی کی

6967- قال الحافظ في الاصابة جلد 4 صفحہ 322، ورواه جماعة فأدخلوا عن شداد. وقال في المعجم جلد 2 صفحہ 105

رواه البزار رقم الحديث: 522، والطبرانی في الكبير وفيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه قال البزار: ولم يرو

شداد بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا هذا الحديث.

روایت کردہ احادیث حضرت شداد بن
اوس سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: ختمہ مردوں کے لیے سنت ہے اور
عورتوں کے لیے عزت کا باعث ہے۔

عُمَيْرُ الْهُذَلِيِّ عَنْ شَدَادِ بْنِ
أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

6968 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا وَاِصْلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ
لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

6969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

6968 -

قال الحافظ ابن الملق في البدر المنير (2/94/6) هذا الحديث ضعيف مرة وهو مروي من طرق: أحدها: من
حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) رواه أحمد في مسنده جلد 5
صفحة 75 والبيهقي في سننه جلد 8 صفحه 325 من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح به وضعفه لانه
بسبب الحجاج هذا قال البيهقي في سننه: لا يحتج به وقال ابن الجوزي في تحقيقه ضعيف . ثانيها: من حديث
أبي أيوب مرفوعاً به رواه البيهقي في سننه جلد 8 صفحه 325 من حديث الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب به
وهو ضعيف منقطع كما قاله البيهقي وقال ابن أبي حاتم في علله جلد 2 صفحه 247 سألت أبي عنه فقال: الذي
أتوههم أنه خطأ إنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب مرفوعاً خمس من سنن
المرسلين التططر والختان والسواك الحديث فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أو عبد الواحد بن زياد
الراوى عنه قال: وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول مرسلًا . ثالثها: من حديث ابن عباس مرفوعاً به رواه
الطبراني في أكبر معاجمه (11590) والبيهقي سننه جلد 8 صفحه 324-325 من حديث الوليد بن مسلم عن ابن
ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عنه به قال البيهقي: هذا اسناد ضعيف والمحمول أنه موقوف عليه وكذا
قال ابن الرفعة: لا يصح وقال في المعرفة: انه لا يثبت رفعه . رابعها: من حديث شداد بن اوس مرفوعاً به رواه ابن
أبي شيبة جلد 9 صفحه 58 وابن أبي حاتم في علله جلد 2 صفحه 247 والطبراني في أكبر معاجمه من حديث
حجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد به قال ابن عبد البر في تمهيدہ بعد أن رواه: هذا الحديث يدور
على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به قال: والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال كذا قال: وقال
ابن القطان في كتاب أحكام النظر: هذا حديث منقطع الاسناد .

حضور ﷺ نے فرمایا: مختہ مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت کا باعث ہے۔

كَيْسَانَ الْمِصْبِصِيِّ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

حضرت ابواشعث صنعانی، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ شَدَّادٍ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں، آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شی کے ساتھ احسان کرنا لکھا ہے، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کرنے والی شی کو راحت ہو۔

6970 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا الرَّازِيُّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَبِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں، آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شی کے ساتھ احسان کرنا لکھا

6971 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ

أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ شَدَّادٍ

6970 - رواه أحمد جلد 4 صفحہ 123، 124، 125، ومسلم رقم الحديث: 1995، والنسائي جلد 7 صفحہ 227، وأبو داود

رقم الحديث: 2797، وابن ماجه رقم الحديث: 3170، والطيالسي رقم الحديث: 1740، والدارمي رقم

الحديث: 1976، وابن الجارود رقم الحديث: 899، والبيهقي جلد 9 صفحہ 280، وعبد الرزاق رقم

الحديث: 8603، 8604، والبقوي في شرح السنة رقم الحديث: 2873.

شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: خَصَلْتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذُبِيحَتَهُ

6972 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا وَهْبٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذُبِيحَتَهُ

6973 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذُبِيحَتَهُ

6974 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

ہے جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو (یعنی مثلاً وغیرہ نہ کرو) اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کرنے والی شی کو راحت ہو۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شی کے ساتھ احسان کرنا لکھا ہے جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کرنے والی شی کو راحت ہو۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شی کے ساتھ احسان کرنا لکھا ہے جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کرنے والی شی کو راحت ہو۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

التُسْتَرِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ، فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ،
وَلْيُزِيحْ ذَبِيحَتَهُ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ،
قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَصْلَتَيْنِ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ، قَالَ: ائْتَنَّا حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ
الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ

6975 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ،
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ

أَبُو الْأَشْعَثِ الْمُسْتَشْيِ عَنْ شَدَّادِ

عَنْ شَدَّادِ

میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں، آپ
نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شے کے ساتھ احسان کرنا لکھ
ہے، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور
جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے
کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کرنے والی شے کو راحت
ہو۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں، آپ
نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شے کے ساتھ احسان کرنا لکھ
ہے اس کے بعد حسب سابق حدیث ذکر کی۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں، آپ
نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شے کے ساتھ احسان کرنا لکھ
ہے اس کے بعد حسب سابق حدیث ذکر کی۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو چیزیں یاد کی تھیں، آپ
نے فرمایا: اللہ عزوجل احسان فرمانے والا ہے اور احسان و
پسند کرتا ہے، جب تم کسی کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کی جانے والی شی کو راحت ہو۔

6976 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا وَهْبٌ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ﷻ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شی کے ساتھ احسان کرنا لکھا ہے، جب تم کسی کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کی جانے والی شی کو راحت ہو۔

6977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ہر شی کے ساتھ احسان کرنا لکھا ہے، جب تم کسی کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تم میں سے کوئی اپنی چھری تیز کرے تاکہ ذبح کی جانے والی شی کو راحت ہو۔

بَابُ

بَابُ

6978 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو حُدَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ، وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْطَرَ
الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

6979 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ،
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَحْنَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ
رَمَضَانَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ
وَالْمَحْجُومُ

6980 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ
النَّسَائِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، ثنا
عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ
عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا روزہ
افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ اٹھارہ
رمضان کو پچھنا لگوارہا تھا میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے
فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا روزہ
افطار کریں۔

الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ،
وَالْمَحْجُومُ

6981 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ
وَهُوَ يَخْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ
رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6982 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَنَى، ثنا
مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا
حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَخْتَجِمُ زَمَنَ الْفَتْحِ
لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ
الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6983 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
خَلَّادٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ،
عَنْ مَنصُورِ بْنِ زَادَانَ، وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ بقیع میں
اٹھارہ رمضان کو پچھنا لگوار ہا تھا میں آپ کے ساتھ تھا
آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ اٹھارہ
رمضان کو پچھنا لگوار ہا تھا میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے
فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ اٹھارہ یا
سترہ رمضان کو پچھنا لگوار ہا تھا میں آپ کے ساتھ تھا
آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي
ثَمَانِي عَشْرَةَ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ فِي رَمَضَانَ،
فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6984 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ

مَنْذِهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَانٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ،
قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهُوَ
يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6985 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ،

وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ
أَحْمَدَ، قَالُوا: ثنا شَيْبَانُ بْنُ قُرُوحٍ، ثنا سُوَيْدُ
أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي
رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

6986 - حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْمَسْلُطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو قَحْذَمٍ، وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ، ثنا حَفْصُ بْنُ
عَمْرٍو الرِّبَالِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ،
ثَنَا أَبُو قَحْذَمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ
الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّ شَدَادَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ:
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت شہاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
معقل بن یسار کے پاس سے گزرے وہ رمضان کے مہینہ
میں بچھنا لگوا رہا تھا آپ نے فرمایا: بچھنا لگانے اور
لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ رمضان
میں بچھنا لگوا رہا تھا میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے
فرمایا: بچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے ایک راستے پر
چل رہا تھا اس حال میں کہ آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے
تھے جب حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ
رمضان میں بچھنا لگوا رہا تھا آپ نے فرمایا: بچھنا لگانے
اور لگوانے والا افطار کریں۔

وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ آخِذٌ
بِيَدِي، إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فِي رَمْضَانَ
فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

بَابُ

بَابُ

6987 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا قَزْعَةُ بْنُ سُؤَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ،
عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
قَرَضَ بَيْتَ شِعْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں لایعنی (اشعار جیسے
گانے وغیرہ) عشاء کے بعد پڑھے جائیں تو اللہ عزوجل
اس رات اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔

6987 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 125 والبخاری جلد 4 صفحہ 209 قال في المجموع جلد 8 صفحہ 122 وفيه قزعة بن سويد

الباہلی وثقه ابن معین وضعفه غیرہ وبقیة رجالہ ثقات . وقال: جلد 1 صفحہ 315 وبقیة رجال أحمد وثقوا . قلت:

وأورده ابن الجوزی فی الموضوعات جلد 1 صفحہ 261 وقال: هذا حدیث موضوع وعاصم فی عداد المجہولین

قال العقیلی لا یعرف الا بعاصم ولا یتابع علیہ قزعة بن سويد قال أحمد بن حنبل مضطرب الحدیث وقال ابن

حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم فلما كثير ذلك فی روايته سقط الاحتجاج به قال الحافظ فی القول المسدد

صفحہ 40-41 ليس فی شيء من هذا ما يقضى على الحدیث بالوضع الا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل

المباح لأن قرض الشعر مباح فكيف يعاقب فاعله بأن لا تقبل له صلاة فلو غلل بهذا وكان أليق به من تعليله

بعاصم وقزعة لأن عاصمًا ما هو من المجہولین كما قال: بل ذكره ابن حبان فی الثقات وأما كونه تفرد برواية

هذا عن أبي الأشعث فليس كذلك فقد تابعه عليه عبد القدوس ابن حبيب عن الأشعث رويناه فی الجعديات عن

أبي القاسم البغوی قال حدثني علي بن الجعد ثنا عبد القدوس ضعيف جدًا كذبه ابن المبارك فكان العقیلی لم يعتد

بمتابعه وأنا قزعة بن سويد فهو باہلی بصری یکنی أبا محمد روى أيضًا عن جماعة من التابعین وقال عثمان

الدارمی عنه صفحہ 192 ثقة وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالمتین یکتب حدیثه ولا یحتج به وقال ابن

عدي: له أحاديث مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به وقال البخاری: لم یکن بالقوی وقد حدث عنه أهل العلم وقال

العجلی: لا بأس به وفيه ضعف فالحاصل من كلام هؤلاء الاثمة أن حدیثه فی مرتبة الحسن . انتهى . قلت: هذا

مخالف لما قرره الحافظ نفسه فی القريب من أن قزعة ضعيف فكيف يكون حدیثه فی مرتبة الحسن والحق أنه

حدیث ضعيف .

تِلْكَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً

6988 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

عِرْقٍ الْحِمَصِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
الضَّحَّاكِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ رَاشِدِ
بْنِ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَغَدَا
وَابْتَكَرَ، ثُمَّ جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ
وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَايَا عَمَلٍ
سَنَةٍ، صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا

6989 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْفَرِيبِيُّ، وَسَلِيمَانُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَدَلَمٍ
الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
يَزِيدَ الرَّحْبِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، إِذَا رَأَيْتَ
النَّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاتَّكَبَزَ
هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ
فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ
مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعِزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ،
وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ،

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور
جلدی جلدی نماز جمعہ کے لیے آیا پھر امام کے قریب
بیٹھا خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے ہر قدم اٹھانے کے
بدلے ایک سال کے روزے اور قیام کرنے کا ثواب ملے
گا۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: اے شداد بن اوس! جب
تو لوگوں کو دیکھے کہ لوگ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں تو ان
کلمات کو پڑھ کر نیکوں کا ذخیرہ کر: ”اللہم انی اسألك
الى آخره“۔

وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا ، وَلِسَانًا صَادِقًا ، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ،
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
6990 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى

الِدِّمَشْقِيُّ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، ثنا
أَبِي ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا الْهَيْثَمُ
بْنُ خَارِجَةَ ، قَالُوا : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ
رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ الصَّنَعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ،
أَنَّهُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقٍ ، وَهَجَرَ بِالرَّوَّاحِ
فَلَقِيَ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيَّ وَالصَّنَابِجِيَّ
مَعَهُ ، قُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدَانِ ، يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ ؟ قَالَا :
نُرِيدُ هَهُنَا إِلَى أَخٍ لَنَا مَرِيضٍ نَعُوذُهُ ، فَانْطَلَقْتُ
مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَا لَهُ : كَيْفَ
أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ : أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ وَفَضْلٍ ، فَقَالَ
لَهُ شَدَّادُ : أَبَشِّرْ بِكُفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ ، وَحِطِّ
الْخَطَايَا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :
إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا ، فَحَمِدَنِي
عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا
قَبِلْتُ عَبْدِي هَذَا ، وَابْتَلَيْتُهُ ، فَأَجْرُوا لَهُ مَا

حضرت ابوالاشعث فرماتے ہیں کہ وہ مسجد دمشق کی
طرف جلدی جلدی گئے، حضرت شداد بن اوس انصاری
رضی اللہ عنہ سے ملے اور صابجی اُن کے ساتھ تھا، میں نے
عرض کی: آپ دونوں کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اللہ آپ
دونوں پر رحم کرے! دونوں نے فرمایا: ہمارا ایک بھائی
بیمار ہے، ہم اُس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ میں ان
دونوں کے ساتھ چلا، دونوں اُس بیمار کے پاس آئے تو
دونوں نے اسے کہا: تم نے صبح کیسی کی؟ اُس نے کہا:
میں نے اللہ کی نعمت اور فضل سے کی ہے۔ حضرت شداد
نے اسے کہا: تمہیں خوشخبری ہو! تمہارے گناہوں کے لیے
کفارہ ہے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل نے
فرمایا: جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو
آزماتا ہوں اور وہ میری آزمائش کے دوران بھی میری حمد
کرتا ہے تو اس کے لیٹنے سے گناہ اس طرح معاف ہوتے
ہیں جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اللہ
عزوجل فرماتا ہے: میں نے اپنے بندہ کو قید کیا اور آزمایا
اس کے لیے وہی ثواب لکھ جو عمل یہ حالت تدرستی میں کرتا
تھا۔

كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ

6991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ
غَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

6992 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ ابْنِ أَنْعَمٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا،

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک جوتا پہن کر نہ چلے۔

عبدالرحمن بن غنم اشعری، حضرت
شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورت جب کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کو قتل نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ حمل جن دے اگر وہ حاملہ ہو اور حتیٰ کہ بچہ کو مکمل کفالت کر لے اگر زانیہ ہو تو اسے رجم نہ کیا جائے یہاں تک کہ بچہ جن کر اس کی مکمل کفالت کر لے۔

6991- قال في المجمع جلد 5 صفحہ 139، وفيه خارجه بن مصعب وهو متروك . قلت: له شاهدان من حديث جابر وأبي هريرة في الصحيح .

6992- ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 2694 قال في الزوائد: في اسناده ابن أنعم' واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف' وكذلك الراوى عنه عبد الله بن لهيعة . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2245 .

عبد الرحمن بن غنم الاشعري عن شداد بن اوس

وَحَتَّى تُكْفَلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنْتَ لَمْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكْفَلَ وَلَدَهَا

6993 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اُس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اُس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اُس نے شرک کیا۔

6994 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَحْمَلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَدَّو

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم ضرور بضرور پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے اہل کتاب گزرے ہیں اُن کے قدم پر قدم رکھو گے۔

6995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْبُيْرُوتِيُّ مَكْحُولٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ، وَعَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ غَنَمٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَفَّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عقل مند وہ ہے جو اپنی جان کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عزوجل پر تمنا کرے۔

جبیر بن نفیر، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں

جَبْرِ بْنُ نَفِيرٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ 6996 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمَّصِيِّ، ثنا أَبِي، ح

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جس رات آپ کو سیر کروائی

6995- ورواہ أبو نعیم جلد 1 صفحہ 267-268 .

6996- ورواہ المصنف فی مسند الشامیین رقم الحدیث: 1894، والبیہقی فی دلائل النبوة جلد 2 صفحہ 107-109، وقال هذا اسناد صحيح وروی ذلك مفرقا فی احادیث غیره، ونحن نذكر من ذلك ان شاء الله تعالى ما حضرنا، ثم ساق احادیث كثيرة فی الاسراء كالشاهد لهذا . قال الحافظ ابن كثير فی تفسيره جلد 3 صفحہ 14، وقد روى هذا الحديث عن شداد بن اوس بطوله الامام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فی تفسيره عن أبيه عن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الوبيدي به، ولا شك أن هذا الحديث أعني الحديث المروى عن شداد بن اوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم، وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك والله اعلم . قلت: واسحاق بن ابراهيم هذا قال فيه الحافظ في التقریب صدوق يهيم كثيرا وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب . وقال في المجمع جلد 1 صفحہ 47، وفيه اسحاق بن ابراهيم بن العلاء وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي .

تہ عنہ فرماتے ہیں کہ
بے جوہر جان کا محاسبہ
میں کرے اور عاجز وہ
تہ عنہ عزوجل پر تمنا

شہادہ بن اوس
تے ہیں

تہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رات آپ کو سیر کروائی

صفحہ 107-109 وقال
تعدی ما حضرنا ثم ساق
صفحہ 14 وقد روی هذا
عن ابنہ عن اسحاق بن
عن ابن اوس مشتمل علی
وسون تصدیق عن نعت
فی تنزیل صدوق یہم
حق بن ابراہیم بن العلاء

وَحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَبْرِيقٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ،
ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَبْرِ بْنَ نَفِيرٍ
قَالَ: ثنا شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، كَيْفَ أُسْرِي بِكَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِكَ؟ قَالَ:
صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتَمًا،
فَأَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِدَائِيَةِ
بَيْضَاءَ قُوقِ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبُغْلِ، فَقَالَ:
ارْكَبْ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيَّ، فَدَارَهَا بِأَذُنِهَا، ثُمَّ
حَمَلَنِي عَلَيْهَا، فَأَنْطَلَقْتُ تَهْوِي بِنَا، يَقَعُ
خَافِرُهَا حَيْثُ أَذْرَكَ طَرَفُهَا، حَتَّى بَلَّغْنَا أَرْضًا
ذَاتَ نَخْلٍ، فَقَالَ: انْزِلْ، فَتَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ:
صَلِّ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَكِبْنَا، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ
صَلَّيْتُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتُ
بِشَرْبٍ، صَلَّيْتُ بِطَيْبَةٍ، ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ تَهْوِي بِنَا،
يَقَعُ خَافِرُهَا حَيْثُ أَذْرَكَ طَرَفُهَا، حَتَّى بَلَّغْنَا
أَرْضًا بَيْضَاءَ، فَقَالَ: انْزِلْ فَتَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ:
صَلِّ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَكِبْنَا، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ
صَلَّيْتُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتُ
بِمَدْيَنَ، صَلَّيْتُ عِنْدَ شَجَرَةِ مُوسَى، ثُمَّ
أَنْطَلَقْتُ تَهْوِي بِنَا، يَقَعُ خَافِرُهَا حَيْثُ أَذْرَكَ
طَرَفُهَا، ثُمَّ بَلَّغْنَا أَرْضًا بَدَتْ لَنَا قُصُورُهَا،
فَقَالَ: انْزِلْ، فَتَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: صَلِّ، فَصَلَّيْتُ،

گئی تو کس طرح سیر کروائی گئی؟ (یعنی معراج کی رات) تو
آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے رات کے وقت صحابہ کو مکہ
میں نماز عشاء پڑھائی تو میرے پاس جبریل علیہ السلام
آئے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید سواری کا
جانور لے کر اور کہا: سوار ہو جائیے! تو مجھ پر سوار ہونا دشوار
ہوا تو انہوں نے اس کو کان سے پکڑا پھر مجھے اس پر سوار
کیا پس وہ مجھے لے کر چل دیا اس کا قدم حدنگاہ تک پڑتا
تھا حتیٰ کہ ہم ایک کھجور والی جگہ پہنچے تو جبریل نے عرض کیا:
نیچے تشریف لائیے! پھر کہا: نماز ادا کیجئے! (نفل ادا کیجئے)
تو میں نے ادا کیے پھر ہم سوار ہوئے تو جبریل نے پوچھا:
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ میں
نے کہا: اللہ بہتر جانتا ہے! تو انہوں نے بتایا: آپ نے
یثرب میں نماز ادا کی آپ نے طیبہ میں نماز ادا کی۔ تو وہ
ہمیں لے کر چل دیا اس کا قدم حدنگاہ تک پڑتا تھا یہاں
تک کہ ہم ایک سفید زمین میں پہنچے تو جبریل نے کہا: نیچے
تشریف لائیے! پھر کہا: نماز ادا کیجئے! تو میں نے نماز ادا کی
پھر ہم سوار ہوئے تو جبریل نے پوچھا: کیا آپ جانتے ہیں
کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ تو میں نے کہا: اللہ بہتر جانتا
ہے! تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے مدین میں نماز ادا کی
شپ نے حجرہ موسیٰ کے پاس نماز ادا کی۔ پھر وہ سواری
ہمیں لے کر چلی اس کا قدم حدنگاہ تک پڑتا تھا ہم ایک
ایسی جگہ پہنچے جس کے محل ہمارے لیے ظاہر ہوئے تو جبریل
نے عرض کیا: آپ اترئیے! میں اُترا پھر اس نے کہا: نماز
ادا کیجئے! میں نے نماز ادا کی تو جبریل نے پوچھا: آپ

فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتُ بَيْتِ لَحْمٍ حَيْدٍ، وَلَدَ
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ
انْطَلَقَ بِي حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ مِنْ بَابِهَا
الْيَمَانِي، فَأَتَيْتُ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، فَرَبَطْتُ ذَاتَهُ،
وَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ مِنْ بَابٍ فِيهِ تَمِيلُ الشَّمْسُ،
فَصَلَّيْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ،
وَأَخَذَنِي مِنَ الْعَطَشِ أَشَدُّ مَا أَخَذَنِي، فَأَتَيْتُ
بِإِنْسَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ، وَفِي الْآخَرِ عَسَلٌ،
أُرْسِلَ إِلَيَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَعَدَلْتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ
هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُ
حَتَّى قَرَعْتُ بِهِ جَبِينِي، وَبَيْنَ يَدَيَّ شَيْخَ مُتَكِّءٍ
عَلَى مَشْرَافٍ لَهُ، فَقَالَ: أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفُطْرَةَ،
إِنَّهُ لِيَهْدِي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا الْوَادِي
الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَهَنَّمُ تَنَكَّشَفُ عَنْ
مِنْلِ الزَّرَّابِيِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ
وَجَدْتَهَا؟ فَقَالَ: مِثْلُ الْحَمَةِ السَّخْنَةِ، ثُمَّ
انْصَرَفَ بِي، فَمَرَرْنَا بِعِيرٍ لِقْرِيشٍ بِمَكَانٍ كَذَا
وَكَذَا، قَدْ أَخْلَوْا بِعِيرًا لَهُمْ، قَدْ جَمَعَهُمْ
فَلَانٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا
صَوْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَيْتُ
أَصْحَابِي قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ، فَقَدْ التَّمَسْتُكَ فِي مَكَانِكَ؟

وَقَالَ لَهُمْ: لَيْسَ بِي شَيْءٌ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَدِينَةِ

جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ تو میں نے کہا:
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! تو انہوں نے بتایا:
آپ نے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم پیدا
ہوئے نماز ادا کی۔ پھر مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ ہم شہر کے
داہنے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے پس وہ مسجد میں
قبلہ رخ آئے اور اپنی سواری کو باندھا اور ہم مسجد میں اس
دروازے سے داخل ہوئے جس میں سورج جھکا ہوا تھا
میں نے مسجد میں جہاں اللہ نے چاہا نماز ادا کی اور مجھے
بڑی شدت کی پیاس لگی تو میرے پاس دو برتن لائے گئے
ایک میں دودھ اور دوسرے میں شہد تھا میرے پاس دونوں
اکٹھے بھیجے گئے۔ میں نے دونوں کو برابر کیا پھر اللہ تعالیٰ
نے میری رہنمائی فرمائی تو میں نے دودھ لیا اسے پیایا
تک کہ میری پیشانی سے جا لگا اور میرے سامنے ایک
بزرگ تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ وہ بولا: تمہارے ساتھی نے
فطرت کو اختیار کیا بے شک ان کی رہنمائی کی گئی پھر مجھے
لے کر چلے حتیٰ کہ ہم شہر میں موجود ایک وادی میں آ گئے
اچانک میری نگاہ پڑی تو جہنم سے پردے ہٹا دیے گئے
تھے برتنوں کی مانند۔ پس ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول!
آپ نے اسے کیسے پایا۔ کہا: گرم پانی کے چشمے کی طرح۔
پھر مجھے وہاں سے ہٹایا تو ہم قریش کے ایک قافلہ پر فلاں
فلاں جگہ کھڑے ہوئے مع اپنے قافلے کے ساتھ الگ
تھے۔ فلاں نے ان کو جمع کیا تو میں نے ان پر سلام پیش کیا
تو ان میں سے کچھ نے کہا: یہ محمد ﷺ کی آواز ہے۔ پھر
میں اپنے صحابہ کے پاس صبح سے پہلے آ گیا پس میرے

فَقَالَ: أَعْلِمْتَ إِنِّي أَتَيْتُ مَسْجِدَ بَيْتِ
الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ
مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فَصَفَّهُ لِي، فَفَتَحَ لِي مَرَأَةً، كَأَنِّي
أَنْظُرُ إِلَيْهِ، لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ
عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:
أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ الْمُسْرِكُونَ:
انْظُرُوا إِلَى ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ
الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ آيَةِ مَا أَقُولُ لَكُمْ
أَنِّي مَرَرْتُ بِعَوِيٍّ لَكُمْ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا،
يَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ عَلَيْهِ مَسْحٌ أَسْوَدُ
وَعَرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ
أَشْرَفَ الْقَوْمُ، يَنْظُرُونَ حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ
نِصْفِ النَّهَارِ، حَتَّى أَقْبَلَ الْقَوْمُ يَقْدُمُهُمْ ذَلِكَ
الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا:
یا رسول اللہ! آپ آج رات کہاں تشریف لے گئے تھے؟
میں نے آپ کو آپ کی جگہ تلاش کیا تھا، تو آپ ﷺ نے
ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میں آج رات بیت المقدس
کی مسجد میں تشریف لے گیا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو ایک ماہ کی مسافت پر ہے
آپ ﷺ مجھے اس کی نشانیاں بتائیں تو میرے لیے اس
کا دیکھا جانا کھول دیا گیا، گویا کہ میں اُسے دیکھ رہا تھا، وہ
مجھ سے کچھ نہ پوچھتے تھے مگر یہ کہ میں انہیں اس کا جواب
دیتا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں
گوای دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مشرکوں نے
کہا: ذرا دیکھو ابن ابی کبشہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ آج رات
بیت المقدس گیا تھا، تو فرمایا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی
نشانی یہ ہے کہ میں فلاں جگہ تمہارے اونٹ کے پاس سے
گزر رہا تھا، ان کے آگے ایک مٹیا لے رنگ کا اونٹ تھا اس
کے اوپر۔ پس جب وہ دن تھا تو قوم والے سر اٹھا اٹھا کر
دیکھتے تھے حتیٰ کہ وقت آدھے دن کے قریب ہو گیا، حتیٰ
کہ قوم آگے ہوئی کہ (وہ دیکھے) وہ اونٹ ان کے پاس
کب آتا ہے، جس کے بارے رسول کریم ﷺ نے بتایا
(آخر مغرب کے ساتھ وہ آ گیا جیسے حضور ﷺ نے
بتایا)۔

ضمیرہ بن حبیب، حضرت شداد بن
اوس سے روایت کرتے ہیں

ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عقل مندوہ ہے جو اپنی جان کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عزوجل پر تمنا کرے۔

6997 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغِ الْمَكِّيُّ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَئِيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

عبادہ بن نسیٰ حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبادہ بن نسیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رو رہے تھے آپ نے فرمایا: دو باتوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہیں میں نے عرض کی: وہ کیا؟ فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار دیکھے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ کے چہرے پر پریشانی دیکھ رہا ہوں؟

عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ عَنْ شَدَّادٍ

6998 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا ابْنُ وَهَبٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ نِهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: حَدِيثَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ:

6997- ورواه - أحمد جلد 4 صفحہ 325 والترمذی رقم الحديث: 2577 وقال: حسن. وابن ماجه رقم الحديث: 4260 والحاكم جلد 1 صفحہ 57 جلد 4 صفحہ 325 وصححه أولاً على شرط البخارى فرداه الذهبي بقوله قلت: لا والله أبو بكر واه. وصححه ثانياً ولم يعقبه. ورواه البيهقي فى الآداب جلد 1 صفحہ 241 جلد 2 صفحہ 240 والمصنف فى مسند الشاميين رقم الحديث: 1485، 413 وأبو نعیم جلد 1 صفحہ 267 فهو حديث ضعيف من أجل أبي بكر بن أبي نعیم.

6998- الحارث بن نهان وعبد الواحد بن زيد متروكان. ورواه المصنف فى مسند الشاميين رقم الحديث: 2236 من طريق آخر عن عبد الواحد به.

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ فِي وَجْهِهِ شَيْئًا سَاءَ بِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا الَّذِي أَرَى فِي وَجْهِكَ؟ قَالَ: أَمْرَانِ اتَّخَوْتُهُمَا عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، أَمَّا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا، وَلَكِنْهُمْ يَرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَشِرُّكَ ذَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَمَا الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ؟ قَالَ: يُضْبِحُ الْعَبْدُ صَائِمًا، فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَوَاقِعُهَا وَيَدْعُ صَوْمَهُ

6999 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، ثنا عُبَادَةُ بْنُ نُسَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يَبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يُحَدِّثُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ: إِنَّ مِنْ أَخَوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةَ، يُضْبِحُ الرَّجُلُ صَائِمًا فَيَرَى الشَّيْءَ يَسْتَهِيهِ فَيَوَاقِعُهُ، وَالشِّرْكَ قَوْمٌ لَا يَعْبُدُونَ حَجَرًا وَلَا وَثَنًا، وَلَكِنْ يَعْمَلُونَ عَمَلًا يَرَاءُونَ

آپ نے فرمایا: ان دو کاموں کی وجہ سے جن کا مجھے اپنی اُمت پر خوف ہے کہ وہ میرے بعد یہ کام کریں گے: شرک اور پوشیدہ شہوت، بہر حال وہ سورج، چاند، پتھر اور بت کی عبادت نہیں کریں گے لیکن دکھاوے والے اعمال کریں گے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کیا شرک ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: پوشیدہ شہوت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: صبح کے وقت بندہ روزہ کی حالت میں ہوگا اس کے سامنے شہوت ہوگی وہ شہوت پوری کرے گا اور روزہ چھوڑ دے گا۔

حضرت عبادہ بن نسی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رو رہے تھے میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمن! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا: اس حدیث کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے آپ ﷺ کو ذکر کرتے ہوئے کہ مجھے اپنی اُمت پر خوف ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا اور پوشیدہ شہوت کا صبح کے وقت آدی روزہ کی حالت میں ہو گا تو کوئی پسندیدہ شی دیکھے گا تو وہ کھالے گا اور شرک سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر اور بت کی عبادت کریں گے لیکن وہ دکھاوے کے طور پر ایسے اعمال کریں گے۔

أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ شَدَادٍ

ابو اسماء رجبی، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین کو آسمان کو پیدا کرنے سے ایک ہزار پہلے لکھا تھا کہ اس میں دو آیتیں ایسی ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں جس گھر میں تین راتیں یہ پڑھی جاتی ہیں شیطان وہاں نہیں آتا ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: کچھنا لگانے اور لگوانے والا روزہ افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل رہا تھا اور حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک آپ ﷺ ایک ایسے آدمی

7000 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُذَيْفَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِي عَامٍ، وَأَنْزَلَ فِيهِ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لَا يُقْرَأُ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانٌ

7001 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

7002 - حَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَابٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا

ابو اسماء، الرحبی عن شداد

کے پاس آئے جو پچھنا لگوار ہا تھا آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

أُمِّسِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذٌ بِيَدِي لثَمَانِ عَشْرَةَ خَلْتُ مِنْ رَمَضَانَ، إِذْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

7003 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسَيْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ يَوْسُفَ، ثنا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَفَّانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذٌ بِيَدِي لثَمَانِ عَشْرَةَ خَلْتُ مِنْ رَمَضَانَ، إِذْ التَفَتَ فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

7004 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسَيْرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَاوِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل رہا تھا اور حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک آپ ﷺ ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو پچھنا لگوار ہا تھا آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل رہے تھے رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک آپ ﷺ ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو پچھنا لگوار ہا تھا آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

7005 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا عَاصِمٌ
الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ
الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ
بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَخْتَجِمُ لَثْمَانِ
عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ،
وَالْمَخْجُومُ

7006 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

الْمَكِّيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ،
وَقَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي
قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي صَبِيحَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ،
فَحَانَتْ مِنْهُ الْبَقَاةُ، فَرَأَى رَجُلًا يَخْتَجِمُ فَقَالَ:
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَخْجُومُ

7007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ

الْوَلِيدِ الْقُرَيْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْعَطَّارُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا هَتَّامٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک آپ ﷺ
ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو پچھنا لگوار رہا تھا آپ
نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل
رہا تھا اور حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا رمضان کے
اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک آپ ﷺ ایک ایسے آدمی
کے پاس آئے جو پچھنا لگوار رہا تھا آپ نے فرمایا: پچھنا
لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل
رہا تھا رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک
آپ ﷺ ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو پچھنا لگوار رہا
تھا آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا

افطار کریں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثْمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

7008 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثْمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی راستہ پر چل رہا تھا رمضان کے اٹھارہ دن گزر گئے تھے اچانک آپ ﷺ ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو پچھنا لگوارہا تھا آپ نے فرمایا: پچھنا لگانے اور لگوانے والا افطار کریں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے آگے پیچھے پڑھ کر ضائع کریں گے پس تم اپنی نماز اس کے وقت پر ادا کر لیا کرنا اور ان کے ساتھ مل کر نفل پڑھ لینا۔

7009 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، ثنا جَدِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، ثنا رَاشِدُ بْنُ دَاوُدَ الصَّنَعَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَيْمَةٌ يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِفِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قِفَتْهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً

ابو ادريس خولاني، حضرت شداد بن

أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ

7009 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 124، والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1093، 1094، والأوسط (51 مجمع البحرين) ورواه البزار رقم الحديث: 393 قال في المجمع جلد 1 صفحہ 325 وفيه راشد بن داود ضعفه الدارقطني ووثقه ابن معين ودحيم وابن حبان .

اوس سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بچہ کے جوان ہونے تک اور سونے والے سے جگانے تک اور مجنون کے افادہ ہونے تک بیوقوف کے مرنے تک قلم اٹھایا گیا ہے۔

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

7010 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمٍ

الرَّازِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَثَوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ فِي الْحَدِّ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ أَلْهَالِكَ

ابو عبید اللہ مسلم بن مشکم، حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ عَنْ شَدَّادٍ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب لوگ سونا چاندی اکٹھا کرنے لگیں تو تم ان کلمات کو پڑھ کر یکیاں جمع کرو: ”اللہم انی اسألك الی آخرہ“۔

7011 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ اللِّمَشْقِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةٍ،

7010 - قال في المجمع جلد 6 صفحہ 251 ورجاله ثقات . قلت: ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3500,386 .

7011 - ورواه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 266 وفي سويد كلام، ورواه أبو نعيم جلد 1 صفحہ 266

جلد 6 صفحہ 77-78 من طريق آخر عن الأوزاعي عن حسان عن شداد ولم يذكر مسلم بن مسلم .

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مَشْكَمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَنَزَ النَّاسُ
الدُّنْيَانِيرَ وَالذَّرَاهِمَ فَأَكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ
عَلَى الرَّشِيدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ
عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

کثیر بن مرّة الحَضْرَمِیُّ

عَنْ شَدَّادٍ

7012 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، ثنا

يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ثنا أَبُو مَهْدِيٍّ
سَعِيدُ بْنُ سَنَانَ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي
شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ
يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ
صَادِقٌ، يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، يُحَقِّقُ بِهَا
الْحَقَّ، وَيَبْطِلُ الْبَاطِلَ، أَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا أَبْنَاءَ
الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ دُنْيَا، فَإِنَّ كُلَّ أُمَّ

کثیر بن مره حضرمی، حضرت شداد
سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو!
دنیا تمہارے سامنے ہے اس سے اچھے اور بُرے لوگ کھا
رہے ہیں آخرت کا وعدہ سچا ہے اس دن مالک قدرت والا
فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ حق ہوگا اور باطل کو باطل کرے گا
اے لوگو! آخرت سے محبت کرنے والے بنو دنیا سے محبت
نہ کرنے والے بنو پچا اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے۔

7012 - قال في المجموع جلد 2 صفحہ 189، وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف جدًا. قلت: متروك رواه الدارقطني

وغیره بالوضع، والحديث رواه عن المصنف أبو نعيم جلد 1 صفحہ 264-265 ثم رواه من طريق آخر فيه مجهول وضعيف ومتكلم فيهم.

يَتَّبِعُهَا وَلَدَهَا

أَبُو الْمُصَبِّحِ الْمُقْرَائِيُّ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

7013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

سُفْيَانُ الرَّقِّيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثنا
مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
قَيْسٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِي مُصَبِّحٍ الْحُمْصِيِّ،
قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ،
وَتُوبَتَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فَقَالُوا: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ
كَذًّا وَكَذًّا مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنَّهُ لَمُنَافِقٌ، قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَكُونُ مُنَافِقًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
بِكَ؟ قَالَ: يَلْعَنُ الْأَيْمَةَ، وَيَطْعَنُ عَلَيْهِمْ

يَعْلَى بْنُ شَدَّادٍ

بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ

7014 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَادٍ

زُغَبَاءَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّرِّ الْأَصْغَرِ

ابوالمصبح مقرائی حضرت شداد بن

اوس سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوالمصبح حمصی فرماتے ہیں کہ میں
حضور ﷺ کے صحابہ کے ایک گروہ میں بیٹھا تھا ان میں
حضرت شداد بن اوس اور رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت
ثوبان رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے
انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی اس طرح
نیک اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ منافق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام
نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ
وہ مؤمن بھی ہو؟ آپ نے فرمایا: ائمہ پر لعنت اور لعن
کرنے کی وجہ سے۔

یعلیٰ بن شداد بن اوس اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
حضور ﷺ کے زمانہ میں ریاکاری کو چھوٹا شرک شمار کرتے
تھے۔

7015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنُ

صَالِحٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ غَفِيرٍ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِنْ وَلَدِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعْلى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ جَالِسٌ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَرَسِهِ، فَجَلَسَ شَدَّادُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ:

هَلْ تَذَرِيَانِ مَا يُجْلِسُنِي بَيْنَكُمَا؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا جَمِيعًا فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، فَوَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَا إِلَّا عَلَى غَدْرَةٍ، فَأَخْبَيْتُ أَنْ أَفْرِقَ بَيْنَكُمَا

7016 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ

الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ وَارَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا شَدَّادُ؟ قَالَ: ضَاقَتْ بِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يَفْتَحُ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ أَيْمَةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

7017 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى

الِدِمَشْقِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

حضرت یعلیٰ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں کہ ان کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے وہاں حضرت عمرو بن عاص بستر پر بیٹھے تھے حضرت شداد ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے درمیان کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب تم دو کو اکٹھے بیٹھے دیکھو تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرو اللہ کی قسم! وہ دونوں کسی سے دھوکہ کرنے کیلئے ہی اکٹھے ہوئے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان فرق کر دوں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ

حضور ﷺ کے پاس تھے آپ خوش تھے آپ نے فرمایا: اے شداد! کیسے ہو؟ عرض کی: دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا: تیرے اوپر کچھ نہیں ہے ملک شام فتح کیا جائے گا اور بیت قدس کو فتح کیا جائے گا تو اور تیری اولاد ان کی پیشوا ہوگی اگر اللہ نے چاہا۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک آدمی کے گھر میں تھا آپ نے فرمایا: دیکھو! تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟

صحابہ کرام نے عرض کی: نہیں! حضور ﷺ نے فرمایا: دروازہ بند کرو! دروازہ بند کیا گیا، پھر آپ نے فرمایا: تم ہاتھ اٹھاؤ اور پڑھو: لا الہ الا اللہ! رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ اٹھایا تو ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھ نیچے رکھو! خوشخبری ہو! تم کو بخش دیا گیا ہے مجھے اسی کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے اس پر میں جنت میں داخل ہوں گا۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو (یعنی جوتا اگر پاک ہو)۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو (یعنی جوتا اگر پاک ہو)۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے کوئی حکم سنتے

مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا رَاشِدُ بْنُ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنِّي لَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: أَحْفَ الْبَابِ، فَاسْغَلَقَ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، وَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا، ثُمَّ قَالَ: ضَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَبْشِرُوا، فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ، إِنِّي يُعْثُ بِهَا، وَبِهَا أُمِرْتُ، وَعَلَيْهَا أَدْخُلُ الْجَنَّةَ

7018 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَكَ هِلَالٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

7019 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، خَالِفُوا الْيَهُودَ

7020 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

تھے خواہ اس میں سختی بھی ہوتی، پھر اپنے گاؤں جاتے، پھر رسول اللہ ﷺ اس کے بعد رخصت دیتے تھے اُن کے جانے کے بعد لوگوں کو رسول اللہ ﷺ رخصت والا حکم سنا دیتے، پس وہ لوگ رسول کریم ﷺ اس حکم میں رخصت یاد کر لیتے تھے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے نہ سنا ہوتا تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پہلے حکم پر عمل کرتے تھے جو اس سے پہلے سنا ہوتا تھا۔

أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَغِيرَةِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ فِيهِ الشَّذَّةُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى بَادِيَّتِهِ، ثُمَّ يُرْخَصُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ، فَيَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ الرَّخْصَةَ، فَلَا يَسْمَعُهَا أَبُو ذَرٍّ، فَيَأْخُذُ أَبُو ذَرٍّ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي سَمِعَ قَبْلَ ذَلِكَ

مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَاتِ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ السِّنْدِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ حَمِيدِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِقَبْعٍ وَاحِدٍ، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ، قَالَ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ، كُلُّ عَمَلٍ كَانَ عَمِلَ لِي فِي دَارِ الدُّنْيَا كَانَ لِي فِيهِ شَرِيكٌ، فَإِنَّا أَدْعَاهُ الْيَوْمَ، وَلَا أَقْبِلُ الْيَوْمَ إِلَّا خَالِصًا، ثُمَّ قَرَأَ: (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) (الصافات: 40) (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ

محمود بن ربیع، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل اولین و آخرین کو ایک جگہ جمع کرے گا تو آنکھیں دیکھیں گی اور دعوت والا سنے گا، فرمائے گا: میں بہتر شریک ہوں جو دنیا میں میرے عمل ہوتے تھے، اس میں میرے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا، آج میں اسے چھوڑتا ہوں، آج میں خالص ہی قبول کروں گا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”اللہ کے بندوں میں سے جو خلوص سے کام کرتے ہیں۔“ ”جو اللہ عزوجل سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔“

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
(الكهف: 110)

محمود بن لبید، حضرت شداد بن اوس
سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی موت کا
وقت قریب ہو تو تم اس کی آنکھیں بند کر دو کیونکہ روح کو
آنکھ دیکھتی ہے تم اس کے متعلق اچھے الفاظ کہو کیونکہ جو گھر
والے کہتے ہیں اس پر آمین کہی جاتی ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: بھلائی یا نیکی کے ارادے سے جو
بات کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔

مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

7022 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ
الْمَكِّيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُفْرَءُ،
وإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَبَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَا: ثنا قُرْعَةُ
بْنُ سُوَيْدٍ، ثنا حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتًا كُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ
الْبَصَرَ يَتَّبِعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّهُ يُؤْمِنُ
عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ

7023 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ قُرُوحَ، ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ
عُمَرَ الْجُدِّي، ثنا قُرْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
جَرَجَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ

7022 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 125 وابن ماجہ رقم الحديث: 1455 قال في الزوائد: اسنادہ حسن لأن قرعة بن سويد
مختلف فيه وباقي رجاله ثقات. ورواه الحاكم جلد 1 صفحہ 352 وصححه ووافقه الذهبي. وهذا من أوهما
فان قرعة ضعيف كما قال الحافظ. ولكن له شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة فلهو به حسن.

7023 - ورواه في الأوسط (275 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 8 صفحہ 81 وفيه يحيى بن جرعة وثقه ابن حبان
وغیره. وقرعة بن سويد الراوی عنه وثقه ابن معین وغیره وبقية رجال احدي الطريقین رجال الصحيح قلت: وان
كان اسنادہ ضعيفاً فله شاهد في الصحيح من حديث أم كلثوم بنت عقبة.

شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ قَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا
7024 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا قُرْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جُرْجَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ طَوْفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

7025 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَقَّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَدْعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرَاتِكَ

بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ
 عَنْ شَدَادٍ

7026 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْصِيُّ، ثنا

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے ظلماً ایک بالشت زمین بھی لی تو سات زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تُو اپنے خاندان کو مال دار چھوڑے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں جو بھی تُو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اس پر ثواب ملے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تُو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے۔

بشیر بن کعب عدوی، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: سید الاستغفار یہ ہے:

7024- قال في المعجم جلد 4 صفحہ 176 'وفيه قرعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه أحمد وجماعة .

7026- ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 11، 124، 125، والبخاری رقم الحديث: 6323، 6306 والنسائي في عمل اليوم والليلة

(580/19) والبخاری في الأدب المفرد رقم الحديث: 620، 617 .

”اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ اِلٰی اٰخِرِهِ“ جو کوئی صبح و شام پڑھے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اگر اس دن مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔

مَرْجَىٰ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَعَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَا يُمَسِّي، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حنظلی، حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں

الْحَنْظَلِيُّ عَنْ

شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا

7027 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

میں تمہیں وہ نہ سکھاؤں جو رسول اللہ ﷺ میں سکھاتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِلٰی اٰخِرِهِ“ اور حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی مسلمان بندہ سوتے وقت قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے قریب کوئی شی نہیں آ سکتی یہاں تک کہ وہ اُٹھے جس وقت وہ اُٹھے۔

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفَرَّايِي، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: أَلَا أَعْلَمُكُمْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشِدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عِنْدَ نَوْمِهِ، إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا لَا يَقْرُبُهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَهَبَ مَتَى يَهَبُ

7028 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَنَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ وَكَلَّ بِهِ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَهَبَ مَتَى

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے قرآن کی ایک سورت اس وقت پڑھی جب اس نے خوابگاہ کو اختیار کیا تو اس پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کے اُٹھنے تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا: میں تجھ سے کام میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں پختہ

7028 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 125 والترمذی رقم الحديث: 3468 وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 267 وقال في المجمع جلد 10 صفحہ 120 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو ليس من شرطه وفيه من لم يسم كما ترى . ورواه النسائي جلد 2 صفحہ 54 وابن حبان رقم الحديث: 2416 عن الجريري عن أبي العلاء عن شداد . ورواه الحاكم جلد 1 صفحہ 508 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي من طريق عكرمة عن شداد أبي عمار عن شداد ومن طريقة رواه البيهقي في الدعوات الكبير صفحہ 38 . وروى النسائي في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 812 وابن السني رقم الحديث: 746 الفقرة الثانية أيضا .

رہنمائی تیری نعمتوں کے شکر اچھی عبادت قلب سلیم اور
چکی زبان کا سوال کرتا ہوں اور میں ان گناہوں سے تجھ
سے استغفار کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اور تیری پناہ مانگتا ہوں
اس شر سے جو تو جانتا ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے ایک اور سند
کے ساتھ اس جیسی حدیث بیان کی ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم اپنی نماز میں یہ
پڑھیں: ”اللھم انی اسألك الى آخره“۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ اپنی نماز میں یہ پڑھتے تھے: ”اللھم انی
اسألك الى آخره“۔

يَهَبُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَسْأَلُكَ الثَّابِتَ فِي الْأَمْرِ،
وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ
نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا
تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا
وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، ثنا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ
أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا
بِشْرِ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ
أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُجَاشِعٍ، عَنْ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا أَنْ نَقُولَ فِي صَلَاتِنَا:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّثْبِيتَ فِي الْأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ
عَزِيمَةَ الرُّشْدِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

7029 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكِنِّيُّ، ثنا
أَبُو عَمَرَ الصَّرِيرُ، ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا سَعِيدُ
الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الشَّيْخِيرِ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَدْ سَمَاهُمَا، عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّابِتَ فِي
الْأَمْرِ، وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ،
وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا
صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

7030 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

الْحَسَنُ بْنُ أَبِي

الْحَسَنِ عَنْ شَدَّادِ

بْنِ أَوْسٍ

7031 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

الرَّاسِبِيُّ، ثنا مُهَلَّبُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ يَبَّانَ الصَّفَّارُ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفَقْرُ أَرِيقُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْعِدَارِ الْحَسَنِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنی نماز میں یہ پڑھتے تھے: "اللّٰهُمَّ انی اسألك الى آخره۔"

حسن بن ابوحسن، حضرت شداد

بن اوس رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فقر مومن کے لیے خوبصورتی ہے جس طرح گھوڑے کی پیشانی پر خوبصورتی ہوتی ہے۔

7032 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

الرَّاسِبِيُّ، ثنا مُهَلَّبُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ
بَيَّانٍ الصَّفَّارُ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا
تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ

7033 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

الرَّاسِبِيُّ، ثنا مُهَلَّبُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ
بَيَّانٍ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يَرْفَعُ مِنَ
النَّاسِ الْخُشُوعُ

7034 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الْعُجْلِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا

بْنُ يَحْيَى الْمَدَائِنِيُّ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ
بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرِ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ

عَنْ شَدَّادٍ

7035 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، ثنا جَارِيَةُ بْنُ هَرِمٍ، عَنْ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: وہ پہلی شی جو تمہارے دین سے ن
جائے گی وہ امانت ہے۔حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: لوگوں سے سب سے پہلے خشوع لیا
جائے گا۔حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بچھنا لگانے اور لگوانے والا روزہ
افطار کریں۔

علاء بن زیاد عدوی حضرت شداد

سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی بندہ صبح وشام یہ دعا کرتا ہے:

7033 - انظر ما قبله . وقال في المجمع جلد 2 صفحہ 136 وفيه عمران بن داؤد القطان ضعفه ابن معين والنسائي وثقه

أحمد وابن حبان . ورواه أحمد جلد 6 صفحہ 26-27 من طريق آخر . وهو عند المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 56,55، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند المصنف قال البيهقي جلد 2 صفحہ 136، وإسناده حسن .

”اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ“ اگر اس دن مر جائے گا تو جنت میں داخل ہوگا اگر اس رات مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔

إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَرْبُؤُا بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

عنبسہ بن ابوسفیان، حضرت شداد سے روایت کرتے ہیں

عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ شَدَّادٍ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حضرت حسان کے بھائی کے بیٹے تھے انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کیلئے ایلیاء فتح کیا تھا۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف واپس آئے تو انہوں نے امارت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول کریم ﷺ کو امارت کا ذکر کرتے ہوئے سنا فرمایا: امارت کی ابتداء ملامت ہے درمیان ندامت ہے اور آخر میں قیامت کے دن اللہ کا عذاب ہے مگر جس نے رحم کیا اور دل کیا اور فرمایا: اس طرح اور اس طرح اپنے ہاتھ سے مال کے ساتھ پھر جتنا اللہ نے چاہا آپ ﷺ خاموش رہے پھر فرمایا: قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے کیسے عدل ممکن ہے؟

7036 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُزَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ افْتَتَحَ إِيْلِيَا لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَرِاجِعُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ الْإِمَارَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْإِمَارَةَ فَقَالَ: أَوَّلُ الْإِمَارَةِ مَلَامَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَعَدَلَ، وَقَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا يَبْدُو بِالْمَالِ ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ

قَالَ: كَيْفَ بِالْعَدْلِ مَعَ ذَوِي الْقُرْبَى؟

عُمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ

شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

عمر بن ربیعہ، حضرت شداد بن اوس

سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں سید الاستغفار کے متعلق نہ بتاؤں! صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: وہ یہ ہے: ”اللّٰهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْيَوْمَ آخِرُهُ“۔

7037 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

الْمَحْمُودِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدَنِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِسَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ حِينَ يُمِيتُ، فَيَمُوتُ مِنْ لَبْلَبِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ

سَابِطٍ عَنْ شَدَّادٍ

عبدالرحمن بن سابط، حضرت شداد

سے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: پچھتاگانے اور لگوانے والا روزہ افطار کریں۔

7038 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَدَّادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْطَرِ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُوفَلٍ عَنْ شَدَّادٍ

7039 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ
حُبَابٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي
الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُوفَلٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَهُ: أَلَا أَذُوكَ عَلَى سَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ؟ أَنْ
تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ إِلَهِي، أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ،
وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُهَا فَيَأْتِيهِ قَدَرُهُ فِي يَوْمِهِ
قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، أَوْ فِي مَسَائِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ،
إِلَّا كَانَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مِنْ اسْمِهِ شَيْبَةُ

شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ
بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ
بْنِ قُصَيِّ الْحَجَبِيِّ

يُكْنَى أَبَا عُثْمَانَ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَيُقَالُ:
يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ

مُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُوفَلٍ، حَضَرَتْ شَدَّادٌ سَے روایت کرتے ہیں

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں سید الاستغفار نے
متعلق نہ بتاؤں! صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ!
کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: وہ یہ ہے: ”اللَّهُمَّ أَنْتَ
إِلَهِي إِلَى آخِرِهِ“۔

جن کا نام شیبہ ہے

حضرت شیبہ بن عثمان بن طلحہ بن
عبد العزى بن عثمان بن
عبد اللہ بن عبد الدار بن
قصی جمی رضی اللہ عنہ

آپ کی کنیت ابو عثمان ہے فتح کے دن اسلام لائے تھے
بعض کہتے ہیں: حنین کے دن یہ موکفۃ القلوب میں سے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن زجاج فرماتے ہیں کہ میں نے شیبہ بن عثمان سے کہا: اے ابوعثمان! لوگ خیال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کعبہ کے اندر داخل ہوئے آپ نے نماز نہیں پڑھی فرمایا: جھوٹ کہتے ہیں آپ نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی پھر دونوں ستونوں کے ساتھ اپنی پشت اطہر اور شکم اطہر لگایا تھا۔

حضرت مصعب بن شیبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین کے دن نکلا اللہ کی قسم! میں اسلام کے لیے نہیں نکلا تھا نہ مجھے اسلام کی پہچان تھی میں انتظار میں تھا کہ ہوازن والے قریش پر غالب آئیں میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ گھوڑوں میں بلقاء کے گھوڑا دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے شیبہ! یہ تو کافر دیکھتا ہے آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا پھر فرمایا: اے اللہ! شیبہ کو ہدایت دے! پھر دوسری دفعہ مارا اور فرمایا: اے اللہ! شیبہ کو ہدایت دے! پھر تیسری دفعہ مارا اور فرمایا: اے اللہ! شیبہ کو ہدایت دے! اللہ کی قسم! تیسری دفعہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ مجھے آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے لوگ چلے اور آپ ﷺ اونٹنی یا خچر پر

7040 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّجَّاجِ، قَالَ: قُلْتُ لَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ: يَا أَبَا عُثْمَانَ، إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا، فَقَالَ: كَذَبُوا، لَقَدْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ، ثُمَّ أَلَصَقْتُ بِهِمَا بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ

7041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدَّبُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَاللَّهِ مَا أَخَّرَ حَنِينَ الْإِسْلَامَ، وَلَا مَعْرِفَةَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَنْفَتُ أَنْ تَظْهَرَ هَوَازِنُ عَلَى قُرَيْشٍ، فَقُلْتُ وَأَنَا وَأَقِفْ مَعَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى خَيْلًا بَلْقَاءَ؟ قَالَ: يَا شَيْبَةُ، إِنَّهُ لَا يَرَاهَا إِلَّا كَافِرٌ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ شَيْبَةَ، ثُمَّ صَرَبَهَا الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ شَيْبَةَ، ثُمَّ صَرَبَهَا الثَّالِثَةَ،

7040 - قال في المجموع جلد 3 صفحہ 295 وفيه عبد الرحمن بن الزجاج ولم أجد من ترجمة . وجيد الحافظ اسناده في

الفتح جلد 1 صفحہ 501 . وفي رواية فاطمة عبد الرحمن بن سليمان .

7041 - قال في المجموع جلد 6 صفحہ 184 وفيه أيوب بن جابر وهو ضعيف . ورواه من طريقه البيهقي في دلائل النبوة .

سوار تھے، حضرت عمر آپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے، حضرت عباس سواری کو پکڑے ہوئے تھے تا کہ بھاگ نہ جائے، صحابہ کرام چلے گئے، حضرت عباس نے بلند آواز میں کہا: اے اولین مہاجرین کہاں ہیں؟ سورہ بقرہ والے کہاں ہیں؟ حضور ﷺ فرما رہے تھے: میں نبی ہوں جھوٹ نہیں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ مسلمان تلواریں لہراتے ہوئے آئے، حضور ﷺ نے فرمایا: اب میدان گرم ہوگا، اللہ عزوجل نے مشرکوں کو بھگا دیا۔

فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ شَيْبَةَ، فَوَاللَّهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ مِنْ صَدْرِي مِنَ الثَّالِثَةِ حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: فَالْتَقَى النَّاسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ أَوْ بَغْلَةٍ، وَعُمَرُ أَخَذَ بِلِجَامِهِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخَذَ يُقْرِ دَابَّتَهُ، فَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ، فَنَادَى الْعَبَّاسُ بِصَوْتٍ لَهُ جَهِيرٍ، فَقَالَ: أَيَنْ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ؟ أَيَنْ أَصْحَابُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قُدَمًا: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَطَفَ الْمُسْلِمُونَ فَاصْطَكُوا بِالسُّيُوفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ حِمَى الْوُطَيْسُ، قَالَ: وَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ

7042 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَذَلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ شَيْبَةُ بْنُ عَثْمَانَ: لَمَّا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنَ، تَذَكَّرْتُ أَبِي وَعَمِّي، فَتَلَّهَمَا عَلَيَّ وَحَمْزَةً، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أُدْرِكُ ثَارِي فِي مُحَمَّدٍ، فَجِئْتُه فَاذًا الْعَبَّاسُ مِنْ يَمِينِهِ، عَلَيْهِ دِرْعٌ بَيْضَاءُ كَأَنَّهَا الْفِضَّةُ، فَكَشَفَ عَنْهَا الْعَجَاجَ، فَقُلْتُ: عَمَّهُ لَنْ يَخْذُلَهُ، فَجِئْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَاذًا أَنَا بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ: ابْنُ عَمِّي وَلَنْ يَخْذُلَهُ، فَجِئْتُهُ مِنْ خَلْفِهِ،

حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ حنین کے غزوہ پر تشریف لے گئے تو مجھے میرا باپ اور چچا یاد آئے جن کو حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما نے قتل کیا تھا۔ پس میں نے (اپنے دل میں) کہا: آج کے دن میں محمد ﷺ کی ذات میں اپنا بدلہ لوں گا۔ (اسی نیت سے) میں ان کی طرف آیا، پس میں نے دیکھا کہ حضرت عباس آپ ﷺ کے دائیں جانب ہیں، آپ پر سفید زرہ ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاندی ہو، پس میں نے کہا: ان کے چچا (عماد) ان کو اکیلا ہرگز نہ چھوڑیں گے، پس میں آپ ﷺ کے بائیں طرف سے آیا، پس میری نگاہ پڑی تو حضرت ابوسفیان بن حارث

فَدَنَوْتُ وَدَنَوْتُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ أُسَوِّرَهُ
سُورَةً بِالسَّيْفِ، رُفِعَ إِلَيَّ شَوَاطِظُ مِنْ نَارٍ كَانَتْهُ
الْبُرْقُ، فَخِفْتُ أَنْ يَمَحُشَنِي، فَكَصَّصْتُ
الْقَهْقَرَى، فَانْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَالَى يَا شَيْبُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي،
فَاسْتَخْرَجَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ مِنْ قَلْبِي، فَرَفَعْتُ إِلَيْهِ
بَصْرِي وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِي وَمِنْ بَصْرِي
'وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ لِي: يَا شَيْبُ قَاتِلِ الْكُفَّارَ،
ثُمَّ قَالَ: يَا عَبَّاسُ، اصْرُخْ بِالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَبِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ آوَوْا
وَنَصَرُوا، فَمَا شَبَّهْتُ عَظْفَةَ الْأَنْصَارِ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْبَقَرَ
عَلَى أَوْلَادِهَا، حَتَّى نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ حَرَجَةٌ، قَالَ:
فَلَرِمَاحُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّهُ عِنْدِي أَخُوفٌ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِمَاحِ
الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبَّاسُ نَاوِلْنِي مِنَ الْبَطْحَاءِ
'قَالَ: فَأَقْفَعَهُ اللَّهُ الْبَغْلَةَ كَلَامَهُ، فَأَخْفَضَتْ بِهِ
حَتَّى كَادَ بَطْنُهَا يَمَسُّ الْأَرْضَ، فَتَنَاولَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَصْبَاءِ، فَفَنَعَ
فِي وُجُوهِهِمْ، وَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ، حَمَّ لَا
يُنْصَرُونَ

(حضور ﷺ کے چچا کا بیٹا) موجود ہے۔ میں نے کہا: اُن
کے چچا کا بیٹا بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا! پس میں
آپ ﷺ کے پیچھے سے آیا! پس میں قریب ہوا اور میں
(مزید) قریب ہوا حتیٰ کہ جب صرف اتنی بات رہ گئی تو
ایک بہت بڑا شعلہ آگ کا میری طرف بلند ہوا! گویا کہ وہ
برق (آسمانی بجلی) ہے۔ پس مجھے خواب ہوا! پس بچھلے
پاؤں لوٹ گیا۔ پس (اتنے میں) نبی کریم ﷺ میری
طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا: اے شیب! آؤ! (میں آگے
ہوا) تو رسول کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو
اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے شیطان کو نکال دیا! پس میں
نے اپنی نگاہ آپ ﷺ کی طرف اٹھائی تو حال یہ تھا کہ
رسول کریم ﷺ میرے نزدیک میری سماعت! میری
بصارت اور فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب تھے۔ پس
آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: اے شیب! کافروں سے جا کر
جہاد کر۔ پھر فرمایا: اے عباس! وہ مہاجرین جنہوں نے
درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور وہ انصار جنہوں نے پناہ
دی اور مدد کی! سب کو بلاؤ۔ انصار نبی کریم ﷺ پر کتنے
مہربان تھے! اس کو میں نے تشبیہ دی ہے گائے کے ساتھ کہ
جس طرح وہ اپنی چھوٹی اولاد پر مہربان ہوتی ہے حتیٰ کہ
رسول کریم ﷺ پر قرآن کی کوئی سورت یا آیت نازل
ہوئی۔ راوی کہتے ہیں: رسول کریم ﷺ پر مجھے کافروں
کے تیروں کا اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا انصار کے
تیروں کا ہو رہا تھا۔ پھر فرمایا: اے عباس! وادی سے مجھے
کنکریاں پکڑا دے! کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے خچر کو کلام
کی سمجھ دی! پس وہ پست ہوا یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس

کا پیٹ زمین سے لگ جائے۔ رسول کریم ﷺ نے
کنکریاں پکڑیں پس ان کو دم کر کے ان کے منہ پر مارا
اور فرمایا: ”شاهت الوجوه“ حم لا ینصرون۔“

حضرت شیبہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
کعبہ میں داخل ہوئے آپ نے یہاں تصویریں دیکھیں
آپ نے فرمایا: اے شیبہ! میری اس کے بعد کفایت کرو
آپ نے حضرت شیبہ پر سختی کی فارس والوں میں سے ایک
آدی نے عرض کی: اگر آپ چاہیں تو میں مٹا دوں اور میں
نے زعفران کے ساتھ اس کو لپیٹ دوں پس اس نے ایسا
ہی کیا۔

7043 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

الرَّاسِبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ حِسَابٍ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ حُمَرَانَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ
مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ شَيْبَةَ، قَالَ: دَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ،
فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: يَا
شَيْبَةُ، اكْفِنِي هَذِهِ، فَأَشَدَّ ذَلِكَ عَلَى شَيْبَةَ،
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارَسَ: إِنَّ شَيْئًا طَلَبَتْهَا
وَلَطَخْتُهَا بِزَعْفَرَانٍ، فَفَعَلَ

7044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيُّوبَ،
صَاحِبُ الْمَغَازِي، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
ثَابِتِ الشَّمَالِيِّ، عَنْ مُحَيِّصَةَ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ
عُثْمَانَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ: ثَلَاثُ
لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قُلُوبُ مُؤْمِنِينَ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ،
وَالنُّصْحُ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَزُومُ جَمَاعَتِهِمْ،
فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

7045 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَسَامٍ،

حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے ہمیں مسجد خیف میں نماز پڑھائی آپ نے
فرمایا: مؤمن کا دل تین کاموں میں خیانت نہیں کرتا ہے:
(۱) عمل خلوص سے کرتا ہے (۲) ائمہ مسلمانوں کی اصلاح
کے لیے (۳) جماعت کو لازماً پکڑنے میں اگر تو دعا
کرے تو ان کے پیچھے سے کر۔

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدی

7043- قال في المعجم جلد 3 صفحہ 295 'ومسافع لم أجد من ترجمه .

7044- هذا الحديث وان كان في استاده من هو متكلم فيه فله شواهد .

7045- قال في المعجم جلد 3 صفحہ 295 'وفيه عبد الرحمن بن الزجاج ولم أجد من ترجمه . وجيد الحافظ ورواه

نے بطور ہدیہ کئی درہم دے کر کعبہ کی طرف بھیجا، میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت شیبہ کرسی پر بیٹھے تھے میں نے ان کو پکڑا دیا، آپ نے فرمایا: یہ آپ کے لیے ہے؟ میں نے کہا: نہیں! اگر میرے لیے ہوتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا، فرمایا: اگر آپ نے یہ کہا ہے تو حضرت عمر جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، فرمایا: اگر میں نکلوں تو میں تقسیم کر دوں گا، جو کعبہ میں ہیں مسلمان فقراء کے درمیان میں نے کہا: میں ایسے کرنے والا نہیں ہوں، فرمایا: میں ایسا کروں گا، آپ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے کہا: کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر نے اس جگہ کو دیکھا ہے پس ان دونوں کو آپ سے زیادہ اس مال کی ضرورت تھی ان دونوں نے اس کو حرکت نہ دی وہ کھڑا ہوا جیسے وہ تھارہ نکل گیا۔

حضرت ابو دائل شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیبہ بن عثمان کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا، مجھے کہا آپ کی اس مجلس میں میرے ساتھ حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں پس فرمایا: میں نے ارادہ کیا ہے کہ سفید اور زرد سب کو تقسیم کر دوں۔ حضرت شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: آپ کے دو ساتھیوں نے ایسے نہیں کیا، یعنی رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دونوں ایسے مرد ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔

وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَاصِلٍ الْأَحْذَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: بَعَثَ مَعِيَ رَجُلٌ بِدَرَاهِمٍ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ، فَنَازَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: لَكَ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ أَتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ أَخْرُجَ حَتَّى أَقْسِمَ مَا فِي الْكُعْبَةِ بَيْنَ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: لَا أَفْعَلَنَّ، وَلَمْ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهُمَا أَخْرُجَا مِنْكَ إِلَى هَذَا الْمَالِ، فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ

7046 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ

الرَّقَاشِيُّ، ثنا قَيْصَةُ بْنُ عُبَّةَ، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْذَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لِي: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ مَجْلِسَكَ

هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتْرُكَ فِيهَا
صَفْرَاءَ، وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا، يَعْنِي الْكَعْبَةَ
' قَالَ شَيْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ لَكَ صَاحِبَانِ
لَمْ يَفْعَلَا، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: هُمَا الْمَرَّانِ اقْتَدَى بِهِمَا

7047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
الْثَوْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنُ، ثنا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَّارَةَ، عَنْ
مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ
إِلَى الْمَجْلِسِ، فَإِنْ وَسِعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ، وَإِلَّا
فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَوْسَعِ مَكَانٍ يَرَى فَلْيَجْلِسْ

شَيْبَةُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ
عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ
أَبُو هَاشِمٍ خَالُ مُعَاوِيَةَ بْنِ
أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَأُمُّهُ خُنَاسُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ
الْمُضَرِّبِ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ مَوْعِصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ
لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ، وَكَانَ أَغْوَرَّ،

حضرت عثمان بن شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی جب مجلس میں بیٹھنے
لگے اگر جگہ کشادہ ہو تو بیٹھ جائے ورنہ کشادہ جگہ دیکھے اور
وہاں بیٹھ جائے۔

حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے
خالو حضرت شیبہ بن عتبہ بن ربیعہ
بن عبد شمس بن عبد مناف
ابو ہاشم رضی اللہ عنہ

آپ کی والدہ خناس بنت مالک بن مالک بن
مضر بن حثیر بن عبد معیص بن عامر بن لوی بن غالب
بن فہر بن مالک ہے آپ آنکھ سے معذور تھے یرموک کے

7047 - قال في المجموع جلد 8 صفحہ 59 'واسنادہ حسن . قلت: رواه لويين في قطعة من حديثه جلد 2 صفحہ 2' ومن طريقة

أيضاً رواه السلفي في الطبريات جلد 1 صفحہ 65 'وابن عساكر (2/77/8)' وله شاهدان ذكرهما شيخنا في

دن آپ کی آنکھ پھوڑی گئی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں وفات پائی۔

حضرت کھیل بن حرمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابو کلثوم دوسی کے پاس آئے وہاں نماز وسطیٰ کے متعلق گفتگو ہوئی تو دونوں نے اس میں اختلاف کیا جس طرح تم اختلاف کرتے ہو ہم حضور ﷺ کے گھر کے صحن میں تھے ہم میں سے ایک نیک آدمی ابو ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھا اس نے کہا: میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں وہ حضور ﷺ کے پاس آیا آپ سے گفتگو کی طاقت رکھتا تھا آپ سے اجازت مانگی آپ کے پاس داخل ہوا پھر آپ ہماری طرف نکلے ہمیں بتایا کہ نماز عصر مراد ہے۔

فَقِنْتُ عَنْهُ يَوْمَ الْيَوْمِ، وَتَوَقَّى فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7048 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، وَمُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ سَبْلَانَ، عَنْ كُهِيلِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى أَبِي كُثَيْبٍ الدَّوْسِيِّ، فَتَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ الْوُسْطَى، فَقَالَ: اخْتَلَفْنَا فِيهَا كَمَا اخْتَلَفْتُمْ، وَنَحْنُ يَفْنَاءُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِينَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَبُو هَاشِمٍ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ جَرِيرًا عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَأَخْبَرَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ

حضرت سمرہ بن سہم فرماتے ہیں کہ میں حضرت

7049 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ

7048 - قال في المعجم جلد 1 صفحہ 309 رواه الطبرانی في الكبير والبراز (391) وقال: لا نعلم روى أبو هاشم بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث وحديثا آخر. قلت: ورجاله موثقون. والحديث رواه ابن حبان في الثقات جلد 5 صفحہ 341 والطحاوی فی شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 341 وابن جریر فی تفسیرہ رقم الحديث: 5436 والحاكم جلد 3 صفحہ 638 وابن عساكر قال ابن كثير في تفسیرہ جلد 1 صفحہ 292 غریب من هذا الوجه جدًا. ورواه الحافظ نسبه في الاصابة الى السنن.

7049 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 443-444 جلد 5 صفحہ 290 والنسائي جلد 8 صفحہ 218-219 والترمذی رقم

الحديث: 2429 وابن ماجه رقم الحديث: 4103 والحاكم جلد 3 صفحہ 638. وصحح الحافظ اسنادہ

الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرٍ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، ثَنَا سَمُرَةُ بْنُ سَهْمٍ، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِيمٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يُعَوِّدُهُ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا يُبْكِيكَ، أَوْجَعَ يَشْمِزُّكَ؟ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟ فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ: لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ إِلَى عَهْدًا، فَوَدِدْتُ أَنِّي اتَّبَعْتُهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أُمُورًا تَقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فَوَجَدْتُ، فَجَمَعْتُ

7050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّبَاسِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا خَالَ مَا يُبْكِيكَ؟ أَوْجَعَ يَشْمِزُّكَ؟ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: كُلُّ لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ إِلَى عَهْدًا، لَمْ أَخُذْ بِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا هَاشِمٍ،

ابوہاشم بن عتبہ کے پاس آیا آپ پریشان تھے آپ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تجارت کرنے کے لیے آئے آپ رو پڑے حضرت امیر معاویہ نے آپ سے عرض کی: آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے یا دنیا کے لیے آپ کی پریشانی چلی جائے آپ نے فرمایا: کوئی بھی نہیں ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں نے آپ کی اتباع کرنا پسند کیا تھا حضور ﷺ نے فرمایا: یقیناً تیرے پاس مال ہوگا لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے مال جمع کرنے سے ایک خادم اور سواری ہو میں نے پایا اور میں نے جمع کیا۔

حضرت ابوواکل فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اپنے خالو حضرت ابوہاشم بن عتبہ بن ربیعہ کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے حضرت معاویہ نے فرمایا: اے خالو! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہے یا دنیا کی خواہش کے لیے؟ فرمایا: کچھ بھی نہیں! لیکن رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں نے اس پر عمل نہیں کیا آپ نے فرمایا: اے ابوہاشم! عنقریب تو دیکھے گا کہ تمہارے پاس بہت سا مال ہوگا تمہارے لیے دنیا جمع سے ایک خادم اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے سواری کافی ہے میں آج کے دن دیکھ رہا ہوں کہ میں نے مال جمع کیا ہے۔

سَتَرَى أَمْوَالًا يُوتَاهَا أَقْوَامٌ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ
جَمِيعِ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
فَإَرَانِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ

7051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ
الْقَطَّائِيُّ الهمداني، ثنا هاشم بن الوليد
الهروي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم،
عن أبي وائل، قال: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ،
فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ: مَا لَكَ أَجَزَعُ وَحِرْصٌ عَلَى
الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَسَى أَنْ
تُذَرَكُوا أَقْوَامًا يُؤْتِرُونَ أَمْوَالًا، وَإِنَّمَا يَكْفِي
أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا دَارٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

7052 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ
الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرَّازِيُّ، ثنا
الوليد بن سلمة الأزدي، ثنا يزيد بن حسان،
عن أبيه، أن أبا هاشم بن عتبة بن ربيعة كان له
شَارِبٌ يَعْقِدُهُ خَلْفَ قَفَاهُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ
شَارِبِكَ وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي إِخْفَاءِ الشَّارِبِ مَا جَاءَ؟ فَقَالَ: إِنِّي
كُنْتُ أَخْذُ شَارِبِي، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي بِهِ عَلَى، فَقَالَ: مَتَى
أَخْذْتُ شَارِبَكَ؟، قُلْتُ: السَّاعَةَ، قَالَ: فَلَا
تَأْخُذْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، فَتُؤْفَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اپنے
خالو کے پاس آئے تو جب ان کو دیکھا تو حضرت معاویہ
نے فرمایا: اے خالو! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا کی
خواہش کے لیے؟ فرمایا: کچھ بھی نہیں! لیکن رسول
اللہ ﷺ سے میں نے سنا آپ نے فرمایا: اے ابو ہاشم!
عنقریب تو کئی گروہ دیکھے گا کہ جو مالوں کو ترجیح دیں گے
تمہارے لیے دنیا سے ایک خادم اور اللہ کی راہ میں لڑنے
کے لیے سواری کافی ہے۔

حضرت یزید بن حسان اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں کہ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ کی مونچھیں تھیں وہ
نہیں اپنی گدی کے پیچھے باندھتے تھے میں نے کہا: آپ کی
مونچھیں کیا ہیں؟ حالانکہ حضور ﷺ سے روایت ہے کہ
مونچھیں کم کرو؟ فرمایا: میں نے اپنی مونچھیں پکڑی ہوئی
تھیں میں حضور ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے اپنا دست
مبارک مجھ پر پھیرا آپ نے فرمایا: تو نے اپنی مونچھیں
کب پکڑی ہیں؟ میں نے عرض کی: ابھی! آپ نے فرمایا:
ان کو نہ کاٹنا یہاں تک کہ تو مجھے ملے۔ رسول اللہ ﷺ کا
مجھ سے ملنے سے پہلے وصال ہو گیا اب میں آپ سے
ملنے تک انہیں نہیں کاٹوں گا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ أَلْقَاهُ، فَلَنْ أَجْزَهُ حَتَّى أَلْقَاهُ

شَيْبَةُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيُّ

حضرت شیبہ بن ابی کثیر اشجعی رضی اللہ عنہ

حضرت عمر بن شیبہ بن ابوکثیر اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: منہ کو نبیذ سے بچانا اس سے نیکیاں جھڑتی ہیں۔

7053 - حَدَّثَنَا مُسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ
الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
الْحِزَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ،
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَذِرُوا وَجْهَ
مِنَ النَّبِيلِ تَتَنَازَرُ مِنْهُ الْحَسَنَاتُ

حضرت عمر بن شیبہ بن ابوکثیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے خوش طبعی کر رہا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے دپایا تو وہ مرگئی رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک میں تھے میں آپ کے پاس آیا تو میں نے اپنی بیوی کی بات بتائی کہ میں نے غلطی سے ایسے کیا آپ نے فرمایا: تُو اس کا وارث نہیں ہو گا۔

7054 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
التُّسَيْرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ
الْوَاسِطِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ثنا
يَحْيَى بْنُ عُمَيْرٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ
شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ
أَدَاعِبُ امْرَأَتِي فَأَتَرَى فِي يَدِي، فَمَاتَتْ،
وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَبُوكَا، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ عَنِ امْرَأَتِي الَّتِي
أَصَبْتُهَا خَطَأً، فَقَالَ: لَا تَرْتَهَا

7053 - ورواه البغوي وابن قانع قال في المجمع جلد 5 صفحہ 72 فیہ الواقدي وهو ضعيف جدًا وقد وثق وقال الحافظ

الذهبي: فیہ الواقدي كذبہ أحمد وابن المدینی وغيرهما . ورواه فی الأوسط (388 مجمع البحرين) أيضًا . وانظر ما بعده . فهو حديث موضوع .

7054 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 230 'وعمر بن شيبه قال ابو حاتم مجهول .

مَنْ اسْمُهُ شَرْحَبِيلُ شَرْحَبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ

وَأَسْمُ أَبِيهِ شُفْعَةُ وَحَسَنَةُ أُمُّهُ، وَيُقَالُ:
إِنَّهَا مِنْ حَارِدٍ، وَيَكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْغَوْثِ
بْنِ مُرٍّ أَخِي تَمِيمِ بْنِ مُرٍّ، مِمَّنْ هَاجَرُوا إِلَى
أَرْضِ الْحَبَشَةِ، نَزَلَ الشَّامَ وَهُوَ مُلْعَقٌ بَنِي
نَجِيجٍ

7055 - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْعِ رَوْحُ بْنُ
الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ:
شَرْحَبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، وَهُوَ شَرْحَبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَاعِ بْنِ عَمْرِو، وَهُوَ رَجُلٌ
مِنَ الْغَوْثِ، وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: شَرْحَبِيلُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَاعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْغَطَرِيفِ
بْنِ عَبْدِ الْعَزَى بْنِ جَثَامَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بِلَادٍ بْنِ
مَالِكِ بْنِ دُهْمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ يَشْكُرَ بْنِ مَنَشَرِ بْنِ
الْغَوْثِ بْنِ مُرٍّ، أَخِي تَمِيمِ بْنِ مُرٍّ، وَيُقَالُ: إِنَّ
مِنْ كِنْدَةَ

7056 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنُ
سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
الْمَدِينِيُّ فَسْتَقَةَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الْمُسَيَّبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ
الْحَبَشَةِ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى قَدِمَ بَعْدَ بَدْرٍ،

جس کا نام شرحبیل ہے

حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ

آپ کے والد کا نام شفیعہ تھا، آپ کی والدہ کا نام
حسنہ تھا، آپ کو قبیلہ حادر کا کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت
ابو عبد اللہ بن غوث بن مر، تمیم بن مر کے بھائی ہیں، انہوں
نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، ملک شام آئے، ان کا تعلق
بنی نجیح سے تھا۔

حضرت یحییٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت شرحبیل
بن حسنہ شرحبیل بن حسنہ بن عبد اللہ بن مطاع بن عمرو ہیں،
قبیلہ غوث کے ایک آدمی ہیں۔ ابن کلبی فرماتے ہیں:
شرحبیل بن عبد اللہ بن مطاع بن عبد اللہ بن غطریف بن
عبد العزیٰ بن جثامہ بن مالک بن بلاد بن مالک بن دھم
بن سعد بن یشکر بن منشر بن غوث بن مر، تمیم بن مر کے
بھائی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبیلہ کندہ کے رہنے والے
ہیں۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حبشہ
کی طرف ہجرت کی، ان ناموں میں سے ایک نام شرحبیل
بن عبد اللہ کا بھی ہے، آپ وہاں رہے، بدر کی لڑائی کے بعد
آئے، آپ کی والدہ کا نام حسنہ ہے۔

شُرْحَبِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَسَنَةُ أُمُّهُ

7057 - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْعِ رَوْحُ بْنُ
الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوِّفِيَ
شُرْحَبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ وَيَكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ
سَبْعِ عَشْرَةٍ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةٍ، سَنَةُ سَبْعِ وَسْتُونَ،
وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

7058 - حَدَّثَنَا مُطَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ
الْأَزْدِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ، عَنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ
عَمِيرَةَ، قَالَ: طُفِنَ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَشُرْحَبِيلُ ابْنُ
حَسَنَةَ، وَأَبُو مَالِكٍ جَمِيعًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

مَا أَسْنَدَ شُرْحَبِيلُ
ابْنُ حَسَنَةَ

7059 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ،
وَمَطَرُ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونَ بِالشَّامِ،
فَنَحَطَبْنَا عُمُرَ بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا
الطَّاعُونَ رَجَسٌ، فَفِرُّوا مِنْهُ فِي الْأَوْدِيَةِ
وَالشَّعَابِ، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ شُرْحَبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ،
فَقَالَ: كَذَبَ عُمَرُ، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ

حضرت یحییٰ بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت شرحبیل بن
حسنہ کا وصال ۱۷ یا ۱۸ ہجری کو ہوا آپ کی عمر ۶۷ سال تھی
آپ حضرت عمر بن خطاب کے عامل تھے آپ کی کنیت
ابو عبد اللہ تھی۔

حضرت حارث بن عمیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت
ابو عبیدہ شرحبیل بن حسنہ اور ابو مالک تمام ایک ہی دن میں
طاعون کا شکار ہوئے۔

حضرت شرحبیل بن حسنہ کی روایت
کردہ احادیث

حضرت عبدالرحمن بن غنم فرماتے ہیں کہ ملک شام
میں طاعون کی بیماری پھیلی، ہمیں حضرت عمرو بن عاص نے
خط دیا اور فرمایا: یہ طاعون ایک بیماری ہے اس سے بھاگو
دیہات اور اونچی جگہ چلے جاؤ۔ یہ بات حضرت شرحبیل بن
حسنہ تک پہنچی آپ نے فرمایا: حضرت عمرو نے جھوٹ بولا
میں رسول اللہ ﷺ کا صحابی ہوں اور عمرو اپنے گھروالوں
کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے یہ تمہارے رب کی رحمت
ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے تم سے پہلے نیک لوگوں کا

وصال ہوا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمَرُوا أَضْلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، وَلَكِنَّهُ رَحْمَةً رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةً نَبِيِّكُمْ، وَوَفَاةً الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ

حضرت شرحبیل بن شفعہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تو حضرت عمرو کھڑے ہوئے اور فرمایا: یہ بیماری ہے اس سے بھاگ جاؤ۔ حضرت ابن حسنہ نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کا صحابی ہوں یہ عمرو اپنے گھر والوں کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے یہ طاعون تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے تم سے پہلے نیک لوگوں کی وفات اسی وجہ سے ہوئی اس کے آنے پر اکٹھے رہو علیحدہ نہ ہو۔ یہ بات حضرت عمرو تک پہنچی تو فرمایا: حضرت شرحبیل نے سچ کہا ہے۔

7060 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَمِيرٍ، عَنْ شَرْحَبِيلِ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، فَقَامَ عَمْرُو، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، قَالَ ابْنُ حَسَنَةَ: قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَضْلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةٌ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فَاجْتَمِعُوا لَهُ، وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرًا، فَقَالَ: صَدَقَ

حضرت شرحبیل بن حسنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نماز کی دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے تک بیٹھے نہیں پھر دو سجدے سہو کے کرنے کے بعد سلام پھیرا (تعلیم امت کے لیے کیونکہ انبیاء علیہم السلام ہر غلطی سے محفوظ ہوتے ہیں)۔

7061 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُزَيْقٍ، الْبَصْرِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْقَافِقِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَرْحَبِيلِ ابْنِ حَسَنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ

مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَقْعُدْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ،
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

شَرَحْبِيلُ بْنُ
أَوْسِ الْكِنْدِيِّ

حضرت شرحبیل بن اوس
کندی رضی اللہ عنہ

7062 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَعَلِيُّ بْنُ
عِيَّاشٍ الْحِمَصِيُّ، قَالَا: ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ،
ثنا أَبُو الْحَسَنِ نُمْرَانُ بْنُ مَخْمَرٍ، عَنْ شَرَحْبِيلِ
بْنِ أَوْسِ الْكِنْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ
فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ
شَرِبَهَا الثَّلَاثَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ
فَاقْتُلُوهُ

شَرَحْبِيلُ الْجُعْفِيُّ

7063 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ
الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ
يَزِيدَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ
شَرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ شَرَحْبِيلَ، قَالَ: كُنَّا
جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ
جَاءَهُ أَعرَابِيٌّ طَوِيلٌ أَبْيَضٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

حضرت شرحبیل بن اوس کندی رسول اللہ ﷺ کے
صحابی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کوئی
شراب پئے تو اسے کوڑے مارو اگر دوسری مرتبہ پئے تو اسے
کوڑے مارو اگر تیسری مرتبہ پئے تو اسے کوڑے مارو اگر
چوتھی مرتبہ پئے تو اسے قتل کر دو۔

حضرت شرحبیل جعفی رضی اللہ عنہ

حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لمبا
سفید دیہاتی آدمی آیا اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں
بوڑھا ہوں بخار سخت ہے قبر میں لے جانے والا ہے۔
حضور ﷺ نے فرمایا: تم بزرگ ہو سخت بخار تمہارے
گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے دوبارہ عرض کی تو
حضور ﷺ نے دوبارہ اسی کی مانند فرمایا تین یا چار مرتبہ

حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تو انکار کرتا ہے تو پھر ایسے ہی ہو جس طرح تو کہتا ہے اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا دوسرے دن کی صبح ہوئی تو وہ مر گیا تھا۔

اللَّهُ، شَيْخٌ كَبِيرٌ بِهِ حُمَى تَفُورُ، تُزِيرُهُ الْقُبُورُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيْخٌ كَبِيرٌ، بِهِ حُمَى تَفُورُ هِيَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ فَأَعَادَهَا، وَأَعَادَهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِذَا أُبَيَّتَ فَبَيَّ كَمَا تَقُولُ، وَمَا قَضَى اللَّهُ فَهُوَ كَائِنٌ، قَالَ: فَمَا أَمْسَى مِنَ الْعَدِ إِلَّا مَيِّتًا

حضرت شریحیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کے مشاغل بڑھ جائیں وہ عمان چلا جائے۔

7064 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الضَّيْعَةُ، فَعَلَيْهِ بِعُمَانَ

حضرت شریحیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس حالت میں کہ میری ہتھیلی کی کھال ابھری ہوئی تھی، یعنی پھوڑا یا زخم تھا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ مجھے تکلیف دیتی ہے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھنے کے وقت اور سواری کی مہار یا لگام پکڑنے کے وقت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے قریب ہو! پس میں آپ ﷺ کے قریب ہوا۔

7065 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَفْتِي سَلْعَةً، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذِهِ السَّلْعَةُ قَدْ آذَنَنِي، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَائِمَةِ

7064 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 62 'وفيه ومن لم أعرفهم .

7065 - قال في المجموع جلد 8 صفحہ 298 'ومخلد من فوفه لم أعرفهم' وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البخاری فی

التاريخ الكبير (250/2) 'ونقل الحافظ في اللسان عن العلاءي في الوشي أنه لم يعرف حال مخلد ووالده .

آپ ﷺ نے فرمایا: اپنا ہاتھ کھول! پس میں نے ہاتھ کھولا پھر فرمایا: اب اسے بند کر! پس میں نے بند کیا فرمایا: میرے قریب آ! میں آپ ﷺ کے قریب آیا فرمایا: اسے کھولو! میں نے کھولا پس آپ ﷺ نے میری ہتھیلی میں لعاب دہن ڈالا پھر زخم پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسلسل اپنی ہتھیلی کے ساتھ اسے ملتے رہے حتیٰ کہ اس کا نشان ختم ہو گیا اس کا نشان مجھے نظر نہ آتا تھا۔

حضرت شرحبیل بن اعور ابو شمربابی ذوالجوشن رضی اللہ عنہ

حضرت ذی الجوشن قبیلہ ضباب کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا بدر کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھوڑے کے بچے کو لے کر جو میرے پاس تھا اس کو قرقاء کہا جاتا تھا میں نے عرض کی: اے محمد! میں اپنے گھوڑے کے بیٹے قرقاء کے ساتھ آپ ﷺ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ اس کو لے لیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے متعلق بدر کی زبرہوں کا فیصلہ کروں تو وہ کرتا ہوں میں نے عرض کی: میں آج اس کے

السَّيْفِ أَنْ أَقْبِضَ عَلَيْهِ، وَعَنْ عَنَانَ الدَّائِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْنُ مِنِّي قَدْ نَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: افْتَحْ يَدَكَ فَفَتَحْتُهَا ثُمَّ قَالَ: أَقْبِضْهَا فَاقْبَضْتُهَا قَالَ: اذْنُ مِنِّي قَدْ نَوْتُ مِنْهُ قَالَ: افْتَحْهَا فَفَتَحْتُهَا، فَفَتَّحْتُ فِي كَفِّي، ثُمَّ وَضَعْتُ يَدَهُ عَلَى السَّلْعَةِ، فَمَا زَالَ يَطْحَنُهَا بِكَفِّهِ حَتَّى رَفَعَ عَنْهَا، وَمَا أَرَى أَثَرَهَا

شُرْحَبِيلُ بْنُ الْأَعْوَرِ أَبُو شَمْرِ الضَّبَابِيُّ ذُو الْجَوْشَنِ

7066 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْبِيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالُوا: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ، رَجُلٍ مِنَ الضَّبَابِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَعَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بَابِنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا: الْقَرْحَاءُ، فَقُلْتُ:

7066 - ورواه أحمد جلد 3 صفحہ 484 جلد 4 صفحہ 67-68 ورواه ابن أبي شيبة في المصند جلد 14 صفحہ 375-376

وعنده ولعوا بك وابن سعد في الطبقات جلد 6 صفحہ 46-47 وأبو داود رقم الحديث: 2769 ومن طريقه البيهقي

في السنن الكبرى جلد 9 صفحہ 108-109. نقل صاحب عون المعبود عن الشرح: والحديث لا يثبت فانه دائري

الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته .

يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لَتَسْخِذَهُ،
قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْضِيكَ
بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ ذُرُوعِ بَذْرِ فَعَلْتُ، مَا
كُنْتُ لَأَقْضِيَهُ الْيَوْمَ بَعِيرِهِ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي
فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ذَا الْجَوْشَنِ، أَلَا تُسَلِّمُ،
فَتَكُونُ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ:
لِمَ؟ قُلْتُ: رَأَيْتُ قَوْمَكَ لِعَبْوَا بِكَ - قَالَ أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ: لِعَبْوَا بِكَ - قَالَ:
فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ بَذْرٌ؟ قُلْتُ: قَدْ
بَلَغَنِي قَالَ: عَقْدُ بِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَنْ تَغْلِبَ
عَلَى السَّكْبَةِ وَتَقْطِنَهَا، قَالَ: لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ
أَنْ تَسْرَى ذَلِكَ قَالَ: يَا بِلَالُ وَخُذْ حَقِيقَةَ
الرَّجُلِ، فَرَزِدْهُ مِنَ الْعَجْوَةِ، فَلَمَّا أَذْبَرْتُ قَالَ:
أَمَّا إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ فُرْسَانِ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: فَوَاللَّهِ
إِنِّي بِأَهْلِي بِالْقُورِ، إِذَا أَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ: مِنْ
أَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ مَكَّةَ قُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قَالَ:
وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَطِنَهَا، قُلْتُ: مَهْلِكِي أُمِّي، فَوَاللَّهِ لَوْ
أُسْلِمَ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ أَسْأَلَهُ الْحَبْرَةَ لَأَقْطَعْنِيهَا قَالَ
أَبُو مُسْلِمٍ: قَالَ مُسَدَّدٌ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
قَالَ: اسْمُهُ شَرْحِبِيلُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ذَا
الْجَوْشَنِ، لِأَنَّهُ كَانَ نَاتِيءَ الصَّدْرِ

شَرْحِبِيلُ بْنُ الْأَعْوَرِ أَبُو شَمْرٍ الضَّبْيَانِيُّ ذُو الْجَوْشَنِ

بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروانا چاہتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے
اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر فرمایا: اے ذی جوشن! کیا تو
اسلام نہیں لائے گا۔ پس اس معاملے میں سب سے پہلے
ہوگا؟ میں نے کہا: جی نہیں! فرمایا: کیوں؟ میں نے کہا: میں
نے آپ کی قوم کو دیکھا ہے۔ آپ نے ان کو خوب تھکا
ہے۔ حضرت ابوبکر بن ابوشیبہ نے اپنی روایت میں کہا:
”لَعِبُوا“ (کھیلے ہیں) ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بذر
کے مقام پر ان کی قتل گاہوں کے بارے تمہیں کیسے خبر ملی
ہے؟ میں نے کہا: مجھے خبر مل گئی ہے۔ آپ ﷺ نے
فرمایا: تیرے ساتھ کوئی وعدہ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں کہ
آپ کعبہ پر غالب آکر اسے آباد کریں۔ فرمایا: ممکن ہے
اگر تو زندہ رہا تو اسے دیکھے گا۔ فرمایا: اے بلال! اس آدمی
کا تھیلہ پکڑ کر اس میں عجوہ کھجوریں بھر دے۔ پس جب میں
واپس ہوا تو فرمایا: یہ آدمی بنوعامر کے بہترین شاہسواروں
سے ہے۔ راوی کا بیان ہے: قسم بخدا! فور کے مقام پر میں
اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا جب ایک اونٹ سوار آیا، میں
نے کہا: کہاں سے آیا ہے؟ کہا: مکہ سے۔ میں نے کہا:
لوگوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا: قسم ہے حضرت محمد ﷺ
مکہ پر غالب آ گئے ہیں اور اسے (مجدوں سے) آباد کر
دیا۔ میں نے کہا: (کاش) میری ماں نے مجھے نہ جتنا ہوتا
قسم بخدا! (کتنا ہی اچھا تھا) اس دن اگر میں مسلمان ہو گیا
ہوتا، پھر میں نے اس سوار سے حیرہ کے بارے سوال کیا
جسے عبور کر کے وہ میرے پاس آیا۔ حضرت ابوسلم کہتے
ہیں: مسدد نے کہا: مجھے ابن مبارک سے حدیث پہنچی ہے

فرماتے ہیں: ان کا اصل نام شراحیل ہے، ابن کو ذی جوشن کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا سینہ ابھرا ہوا تھا۔

جن کا نام شراحیل ہے
حضرت شراحیل بن مرہ
ہمدانی رضی اللہ عنہ

مِنْ اسْمِهِ شَرَا حِيلٌ
شَرَا حِيلُ بْنُ
مُرَّةَ الْهَمْدَانِيُّ

حضرت حجر بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے شراحیل بن مرہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا: اے علی! آپ کے لیے خوشخبری ہو! آپ کی زندگی اور موت میرے ساتھ ہے۔

7067 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَادِعِيُّ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: سَمِعْنَا عَبْدَ بْنَ زَيْدٍ الْأَسَدِيَّ، سَمِعَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ حُجَّيَّةِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَرَا حِيلَ بْنَ مُرَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبَشِّرْ يَا عَلِيُّ، حَيَاتَكَ وَمَوْتَكَ مَعِيَ

جن کا نام شریک ہے
شریک بن طارق بن سفیان
احد بنی ثعلبہ بن ذبیان

مِنْ اسْمِهِ شَرِيكُ
شَرِيكُ بْنُ طَارِقِ بْنِ
سُفْيَانَ أَحَدُ بَنِي ثَعْلَبَةَ

7067- قال في المجموع جلد 9 صفحہ 112 'واسنادہ حسن . قلت: كيف يكون اسنادہ حسناً وفي اسنادہ حجر بن عدی قال الذہبی: لا يعرف' وأبو البختری فيه تشيع' وأبو اسحاق السبيعي اختلط' وقيس بن الربيع قال الحافظ في تخریج أحاديث المختصر صفحہ 226 تفریع ولم يتميز حديثه وقال التقريب: صدوق تغير لما كبر ادخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به' وعبادة متكلم فيه ورمي بالتشيع .

بْنُ ذُبْيَانَ بْنِ نُعَيْضِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ

7068 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ
الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ طَارِقٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلٍ، قَالُوا: وَلَا
أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ
يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ

7069 - حَدَّثَنَا الْيَقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا
أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ
بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلٍ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ
بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ

7070 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ
زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ طَارِقٍ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلٍ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا

بْنُ نُعَيْضِ بْنِ رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ

حضرت شریک بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل
سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحابہ کرام نے عرض کی
یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں
لیکن مجھے اللہ عزوجل نے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ
لیا ہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل
سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحابہ کرام نے عرض کی
یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں
لیکن مجھے اللہ عزوجل نے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ
لیا ہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل
سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحابہ کرام نے عرض کی
یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں
لیکن مجھے اللہ عزوجل نے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ
لیا ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ
بِرَحْمَةٍ

7071 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو

الْقَطَرَانِيُّ، ثنا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا
أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ
طَارِقٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، قَالُوا:
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا
يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ

7072 - حَدَّثَنَا الْمُقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،
عَنْ شَرِيكَ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ
شَيْطَانٌ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَاسْتَلَمَ

7073 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو

الْقَطَرَانِيُّ، ثنا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا
أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ
طَارِقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ، قَالُوا:
وَلَكَ؟ قَالَ: وَلِي، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ

حضرت شریک بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل
سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، صحابہ کرام نے عرض کی:
یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں
لیکن مجھے اللہ عزوجل نے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ
لیا ہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ساتھ
شیطان ہوتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ!
آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی ہے
مگر یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے میری اس کے خلاف مدد
فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔

حضرت شریک بن طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ساتھ
شیطان ہوتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ!
آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی ہے
مگر یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے میری اس کے خلاف مدد
فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔

حضرت شریک بن حنبل شریک
صحابہ میں سے ایک آدمی ہے
اس کا نسب معلوم نہیں ہے

حضرت شریک صحابہ میں سے ایک آدمی رسول
اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو زنا
کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے جو شراب بغیر مجبوری
اور تنگی کے پیتا ہے اس سے بھی ایمان نکل جاتا ہے جو
لوگوں کو لوٹتا ہے اس سے بھی ایمان نکل جاتا ہے اگر توبہ
کرے گا تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔

شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ شَرِيكُ
رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ
غَيْرُ مَنْسُوبٍ

7074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ الْمَهْرَقَانِيُّ، ثنا
عَامِرُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، عَنْ
عَنْبَسَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ شَرِيكٍ،
رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، وَمَنْ
شَرِبَ الْخَمْرَ غَيْرَ مُكْرَهٍ، وَلَا مُضْطَرٍّ خَرَجَ
مِنْهُ الْإِيمَانُ، وَمَنْ انْتَهَبَ نَهْيَةً يَسْتَشِيرُ فِيهَا
النَّاسَ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ
عَلَيْهِ

حضرت شریک بن حمید
عبسی رضی اللہ عنہ

شَكْلُ بْنُ حُمَيْدٍ
الْعَبْسِيُّ

حضرت شکل بن حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

7075 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

7074 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 101 وفيه جماعة لم أعرفهم . وعنده عن شريك عن رجل من الصحابة كذا هو في
الفتح جلد 12 صفحہ 61 وقال: اسناده جيد وما ذكره في الاصابة جلد 3 صفحہ 349 موافق لما هذا الا أنه عنده
هناك عن يعقوب القمي عن عيسى بن جارية وقال: رجاله ثقات . وقال في رواية ابن شاهين وابن قانع زيادة عنبة
الرازي . قلت: هو عند المصنف كذلك .

7075 - ورواه أحمد جلد 3 صفحہ 429 وأبو داود رقم الحديث: 1536 والحاكم جلد 1 صفحہ 532-533 وصححه
ووافقه الذهبي . ورواه أيضًا الترمذي رقم الحديث: 3558 وحسنه والنسائي جلد 8 صفحہ 256, 259, 260 .

حضور ﷺ کے پاس آیا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے پناہ مانگنے کا ڈھنگ سکھائیں جس کے ذریعے میں پناہ طلب کروں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا پھر فرمایا: تُو پڑھ ”اعوذ بك من شر نفسي الى آخره“۔ مجھے فرمایا: اس کو یاد کر لے۔

ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْكَاتِبُ، حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى الْعَبْسِيُّ، أَنَّ شَتِيرَ بْنَ شَكْلٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي تَعْوِذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ مَنِيَّتِي. ثُمَّ قَالَ لِي: احْفَظْهَا. قَالَ سَعْدٌ: وَالْمَنِيُّ مَأْرُهُ

حضرت شفی بن ماتع اصحی رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے

شُفَى بْنُ مَاتِعٍ الْأَصْبَحِيُّ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي صُحْبَتِهِ

حضرت شفی بن ماتع اصحی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: چار لوگ ایسے ہیں جن سے جہنم والوں کو تکلیف دیں گے، جہنم والوں کو ان کی وجہ سے تکلیف ہوگی وہ حمیم اور جحیم کے درمیان چلیں گے ویل اور ثبور کے ساتھ پکاریں گے، جہنم والے ایک دوسرے سے کہیں گے: ان کو کیا ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے فرمایا: ایک وہ آدمی جس پر انگاروں بھرا تابوت بند کر دیا گیا ہوگا۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنی آنتیں گھینتا

7076 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنْعَمِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْعَجَلِيِّ، عَنْ شُفَى بْنِ مَاتِعٍ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى، يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالْثُبُورِ، يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضٍ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ
الْأَذَى؟ قَالَ: فَرَجُلٌ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ
جَمْرٍ، وَرَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ، وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ
قَيْحًا وَدَمًا، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ، قَالَ: فَيَقَالُ
لِصَاحِبِ التَّابُوتِ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى
مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى؟ قَالَ: فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ مَاتَ
وَفِي عُنُقِهِ أَمْوَالٌ إِلَى النَّاسِ مَا نَجِدُ لَهَا قَضَاءً
أَوْ وَفَاءً، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ: مَا بَالُ
الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقَالُ:
إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ لَا يَبَالِي إِنْ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لَا
يَغْسِلُهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا:
مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى؟
فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ

شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ الْمَدَنِيُّ

7077 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ:
شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يُنْظَرُ
إِلَى الْمُرُودِ فِي الْمَكْحَلَةِ، فَجَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ

ہوگا۔ تیسرا وہ آدمی جس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہو
گا چوتھا وہ آدمی جو اپنا گوشت آپ کھاتا ہوگا۔ فرمایا:
تابوت والے کیلئے کہا جائے گا: دُور والے کو کیا ہے جو ہمیں
تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا: وہ کہے گا: بے شک دُور والا فوت
ہوا اس حال میں کہ اس کے ذمے لوگوں کے مال تھے جن کو
ہم پورا نہ کر سکتے تھے پھر اس آدمی کی نسبت کہا جائے گا جو
آنتیں گھسیٹتا ہوگا اس دُور والے کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی
وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ پس کہا جائے گا: بے
شک یہ دُور والا اپنا جسم نہیں دھوتا تھا جب اسے چھوٹا
پیشاب لگ جاتا لا پرواہی کرتا تھا پھر جس کے منہ سے
پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا اس کے حوالے سے پوچھا جائے
گا کہ اس دُور والے کا معاملہ کیا ہے کہ ہم کو تکلیف ہو رہی
ہے؟ پس جواب ہوگا: یہ آدمی لوگوں کے گوشت کھاتا تھا
یعنی غیبت کرتا تھا۔

حضرت شبیل بن معبد مدنی رضی اللہ عنہ

حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ ابو بکر نافع،
شبیل بن معبد نے مغیرہ بن شعبہ کے خلاف گواہی دی کہ
انہوں نے اس کو دیکھا ہے جس طرح سرمہ دانی میں سلائی
دیکھی جاتی ہے زیاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
ایک آدمی آیا ہے جو حق کی گواہی دیتا ہے اس نے کہا: میں
نے برا منظر دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حد

کے لیے کوڑے لگائے۔

عُمَرُ: جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِحَقٍّ، فَقَالَ: رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَبِيحًا وَانْتِهَارًا قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ

شیبان ابو یحییٰ انصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ہبیرہ کے دادا

شَيْبَانُ أَبُو يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ
جَدُّ أَبِي هُبَيْرَةَ

حضرت شیبان فرماتے ہیں کہ وہ مسجد کی طرف آئے حضور ﷺ کے بعض حجرات کے پاس بیٹھ گئے آپ نے ان کی آواز سنی آپ نے فرمایا: ابو یحییٰ! میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: داخل ہو جاؤ! حضرت ابو یحییٰ داخل ہوئے حضور ﷺ کھانا کھا رہے تھے آپ نے فرمایا: آؤ کھانا کھاؤ! عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے روزہ کا ارادہ کیا ہے آپ نے فرمایا: میں نے بھی روزے کا ارادہ کیا ہے عرض کی: ہمارے مؤذن کی آنکھ خراب ہے وہ فجر سے پہلے اذان دے دیتا ہے۔

7078 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ جَدِّهِ شَيْبَانَ أَنَّهُ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: أَبَا يَحْيَى قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ادْخُلْ فَدَخَلَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: هَلَمْ إِلَى الْغَدَاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، إِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ

حضرت شریح بن ابرہہ رضی اللہ عنہ

شُرَيْحُ بْنُ أَبِرْهَةَ

حضرت شریح بن ابرہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصِيرٍ

7078- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 153 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (131 مجمع البحرين) وفيه قيس ابن الربيع وثقة شعبة والثوري وفيه كلام .

7079- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 264 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (152 مجمع البحرين) بنحوه وفيه شریح بن القطامي وهو ضعيف . قلت: الشاذ کونی اتهم بوضع الحديث وفيه من لم نر لهم ترجمة كذا في المخطوطة تبعاً للإصابة محل بن وداعة والذي في الجرح ولا تعديل والتجريد وأسد الغابة محل بن وداعة . وضعف الحفاظ .

میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے تشریق کے دنوں میں نمازِ ظہرِ نحر کے دن تکبیر کہی یہاں تک کہ آپ مٹی سے نکلے۔

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكُونِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا شَرْقِيُّ بْنُ قَطَامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَلِّ بْنِ وَدَاعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أِبْرَهَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَنَى

حضرت شریح بن ابرہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ مٹی سے نکلنے تک تشریق کے دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے آپ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے۔

7080 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الرَّعْفَرَانِيُّ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ السَّعْدِيُّ أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا شَرْقِيُّ بْنُ قَطَامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَلِّ بْنِ وَدَاعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أِبْرَهَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبُرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنَى، يُكَبِّرُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ

من اسمه شهاب رجل من الصحابة

جس کا نام شہاب ہے
صحابہ میں سے ایک آدمی حضرت
شہاب رضی اللہ عنہ آپ ملک مصر
آئے تھے

مَنْ اسْمُهُ شِهَابٌ
شِهَابٌ رَجُلٌ مِّنَ
الصَّحَابَةِ، كَانَ
يَنْزِلُ مِصْرَ

حضور ﷺ کے صحابہ میں سے ایک حضرت شہاب

7081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ

جو مصر آئے تھے (وہ فرماتے ہیں کہ) انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے مؤمن کے عیب پر پردہ ڈالا گویا اس نے مرد کو زندہ کیا۔

الْحَلْبِيُّ، ثَنَا الْقَنْبِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الدِّيَّالِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ شَهَابٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَنْزِلُ بِمِصْرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَيِّتًا

حضرت عاصم بن کلیب کے دادا حضرت شہاب بن مجنون رضی اللہ عنہ

آپ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: آپ کا نام شیب ہے، بعض کہتے ہیں: شتیر ہے۔

حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک اپنی ران مبارک پر رکھا تھا اور سبابہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے: اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ (تعلیم امت کے لیے دعا ہے)۔

شِهَابُ بْنُ الْمَجْنُونِ
جَدُّ عَاصِمِ بْنِ كَلِيبٍ

وَاخْتَلَفَ فِي اسْمِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْمُهُ شَيْبٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَتِيرٌ

7082 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا أَبُو مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى فِخْذِهِ يُشِيرُ بِالسَّبَابَةِ، وَيَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

هذا في النقات وذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . فهو مجهول .

7082 - رواه الترمذی رقم الحديث: 3657 وقال: حديث غريب من هذا الوجه . قلت: وله شواهد من حديث أنس وجابر والنسابة بن سميان . وقال الحافظ في الإصابة جلد 3 صفحہ 365 ورجاله موثقون إلا أن أبا داود قال: عاصم بن کلیب عن أبيه عن جده ليس بشيء .

شَبِيبُ بْنُ نَعِيمٍ،
لَمْ يُنْسَبْ

حضرت شیب بن نعیم رضی اللہ عنہ
جن کا نسب معلوم نہیں ہے

حضرت شیب بن نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ فرماتے ہیں: اُمِ مَلْدَم (یعنی بخار) گوشت
کھاتا ہے (یعنی کم کرتا ہے) اور خون پیتا ہے (یعنی کم کرتا
ہے) اس کی سردی اور گرمی جہنم سے ہے۔

7083 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا

سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا بَقِيعَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
شَبِيبِ بْنِ نَعِيمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِ مَلْدَمٍ تَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَتَشْرَبُ
الدَّمَ، بَرْدُهَا وَحَرُّهَا مِنْ جَهَنَّمَ

شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو،
لَمْ يُنْسَبْ

حضرت شعیب بن عمرو رضی اللہ عنہ
آپ کا نسب معلوم نہیں

حضرت انس بن مالک اور شیب بن عمرو اور ناجیہ
بن عمرو فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ
آپ نے خضاب لگایا تھا۔

7084 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْفِيِّ

السُّكْرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ،
ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا عَالِدُ بْنُ شَرِيحٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَشُعَيْبَ بْنَ عَمْرٍو،
وَنَاجِيَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا: رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ

حضرت شطب الحمد ود

شَطْبُ الْمَمْدُودُ

7083 - قال في المجموع جلد 2 صفحہ 307 وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس . قلت: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وفي سويد بن سعيد كلام .

7084 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 161-162 وفيه عالد بن شريح وهو ضعيف . قال ابن عبد البر في الاستيعاب صفحہ 709 لا يصح حديثه .

أَبُو طَوِيلٍ

ابوطویل رضی اللہ عنہ

7085 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ

الْحَوَاطِي، ثنا أَبُو السُّمَيْرَةِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي طَوِيلٍ شَطِبِ الْمَمْدُودِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا عَمِلَ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَاهَا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهِنَّ، قَالَ: وَعَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى

شُوَيْفَعٌ،

لَمْ يُنْسَبْ

7086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

حضرت شویفیع رضی اللہ عنہ

ان کا نسب معلوم نہیں

حضرت شویفیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7085 - قال في المجمع جلد 1 صفحه 32 رواه الطبرانی والبخاري بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون

أبي نسيب وهو ثقة . وكذا في جلد 10 صفحه 202 . قال الحافظ في الاصابة جلد 3 صفحه 350 هو على شرط

الصحيح، ثم ذكر له شاهدًا من حديث عمرو بن عتبة .

7086 - قال الحافظ في الاصابة جلد 3 صفحه 367 الوليد بن سلمة ضعيف نسبه الى وضع الحديث وأما الحافظ الهيثمي

فقال في المجمع جلد 10 صفحه 284 وفيه من لم أعرفهم .

حضور ﷺ نے فرمایا: جو حیاء نہ کرے اس کے ساتھ جو اس نے کہا یا اس کو کہا جائے اس کے علاوہ جو اس کے لیے ہدایت نہ ہو (تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) اس کی ماں حاملہ ہوئی تھی حالت حیض میں۔

الرَّاسِبِيُّ، ثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ النَّهَّائِدِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّائِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شُوَيْفَعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ شُوَيْفَعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَسْتَحْ بِمَا قَالَ، أَوْ قِيلَ لَهُ فَهُوَ لِعَيْرِ رُشْدِهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَرٍ

الشَّرِيدُ بْنُ سُؤَيْدٍ الثَّقَفِيُّ
مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ،
عَنْ أَبِيهِ

7087 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشِيُّ،

وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الْمُجَوِّزِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرَدْتُ نِسَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: أَمَا تَرَوْنِي لَأُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هِيَ: فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ أَوْ قَافِيَةٍ، كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى بَيْتٍ وَأَوْ قَافِيَةٍ قَالَ:

هِيَ

7088 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى،

الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

شرید بن سوید ثقفی جو حدیثیں
حضرت عمرو بن شریذ اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں

حضرت عمرو بن شریذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے پیچھے سوار کیا آپ نے فرمایا: کیا تمہیں امیہ بن ابیہ کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: مزید پڑھو! میں نے ایک سوا اشعار یا قافیہ پڑھے جب ایک شعر یا قافیہ ختم کر لیتا تھا تو آپ فرماتے: اور پڑھو!

حضرت شریذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پیچھے سوار تھا آپ نے فرمایا: تمہیں امیہ بن ابیہ کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کی: جی

ہاں! آپ نے فرمایا: اور پڑھو! میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تو آپ مسلسل کہتے رہے: اور پڑھو! میں پڑھتا رہا! میں نے سواشعار پڑھے۔

كُنْتُ رَذِفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَةِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِيَ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: هِيَ، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: هِيَ، وَأَنْشَدُهُ، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ

7089 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا

حضرت شریذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پیچھے سوار تھا! آپ نے فرمایا: تمہیں کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کوئی شعر سناؤ! میں نے ایک شعر سنایا! پھر میں خاموش ہو گیا! آپ نے فرمایا: پڑھو! میں نے ایک شعر پڑھا پھر میں خاموش ہو گیا! آپ نے فرمایا: پڑھو! میں نے ایک اور شعر پڑھا! میں نے سواشعار پڑھے پھر میں خاموش ہو گیا تو آپ بھی خاموش ہو گئے۔

مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ رَذِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشَدْنِي شَيْئًا فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، ثُمَّ سَكَتَ، قَالَ: إِيه، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، ثُمَّ سَكَتَ، قَالَ: إِيه، فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ، ثُمَّ سَكَتَ، وَسَكَتَ

حضرت شریذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اُس نے اپنا تہبند اٹکایا ہوا تھا! حضور ﷺ نے اسے فرمایا: اپنا تہبند اٹھاؤ! اُس آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے گھٹنے (پنڈلیاں) بد صورت ہیں (اس لیے میں ان کو چھپائے رکھتا ہوں) آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی چادر اٹھاؤ! اللہ کی ساری مخلوق خوب صورت ہے! اس آدمی کو دیکھا گیا (بعد میں) تو اس نے اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اٹھایا ہوا تھا۔

7090 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ - كَذَلِكَ كَانَ يَشْكُ سُفْيَانُ - عَنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: بَصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَفَعُ إِزَارَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَخَفْتُ يَصْطَلُّكَ رُكْبَتَايَ، قَالَ: أَرَفَعُ

إِذَا رَكَ، وَكُلَّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ، فَمَا رُؤِيَ ذَلِكَ
الرَّجُلُ إِلَّا وَإِذَا رَهُ إِلَى نَصْفِ سَاقِيهِ

7091 - حَدَّثَنَا الْمُقَدَّامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَجُلًا يُسَبِّلُ إِذَا رَهُ، فَاسْرَعَ إِلَيْهِ، أَوْ
هَرَوَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْفَعْ إِذَا رَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ،
قَالَ: إِنِّي أَخْشَى السَّاقِينَ تَضَطُّكَ رُكُوتِي،
قَالَ: كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ قَالَ: فَمَا رُؤِيَ ذَلِكَ
الرَّجُلُ إِلَّا وَإِذَا رَهُ إِلَى نَصْفِ سَاقِيهِ، أَوْ
يَضْرِبُ أَنْصَافَ سَاقِيهِ لَمْ يَذْكُرْ أَسَدُ بْنُ
مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الشَّكَّ فِي عَمْرِو بْنِ
الشَّرِيدِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَاصِمٍ

7092 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ
يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ
هَكَذَا مُتَّكٍ عَلَى أَلْيَةِ يَدِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ:
هَذِهِ قَعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

7093 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

حضرت عمرو بن شریذ اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند
لٹکائے ہوئے تھا آپ جلدی سے اس کی طرف گئے
فرمایا: اپنا تہبند اٹھا اور اللہ سے ڈر! اس نے عرض کی: میری
پنڈ لیاں کمزور ہیں، میرے گھٹنے ننگے ہوں گے۔ آپ نے
فرمایا: اللہ کی تخلیق سب خوبصورت ہے اس کے بعد اس
آدمی کا تہبند نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔ اسد بن موسیٰ نے
اپنی حدیث میں شک ذکر نہیں کیا عمرو بن شریذ اور یعقوب
بن عاصم رضی اللہ عنہما۔

حضرت شریذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
(میرے) پاس سے گزرے تو میں نے اپنے ہاتھ کی پھیل
پر پشت کے پیچھے رکھ کر ٹیک لگائے ہوئے تھا آپ نے
فرمایا: اس طرح وہ بیٹھتے ہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے۔

حضرت شریذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

(میرے) پاس سے گزرے تو میں نے اپنا ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے رکھ کر ٹیک لگائے ہوئے تھا، آپ نے فرمایا: اس طرح وہ بیٹھتے ہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے۔

التُسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى الْوَحْمَانِيُّ، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرُو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ جَلَسَ، فَاتَّكَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَقَالَ: هَذِهِ جِلْسَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

حضرت شرحبیل بن اوس کندی، رسول اللہ ﷺ کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شراب پیئے تو اسے کوڑے مارو اگر دوسری مرتبہ پیئے تو اسے کوڑے مارو اگر تیسری مرتبہ پیئے تو اسے قتل کر دو۔

7094 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُمَرُو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ الشَّرِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَأَقْتُلُوهُ

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے چڑیا سے کھیلے ہوئے اسے قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ عزوجل سے شکایت کرے گی، عرض کی گئی: اے رب! یہ تیرے اس بندے نے مجھے فضول مارا

7095 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ خَلْفِ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو

ثقات . قلت ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 388-389، والدارمی رقم الحديث: 2318، والحاكم جلد 4 صفحہ 372

وابن حزم فی المحلی جلد 11 صفحہ 367، وصححه الحاكم علی شرط مسلم ووافقه الذهبي . ورواه النسائي فی الكبرى .

تھا مجھے اپنے نفع کے لیے نہیں مارا۔

الرَّبِيعِ، عَنْ غَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ عَبْدَكَ هَذَا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي بِمَنْفَعَةٍ

حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے وہ حضور ﷺ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَارُودِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

حضرت شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجذوم حضور ﷺ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا میں آپ کے پاس آیا تو میں نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں نے بیعت کر لی ہے وہ واپس چلا جائے۔

7096 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَمَّانِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلَوَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَجْذُومًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيْعَتِهِ، فَأَتَتْهُ، فَلَذَّكَرَتْ لَهُ، فَقَالَ: ائْتِيهِ فَأَعْلِمُهُ أَنِّي قَدْ بَايَعْتُهُ، فَلْيَرْجِعْ

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ موزوں پر مسح کرتے تھے۔

7097 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: شراب پینے والے کی شکایت کرنا اور قید کروانا جائز ہے۔

7098 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشِّي، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَبَرِ بْنِ أَبِي ذَكْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتَ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: شراب پینے والے کو قید کروانا اور شکایت کرنا جائز ہے۔ سفیان نے فرمایا: بحل عرضہ سے مراد شکایت کرنا اور عقوبتہ سے مراد قید کرنا ہے۔ بہتر و بر بن دلیلہ دال کے ضمہ کے ساتھ ہے نعمان بن عبد السلام حضرت سفیان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں: و بر بن ابودلیلہ سے دال کے نصب کے ساتھ روایت ہے۔

7099 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ وَبَرِ بْنِ أَبِي ذَكْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتَ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ سُفْيَانُ: يُحِلُّ عِرْضَهُ: أَنْ يَشْكُوهُ، وَعُقُوبَتَهُ: حَبْسَهُ وَالصَّوَابُ وَبَرُ بْنُ

7097 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 257 وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

7098 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 388، وأبو داود رقم الحديث: 3611 والنسائي جلد 7 صفحہ 316، 317 وابن ماجه رقم الحديث: 2427 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال الحافظ في الفتح جلد 5 صفحہ 62 وصله أحمد واسحاق في مسندهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه واسناده حسن . ورواه ابن حبان رقم الحديث: 1164 .

أَبَى دَلِيلَةَ بِضَمِّ الدَّالِ وَرَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ
السَّلَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ عَمْرُو: عَنْ وَبَرِ بْنِ
أَبَى دَلِيلَةَ بِنَضْبِ الدَّالِ

7100 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ
بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ح وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمُ بْنُ دَاوُدَ
الْمِصْرِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا حَاتِمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ هُرْمَزٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبَى الْفَتَيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَابِلِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْحَرْ
سَمِيَّتَهَا، وَاحْمِلْ عَلَى نَحِيفَتِهَا، وَاحْلِبْ يَوْمَ
الْبَاءِ، وَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

7101 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ
رَشِيدِينَ بْنِ عُمَيْرٍ، ثنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
رُجِمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنْهَا جُنْتُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَدْ رَجِمْنَا
هَذِهِ الْخَبِيثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ما روى عمرو بن الشريد عن أبيه

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے اونٹ کے متعلق کوئی ش
پوچھی تو حضور ﷺ نے فرمایا: موٹے اونٹ کو نحر کر اور کمزور
پر سوار ہو پانی کے دن اس کو دو تو جنت میں سلامتی کے
ساتھ داخل ہوگا۔

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
کے زمانہ میں ایک عورت کو رجم کیا گیا جب ہم فارغ
ہوئے تو میں حضور ﷺ کے پاس آیا میں نے عرض کی:
ہم نے اس بڑی عورت کو رجم کیا ہے حضور ﷺ نے
فرمایا: رجم کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔

وَسَلَّمَ: الرَّجْمُ كَفَّارَةٌ مَا صَنَعْتُ

7102 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ

7103 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلَوَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ قُلْتُ لِعُمَرَ: مَا السَّقْبُ؟ قَالَ: الْجَوَارُ

7104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ فِي الْبَيْتِ، وَالْذَّارِ، وَالْحَائِطِ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: پڑوسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔

حضرت شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: پڑوسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی: سقب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: جوار۔

حضرت عمرو بن شریدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کنویں اور گھر اور دیوار میں شفعہ کا فیصلہ کرتے تھے، تقسیم کرنے سے پہلے۔

7105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا

أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَمِهِ

مَا كَانَ أَحْوَجَ إِلَيْهِ

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنِ الشَّرِيدِ

7106 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ
بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ تَعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةً، وَعِنْدِي
خَادِمٌ سَوْدَاءٌ، فَقَالَ: ادْعُ بِهَا فَبَجَاءَ، فَقَالَ:
مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَتْ: اللَّهُ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ:
رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَأَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤَمَّنَةٌ

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ،

عَنِ الشَّرِيدِ

7107 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

حضرت عمرو بن شريد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا
پڑوسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک اسے اس کی
ضرورت ہے۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت شريد

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت شريد بن سويد ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری والدہ نے غلام
آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور میرے پاس سیاہ خادمہ
ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کا بلاؤ! اسے لایا گیا تو آپ نے
فرمایا: تمہارا رب کون ہے؟ اس نے عرض کی: اللہ! آپ
نے فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی: اللہ کے رسول
ہیں! آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کرو کیونکہ یہ مؤمنہ ہے۔

عطاء بن ابورباح، حضرت شريد

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت عطاء بن ابورباح فرماتے ہیں کہ حضرت
شريد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ

ابو سلمة بن عبد الرحمن عن الشريد عطاء بن ابي رباح عن الشريد

کے دن عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے نذر مانی تھی کہ اللہ نے اگر مکہ پر فتح دی تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا، حضور ﷺ نے فرمایا: یہاں نماز پڑھ لے تین مرتبہ فرمایا۔

عُمَرَ الْمَكِّي، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَاحٍ، قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ اللَّهُ فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَصِلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَهُنَا فَصَلِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، عَنِ الشَّرِيدِ

7108 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ الْقَشِيرِيُّ، ثنا يَسْمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ رَافِعٍ، حَدَّثَهُ، وَكَانَ مَوْلَى لِأَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ الشَّرِيدَ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي بَيْنَ مِنَى وَالشَّعْبِ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ حَجٌّ، قَالَ: وَإِذَا وَقَعَ نَاقَةٌ خَلْفِي، فَانْتَفْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَفَنِي، فَقَالَ: الشَّرِيدُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَا أَحْمِلُكَ خَلْفِي يَا شَرِيدُ؟، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا بِي إِعْيَاءٌ وَلَا لُغُوبٌ، وَلَكِنْ أَلْتَمِسُ الْبَرَكَاتِ فِي مَرْكَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا شَرِيدُ هَلْ مَعَكَ مِنْ شَعْرِ أُمِّتِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟، قُلْتُ: أَنَا أُرْوَى النَّاسِ، قَالَ: هَاتِ

عمر بن رافع، حضرت شریدرضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت سماک بن حرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن رافع نے بیان کیا کہ حضرت ابوسفیان کے غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت شریدرضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے حج کے دوران منیٰ اور گھائی کے درمیان چل رہے تھے اونٹنی کے قدموں کی آہٹ میرے پیچھے تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی ذات تھی آپ نے مجھے پہچان لیا، فرمایا: شرید ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: اے شرید! کیا تم میرے پیچھے سوار ہوں گے؟ عرض کی: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! عرض کی: میں نہ تھکا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری کرنے کی برکت حاصل کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا: اے شرید! کیا تمہیں امیہ بن ابوصلت کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کی: مجھے لوگوں سے زیادہ یاد ہیں! آپ نے فرمایا: وہ پڑھو! میں نے پڑھا تو حضور ﷺ خاموش ہو گئے، میں بھی خاموش ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا: پڑھو! میں

نے پڑھنا شروع کیا جب یہ بات لمبی ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا: امیہ بن صلت کا علم اللہ کے پاس ہے۔

فَأَنْشَدْتُهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتُ، وَإِذَا قَالَ: إِيَّاهُ أَنْشَدْتُهُ، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: عِنْدَ اللَّهِ عِلْمُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ

صاد کا باب

جن کا نام صخر ہے

صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس
بن عبد مناف، البوسفیان کی
باتیں اور آپ کے وصال
کے بیان میں

حضرت یثیم بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت
البوسفیان بن حرب رحمہ اللہ کا وصال حضرت عثمان رضی اللہ
عنه کی خلافت سات سال گزرنے کے بعد ہوئی، حضرت
البوسفیان آنکھ سے ناپینا تھے۔

حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ البوسفیان صخر بن
حرب کا وصال ۸۸ سال کی عمر میں ۳۱ ہجری کو ہوا۔

بَابُ الصَّادِ

مَنْ اسْمُهُ صَخْرٌ

صَخْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ
عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنْفٍ
أَبُو سُفْيَانَ مِنْ أَخْبَارِ أَبِي
سُفْيَانَ وَوَفَاتِهِ

7109 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
فُتَيْقَةُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ
عَدِيٍّ، قَالَ: هَلَكَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَحِمَهُ
اللَّهُ لِيَتَسَعَ سِنِينَ مَضَيْنَ مِنْ إِمَارَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ كَفَّ بَصَرَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ
حَرْبٍ

7110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
الْمَدِينِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ
الْوَاقِدِيِّ قَالَ: وَفِيهَا مَاتَ أَبُو سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ

حَرْبٍ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، يَعْنِي سَنَةً
إِخْدَى وَثَلَاثِينَ

7111 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
مُقْبِلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو
الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي
الْأَسودِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ
أُمِّيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ كَانَ يَغْزُو - أَوْ قَالَ: بِبَيْلِيَا
- فَلَمَّا قَفَلْنَا، قَالَ لِي أُمِّيَّةُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، إِنْ
تَقَدَّمْ عَنِ الرَّفْقَةِ، فَتَحَدَّثْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:
فَفَعَلْنَا فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَيُّهِنَّ عَنْ عُتْبَةَ
بْنِ رَبِيعَةَ؟ قُلْتُ: أَيُّهِنَّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ؟
قَالَ: كَرِيمُ الطَّرْفَيْنِ، وَيَجْتَنِبُ الْمُظَالِمَ
وَالْمَحَارِمَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَشَرِيفُ مُسِنٍّ؟
قُلْتُ: وَشَرِيفُ مُسِنٍّ. قَالَ: الْبَسَنُ وَالشَّرَفُ
أَزْرِيَا بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، مَا أَزْدَادَ سِنًا إِلَّا
أَزْدَادَ شَرَفًا، قَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، إِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَا
سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُهَا لِي مُنْذُ تَنَصَّرْتُ لَا تَعَجَلْ
عَلَيَّ حَتَّى أَخْبِرَكَ. قَالَ: هَاتِ، قَالَ: إِنِّي

حضرت معاویہ بن سفیان، حضرت سفیان بن حرب
سے روایت کرتے ہیں کہ امیہ بن صلت غزہ یا ایلیا کے
مقام پر تھے پس جب ہم واپس لوٹے تو امیہ نے مجھ سے
کہا: اے ابوسفیان! ہم اپنے ساتھیوں کے قافلہ سے آگے
نکل کر چند باتیں نہ کر لیں؟ ہم نے کہا: ٹھیک ہے! فرماتے
ہیں: پس ہم نے ایسے ہی کیا۔ اس نے مجھ سے کہا: اے
ابوسفیان! عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں ان میں سے کون
سی بات ہے؟ میں نے بھی آگے سے یہی کہا: عتبہ بن ربیعہ
کے بارے میں ان میں سے کون سی بات ہے؟ اس نے
کہا: کیا وہ حسب و نسب کے اعتبار سے کریم نہیں ہے؟ کیا
وہ مظالم اور محارم سے اجتناب کرنے والا نہیں ہے؟ میں
نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا: کیا وہ بزرگ اور عمر رسیدہ نہیں
ہے؟ میں نے کہا: وہ بزرگ اور عمر رسیدہ ہے۔ اس نے کہا:
عمر اور بزرگی نے اس کو عیب دار بنا دیا ہے۔ میں نے کہا: تو
نے جھوٹ بولا ہے، عمر بزرگی کو زیادہ کرتی ہے۔ اس نے
کہا: اے ابوسفیان! یہ ایسی بات ہے جو میں نے کسی سے
نہیں سنی کہ اس نے میرے بارے میں یہی ہو: جب سے میں
نصرانی بنا ہوں مجھ پر جلدی سے کام نہ لے یہاں تک کہ
میں تجھے خبر دوں۔ اس نے کہا: لاؤ! اس نے کہا: بے شک

7111 - قال في المجموع جلد 8 صفحہ 232 وفيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف. ومن طريقه رواه أبو نعيم في الدلائل

(255). كذا في المخطوطة: ايهم وفي الدلائل: ايد في المكانين. وفي الدلائل: سَنَتِ الذی كنت تعبت بدل:

الذی كنت تنتظر.

كُنْتُ أَجِدُ فِي كُتُبِي نَبِيًّا يَنْتَعُ مِنْ حَرَّتِنَا هَذِهِ
فَكُنْتُ أَظُنُّ، بَلْ كُنْتُ لَا أَشْكُ أُنِّي هُوَ، فَلَمَّا
دَارَسْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ إِذَا هُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ
فَنَظَرْتُ فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا
يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ غَيْرَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَلَمَّا
أَخْبَرْتَنِي بِسِيَّتِهِ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ حِينَ جَاوَزَ
الْأَرْبَعِينَ، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ:
فَضَرَبَ الدَّهْرُ مِنْ ضَرْبِهِ، وَأَوْحَى إِلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجْتُ فِي
رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ أُرِيدُ الْيَمَنَ فِي تِجَارَةٍ،
فَمَرَرْتُ بِأُمَيَّةَ بِنِ أَبِي الصَّلْتِ، فَقُلْتُ لَهُ
كَأَلْمُسْتَهْزِءِ بِهِ: يَا أُمَيَّةُ، قَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ الَّذِي
كُنْتُ تَنْتَظِرُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ حَقٌّ فَاتَّبِعْهُ، قُلْتُ: مَا
يَمْنَعُكَ مِنْ اتِّبَاعِهِ؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُنِي مِنْ اتِّبَاعِهِ
إِلَّا الْإِسْتِحْيَاءُ مِنْ نَسِيَاتٍ ثَقِيفٍ، إِنِّي كُنْتُ
أَحَدَهُنَّ أُنِّي هُوَ، ثُمَّ يُرَبِّيَنِي تَابِعًا لِغُلَامٍ مِنْ بَنِي
عَبْدِ مَنَافٍ، ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: وَكَأَنِّي يَا أَبَا سُفْيَانَ
إِنْ خَالَفْتُهُ قَدْ رُبِطْتُ كَمَا يُرَبِّطُ الْجَدْيُ حَتَّى
يُوتَى بِكَ إِلَيْهِ فَيَحْكُمَ فِيكَ مَا يُرِيدُ

میں نے اپنی کتابوں میں ایک نبی پایا ہے جو ہمارے اس
گرم علاقے سے مبعوث ہوگا۔ پس میں گمان کرتا تھا، بلکہ
میں شک بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ میں ہوں۔ پس جب میں
نے علماء سے تبادلہ خیال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ عبد
مناف سے ہوگا تو میں نے بنو عبد مناف میں نظر دوڑائی تو
میں نے سوائے عتبہ بن ربیعہ کے کسی کو اس قابل نہیں پایا۔
پس جب تو نے مجھے اس کی عمر کی خبر دی تو میں پہچان گیا کہ
یہ نہیں ہے، جب اس کی عمر چالیس سے اوپر ہوگئی ہے لیکن
اس پر وحی نہیں آئی۔ ابوسفیان نے کہا: پس زمانے نے مارا
جس کو مارا حالانکہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس وحی آچکی
ہے۔ میں قریش کے ایک قافلے میں نکلا میرا ارادہ تھا کہ
یمن میں جا کر تجارت کروں گا۔ پس میں اُمیہ بنت صلت
کے پاس سے گزرا، پس میں نے اس سے مذاق کرنے
والے کی طرح کہا: اے اُمیہ! وہ نبی ﷺ تشریف لاچکے
ہیں، جن کا تو انتظار کرتا تھا۔ اس نے کہا: بہر حال وہ سچے
ہیں، تو ان کی اتباع کر۔ میں نے کہا: اس کی پیروی سے
تجھے کون سی چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا: مجھے ان کی
اتباع سے جو چیز روک رہی ہے وہ بنو ثقیف قبیلہ کی ذلت
سے حیاء ہے کیونکہ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ وہ میں ہوں
پھر وہ دیکھیں گے کہ میں بنو عبد مناف کے ایک لڑکے کا
تابع ہوں پھر اُمیہ نے کہا: اے ابوسفیان! گویا کہ میں اگر
ان کے مخالف ہوں تو بھی ان سے مربوط ہوں جیسے پٹھورا
بندھا ہوا ہوتا ہے حتیٰ کہ تجھے ان کی خدمت میں لایا جائے
اور وہ تیرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔

7112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنْ:
الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَغِفَّارٍ، وَأَسْلَمَ،
وَمُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، وَبَنِي سُلَيْمٍ، وَقَادُوا الْخَيُْولَ
حَتَّى نَزَلُوا بِمَرْ الظَّهْرَانِ، وَلَمْ تَعْلَمْ بِهِمْ
فُرَيْشٌ، فَبَعَثُوا بِأَبِي سُفْيَانَ، وَحَكِيمَ بْنِ حِزَامٍ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالُوا:
خُذُوا لَنَا مِنْهُ جَوَارًا، أَوْ آذِنُوهُ بِالْحَرْبِ،
فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ
حِزَامٍ، فَلَقِيَا بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ، فَاسْتَصْحَبَاهُ
حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْأَرَاكِ مِنْ مَكَّةَ، وَذَلِكَ عِشَاءٌ
رَأَوْا الْفَسَاطِيطَ وَالْعَسْكَرَ، وَاسْمِعُوا صَهِيلَ
الْخَيْلِ، فَرَاغَهُمْ ذَلِكَ، وَفَزِعُوا مِنْهُ، وَقَالُوا:
هَؤُلَاءِ بَنُو كَعْبٍ جَاسَتْهَا الْحَرْبُ، قَالَ بُدَيْلٌ:
هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي كَعْبٍ، مَا بَلَغَ تَأْلِيهَا هَذَا،
أَفْتَسَجِعُ هَوَازِنُ أَرْضَنَا؟ وَاللَّهِ مَا نَعْرِفُ هَذَا
أَيْضًا، إِنَّ هَذَا لَمِثْلُ حَاجِ النَّاسِ، وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ
خَيْلًا يَقْبِضُ الْعُيُونَ، وَخِرَاعَةً عَلَى الطَّرِيقِ لَا
يَسْرُكُونَ أَحَدًا يَمْضِي، فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ

حضرت عروہ فرماتے ہیں: پھر رسول کریم ﷺ بارہ
ہزار آدمیوں کے جھرمٹ میں نکلے جن میں مہاجرین، انصار
قبیلہ بنو غفار، بنو اسلم، مزینہ، جہینہ اور بنو سلیم تھے۔ وہ گھوڑے
کے آگے آگے تھے حتیٰ کہ وہ مرالظہر ان کے مقام پر جا
اُترے جبکہ قریشیوں کو اس کا علم نہ تھا۔ پس انہوں نے
ابوسفیان اور حکیم بن حزام کو رسول کریم ﷺ کی خدمت
میں بھیجا اور کہا کہ ان سے ہمارے لیے لونڈیاں لینا یا ان کو
جنگ کا چیلنج دینا۔ پس ابوسفیان اور حکیم بن حزام نکلے۔
پس وہ بدیل بن ورقاء سے ملے، انہوں نے اسے بھی اپنے
ساتھ لے لیا یہاں تک کہ وہ مکہ کی جھاڑیوں والی جگہ پر
تھے عشاء کا وقت تھا، انہوں نے نگاہ اٹھائی تو ان کو خیمے ہی
خیمے نظر آئے اور عظیم لشکر۔ انہوں نے گھوڑوں کے
جنہانے کی آوازیں بھی سنیں۔ پس وہ تینوں اس سے
مرعوب ہو گئے اور اس سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا: یہ
قبیلہ بنو کعب والے ہیں، ان کو جنگ کا جوش چڑھا ہے۔
بدیل نے کہا: بنو کعب سے تو ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کی
اکثریت بھی اس کو نہیں پہنچی، کیا بنو ہوازن ہماری زمین
سے گھاس تلاش کر رہے ہیں؟ قسم بخدا! ہم اس کو نہیں
پہچانتے، بے شک یہ حاجیوں کی تعداد کے برابر ہیں (ان
کی مثل ہیں) (ادھر صورت حال یہ تھی کہ) رسول
کریم ﷺ نے اس کے سامنے گھڑسوار بھیجے ہوئے تھے
جو جاسوسوں کو گرفتار کر لیتے تھے اور بنو خزاعہ راستے پر تھے وہ

وَأَصْحَابُهُ عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ أَخَذَتْهُمْ الْخَيْلُ
تَحْتَ اللَّيْلِ، وَأَتَوْا بِهِمْ خَافِينَ لِلْقَتْلِ فَقَامَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى أَبِي
سُفْيَانَ، فَوَجَّأَ عُقْفَهُ، وَالتَزَمَهُ الْقَوْمُ، وَخَرَجُوا
بِهِ لِيَدْخُلُوا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَحَبَسَهُ الْحَرَسُ أَنْ يَخْلُصَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَافَ الْقَتْلَ،
وَكَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
خَالِصَهُ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:
أَلَا تَأْمُرُوا بِي إِلَى عَبَّاسٍ، فَأَتَاهُ وَدَفَعَ عَنْهُ،
وَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَقْبِضَهُ إِلَيْهِ، وَمَشَى فِي الْقَوْمِ مَكَانَهُ، فَرَكِبَ
بِهِ عَبَّاسٌ تَحْتَ اللَّيْلِ، فَسَارَ بِهِ فِي عَسْكَرِ
الْقَوْمِ حَتَّى أَبْصَرُوهُ أَجْمَعُ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَدْ قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ حِينَ وَجَّأَ عُقْفَهُ:
وَاللَّهِ لَا تَدْنُونِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى تَمُوتَ، فَاسْتَعَاثَ بِعَبَّاسٍ، فَقَالَ:
إِنِّي مَقْتُولٌ فَمَنْعَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَنْتَهَبُوهُ، فَلَمَّا
رَأَى كَثْرَةَ الْجَيْشِ وَطَاعَتَهُمْ قَالَ: لَمْ أَرِ
كَالْلَّيْلَةِ جَمْعًا لِقَوْمٍ فَخَلَصَهُ عَبَّاسٌ مِنْ أَيْدِيهِمْ،
وَقَالَ: إِنَّكَ مَقْتُولٌ إِنْ لَمْ تَسَلَمْ وَتَشْهَدْ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَجَعَلَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ
الَّذِي يَأْمُرُهُ عَبَّاسٌ بِهِ، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانُهُ، فَكَانَتْ
مَعَ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَبَدِيلُ بْنُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ

کسی کو نہیں گزرنے دیتے تھے۔ پس جب ابوسفیان اور اس
کے دونوں ساتھی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے تو گھڑ
سواروں نے ان کو اندھیرے میں پکڑ لیا اور ان کو ڈرتے
ہوئے لائے کہ کوئی قتل نہ کر دے۔ پس حضرت عمر بن
خطاب کھڑے ہوئے ابوسفیان کی طرف اس کی گردن کو
دبوج لیا۔ قوم نے ان کو روک لیا اور اس کو لے کر باہر نکلے
تاکہ اس کو رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں لائیں۔ پس
رسول کریم ﷺ کے پاس لے جانے سے چوکیدار نے
روک دیا، اسے قتل کا خواب ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ
زمانہ جاہلیت میں اس کے خالص دوست تھے۔ پس وہ بلند
آواز سے پکارا: تم مجھے عباس کے پاس نہ لے جاؤ گے، پس
وہ آپ کے اپس آیا تو آپ نے اس کا دفاع کیا اور رسول
کریم ﷺ سے دریافت کیا: وہ ان کو گرفتار کر کے آپ کی
بارگاہ میں لائیں اور قوم میں چلیں۔ پس رات کے سائے
میں حضرت عباس نے ان کو سوار کر کے قوم کے لشکر میں
چلے یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے جب اس کی گردن دبا لی تو ابوسفیان سے کہا تھا:
قسم بخدا! تو رسول کریم ﷺ کے قریب نہیں جاسکے گا
یہاں تک کہ تیرے اوپر موت آ جائے۔ پس اس حضرت
عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے مدد طلب کی۔ پس اس
نے کہا: مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پس حضرت عباس رضی اللہ
عنہ نے ان کی لوگوں سے حفاظت کی کہ اسے لوٹ نہ لیں
پس جب اس نے لشکر کی کثرت اور ان کی اطاعت شعاری
ملاحظہ کی تو کہا: آج کی رات کی طرح میں نے کسی قوم کا

وَرَقَاءَ، فَذَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَا وَجَعَلَ يَسْتَحْبِرُهُمَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَلَمَّا نُوْدِيَ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ تَخَشَّخَشَ الْقَوْمُ، فَفَزِعَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ، مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالَ: هُمُ الْمُسْلِمُونَ تَبَسَّرُوا لِحُضُورِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ بِهِ عَبَّاسُ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ يَمْشُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي صَلَاتِهِمْ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ إِذَا سَجَدَ، قَالَ: يَا عَبَّاسُ، أَمَا يَأْمُرُهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا فَعَلُوهُ؟ فَقَالَ عَبَّاسُ: لَوْ نَهَاهُمْ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَأَطَاعُوهُ. فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ، فَكَلِمَةُ فِي قَوْمِكَ هَلْ عِنْدَهُ مِنْ عَفْوٍ عَنْهُمْ؟ فَانْطَلَقَ عَبَّاسُ بِأَبِي سُفْيَانَ، حَتَّى أَذْخَلَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي قَدْ اسْتَنْصَرْتُ إِلَهِي، وَاسْتَنْصَرْتُ إِلَهَكَ فَوَاللَّهِ، مَا لَقَيْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا ظَهَرْتُ عَلَى، فَلَوْ كَانَ إِلَهِي مُحِقًّا، وَإِلَهَكَ مُبْطِلًا لَظَهَرْتُ عَلَيْكَ، فَشَهِدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ عَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْذَنَ لِي إِلَى قَوْمِكَ، فَأُنْذِرُهُمْ مَا نَزَلَ، وَأُذِعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَالْإِلَى رَسُولِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. فَقَالَ عَبَّاسُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَ لِي مِنْ ذَلِكَ أَمَانًا

کوئی لشکر نہیں دیکھا۔ پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور فرمایا: اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا اور اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ جن کا نام نامی محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پس وہ ارادہ کرنے لگا کہ وہی بات کہے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے فرمائی ہے اور اس کی زبان نہ پھسلے پس اس نے رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گزاری۔ پس جہاں تک بات ہے حضرت حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء کی تو وہ رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور آپ ان سے مکہ والوں کی خبریں لینے لگے۔ پس جب صبح کی نماز کیلئے اذان ہوئی تو صحابہ کے ہتھیاروں کی آوازیں آنے لگیں (کیونکہ وہ ہتھیار لگا کر نماز پڑھتے تھے) پس ابوسفیان گھبرایا اس نے کہا: اے عباس! تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ مسلمان ہیں، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جائیں گے (یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے) پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو لے کر چلے پس جب ابوسفیان نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز کی طرف جا رہے ہیں جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تھے تو وہ سجدہ کرتے ہیں (اور جب آپ ﷺ رکوع رکوع کرتے ہیں تو وہ رکوع کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: اے عباس! جو کام بھی آپ ﷺ ان کو فرماتے ہیں وہ بجالاتے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (جی ہاں!) اگر آپ ﷺ ان کو کھانے اور پینے سے منع کر دیں تو وہ کھانا پینا چھوڑ

يُطْمِئِنُّونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: تَقُولُ لَهُمْ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَكَفَّ يَدَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ جَلَسَ عِنْدَ
الْكُعْبَةِ فَوَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ
عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

دیتے ہیں۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا: اے عباس! پس تو آپ ﷺ سے اپنی قوم کے بارے میں بات کر، کیا ان کے پاس ان کو معاف کرنے کی کوئی صورت ہے؟ پس حضرت عباس، حضرت ابوسفیان کو اپنے ساتھ لے کر چلے حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لائے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے محمد! یہ ابوسفیان ہے! تو ابوسفیان نے کہا: اے محمد! میں نے اپنے معبودوں سے بھی مدد مانگی ہے اور آپ کے معبود سے بھی مدد طلب کی ہے، پس قسم بخدا! جب بھی آپ سے میری جنگ ہوئی تو آپ ہی غالب رہے، پس اگر میرے معبود برحق ہوتے اور آپ کا معبود باطل تو میں آپ پر غالب آتا۔ پس اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی قوم (مکہ والوں) کے پاس جانے کی اجازت دیں، پس میں ان کو ڈراؤں جو مصیبت اتری ہے اور میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دوں۔ پس آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔ پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ان سے کیسے بات کروں، اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی امان بتائیں جو میں ان کو بتاؤں، تو وہ مطمئن ہو جائیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ان سے کہنا: جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اپنا ہاتھ

روک لے تو اسے امان ہے اور جو کعبہ کے پاس آ کر بیٹھ جائے اور اپنے ہتھیار رکھ دے تو اسے امان ہے جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان میرے چچا کا بیٹا ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ واپس جائے اور اگر آپ اس کے حوالے سے بھی (اپنی قوم سے) کوئی نیکی مخصوص روائے (تو بہتر ہے) پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ پس ابوسفیان بھی آپ ﷺ کی باتیں سمجھنے لگا حال یہ تھا کہ ابوسفیان کا گھر اعلائے مکہ میں تھا اور کہا: جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو اور ہاتھ روک لے وہ امن میں ہو۔ جبکہ حکیم بن حزام کا گھر مکہ کی چلی طرف تھا۔

اور نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی سفید اونٹنی پر سوار کیا جو حضرت دحیہ کلبی نے آپ ﷺ کو بطور ہدیہ پیش کی تھی۔ حضرت عباسؓ حضرت ابوسفیان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر لے چلے۔ پس جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ چلے تو نبی کریم ﷺ نے ان کے پیچھے آ دی بھیجا فرمایا: حضرت عباس سے مل کر انہیں میرے پاس واپس لے آؤ اور صحابہ کرام سے آپ ﷺ نے وہ بات کی جس کا اس پر خوف تھا۔ پس قاصد نے ان کو پالیا۔ پس حضرت عباس نے واپس آنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ کیا رسول کریم ﷺ کو اس بات کا ڈر ہے کہ

7113 - قَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ عَمِّنَا، وَأَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مَعِيَ، وَلَوْ أَخْصَصْتَهُ بِمَعْرُوفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ يَسْتَفْقِهُهُ، وَدَارُ أَبِي سُفْيَانَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَقَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَكَفَّ يَدَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَدَارُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ

7114 - وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى بَغْلِيهِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي كَانَ أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيِّ، فَانْطَلَقَ عَبَّاسٌ بِأَبِي سُفْيَانَ قَدْ أَرْدَفَهُ، فَلَمَّا سَارَ عَبَّاسٌ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثَرِهِ فَقَالَ: أَذْرِكُوا عَبَّاسًا، فَرُدُّوهُ عَلَيَّ وَحَدِّثْهُمْ بِالَّذِي خَافَ عَلَيْهِ فَأَذْرَكَهُ الرَّسُولُ، فَكَرِهَ عَبَّاسٌ الرُّجُوعَ، وَقَالَ: أَيْرُهْبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ أَبَا سُفْيَانَ رَاغِبًا فِي قَلْبِ النَّاسِ فَيَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ؟ فَقَالَ: أَحِبْسُهُ، فَحَبَسَهُ

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَعَذَّرَا يَا بَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ
عَبَّاسٌ: إِنَّا لَسْنَا نَعْدُرُ، وَلَكِنْ لِي إِلَيْكَ بَعْضُ
الْحَاجَةِ. قَالَ: وَمَا هِيَ، فَاقْضِيهَا لَكَ؟ فَقَالَ:
يُعَاذُهَا حِينَ يَفْقَدُ عَلَيْكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَوَقَفَ عَبَّاسٌ بِالْمَضِيقِ
ذُوْنَ الْأَرَاكِ مِنْ مَنَى، وَقَدْ وَعَى أَبُو سُفْيَانَ
عَنْهُ حَدِيثُهُ، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبُورَ الْخَيْلِ بَعْضَهَا عَلَى أَثَرِ
بَعْضٍ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْخَيْلَ شَطْرَيْنِ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ وَرَدَفَهُ
خَالِدًا بِالْجَنَاشِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَقَضَاعَةَ،
فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: رَسُولُ اللَّهِ، هَذَا يَا عَبَّاسُ؟
قَالَ: لَا وَلَكِنْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَبَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَيْنَ
يَدَيْهِ فِي كَتِيبَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: الْيَوْمَ يَوْمُ
الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ، ثُمَّ دَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةٍ
الْبَيْمَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَى
أَبُو سُفْيَانَ وَجُوهًا كَثِيرَةً لَا يَعْرِفُهَا قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرْتُ إِذَا، أَوْ اخْتَرْتُ هَذِهِ
الْوُجُوهَ عَلَى قَوْمِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ وَقَوْمُكَ، إِنَّ
هَؤُلَاءِ صَدَقُونِي إِذْ كَذَّبْتُمُونِي، وَنَصَرُونِي إِذْ
أَخْرَجْتُونِي. وَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ابوسفیان کم لوگ دکھ کر اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف
پھر جائے گا اس لیے واپس بلانا چاہتے ہیں؟ کہا: اسے
روکو۔ پس انہوں نے روکا تو ابوسفیان نے کہا: اسے
بنو ہاشم! کیا دھوکہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:
ہم دھوکہ کرنے والے نہیں ہیں لیکن مجھے آپ سے ایک
کام ہے۔ اس نے کہا: وہ کیا ہے؟ جو میں کر دوں؟ تو
انہوں نے کہا: اسے دہرایا جائے گا جب آپ پر حضرت
خالد بن ولید اور حضرت زبیر بن عوام آئیں گے۔ پس
حضرت عباس رضی اللہ عنہ منیٰ کی جھاڑیوں کے نیچے ٹنک
جگہ پر رک گئے اور ابوسفیان نے ان سے ان کی بات کو یاد
کیا، پھر رسول کریم ﷺ نے ایک دوسرے کے آگے
پیچھے گھوڑوں والے بھیجے۔ رسول کریم ﷺ نے گھوڑوں کو
دو حصوں میں تقسیم فرما دیا، پہلے حضرت زبیر کو اور ان کے
پیچھے حضرت خالد کو لشکر دے کر بھیجا جو بنو اسلم، بنو غفار اور
بنو قضاہ والوں پر مشتمل تھا۔ پس ابوسفیان نے کہا: اللہ کے
رسول یہ ہیں؟ اے عباس! انہوں نے کہا: نہیں! بلکہ یہ
خالد بن ولید ہیں اور رسول کریم ﷺ نے حضرت سعد
بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے انصاریوں کے ایک
لشکر میں بھیجا۔ پس انہوں نے کہا: آج جنگ کا دن ہے
آج کے دن حرام چیز یا عزت حلال کی جائے گی، پھر رسول
کریم ﷺ خود داخل ہوئے آپ ﷺ کے ساتھ
مہاجرین و انصار میں سے ایمان والوں کا ایک مختصر سا لشکر
تھا۔ پس جب حضرت ابوسفیان نے بہت سارے چہرے
دیکھے تو ان کو پہچان نہ سکا۔ کہا: اے اللہ کے رسول! اب

وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ الْاَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعَبَّاسُ بْنُ
مِرْدَاسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَلَمَّا
اَبْصَرَهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ: هَذِهِ كَيْبِئَةُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ هَذِهِ الْمَوْتُ
الْاَحْمَرُ، هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ، قَالَ:
اَمْضِ يَا عَبَّاسُ، فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ جُودًا قَطُّ، وَلَا
جَمَاعَةً، فَسَارَ الزُّبَيْرُ بِالنَّاسِ حَتَّى وَقَفَ
بِالْحُجُونِ، وَانْدَفَعَ خَالِدٌ حَتَّى دَخَلَ مِنْ اَسْفَلِ
مَكَّةَ، فَلَقِيَتْهُ اُوبَاشُ بَنِي بَكْرِ، فَقَاتَلُوهُمْ،
فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ، وَقَتِلُوا بِالْحَزْوَرَةِ حَتَّى دَخَلُوا
الدُّورَ، وَارْتَفَعَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْخَيْلِ عَلَى
الْخَنْدَمَةِ، وَاتَّبَعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اُخْرِيَّاتِ النَّاسِ،
وَنَادَى مُنَادٍ: مَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ وَكَفَّ يَدَهُ
فِيَّ اَمِنْ، وَنَادَى اَبُو سُفْيَانَ بِمَكَّةَ: اَسْلِمُوا
تَسْلَمُوا، وَكَفَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ عَبَّاسٍ،
وَأَقْبَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَأَخَذَتْ بِلَحْيَةِ اَبِي
سُفْيَانَ، ثُمَّ نَادَتْ: يَا غَالِبُ، اقْتُلُوا هَذَا الشَّيْخَ
الْاَحْمَقَ، قَالَ: فَأَرْسَلِي لِحْيَتِي فَأَقْسِمُ لَكَ لَنْ
اَنْتَ لَمْ تُسَلِّمِي لِضَرْبِ عُنُقِكَ، وَبَلَّكَ جَاءَ نَا
بِالْحَقِّ فَاَدْخُلِي اَرْبَعَتِكَ - أَحْسَبُهُ قَالَ:
وَأَسْكِنِي

آپ کثیر ہو گئے یا آپ نے ان چروں کو اپنی قوم کے
خلاف لڑنے کیلئے انتخاب فرمایا ہے۔ رسول کریم ﷺ
نے فرمایا: یہ تیرا اور قوم کا کیا کرایا ہے بے شک ان لوگوں
نے میری تصدیق کی جب تم لوگوں نے میری تکذیب کی۔
انہوں نے میری مدد کی جب تم نے مجھے نکال دیا۔ اس دن
رسول کریم ﷺ کے ساتھ حضرت اقرع بن حابس، عباس
بن مرداس اور عیینہ بن بدر فزاری تھے۔ پس جب اس نے
ان کو نبی کریم ﷺ کے گرد دیکھا تو کہا: اے عباس! یہ کون
ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ نبی کریم ﷺ کا حفاظتی دستہ ہے
اور اس کے ساتھ سرخ موت ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار
ہیں۔ اس نے کہا: اے عباس! چلو! آج کی طرح میں نے
کبھی کوئی لشکر نہیں دیکھا اور نہ کوئی جماعت دیکھی ہے۔
پس حضرت زبیر لوگوں کو لے کر چلے یہاں تک کہ حجون
کے مقام پر آ کر ٹھہرے۔ حضرت خالد چل کر مکہ کی چلی
طرف ہے داخل ہو۔ پس بنو بکر قبیلہ کے اوباشوں سے ان
کی ٹھہ بھیڑ ہوئی۔ پس انہوں نے ان سے قتال کیا، پس
اللہ نے ان اوباشوں کو شکست دی۔ حزورہ کے مقام پر قتل
کر دیئے گئے حتیٰ کہ وہ گھروں میں داخل ہوئے ان میں
سے ایک گروہ گھوڑوں پر سوار ہو کر خندمہ پر چڑھا، مسلمان
ان کے پیچھے گئے۔ پس نبی کریم ﷺ سب لوگوں سے
آخر میں داخل ہوئے ایک منادی نے نداء دی: جو اپنے
اوپر دروازہ بند کر لے اور ہاتھ روک لے تو اسے امان ہے۔
اور حضرت ابو سفیان نے مکہ میں نداء دی: اسلام لے آؤ
محفوظ رہو گے۔ اللہ نے ان کو حضرت عباس سے روک لیا

اور ہند بنت عتبہ آگے بڑھی، اُس نے ابوسفیان کو داڑھی سے پکڑ لیا پھر آواز دی: اے غالب (اکثریت) اس بے وقوف جاہل بوڑھے کو قتل کر دو۔ اس نے کہا: میری داڑھی چھوڑ دے! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو نے اسلام قبول نہ کیا تو تیری گردن اُتار دی جائے گی، تیرے لیے ہلاکت ہو، آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں، پس تُو اپنے پلنگ پر چلی جا، میرا گمان ہے ابوسفیان نے کہا: خاموش ہو جا!

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر رسول کریم ﷺ تشریف لے چلے۔ آپ ﷺ نے مدینہ پر ابورہم کلثوم بن حصین غفاری کو نائب بنایا۔ رمضان المبارک کے دس دن گزر گئے، رسول کریم ﷺ نے روزہ رکھا، آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی روزے رکھے حتیٰ کہ جب آپ عسکان اور انج کے درمیان کدید کے مقام پر تھے تو آپ ﷺ نے افطار کیا (کہ شام ہو گئی) پھر آپ چل کر مر الظہر ان پر اترے، دس ہزار مسلمانوں کے لشکر میں جو مزینہ اور بنو سلیم میں تھا۔ ہر قبیلہ سے ایک مخصوص تعداد تھی اور سارے مسلمان تھے۔ رسول کریم ﷺ کے ساتھ مل کر (دشمن سے) لڑائی کیلئے نکل کھڑے ہوئے اور مہاجرین و انصار (بھی اسی مقصد کو نکلے) پس ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ پس جب رسول کریم ﷺ مر الظہر ان کے مقام پر اترے تو قریش کے بارے میں خبریں آنا بند ہو گئیں۔ پس ان کے بارے میں رسول کریم ﷺ سے کوئی خبر نہ آئی (یعنی آپ ﷺ نے ان

7115 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُحْمٍ كُلثُومَ بْنَ حُصَيْنٍ الْغِفَارِيَّ، وَخَرَجَ لِعَشْرِ مَضِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمَجَ أَفْطَرَ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظُّهْرَانَ فِي عَشْرَةِ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مُزَيْنَةَ وَسَلِيمٍ، وَفِي كُلِّ الْقَبَائِلِ عَدَدٌ وَإِسْلَامٌ، وَأَوْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَلَمْ يَتَخَلَفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

کریم ﷺ مراظہر ان کے مقام پر اترے۔ حضرت عباس نے عرض کی: ہائے قریشیوں کی (بری) صبح! قسم بخدا! اگر رسول کریم ﷺ جنگ کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو گئے اس سے پہلے کہ مکہ والے آپ سے امان طلب کریں تو قریشیوں کی ہلاکت ہے سارا زمانہ (پھر وہ سنبھل نہ سکیں گے)۔ کہتے ہیں: میں رسول کریم ﷺ کے سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا یہاں تک کہ (مکہ کی) جھاڑیوں میں آیا۔ پس میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: میں کسی لکڑیاں اٹھانے والے دودھ والے یا کسی کام والے سے ملوں گا جو مکہ جا کر رسول کریم ﷺ کی جگہ کی ان کو خبر دے گا تاکہ رسول کریم ﷺ کی جگہ کی ان کو خبر دے گا تاکہ وہ آ کر امان مانگ لیں اس سے پہلے کہ رسول کریم ﷺ جنگ کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں۔ انہوں نے جواب دیا: قسم بخدا! میں اس پر چلتا رہوں گا اور وہی چیز تلاش کروں گا جس کے لیے میں نکلا ہوں جب میں نے ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء کا کلام سنا جبکہ وہ لوٹ رہے تھے اور ابوسفیان کہہ رہے تھے: آج کی طرح میں نے کبھی اتنی زیادہ آگ نہیں دیکھی اور کبھی کوئی لشکر (دیکھا ہے)۔ فرماتے ہیں: بدیل بن ورقاء کی زبان پر یہ بات تھی: قسم بخدا! اتنی یہ آگیں یہ تو بنو خزاعہ کی آگیں ہیں جنہوں نے جنگ کو بھڑکایا ہے۔ کہتے ہیں: ابوسفیان کہہ رہا تھا: قسم بخدا! خزاعہ تھوڑے اور کم ہیں اس سے کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ فرماتے ہیں: میں اس کی آواز پہچان گیا! پس میں نے کہا: اے ابو حذافہ! پس وہ میری

وَاصْبَاحَ قُرَيْشٍ، وَاللَّهُ لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنُودَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْمِنُوهُ، إِنَّهُ لَهْلَاكُ قُرَيْشٍ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ قَالَ: فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ، فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتَّى جِئْتُ الْأَرَكَ فَقُلْتُ: لَعَلِّي أَلْقَى بَعْضَ الْحَطَّابَةِ، أَوْ صَاحِبِ لَبْنٍ، أَوْ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي مَكَّةَ، فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْرِجُوا إِلَيْهِ، فَيَسْتَأْمِنُوهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُودَ. قَالَ: قَوْلَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَسِيرُ عَلَيْهَا، وَأَلْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَهُ إِذْ سَمِعْتُ كَلَامَ أَبِي سُفْيَانَ، وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ وَهُمَا يَتَرَاكِعَانِ، وَأَبُو سُفْيَانَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ نِيرَانًا وَلَا عَسْكَرًا قَالَ: يَقُولُ بُدَيْلٌ: هَذِهِ وَاللَّهِ نِيرَانُ خُزَاعَةَ حَمَشَتْهَا الْحَرْبُ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو سُفْيَانَ: خُزَاعَةُ، وَاللَّهِ أَذْلُ وَالْأَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ نِيرَانَهَا وَعَسْكَرُهَا. قَالَ: فَعَرَفْتُ صَوْتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةَ، فَعَرَفْتُ صَوْتِي، فَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَا لَكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. فَقُلْتُ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ وَاصْبَاحَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ قَالَ: فَمَا الْحِيلَةُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ ظَفَرَ بِكَ لِيُضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، فَارْكَبْ مَعِيَ

هَذِهِ الْبُعْلَةُ حَتَّى آتَى بِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِنُهُ لَكَ، قَالَ: فَرَكِبْتُ
 خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ، فَحَرَكْتُ بِهِ كُلَّمَا
 مَرَرْتُ بِنَارٍ مِنْ بَنِي الْأُمَلِّمِينَ قَالُوا: مَنْ
 هَذَا؟ فَإِذَا رَأَوْا بُعْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالُوا: عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى بُعْلَتِهِ حَتَّى مَرَرْتُ بِنَارِ عُمَرَ بْنِ
 الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ وَقَامَ
 إِلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَجْرِ الْبُعْلَةِ،
 قَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 أَمَكَّنَ مِنْكَ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْتَنْدُ
 نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 وَرَكَضَتِ الْبُعْلَةُ، فَسَبَقَتْهُ بِمَا تَسْبِقُ الدَّابَّةُ
 الْبُطْيَاءُ الرَّجُلَ الْبُطْيَاءُ، فَاقْتَحَمْتُ عَنْ
 الْبُعْلَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَدْ أَمَكَّنَ اللَّهُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا
 عَهْدٍ، فَدَعْنِي فَلَا ضَرْبَ عُنُقِهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجْرُتُهُ، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ
 بِرَأْسِهِ فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُنَاجِيهِ الثَّيْلَةُ رَجُلٌ
 ذُو نِي، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَرُ فِي شَأْنِهِ قُلْتُ: مَهْلًا يَا
 عُمَرُ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مِنْ رِجَالِ بَنِي عَدِيٍّ بِنِ
 كَعْبٍ مَا قُلْتُ هَذَا، وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ أَنَّهُ رَجُلٌ

آواز پہچان گیا۔ پس ابو الفضل (عباس) کہتے ہیں: میں
 نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا: تجھے کیا ہے! میرے ماں
 باپ تیرے اوپر قربان ہوں! پس میں نے کہا: تیرے لیے
 ہلاکت! اے ابوسفیان! لوگوں میں یہ اللہ کے رسول ہیں
 ہائے قریشیوں کی صبح! قسم بخدا! اس نے کہا: کوئی حیلہ بتاؤ؟
 میرے ماں باپ تجھ پر قربان! فرماتے ہیں: میں نے کہا:
 اگر وہ تیرے اوپر غالب آگئے تو پھری گردن بھی مار دیں
 گے۔ میرے ساتھ اس خنجر پر سوار ہو جا حتیٰ کہ میں تجھے
 رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور آپ ﷺ
 سے تیرے لیے امان طلب کروں۔ فرماتے ہیں: وہ میرے
 پیچھے سوار ہوا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے! پس
 میں نے اسے ایڑ لگائی! جب بھی میں مسلمانوں میں سے
 کسی کی آگ کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتے: یہ کون ہے؟
 پس جب انہوں نے رسول کریم ﷺ کے دراز گوش کو
 دیکھا تو کہا: آپ ﷺ کے دراز گوش پر رسول کریم ﷺ
 کے چچا ہیں یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب کی
 آگ کے پاس سے گزرتا تو انہوں نے کہا: یہ کون ہے؟ اور
 اٹھ کر میری طرف آئے! پس جب انہوں نے ابوسفیان کو
 خنجر کی پیٹھ پر دیکھا تو کہا: ابوسفیان اللہ کا دشمن ہے اللہ کا شکر
 ہے جس نے بغیر عقد و مجاہدہ کے تجھ سے یہ چیز ممکن بنائی
 ہے۔ پھر وہ سختی کرتے ہوئے نکلے اور سیدھے رسول
 کریم ﷺ کی بارگاہ میں آئے! سواری تیز چلی اور ان
 سے آگے نکل گئی جس طرح ست سواری بھی ست آدمی
 سے آگے نکلتی ہے! میں سواری سے اتر کر رسول

کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی داخل ہوئے۔ کہا: اے اللہ کے رسول! یہ ابوسفیان ہے۔ اللہ نے بغیر عقد و مجاہدہ کے قدرت دی ہے! پس آپ مجھے اجزت دیں تو اس کی گردن اُتار دوں۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: اے اے اللہ کے رسول! میں نے اسے اجر دیا ہے۔ پھر میں رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا سر پکڑ کر کہا: نہیں! قسم بخدا! آج رات میرے سوا کوئی آدمی آپ ﷺ سے سرگوشی نہیں کر سکے گا۔ پس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے معاملہ میں بڑھے تو میں نے کہا: اے عمر! ذرا ٹھہرو! قسم بخدا! اگر اس کا تعلق بنو عدی سے ہوتا تو میں یہ بات نہ کہتا لیکن تجھے معلوم ہے کہ بنو عبد مناف کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا: ٹھہرو! اے عباس! قسم بخدا! جس دن آپ اسلام لائے آپ کا اسلام لانا رسول کریم ﷺ کو خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند تھا! اگر وہ اسلام لاتے مجھے کوئی اور بات نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے رسول کریم ﷺ کو زیادہ پسند تھا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اسے اپنی رہائش پر لے جاؤ جب حکم ہو تو اسے لے کر آنا! پس میں اس کو اپنی رہائش پر لے گیا۔ پس اس نے میرے پاس رات گزاری۔ پس جب صبح ہوئی تو میں اس کو رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں لایا! پس جب رسول کریم ﷺ نے اسے دیکھا تو فرمایا: افسوس! اے ابوسفیان! کیا ابھی وہ وقت قریب نہیں آیا کہ تُو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں!

مِنْ رَجَالِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ: مَهْلًا يَا عَبَّاسُ، قَوْلَ اللَّهِ لِيَسْلَمَكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ، وَمَا بِي إِلَّا أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِكَ يَا عَبَّاسُ، فَإِذَا أَصْبَحَ فَأَنْتَبِهِ بِهِ. قَدْ هَبْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي فَبَاتَ عِنْدِي، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَوْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: يَا بَيْبَى أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ، وَاللَّهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ لَقَدْ أَغْنَى عَنِّي شَيْئًا قَالَ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: يَا بَيْبَى أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ هَذِهِ، وَاللَّهِ كَانَ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى الْآنَ. قَالَ الْعَبَّاسُ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَسْلِمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ، قَالَ: فَشَهِدَ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ وَأَسْلَمَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ: نَعَمْ مَنْ دَخَلَ

دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ
آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ. فَلَمَّا
ذَهَبَ لِيَنْصَرِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبَّاسُ، أَحْسَنُ بِمَضِيقِ الْوَادِي
عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ، حَتَّى تَمُرَّ بِهِ جُنُودُ اللَّهِ
فَيَرَاهَا. قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهِ حَتَّى حَبَسْتَهُ حَيْثُ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَحْسَنُ قَالَ: وَمَرَّتْ بِهِ الْقَبَائِلُ عَلَى رَايَاتِهَا
كُلَّمَا مَرَّتْ قَبِيلَةٌ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَأَقُولُ:
سُلَيْمٌ. فَيَقُولُ: مَالِي وَلَسُلَيْمٌ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُرُّ
الْقَبِيلَةُ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَأَقُولُ: مُزَيْنَةُ.
فَيَقُولُ: مَالِي وَلِمُزَيْنَةٍ؟ حَتَّى تَعْدَتْ الْقَبَائِلُ لَا
تَمُرُّ قَبِيلَةً إِلَّا قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَأَقُولُ: بَنُو
فُلَانٍ. فَيَقُولُ: مَالِي وَلِبَنِي فُلَانٍ. حَتَّى مَرَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْخَضِرَاءِ كَتِيبَةٍ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا
يَرَى مِنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقَ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَنْ
هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.
قَالَ: مَا لِأَحَدٍ بِهِؤُلَاءِ قَبْلَ وَلَا طَاقَةَ، وَاللَّهُ يَا
أَبَا الْفَضْلِ، لَقَدْ أَصْبَحَ مَلِكُ ابْنِ أَخِيكَ الْغَدَاةَ
عَظِيمًا. قُلْتُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، إِنَّهَا النُّبُوَّةُ. قَالَ:
فَنَعَمْ إِذَنْ، قُلْتُ: النَّجَاءُ إِلَى قَوْمِكَ. قَالَ:
فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا

اس نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کتنے
عزت والے ہیں اور کتنے صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ قسم
بخدا! میرا یقین ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ
مجھے ضرور کوئی فائدہ پہنچاتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تجھ پر
افسوس! اے ابوسفیان! کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ تجھے
معلوم ہو جائے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں! اس نے کہا:
میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کتنے بردبار ہیں
کتنے معزز اور کتنے بڑے صلہ رحمی کرنے والے ہیں! قسم
بخدا! میرے دل میں ایک بات تھی جو اب تک ہے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: تجھ پر افسوس! اے
ابوسفیان! اسلام قبول کر اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے سول ہیں! اس سے پہلے کہ
تیری گردن مار دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں: اس نے حق کی شہادت دی اور اسلام لایا۔
میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بے شک ابوسفیان
ایسا آدمی ہے جو اس فخر کو پسند کرتا ہے! پس آپ اس کے
لیے کوئی چیز مخصوص فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں! جو
ابوسفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے امان ہے! جس نے اپنا
دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو
گیا اسے امان ہے۔ پس جب واپس جانے کیلئے وہ چلا تو
رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے عباس! پہاڑ کے پاس
تنگ وادی میں جا کر اسے روک لینا یہاں تک کہ وہاں سے
اللہ کے لشکر گزریں اور یہ ان کو دیکھے۔ فرماتے ہیں: پس
میں ان کے ساتھ نکلا حتیٰ کہ میں نے اسے اس مقام پر

مَعَشَرَ قُرَيْشٍ، هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ بِمَا لَا قَبْلَ لَكُمْ بِهِ، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَأَخَذَتْ بِشَارِبِهِ، فَقَالَتْ: اقْتُلُوا الدَّسَمَ الْأَحْمَسَ، فَبَنَسَ مِنْ طَلِيعَةِ قَوْمٍ. قَالَ: وَيَحْكُمُ، لَا تَغُرُّكُمْ هَذِهِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ مَا لَا قَبْلَ لَكُمْ بِهِ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ قَالُوا: وَبِكَ وَمَا تُغْنِي عَنَّا دَارُكَ. قَالَ: وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ

روک لیا جس جگہ روکنے کا حکم رسول کریم ﷺ نے دیا تھا۔ فرماتے ہیں: مختلف قبیلے اپنے اپنے جھنڈے لے کر اس کے پاس سے گزرے پس جب بھی کوئی قبیلہ اس کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا: یہ کون ہیں؟ میں کہتا: بنو سلیم۔ پس وہ کہتا: میں بنو سلیم کو کیوں نہیں پہچانتا؟ فرماتے ہیں: پھر قبیلہ گزرتا تو وہ کہتا: یہ کون ہیں؟ میں کہتا: مزینہ! وہ کہتا: مجھے مزینہ سے کیا غرض ہے؟ حتیٰ کہ متعدد قبیلے گزرے کوئی قبیلہ بھی نہیں گزرا مگر اس نے کہا: یہ کون ہیں؟ میں کہتا رہا: بنو فلاں اور وہ کہتا رہا: مجھے بنو فلاں سے کیا غرض ہے؟ حتیٰ کہ رسول کریم ﷺ گزرے سبزی میں یعنی سبز جھنڈا۔ ایک لشکر تھا جس میں مہاجرین اور انصار تھے اس نے کہا: سبحان اللہ! اے عباس! یہ کون ہیں؟ میں نے کہا: یہ رسول کریم ﷺ ہیں! ساتھ مہاجرین و انصار ہیں۔ اس نے کہا: ان کا سامنا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں، قسم ہے اے ابوالفضل! کل صبح ہر شی تیرے بھائی کے بیٹے کی ملکیت ہو گی۔ میں نے کہا: اے ابوسفیان! یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا: پھر تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا: نجات تیری قوم کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں: پس وہ نکلا حتیٰ کہ جب وہ ان کے پاس آیا تو بلند آواز سے پکارا: اے گروہ قریش! یہ محمد ہیں تمہارے پاس وہ چیز لائے ہیں جو پہلے کوئی نہیں لایا۔ پس جو ابوسفیان کے گھر داخل ہوا اسے امان ہے۔ اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اس نے اس کی مونچھوں سے پکڑ لیا اور کہا: قتل کرو اس بوڑھے کو! پس کتنا برا قوم کا فرد ہے۔ اس نے کہا: تم پڑا فسوس! یہ عورت تم کو دھوکہ نہ دے تمہاری

جانوں سے کیونکہ آپ ﷺ وہ چیز لائے ہیں جو پہلے تمہارے پاس کوئی نہیں لایا۔ جو ابوسفیان کے گھر داخل ہو اسے امان ہے۔ انہوں نے کہا: تو برباد ہو! تیرا گھر ہمیں کیا فائدہ دے گا۔ اس نے کہا: جو دروازہ بند کر لے جو مسجد میں داخل ہو اسے امان ہے پس لوگ اپنے گھروں اور مسجد کی طرف لوٹ گئے۔

ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے محمد بن اسحاق کی حدیث کی مثل حدیث روایت ہے۔

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ

7116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ هَذَا يَصْنَعُ يَوْمَ الطَّعَامِ فَيَذْعُو هَذَا، وَيَصْنَعُ هَذَا يَوْمَ الطَّعَامِ فَيَذْعُو هَذَا، قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، الْيَوْمُ يَوْمِي فَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يَحْضَرَ الطَّعَامُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُذْرَكَ طَعَامُنَا، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت عبداللہ بن ابورباح فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ دن کھانا بنانے کا تھا اس کی دعوت کی جاتی تھی اس دن کھانا بنایا جاتا تھا اور اس کی دعوت کی جاتی تھی۔ میں نے عرض کی: اے ابو ہریرہ! آج کا دن اشارہ کرنے کا ہے کھانا آنے سے پہلے آیا ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابو ہریرہ! ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے کھانا آنے تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں فتح مکہ کے دن حضور ﷺ کے پاس تھا آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میرے پاس انصار کو بلاؤ! میں نے

ان کو بلایا تو انصار دوڑتے ہوئے آئے آپ نے فرمایا: کیا تم لوگوں کو ہوشیار دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: جب کل تم نے ان سے ملنا ہے ان کو مارنا ہے پھر تمہارے لیے وعدہ کی جگہ صفا ہے۔ راوی کا بیان ہے: حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دو گروہوں میں سے ایک پر مقرر کیا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دوسرے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لطن وادی پر۔ جب لوگ آئے تو ان سے ملے انصار آئے تو انہوں نے صفا کا چکر لگایا۔ حضرت سفیان نے آ کر عرض کی: اے اللہ کے رسول! پس آپ نے فرمایا: جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن والا ہے جو ہتھیار ڈال دے اسے امن ہے اور جو ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو ابوسفیان آیا اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! قریش کو جائز قرار دیا ہے قریش آج کے بعد نہیں ہے حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنا دروازہ بند کرے اُس کے لیے امن ہے جو ابوسفیان کے گھر داخل ہوا اُس کے لیے امن ہے اس کے بعد حماد بن سلمہ والی حدیث ذکر کی۔

وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا وَيُهْرَوُلُونَ، فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ النَّاسِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا، فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا، ثُمَّ مَوِّعِدُكُمْ الصَّفَا. قَالَ: وَاسْتَعْمَلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْنِ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى النَّادِيَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَلَمَّا جَاءَ الْقَوْمُ لَقِينَاهُمْ فَمَا تَقَدَّمَ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ وَفُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ فَصَعِدَ الصَّفَا، وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَاطْفَأُوا بِالصَّفَا، وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُبَيِّحُ خَضِرَاءَ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ: مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

7117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَابَابَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُبَيِّحُ قُرَيْشَ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ

الْيَوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي
سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَلَذَكَرْ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ
سَلَمَةَ

7118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ
أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ الْجَلِيُّ،
ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِسَرَفٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَرِيبٌ
مِنْكُمْ، فَاحْذَرُوهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلِمَ يَا أَبَا سُفْيَانَ. قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمِي قَوْمِي قَالَ: فَإِنَّ قَوْمَكَ مَنْ
أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. قَالَ: اجْعَلْ لِي شَيْئًا.
قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَكَ فَهُوَ آمِنٌ

مَا أَسْنَدَ أَبُو سُفْيَانَ
صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ

7119 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مقام سرف میں تھے تو حضور ﷺ نے فرمایا: ابوسفیان تمہارے قریب ہے اس سے بچو! حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابوسفیان! ایمان لے آؤ! حضرت ابوسفیان نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری قوم! میری قوم! آپ نے فرمایا: اگر تیری قوم دروازہ بند کرے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت ابوسفیان نے عرض کی: میرے لیے بھی کوئی شی مقرر کریں آپ نے فرمایا: جو تمہارے گھر میں داخل ہو اُس کے لیے بھی امان ہے۔

حضرت ابوسفیان صخر بن حرب کی
روایت کردہ احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوسفیان بن حرب نے بتایا منہ سے کانوں تک سنا حضرت ابوسفیان نے کہا: میں اس مدت میں چلا جو ہمارے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان طے تھی، ہم ملک شام میں

7119- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9724، وأحمد رقم الحديث: 2370، 2371، 2372، والبخاري رقم

الحديث: 7, 51, 2681, 2804, 2941, 2978, 3174, 3553, 5980, 6260, 7196, 7541, ومسلم رقم الحديث: 1773'

وابو داؤد رقم الحديث: 5114,3005' والترمذی رقم الحديث: 2860 -

بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطًا لَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ:
 فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ
 فَسَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ
 نَسْجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ
 يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هُدْنَةٍ لَا نَذِرُ
 مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: فَوَاللَّهِ، مَا أُمَكِّنِي مِنْ
 كَلِمَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ
 قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ. قُلْتُ: لَا. قَالَ:
 لَتَرْجُمَانِي: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسْبِهِ،
 فَرَزَعْتُمْ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ
 تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ
 مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ فَرَزَعْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ
 مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكَ آبَائِهِ،
 وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضَعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟
 فَقُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ،
 وَسَأَلْتُكَ هَلْ أَنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ
 يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَرَزَعْتُمْ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ
 يَكُنْ لِيَدَّعِ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبُ
 فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ
 مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطًا لَهُ؟
 فَرَزَعْتُمْ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ
 بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ
 يَنْقُصُونَ؟ فَرَزَعْتُمْ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ
 الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟

کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی ناراضگی کی وجہ
 سے کسی نے اس کا دین چھوڑا بھی ہے؟ میں نے کہا: جی
 نہیں! اس نے کہا: کیا ان سے تمہاری جنگ بھی ہوئی ہے؟
 میں نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا: تمہاری ان سے جنگ
 کیسی رہی؟ میں نے کہا: ہمارے اور ان کے درمیان
 مقابلہ خوب ہوا کچھ ہم میں سے اور کچھ اُن میں سے
 مارے گئے۔ اس نے کہا: کیا وہ غدر کرتا ہے؟ میں نے کہا:
 نہیں! لیکن اب ان سے ہماری عارضی صلح ہوئی ہے
 دیکھیں! وہ کیا کرتے ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں: قسم بخدا!
 اس کے علاوہ کوئی کلمہ اس میں داخل کرنا میرے لیے ممکن نہ
 ہوا۔ اس نے کہا: اس سے پہلے بھی اس نے کبھی اس طرح
 کی بات کی ہے؟ میں نے کہا: جی نہیں! اس نے اپنے
 ترجمان سے کہا: اس سے کہہ کہ میں نے اس سے اس کے
 حسب کے بارے پوچھا تو تیرا گمان ہے کہ وہ تم میں حسب
 والا ہے تو رسولوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم میں
 حسب والے بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے
 سوال کیا کہ اس آباء سے کوئی بادشاہ ہوا ہے تو تیرا گمان
 ہے کہ نہیں میں نے کہا: اگر اس آباء سے کوئی بادشاہ ہوتا تو
 میں کہتا کہ وہ ایسا آدمی ہے جو اپنے آباء کا ملک لینا چاہتا
 ہے۔ میں نے اس کی پیروی کرنے والوں کے بارے
 سوال کیا کہ وہ کمزور ہیں یا اشرافیہ ہے تو تو نے کہا: بلکہ وہ
 کمزور ہیں اور رسولوں کی پیروی کرنے والے کمزور ہی
 ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیا تم یہ کہنے سے
 پہلے بھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تیرا گمان ہے

فَرَعَمْتُ أَنْكُمْ فَأَتَلْتُمُوهُ فَيَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُ سَجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ
هَلْ يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ
أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ
هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ أَنْتُمْ يَقُولُ قِيلَ
قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: فِيمَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ. قَالَ: فَإِنْ
يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا إِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ
أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ لِأَخِيَّتِ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ
عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيُكَلِّفَنَّ مُلْكُهُ مَا
تَحْتَ قَدَمَيْ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ، فِإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى هِرْقَلٍ عَظِيمِ الرُّومِ،
سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي
أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلَمَ، وَأَسْلِمَ
يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَرَكْتِ فَإِنَّ
عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّنَ، وَ (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) (آل
عمران: 64) إِلَى قَوْلِهِ (يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ) (آل
عمران: 64)، فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ

وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ

کہ نہیں! پس میں پہچان گیا کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا
وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا۔ میں نے تجھ سے سوال کیا
کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے ناراض
ہو کر کوئی پھرا ہے؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! اسی طرح ہوتا ہے
جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے (تو پھر رچ بس ہی
جاتا ہے) اور میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیا اس کے
ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تیر
گمان ہے کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں اسی طرح ایمان کی شان
ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو کر رہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا
کہ کیا تم نے اس سے جنگ کی ہے؟ تو تیرا گمان ہے کہ تم
نے اس سے جنگ کی ہے تو مقابلہ برابر رہا ہے کچھ
تمہارے آدمی کام آئے اور کچھ ان کے آدمی کام آئے
ہے بھی ایسے ہی کہ رسولوں کی آزمائش کی جاتی ہے پھر
انجام ان کیلئے ہوگا میں نے اس کے غدر (وعدہ خلافی)
کے حوالے سے پوچھا تو تیرا گمان ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں
کرتا اور رسولوں کی شان یہی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں
کرتے میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا کسی ایک نے اس
سے پہلے بھی یہ بات کی؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! میں نے
کہا: اگر اس سے پہلے کسی نے یہ بات کی ہوتی تو میں کہتا
کہ یہ اس کی نقل کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا: آپ تمہیں یہ
حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا: وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی،
رپا کیزہ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا: اگر یہی بات
ہے جو تو اس کے بارے کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کے سچے نبی
ہیں یقیناً مجھے ان کی تشریف آوری کا علم تھا لیکن مجھے اس

الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ
اللَّغَطُ، وَأَمَرَ بَنَاهُ فَأَخْرَجَنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي
حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ
لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيُظْهِرُ
حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ:
فَدَعَا هِرَقْلُ عِظَمَاءَ الرُّومِ، فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ
لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ
وَالرَّشْدِ آخِرُ الْأَيْدِ؟ وَأَنْ يَبَيِّنَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟
قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى
الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ، فَدَعَا بِهِمْ: إِنِّي
إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ
مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ

کے تم میں سے ہونے کا گمان نہ تھا، اگر مجھے علم ہوتا کہ مجھے
فرصت ملے گی تو میں اس ملاقات کو پسند کرتا اور اگر میں ان
کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا اور ضرور بضرور ان
کا ملک میرے قدموں کے نیچے والے زمین تک پہنچے گا
پھر اس نے رسول کریم ﷺ کا خط منگو کر پڑھا تو اس میں
تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم! محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف
سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف! سلام اس پر جس نے
ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد میں آپ کو اسلام کی
دعوت دیتا ہوں! اسلام لے آئیں سلامتی پائیں! اسلام
لائیں! اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اجر عطا فرمائے گا! اگر آپ
نے ترک کیا تو تیرے اوپر رعایا کا گناہ بھی ہوگا اور اے
اہل کتاب! آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے
درمیان برابر ہے اس فرمان تک: کہ ہم مسلمان ہیں۔ پس
جب اس نے خط پڑھ لیا تو اس کے پاس آوازیں بلند
ہوئیں اور لوگوں نے غلط باتیں کیں۔ ہمیں نکال دینے کا
حکم ملا جب ہم نکل رہے تھے تو میں نے اپنے دوستوں
سے کہا: ابوبکھشہ کا بیٹا (حضور ﷺ) بادشاہ ہوگا کہ اس
سے بنو اسفر کا بادشاہ بھی خوف کرے گا۔ مجھے یقین نہیں کہ
رسول کریم ﷺ غالب آئیں اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں
اسلام میں داخل کر دے۔ حضرت امام زہری کا قول ہے:
پس ہرقل نے روم کے بڑے لوگوں کو بلا کر ایک گھر میں جمع
کیا، کہا: اے روم کے گروہ! کیا تمہیں کوئی فائدہ معلوم ہوتا
ہے کہ تم آخر زمانے تک کامیاب اور راہِ راہت پر رہو اور
تمہارا ملک قائم رہے؟ امام زہری کہتے ہیں: رومی جنگلی

سرخ گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے تو دروازے بند تھے۔ ہرقل نے ان کو پھر بلایا: (کہا:) میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو؟ پس میں نے تم میں وہی چیز پائی ہے جو میں پسند کرتا تھا۔ پس انہوں نے اس کو سجدہ کیا اور راضی ہو گئے۔

حضرت ابوسفیان نے خبر دی کہ قریش کے لشکر میں ہرقل نے ان کی طرف پیغام بھیجا اس حال میں کہ وہ شام میں تاجر بن چکے ہوئے تھے۔ اسی زمانے میں پس وہ اس کے پاس ایلیا آئے۔ پس ہرقل نے ان کو ایک مجلس میں بلایا جبکہ اس کے ارد گرد روم کے عقلمند لوگ تھے پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلا کر کہا: ان سے پوچھ کہ ان میں سے کون ہے جو اس آدمی سے قریبی نسبی رشتہ رکھتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس ابوسفیان نے کہا: میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا: تم میرے قریب ہو جاؤ اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے قریب کر لیا۔ پس ان کو ابوسفیان کی پیٹھ کے پاس بٹھا دیا۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا: ان سے کہہ دے کہ میں نے ان سے اس آدمی کے بارے پوچھا ہے پس اگر یہ آدمی مجھے جھٹلائے مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ حضرت ابوسفیان کہتے ہیں: قسم بخدا! اگر اس بات کی حیاء نہ ہوتی کہ مجھ پر جھوٹ کی تہمت لگائیں گے تو میں آپ ﷺ کے بارے ضرورت جھوٹ بولتا۔ پھر کہا: سب سے پہلی چیز جس کے بارے اس نے مجھ سے پوچھا: کہا: تمہارے اندر اس کا نسب کیا ہے؟ میں نے کہا: وہ شریف نسب والے ہیں۔ اس نے

7120 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ

السَّرَّاجُ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هِرْقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَاتَوَهُ بِإِيلِيَاءٍ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسٍ، وَحَوْلَهُ عُقْلَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَا بَتَرَجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: اذْنُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَجَعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِبَتَرَجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبْتَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ أَنْ يَأْتُرُوا عَلَيَّ الْكُذِبَ لَكَذَّبْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلَنِي عَنْهُ قَالَ: فَكَيْفَ نَسَبُهُ فِيمَكُم؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو

فَا سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ

نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَفُهُمْ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَرْتَدُّ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ يُمَكِّنِي كَلِمَةً أُدْخِلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِحَالًا وَدُولًا يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اغْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَبِالْعَقَابِ وَبِالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّزْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ؟ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ دُونِ نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تَبَعْتُ فِي نَسَبٍ قَوْمِيهِمْ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْتُمْ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ

کہا: اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے یہ بات کی؟ میں نے جواب دیا: نہیں! اس نے کہا: اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا؟ میں نے جواب دیا: نہیں! اس نے کہا: بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے جواب دیا: بلکہ کمزور لوگوں نے۔ اس نے کہا: وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا: بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا: کیا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو کر اس کے دین سے پھرا؟ اس میں داخل ہونے کے بعد؟ میں نے جواب دیا: نہیں! اس نے کہا: تم اسے جھوٹا کہا کرتے تھے (پہلے)؟ میں نے جواب دیا: نہیں! اس نے کہا: کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا: نہیں! اب ایک مدت تک ہمارا ان سے عارضی معاہدہ ہے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ البوسفیان کا قول ہے: میرے لیے ممکن نہ ہوا کہ اس بات کے علاوہ کوئی بات میں اپنے کلام میں داخل کرتا۔ اس نے کہا: کیا تمہاری ان سے جنگ ہوئی؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! اس نے کہا: تمہارا ان سے جنگ کرنا کیسا رہا؟ میں نے جواب دیا: ہمارے درمیان مقابلہ خوب ہوا، کچھ ہم میں سے کچھ ان میں سے کام آئے! اس نے کہا: آپ ﷺ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: وہ فرماتے ہیں: اللہ کی عبادت کرو! اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ! ان کو چھوڑ دو جن کی عبادت تمہارے آباء کرتے تھے نماز، زکوٰۃ، صدقہ، پاکیزہ رہنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا: میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے

پوچھا تو تیرا گمان تھا کہ وہ تم میں اچھے نسب والا ہے اسی طرح رسول اپنی قوم میں اچے نسب والے ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات کی؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! تو میں نے کہا: اگر اس سے پہلے کسی نے یہ بات کی ہوتی تو میں کہتا: یہ ایسا آدمی ہے جو پہلے کہی ہوئی بات کو مکمل کر رہا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا: کیا اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! پس میں نے کہا: اگر اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ اپنے آباء کا ملک مانگتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ بات کہنے سے پہلے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے تو تیرا گمان ہے کہ نہیں! پس میں پہچان گیا کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ بڑے لوگ یا کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تیرا گمان ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کمزور ہیں تو رسولوں کی پیروی کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تیرا گمان ہے کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں! ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ مکمل ہو کر رہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر کوئی ایک پھر ہے؟ پس تیرا گمان ہے کہ نہیں! تو ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ دل سے چٹ جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو تیرا گمان ہے کہ نہیں! تو رسولوں کی یہی شان

مَلِکْ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا. فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِکْ قُلْتُ: يَطْلُبُ مُلْکَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، فَقَدْ اعْرِفَ أَنْ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشَرَّافَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ ضَعَفَاءُ هُمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ اتَّبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ الْإِيمَانَ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ يُخَالِطُ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُونَ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ، وَسَأَلْتُكَ كَيْفَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّ الْحَرْبَ بَيْنَكُمْ سَجَالٌ وَذُولٌ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ يَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ عَمَّا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّ أَخْلَصَ إِلَيْهِ لَأَتَمَسْتُ لُقِيَهُ، وَلَوْ

كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ
بِهِ دَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى، فَقَدَفَعَهُ إِلَى
هَرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَبَازَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
هَرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى،
أَمَّا بَعْدُ فَيَأْتِي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ
تَسْلِمَ، وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ
تَوَلَّيْتَ فَبِإِنَّ، عَلَيْكَ إِنْهُمْ الْأَرِيسِيِّينَ - قَالَ
الْثَّيْتُ: الْأَرِيسِيُّونَ: الْعَشَارُونَ - (يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) " قَالَ
أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ
الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ اللَّجْبُ، وَارْتَفَعَتِ
الْأَصْوَاتُ وَخَرَجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ
خَرَجْنَا: لَقَدْ ارْتَفَعَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ
يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُسْتَقِنًا أَنَّهُ
سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ
ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبَ إِبِلِيَّا وَهَرَقْلَ سَقْفًا عَلَى
نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ: أَنَّ هَرَقْلَ حِينَ قَدِمَ
إِبِلِيَّا أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِثَ النَّفْسُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ
بَطَارِقِيهِ: لَقَدْ اسْتَكْبَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ: وَكَانَ

ہوتی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے
پوچھا کہ ان سے تمہارا جنگ کرنا کیسا رہا؟ تیرا گمان ہے کہ
برابر برابر تو رسولوں کی شان ہے کہ ان کی آزمائش کی جاتی
ہے پھر انجام انہیں کے حق میں ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے
پوچھا کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ پس تیرا گمان ہے کہ وہ
تمہیں اللہ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی شی کو شریک
نہ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بتوں کی عبادت سے روکتا ہے
تمہیں نماز، زکوٰۃ، پاکیزگی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے جو
باتیں اس کے بارے میں کہی ہیں اگر وہ حق اور سچ ہیں تو
قریب ہے کہ وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے کی جگہ
کا بھی وہ مالک بن جائے۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ وہ ضرور
تشریف لائیں گے، لیکن میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تم
میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ مجھے فرصت ملے گی
تو میں ان سے ملاقات کی التماس کروں اور اگر مجھے ان
کے پاس ہونے کی سعادت ملے تو میں ان کے قدم دھونے
کی سعادت پاؤں۔ پھر اس نے رسول کریم ﷺ کا خط
منگوا کر پڑھا جس کو لے کر حضرت دحیہ کلبی بصری کے
حکمران کے پاس آئے اور اس نے ہرقل کی طرف بھیج دیا
پس اس نے پڑھا تو اس میں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم! اللہ
کے رسول محمد کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف!
سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد
میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آ سلامتی
ملے گی، تو اسلام قبول کر لے اللہ تجھے دہرا ثواب عطا
کرے گا اور اگر تُو نے پیٹھ پھیری تو تیری رعایا کا گناہ بھی

هَرَقْلُ رَجُلًا حَزَاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ. قَالَ لَهُمْ
 حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي
 النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ قَالَ: فَمَنْ يَخْتِنُ
 مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ قَالَ: يَخْتِنُ الْيَهُودُ، قَالَ: فَلَا
 يَهْتِنُكَ شَأْنُهُمْ، فَاتَّخَبْتُ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ،
 فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى
 ذَلِكَ أَتَى هَرَقْلُ رَجُلٌ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ
 يُخْبِرُهُ خَبَرَ ظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَادْهَبُوا فَانظُرُوا أَمْخَتِنُ
 هُوَ أَمْ لَا؟ فَسَنظُرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتِنٌ،
 فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ يَخْتِنُونَ،
 فَقَالَ هَرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ كَتَبَ
 هَرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةٍ وَنَظِيرٍ لَهُ فِي
 الْعِلْمِ، وَسَارَ هَرَقْلُ إِلَى حِمَصَ، فَلَمَّ يَرِمُ
 حِمَصَ حَتَّى جَاءَهُ كِتَابُ صَاحِبِهِ، فَوَافَقَ رَأَى
 هَرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هَرَقْلُ لِلْعُظَمَاءِ مِنَ
 السُّرُومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمَصَ، ثُمَّ أَمَرَ
 بِالْأَبْوَابِ فَأُغْلِقَتْ، ثُمَّ أَطْلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: يَا
 مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَادِ،
 وَأَنْ يَبُتَّ مُلْكُكُمْ؟ تَتَّبِعُونَ هَذَا النَّبِيَّ،
 فَحَاصُوا حَيَصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ،
 فَوَجَدُوهَا قَدْ أُغْلِقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هَرَقْلُ ذَلِكَ

تیرے اوپر ہوگا۔ حضرت لیث کا قول ہے: ”اریسیون“
 سے مراد ”عشارون“ ہے۔ اور اے اہل کتاب! آؤ اس
 کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے
 کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے ساتھ کسی
 بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی ایک
 دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنالے۔ پھر اگر وہ توحید نہ
 مانیں تو انہیں کہہ دیجئے! تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔
 ابوسفیان کہتے ہیں: جب اس نے کہا جو کہہ اور خط پڑھنے
 سے فارغ ہوا تو اس کے پاس شور بڑھ گیا اور آوازیں
 اٹھنے لگیں، ہم نکلے پس میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
 جب ہم نکلے ابو کبشہ کے بیٹے (حضور ﷺ) کا معاملہ
 ترقی کر گیا کہ بنو اصفرا کا بادشاہ بھی ڈر رہا ہے مجھے یقین نہیں
 ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے سے پہلے وہ حاصل کرے۔
 ابن ناظور ایلیا کا حکمران تھا اور ہرقل شام کے عیسائیوں پر
 بظب تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو خبیث
 انفس ہو گیا اس سے ایک بطریق نے اس سے کہا: تمہاری
 شکل ناپسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں: ہرقل اندازہ لگانے والا
 آدمی تھا وہ ستاروں میں دیکھتا تھا جب انہوں نے اس
 سے سوال کیا تو اس نے ان سے کہا: آج رات بے شک
 میں نے دیکھا ہے جب میں نے ستاروں میں نظر کی۔ ختنہ
 کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا: ان اُمتوں
 میں سے ختنہ کرنے والے کون ہیں؟ اس نے کہا: ختان
 یہودی ہیں ان کی شان تجھے نہیں مل سکتی۔ اپنے ملک کے
 شہروں کو خط لکھو پس انہیں چاہیے کہ ان میں جو یہودی ہیں

وَيَسِّرَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ:
إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ مَقَالَتِي الَّتِي قُلْتُ لَكُمْ إِنْفًا
لَا خَيْرَ بِهَا شِدَّتْكُمْ عَلَيَّ دِينَكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ
مِنْكُمْ الْذِي أُحِبُّ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ،
وَكَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ

ان سے قتال کریں۔ پس وہ اسی حال میں موجود تھے کہ
ہرقل کے پاس ایک آدمی آیا جس کو غسان کے بادشاہ نے
بھیجا تھا تاکہ وہ اس کو رسول کریم ﷺ کے ظہور کی خبر
دے۔ اس سے پہلے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول کا خط
پہنچے اس نے کہا: جاؤ اور جا کر دیکھو! کیا ختنہ کرنے والا ہے
یا نہیں؟ پس انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ وہ ختنہ کرنے کا حکم
دیتے ہیں پس اس نے عرب کے بارے بھی یہی سوال
کیا؟ تو ایسے خبر ملی کہ وہ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ پس ہرقل نے
کہا: وہ اس اُمت کا بادشاہ ہے۔ پھر ہرقل نے رومی زبان
میں اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو علم میں اس کی مثل تھا اور
ہرقل حص کی طرف چلا۔ پس ابھی اس نے ہرقل کا ارادہ کیا
ہی تھا کہ اس کے پاس اس کے دوست کا خط آ گیا۔ رسول
کریم ﷺ کی تشریف آوری کے خبر پر اس نے اس
سے اتفاق کیا اور یہ کہ وہ ہی برحق ہے۔ پس حص میں اس
کی جو بڑی عمارت تھی اس میں اس نے بڑے بڑے
رومیوں کو بلایا پھر دروازے بند کر دینے کا حکم دیا پھر وہ
ان کے سامنے آیا۔ پس اس نے کہا: اے رومیو! کیا تم
لوگوں کو ہمیشہ کی کامیابی اور رہنما کی ضرورت ہے اور تم
چاہتے ہو کہ تمہارا ملک سلامت رہے؟ (اگر یہ بات ہے)
تو نبی کے پیرو بن جاؤ۔ پس رومی جنگلی گدھوں کی طرح
دروازوں کی طرف دوڑے دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل
نے یہ صورت حال دیکھی او ان کے ایمان لانے سے مایوس
ہو گیا تو کہا: ان کو میرے پاس واپس لاؤ اور پھر کہا: میں
نے ابھی جو تم سے بات کی ہے صرف تمہارا امتحان کرنے

کیلئے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ پس میں نے تم سے وہی بات دیکھی ہے جو مجھے پسند تھی۔ پس انہوں نے اس سجدہ کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور یہ بات اس حدیث کے آخر میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائی ابوسفیان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں: ہم تاجر آدمی تھے۔ ہمارے اور رسول خدا ﷺ کے درمیان جنگ ہوئی حتیٰ کہ ہمارے مال ختم ہو گئے پس جب ہمارے اور رسول کریم ﷺ کے درمیان جنگ بندی تھی تو ہمیں اپنے مالوں پر امن نہ تھا۔ پس قریشیوں کے ایک گروہ کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلا۔ اس میں ہماری تجارت گا ہیں تھیں۔ پس میں آیا جب ہر قل ان لوگوں پر غالب آچکا تھا جو فارسی اس سے ٹکرائے۔ پس اُس نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے بڑی صلیب چھین لی حالانکہ وہ لوگ پہلے اس سے صلیب لے چکے تھے۔ پس جب اسے یہ خبر پہنچی اور یہ خبر کہ صلیب اسے حاصل ہو گئی ہے جبکہ حمص میں اس کا اپنا ذاتی گھر تھا۔ وہاں سے وہ پیدل اللہ کا شکر ادا کرنے کو نکلا جب اسے مل گیا جو ملا تاکہ بیت المقدس میں پہنچ کر شکرانے کی نماز پڑھے۔ راستہ اس کے لیے قالینوں سے سجایا گیا اور اس پر خوشبوئیں چھڑک دی گئیں پس جب وہ ایلیا پہنچا اس میں اس نے نماز شکرانہ ادا کی۔ اس کے علماء اور روم کے بٹب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ابوسفیان کہتے ہیں: حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کے ہاتھوں اسے رسول کریم ﷺ کا خط ملا: بسم اللہ الرحمن

7121 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: كُنَّا قَوْمًا تَجَارًا، وَكَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ حَصَرْتَنَا حَتَّى هَلَكْتُ أَمْوَالَنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَأْمَنْ فِي أَمْوَالِنَا، فَخَرَجْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ آخِذًا إِلَى الشَّامِ، وَكَانَ فِيهِ مَنْجَرُنَا، فَقَدِمْتُهَا حِينَ ظَهَرَ هَرَقُلُ عَلَى مَنْ كَانَ عَارِضَهُ مِنْ فَارِسَ فَأَخْرَهُمْ مِنْهَا، وَانْتَوَعَ لَهُ صَلِيْبُهُ الْأَعْظَمُ، وَقَدْ كَانُوا سَلَبُوهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَبَلَغَهُ أَنَّ صَلِيْبَهُ اسْتَقْدَلَ لَهُ، وَكَانَتْ حِمَصُ مَنْزِلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ مُتَشَكِّرًا لِلَّهِ حِينَ رَدَّ عَلَيْهِ مَا رَدَّ لِيُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِسَطٍ لَهُ الطَّرِيقُ بِالْبُسْطِ، وَيَلْقَى عَلَيْهَا الرِّيَاحِينَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى إِسْلِيَا، وَقَضَى فِيهَا صَلَاتَهُ وَمَعَهُ

بَطَارِقَتُهُ وَأَسَاقِفُ الرُّومِ قَالَ: وَقَدِمَ عَلَيْهِ
كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ
دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ
عَظِيمِ الرُّومِ، السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا
بَعْدُ فَأَسْلِمَ تَسْلَمٌ، وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ
مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَسَوَّلَ فَإِنَّ إِيَّاهُ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْكَ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
فَحَدَّثَنِي أَسْقَفُ النَّصَارَى قَالَ: أَدْرَكْتُهُ فِي
زَمَانِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ زَعَمَ لِي أَنَّهُ أَدْرَكَ
ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمْرِ هِرَقْلَ وَعَقْلِهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ دِحْيَةَ
أَخَذَهُ، فَجَعَلَهُ بَيْنَ فِخْذَيْهِ وَخَاصِرَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ
كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ بَرُومِيَّةٍ كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْعِبْرَانِيَّةِ
مَا يَقْرَأُ، فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهُ وَيَصِفُ لَهُ شَأْنَهُ وَيَخْبِرُ
مَا جَاءَ بِهِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ رُومِيَّةٍ أَنَّهُ
النَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُهُ لَا شَكَّ فِيهِ، فَاتَّبَعَهُ
وَصَدَّقَهُ، فَأَمَرَ هِرَقْلَ بِبَطَارِقَةِ الرُّومِ، فَجَمَعُوا
لَهُ فِي دَسْكَرَةِ مُلْكِهِ، وَأَمَرَ بِهَا فَأُسْرِجَتْ
عَلَيْهِمْ بِأَبْوَابِهَا، ثُمَّ أُطْلِعَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيْهِ
وَعَاقَفَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ،
إِنِّي قَدْ جَمَعْتُكُمْ لِيَخْبِرَ، إِنَّهُ قَدْ أَتَانِي كِتَابُ
هَذَا الرَّجُلِ، يَدْعُونِي إِلَى دِينِهِ، وَأَنَّهُ وَاللَّهِ

الرحيم! محمد رسول الله ﷺ کی طرف سے روم کے بادشاہ
ہرقل کی طرف! سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی
کی اس کے بعد تو اسلام لے آ سلامتی ملے گی اور تیرے
اسلام لانے سے تجھے دُہرا اجر ملے گا اگر تو نے گردن
پھیری تو تیری رعایا کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ جناب
محمد بن اسحاق نے کہا: حضرت ابن شہاب زہری فرماتے
ہیں: پس عیسائیوں کے بشپ نے مجھے یہ بات سنائی۔ وہ
کہتے ہیں: میں نے اسے عبد الملک بن مروان کے زمانے
میں پایا۔ اس نے میرے حوالے سے گمان کیا کہ اس نے
رسول کریم ﷺ اور ہرقل اور اس کی کابینہ کے امراء سے
اس کو پایا ہے۔ اس نے کہا: جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ
عنه رسول کریم ﷺ کا خط اس کے پاس لے کر آئے تو
اس نے اسے لے کر اپنی رانوں اور کولھے کے درمیان رکھ
لیا۔ وہ کہتے ہیں: پھر اس نے رومی زبان میں ایک آدمی کو
خط لکھا جو عبرانی زبان پڑھا کرتا تھا جو پڑھتا تھا۔ پس اس
نے اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھا اور اپنے کام کی وضاحت
کی اور خط کی خبر دی۔ پس اس کے ساتھی نے اس کے خط کا
جواب رومی زبان میں لکھا کہ وہ نبی جس کے ہم انتظار میں
ہیں اس کے آنے میں شک نہیں پس اس نے اس اقتداء
کی اور اس کی تصدیق کی۔ پس ہرقل نے روم کے علماء کو
اپنے ملک کی بڑی عمارت (محکم) میں اکٹھا ہونے کا حکم
دیا اور ان پر دروازے بند کرنے کا حکم دیا پھر وہ خود ان کے
پاس آیا اور اسے اپنی ذات پر خوف ہوا اس نے کہا: اے
رومیو! میں نے تم لوگوں کو ایک خبر دینے کیلئے اکٹھا کیا ہے

الرَّجُلُ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُهُ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا،
فَهَلُمْ فَلْتَتَّبِعُهُ وَلْنَصِدِّقَهُ فَيَسْلَمَ لَنَا دُنْيَانَا
وَأُخْرَانَا، فَتَخَرُّوا نَخْرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ
ابْتَدَرُوا أَبْوَابَ الدَّسْكَرَةِ لِيَخْرُجُوا مِنْهَا،
فَوَجَدُوهَا قَدْ أُغْلِقَتْ دُونَهُمْ، فَقَالَ: كُتُّوهُمْ
عَلَيَّ، وَخَافَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ، فَكُتُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ:
يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، إِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ
الَّتِي قُلْتُ لَكُمْ لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَّاتُكُمْ عَلَى
دِينِكُمْ لِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي حَدَّثْتُ، فَقَدْ رَأَيْتُ
مِنْكُمْ الَّذِي أَسْرُبُهُ، فَوَقَعُوا لَهُ سُجُودًا وَأَمَرَ
بِأَبْوَابِ الدَّسْكَرَةِ فَفُتِحَتْ لَهُمْ فَانْطَلَقُوا

وہ یہ ہے کہ مجھے اس آدمی کا خط آئی ہے جو مجھے اپنے دین
کی طرف بلاتا ہے اور یہ کہ تم بخدا! یہ وہی آدمی ہے جس
کے ہم انتظار میں تھے (کہ وہ نبی بن کر آئے گا اور یہ
بات) ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں پس آؤ! ہم سب مل کر
اس کی اتباع کر لیں اور ہمیں چاہیے کہ اس کی تصدیق
کریں پس وہ ہماری دنیا (ملک) اور آخرت (جنت)
ہمارے حوالے کر دیں گے۔ پھر انہوں نے عمارت کے
دروازوں کی طرف جانے میں جلدی کی تاکہ وہ اس سے
نکل جائیں پس انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ قیصر روم
نے اپنے کارندوں سے کہا: ان کو لوٹا کر میرے پاس لاؤ۔
(جب وہ آئے) تو کہا: اے رومیو! میں نے یہ بات تم سے
اس لیے کی ہے تاکہ میں اندازہ کروں کہ تم اپنے دین پر
کتنے پختہ ہو اس امر کی وجہ سے جو پیش آیا ہے پس تم سے
میں نے وہ چیز دیکھی ہے جس نے مجھے خوش کر دیا ہے پس
وہ اس کے سامنے سجدہ میں پڑ گئے اس نے عمارت کے
دروازے کھولنے کا حکم دیا (دروازے کھلے) اور وہ نکل
گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
مجھے ابوسفیان بن حرب نے یہ حدیث سنائی کہ وہ چند
قریشیوں کے ساتھ شام میں تھے وہ تجارت کیلئے آئے تھے
اور یہ اس مدت کی بات ہے جب رسول کریم ﷺ اور
کفار قریش کے درمیان معاہدہ تھا۔ ابوسفیان کہتے ہیں:
قیصر روم کا قاصد آیا پس وہ مجھے اور میرے دوستوں کو لے
چلا حتیٰ کہ ہم ایلیا پہنچ گئے۔ پس اس پر داخل ہوئے پس وہ

7122 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ
بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، ثنا
سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رَجَالٍ
مِنْ قُرَيْشٍ، قَدِمُوا تِجَارًا وَذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي

كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَأَتَى رَسُولُ قَيْصَرَ، فَأَنْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِلَيْهَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مُلْكِهِ عَلَيْهِ النَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، فَقَالَ لَتَرْجُمَانِي: سَلْتُهُمْ: أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا. قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قُلْتُ: وَابْنُ عَمِّي، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ مِنْ نَبِيٍّ عَبْدٌ مُنَافٍ غَيْرِي. قَالَ قَيْصَرُ: اذْنُوه مِنِّي، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابِي، فَجَعَلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَيْفِي، ثُمَّ قَالَ قَيْصَرُ لَتَرْجُمَانِي: قُلْ لِأَصْحَابِي إِنِّي سَأِلْتُ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَوْلَا الْإِسْتِحْيَاءُ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَنِي، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا عَنِّي الْكَذِبَ فَصَدَقْتُهُ. ثُمَّ قَالَ قَيْصَرُ لَتَرْجُمَانِي: قُلْ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَهُ فِي الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ مَلِكًا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ:

اپنے ملک کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر تاج تھا جبکہ اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پس اس نے اپنے ترجمان سے کہا: ان سے پوچھ! ان میں سے کون ہے؟ جو اس آدمی سے قریبی نسب رکھتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس ابوسفیان نے کہا: میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا: آپ کے اور ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا: میرے چچا کا بیٹا ہے قیصر نے کہا: میرے قریب آ جاؤ! پھر اپنے دوستوں سے کہا: اس کی پیٹھ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ پھر قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا: ان سے کہہ کہ ان کے اس ساتھی کے بارے میں پوچھنا ہے جو گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ پس وہ اگر جھوٹا ہے تو اسے جھٹلائے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں: اس دن قافلے میں میرے علاوہ بنو عبد مناف میں سے کوئی نہ تھا۔ قیصر نے کہا: اس کو میرے قریب لاؤ پھر میرے ساتھیوں کو حکم دیا کہ میرے کندھے کے پاس میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ پھر قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا: اس سے پوچھ! تمہارے اندر اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا: وہ شریف نسب والے ہیں۔ اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے یہ بات کہی؟ میں نے کہا: نہیں! کیا تم انہیں جھوٹا کہا کرتے تھے اس سے پہلے جو انہوں نے کہا؟ میں نے کہا: نہیں! اس نے کہا: ان کے آباء میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا: نہیں! اس نے کہا: جو پیروی کرنے والے ہیں وہ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ میں نے کہا: غریب! پس اس نے کہا: لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟

فَأَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ، أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: نَحْنُ مِنْهُ فِي مَدَّةِ الْآنَ، وَنَحْنُ نَخَافُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ يُمَكِّنِي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْقَضَهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ يُؤَثِّرَ عَنِّي غَيْرَهَا، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ قُلْتُ: كَانَتْ دُؤْلًا وَسَجَالًا، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرْءُ، وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى. قَالَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَنُحَدِّثَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. قَالَ: فَقَالَ لِمَنْ جَمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيمُكُم فَرَعَمْتُ أَنَّهُ فِيمُكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْعَثُ فِي شَرَفِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ؟ قُلْتُ: لَا. فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْتُمْ يَقُولُ قَائِلٍ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَنْهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْعُ الْكَذِبَ عَلَى

میں نے کہا: بڑھ رہے ہیں اس نے کہا: کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس سے پھرا ہے؟ میں نے کہا: نہیں! اس نے کہا: کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا: نہیں! ایک مدت تک ہمارا ان سے معاہدہ رہا، ہم اس طرح خوف کرتے ہیں۔ ابوسفیان کا قول ہے کہ میرے لیے ممکن نہ ہوا کہ اس بات کے علاوہ میں اس میں کوئی اور بات داخل کرتا یا اس میں کمی کرتا۔ اس نے کہا: کیا تمہاری ان سے جنگ ہوئی؟ کہا: جی ہاں! اس نے کہا: تمہاری اور ان کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا: خوب مقابلہ ہوا، معاملہ اوپر نیچے ہوتا رہا۔ اس نے کہا: آپ ﷺ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان کو چھوڑ دو جن کی عبادت تمہارے آباء کرتے تھے اور ہمیں نماز، صدقہ، پاکیزہ وعدہ پورا کرنے اور امانت واپس کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا: میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تیرا گمان تھا کہ وہ تم میں اچھے نسب والا ہے اور اس طرح رسول اللہ ﷺ اپنی قوم میں اچھے نسب والے ہوتے ہیں میں نے تجھ سے پوچھا کہ ان کے آباء میں سے کسی نے ایسی بات کی؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو پہلے کہی ہوئی بات کو مکمل کر رہا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ بات کہنے سے پہلے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے تو تیرا گمان ہے کہ نہیں! پس

النَّاسِ، وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ قَبْلَ مَلِكٍ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكٌ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافَ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ ضَعَفَاءُ هُمْ أَتْبَاعُهُ وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ يُخَالِطُ بِشَاشَةَ الْقُلُوبِ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ يَكُونُ دَوْلًا، يُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ، وَتَدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، وَيَنْهَىكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ وَالْعِفَافِ، وَأَذَاءِ الْأَمَانَةِ، وَهُوَ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتُ حَقًّا يُوْشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَاللَّهِ لَوْ أَرَجُو أَنْ أَخْلَصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّةً وَلَقَسَلْتُ قَدَمِيهِ. قَالَ أَبُو

میں پہچان گیا کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! اگر اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ اپنے آباء کا ملک مانگتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ بڑے لوگ یا کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تیرا گمان ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں تو رسولوں کی پیروی کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تیرا گمان ہے کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں! ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ناراض ہو کر پھرا ہے؟ پس تیرا گمان ہے کہ نہیں! تو ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ دل سے چٹ جاتا ہے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تیرا گمان ہے کہ نہیں! تو رسولوں کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ ان سے تمہارا جنگ کرنا کیسا رہا؟ تیرا گمان ہے کہ مقابلہ برابر رہا تو رسولوں کی شان ہے کہ ان کی آزمائش کی جاتی ہے پھر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ پس تیرا گمان ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے اس کے ساتھ کسی شی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بتوں کی عبادت سے روکتا ہے نماز صدقہ پاکیزگی امانت کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے وہ نبی ہے مجھے

پہلے ہی علم تھا کہ وہ ضرور تشریف لائیں گے لیکن میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ قریب ہے کہ وہ میرے ان قدموں کے نیچے کی جگہ کا بھی مالک بن جائے اللہ کی قسم! مجھے فرصت ملے گی تو ضرور میں اس سے ملاقات کی زحمت گوارا کروں گا اور ضرور میں اس کے پاؤں دھوؤں گا۔ پھر اس نے رسول کریم ﷺ کا خط منگوا کر پڑھا تو اس میں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم! اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف! سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو اسلام لا سلامتی پائے گا اسلام لا تجھے دوسرے اجر ملے گا اور اگر تُو نے انکار کیا تو تیرے اوپر رعایا کا گناہ بھی ہوگا اے اہل کتاب! آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی شی کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر پس اگر وہ روگردانی کریں تو آپ گرامائیں: گواہ رہو! بے شک ہم مسلمان ہیں۔ حضرت ابوسفیان کہتے ہیں: پس جب اس نے اپنی بات پوری کی تو ارد گرد والوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں روم کے بڑے لوگوں کی انہوں نے بڑی غلط باتیں بھی کیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے۔ فرماتے ہیں: پس اس نے ہمیں نکل جانے کا حکم دیا جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور خلاصی ہوئی تو میں نے کہا: ابوبکرہ کے بیٹے (حضور ﷺ) کا کام بلند ہو گیا یہ

سُفْيَانُ: قَدَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرِي بِهِ، فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ، وَأَسْلِمْتَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّا عَلَيْكَ إِنَّمَا الْأَرِيسِيِّنَ وَ (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 64) " قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَضَى مَقَالَتَهُ، عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عِظَمَاءِ الرُّومِ، وَكَثُرَ لَفْظُهُمْ، فَلَا أَدْرَى مَاذَا يَقُولُونَ قَالَ: فَأَمَرْنَا فَأَخْرَجْنَا، فَلَمَّا خَرَجْتُ وَمَعِيَ أَصْحَابِي وَخَلَصْتُ، قُلْتُ: لَقَدْ ارْتَفَعَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَعِينًا أَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَنَا تَكَاةٌ

بنو اصر کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ ابوسفیان کہتے ہیں: قسم بخدا! ہم ذلیل رہے اور یقین کرتے رہے کہ ان کا امر غالب آئے گا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا حالانکہ میں (پہلے) اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔

حضرت ابوسفیان سے اسی طرح کی روایت منقول

ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا أَبُو الِیْمَانِ، ثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، نَحْوَهُ

7123 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ

الْعَطَّارُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ رَغِبْتُ فِيهِ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَوْمٍ قَالَ قَبِضَ فِي مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَحَضَرْتِهِ مَا قَالَ - يَغْنِي قَوْلُهُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ هُوَ لَمَشَيْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَقْبِلَ رَأْسَهُ وَأَغْسِلَ قَدَمَيْهِ - قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَحَضَرْتُهُ يَتَخَادَرُ جَبِينُهُ عَرَقًا مِنْ كَرَبِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَمَا زِلْتُ مَرْغُوبًا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْلَمْتُ وَفِي رِسَالَتِهِ: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں: بے شک وہ پہلا دن جس میں میرے دل میں حضور ﷺ کے متعلق رغبت ہو گئی تھی وہ دن تھا جس میں قیصر نے اپنے ملک اور بادشاہی اور وہاں موجود حضرات کے سامنے کہا تھا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں آپ کی طرف ضرور چل کر جاؤں گا تو آپ کا سر چوموں گا اور آپ کے دونوں پاؤں دھو کر پیوں گا۔ حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا میں اس خط کی وجہ سے جو آپ نے لکھا اس وجہ سے میری پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں: اس کے بعد مسلسل میرے دل میں رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا ہو گئی تھی یہاں تک کہ میں اسلام لے آیا۔ آپ نے اپنے خط میں لکھا تھا: اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی شی کو

شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں ان کو کہو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں وہی ذات ہے جس نے رسول کو بھی ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کا دین غالب آ جائے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اُسے حرام نہیں کہتے ہیں جن کو کتاب دی گئی وہ دین کو حق نہیں جانتے ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل و خوار ہو کر۔

وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران: 64)، (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة: 33)، (فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة: 29)

صَخْرُ الْغَامِدِيِّ

7124 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِشِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ

حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ

حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! میری اُمت کے صبح کے کاموں میں برکت دے۔ آپ جب کسی سریہ کو بھیجتے تو ان کو دو حصوں میں بھیجتے تھے۔ حضرت صخر تاجر تھے یہ اپنے غلاموں کو دن کے اوّل حصے میں بھیجتے تھے تو بہت زیادہ مال ہوتا تھا۔

حضرت سحر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ، قَالُوا: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت سحر غامدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ دعا کی: اے اللہ! میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت دے!

7125 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَّابِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

حضرت عمار بن حدید بیان کرتے ہیں کہ حضرت سحر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا زمانہ پایا، فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مردوں کو گالی نہ دو اس کے ذریعے زندوں کو تکلیف ہوگی۔

7126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّيَّابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ، وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَتُزْذَوِ الْأَحْيَاءَ

حضرت سحر بن عیلہ

صَخْرُ بْنُ الْعَيْلَةِ

7126 - ورواه في الصغير جلد 1 صفحہ 212-213 قال في المجموع جلد 8 صفحہ 76 وفيه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن

أبي مريم وهو ضعيف. وقال الطبرانی في الصغير: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفار الذي أسلم

أولادهم. وصح الحديث من حديث المغيرة.

الْبَجَلِيُّ

بجلی رضی اللہ عنہ

7127 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَجَلِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ
الْعَيْلَةِ، قَالَ: أَخَذْتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ
الْمُغِيرَةُ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ، فَقَالَ: يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا
أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، فَأَذْفَعَهَا
إِلَيْهِمْ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي مَا لَا لِيَنِي سُلَيْمٌ
فَأَسْلَمُوا، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَسَأَلُوهُ الْمَالَ، فَدَعَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا
أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَأَذْفَعُهُ
إِلَيْهِمْ فَدَفَعْتُهِ إِلَيْهِمْ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَكَثِيرِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ
صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

حضرت صحر بن عیلہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مغیرہ
بن شعبہ کی پھوپھی کو پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا
حضرت مغیرہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا آپ نے
فرمایا: اے صحر! لوگ جب مسلمان ہوں تو ان کے اموال
اور خون محفوظ ہو جاتے ہیں ان کے دے دو! میں نے انہیں
دے دیا، فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے بنی سلیم کا مال دیا
وہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے
انہوں نے مال مانگا، مجھے رسول اللہ ﷺ نے بلایا اور
فرمایا: اے صحر! لوگ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے
اموال اور خون محفوظ ہو جاتے ہیں ان کو ان کا مال دیدے
میں نے انہیں دے دیا۔

حضرت صحر بن عیلہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے
قبیلہ ثقیف سے جہاد کیا اس کے بعد اوپر والی حدیث ذکر
کی۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيًّا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

صَخْرُ أَبُو حَازِمٍ الْأَحْمَسِيُّ

أَبُو قَيْسٍ بْنُ أَبِي حَازِمٍ

7128 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْبِيُّ، ثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَبَاهُ قَائِمًا فِي
الشَّمْسِ، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَحَوَّلَ، أَوْ أَمَرَهُ بِه فَحَوَّلَ

7129 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

الشَّكْرِيُّ الْجَنْدِيسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقَبَةَ
السَّدُوسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي بُرَكَّةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، ثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَهُوَ رَثَ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ
مَالٍ؟ قَالَ: بَلَى، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ

حضرت صخر ابو حازم الحمسي ابو قيس

بن ابو حازم رضی اللہ عنہ

حضرت قیس بن ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے ان کے والد کو سورج کی دھوپ میں کھڑا
دیکھا آپ خطبہ دے رہے تھے حضور ﷺ نے انہیں
سورج کی دھوپ میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا یا آپ
نے ایسا کرنے کا حکم دیا تو وہ پھر گیا۔

حضرت قیس بن ابو حازم اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا میری حالت
خراب تھی آپ نے فرمایا: تمہارے پاس مال نہیں ہے؟
عرض کی: کیوں نہیں! ہر قسم کا مال ہے اللہ نے مجھے اونٹ
بکریاں اور گائے دی ہیں آپ نے فرمایا: جس کے پاس
مال ہو تو اُس کا اثر جسم پر دکھائی دینا چاہیے۔

7128 - رواہ أحمد جلد 3 صفحہ 426، 427، وأبو داود رقم الحديث: 4801.

7129 - رواه النسائي جلد 8 صفحہ 196 من طريق اسماعيل ابن أبي خالد عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه
فذكره. وحديث أبي الأحوص عن أبيه رواه أحمد جلد 3 صفحہ 473-474، وأبو داود رقم الحديث: 4045
والترمذي رقم الحديث: 2074، وصححه وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر رقم الحديث: 52، وابن حبان رقم
الحديث: 1434، والحاكم جلد 4 صفحہ 181، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب جلد 12 صفحہ 138
والأسماء والصفات صفحہ 341-342، والطحاوي في مشكل الآثار جلد 4 صفحہ 151، 153، والبقوي في شرح
السنة رقم الحديث: 3118، 3127، والمصنف في الصغير جلد 1 صفحہ 176، وهو حديث صحيح.

مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
فَلْيُرَ عَلَيْهِ

صَخْرُ بْنُ قَدَامَةَ

7130 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ

مُسَارٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
أَعْيَنَ، قَالَا: ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِذَاشٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ
قَدَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا يُولَدُ بَعْدَ سَنَةِ مِائَةِ مَوْلُودٍ لِلَّهِ فِيهِ
حَاجَةٌ

حضرت صخر بن قدامه رضی اللہ عنہ

حضرت صخر بن قدامه رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: سو سال کے بعد پیدا ہونے والے
کو اللہ عز و جل سے کم محبت ہوگی۔

حضرت صخر بن جبر

النصاري رضي الله عنه

ان کی حدیث روایت نہیں کی گئی۔

حضرت صخر بن قعقاع

صَخْرُ بْنُ جَبْرِ

الْأَنْصَارِيُّ

لَمْ يُخْرَجْ حَدِيثُهُ

صَخْرُ بْنُ الْقَعْقَاعِ

7130 - قال في المعجم جلد 8 صفحہ 159 رواه الطبرانی عن شيخه أحمد بن القاسم بن مسارو ومحمد بن جعفر ابن أعين

ولم أعرفهما ببقية رجاله رجال الصحيح . ويحتمل أنه أراد لا يولد لأحد بعد أن يكمل من العمر مئة سنة ولد في
الغالب فإن ولد له فلا يعيش الوالد حتى يؤدبه فيتعلم المعاصي والله أعلم . ورواه ابن شاهين من طريق حماديه
وقال: هذا حديث منكر وهذا البغدادي يعني محمد بن جعفر بن أعين لا أعرفه . قال الحافظ في الإصابة جلد 3
صفحة 417 قلت: هو ثقة مشهور ولم يتفرد به لكن حكى الساجي عن علي بن المديني أنه كان يضعف خالد بن
عراش راويه عن حماد بن زيد وعن يحيى بن معين أن خالدًا تفرد عن حماد بأحد حديث وأورد ابن الجوزي هذا
الحديث في الموضوعات جلد 3 صفحہ 192 ونقل عن أحمد أنه قال: ليس بصحيح . وقال ابن منده: صخر بن
قدامه مختلف في صحته . قلت: لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصرح الحسن
بسماعه منه فهذه علة أخرى لهذا الخبر .

الْبَاهِلِيُّ

بَاهِلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت صحر بن قعقاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ سے عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان ملا میں نے آپ کی اونٹنی کی تکیل پکڑی میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے میں جنت کا حق دار ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! تو نے سوال مختصر کیا ہے لیکن بڑا سوال ہے اور لمبا ہے! تو فرض نماز پڑھ اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور بیت اللہ کا حج کر جو سلوک تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کریں تو وہی ان سے کر جو سلوک تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ نہ کریں تو وہی لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ اس نے آپ کی اونٹنی کی تکیل چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم بن حجاج نے فرمایا: اور صحر بن قعقاع باہلی نے فرمایا۔

7131 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ، حَدَّثَنِي خَالِي، قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ، فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُقَرَّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ: أَمَّا وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ أَوْجَزْتُ الْمَسْأَلَةَ، لَقَدْ عَظَّمْتُ وَأَطَوَلْتُ، أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَحُجَّ الْبَيْتِ، وَمَا أَحَبَبْتُ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَأَفْعَلَهُ بِهِمْ، وَمَا كَرِهْتُ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ، خَلَّ خِطَامَ النَّاقَةِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وَقَالَ صَخْرُ بْنُ الْقَعْقَاعِ الْبَاهِلِيُّ

الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ
مُخَضَّرَمٌحضرت احنف بن قيس
مخضرم رضی اللہ عنہ

ان کا نام صحر بن قیس بن معاویہ بن حصین بن عبادہ بن نزال بن مرہ بن عبید بن حارث بن عمرو بن سعد بن زید مناة بن تمیم بن مرہ ہے۔

وَأَسْمُهُ صَخْرُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُصَيْنٍ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ نَزَالٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عَبِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ بْنِ مُرَّةَ

7132 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ الْأَخْنَفَ بْنَ

قَيْسٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ زَمَنَ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ أَخَذَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

لَيْثٍ يَدِي، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى،

فَقَالَ: هَلْ تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِكَ بَنِي سَعْدٍ، فَجَعَلْتُ

أَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، وَأَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ،

فَقُلْتُ: أَنْتَ إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُ بِهِ إِنَّهُ

لَيَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُ بِهِ. فَبَلَغْتُ ذَلِكَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ

اعْقِدْ لِلْأَخْنَفِ فَكَانَ الْأَخْنَفُ يَقُولُ: مَا مِنْ

عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى لِي مِنْهُ

مَنْ اسْمُهُ صُهَيْبٌ

صُهَيْبُ بْنُ سِنَانِ بْنِ

مَالِكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو

ابْنِ عَقِيلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ جَنْدَلَةَ بْنِ جَذِيمَةَ

وَيُقَالُ خَزِيمَةَ بْنُ كَعْبٍ بْنِ سَعْدٍ، بْنُ أَسْلَمَ بْنِ

أَوْسِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ بْنِ هَنْبٍ بْنِ

حضرت اخنف بن قيس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طواف کعبہ کر رہے تھے کہ بنی لیث کے ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا اس نے کہا: کیا تمہیں خوشخبری نہ دوں! میں نے کہا: کیوں نہیں! اس نے کہا: کیا تمہیں یاد ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمہاری قوم بنی سعد کی طرف بھیجا تھا تو میں نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا میں نے کہا: تو بھلائی کی دعوت دیتا ہے اور تمہیں نیکی کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، تمہیں حکم دیا گیا ہے میں نے یہ بات حضور ﷺ تک پہنچائی تو آپ نے یہ دعا کی: اے اللہ! اخنف کے لیے! حضرت اخنف نے فرمایا: مجھے اس سے زیادہ اپنے عمل سے کوئی امید نہیں جتنی نبی کریم ﷺ کی دعا سے امید ہے۔

جن کا نام صہیب ہے

حضرت صہیب بن سنان بن مالک

بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ

ابن عقیل بن عامر بن جندلہ بن جذیمہ انہیں خزیمہ

بن کعب بن سعد بن اسلم بن اوس بن مناتہ بن نمر بن قاسط

بن ہنب بن اقصی بن جذیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار بھی

7132 - ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 372 قال فی المجمع جلد 2 صفحہ 10 ورجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن زيد

وهو حسن الحديث . قلت: بل هو ضعيف . والأخنف اختلف في اسمه وولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله

وسلم كما قال الحافظ في الإصابة ولم يجتمع به، وانظر الإصابة جلد 1 صفحہ 187-188 .

کہا جاتا ہے۔ یہ نسب ہشام بن کلبی عبد اللہ بن جدعان تیمی کے حلیف نے ذکر کیا ہے۔ روم والوں نے آپ کو شہر موصل سے گرفتار کیا، یہ چھوٹے تھے ان کی کنیت ابویحییٰ بدری تھی، حضرت صہیب کی والدہ سلمیٰ بنت حارث تھی۔

أَفْصَىٰ بَنِ جَدِيلَةَ بَنِ أَسَدٍ بَنِ رَبِيعَةَ بَنِ نَزَارٍ، ذَكَرَ هَذِهِ النِّسْبَةَ هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ حَلِيفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ، وَكَانَتْ الرُّومُ سَبْتَهُ مِنَ الْمَوْصِلِ وَهُوَ صَغِيرٌ يُكْنَىٰ أَبَا يَحْيَىٰ بَدْرِيٍّ، وَأُمُّ صُهَيْبٍ: سَلْمَىٰ بِنْتُ الْحَارِثِ .

ذِكْرُ وَفَاةِ صُهَيْبٍ، وَمِنْ أَخْبَارِهِ

7133 - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْعِ رُوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: ثَوَّقَى صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ وَيُكْنَىٰ أَبَا يَحْيَىٰ بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةِ ثَمَانٍ وَفَلَاتَيْنِ، وَكَانَ مِنْ سَبَى الْمَوْصِلِ سَبْتَهُ الرُّومُ

7134 - حَدَّثَنَا مُطَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السُّيْتُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: لَمَّا طَعِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَرَ صُهَيْبًا مَوْلَىٰ بَنِي جُدْعَانَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

7135 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو حُدَيْفَةَ، ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَادَانَ، عَنْ قَابِطٍ،

حضرت صہیب کی وفات اور آپ کی باتوں کے بیان میں

حضرت یحییٰ بن کبیر فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کا وصال شوال میں ۸۸ سال کی عمر میں مدینہ میں ہوا، آپ موصل کے قیدیوں میں تھے روم کے بادشاہ نے قید کیا تھا آپ کی کنیت ابویحییٰ ہے۔

حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بنی جدعان کے غلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سبقت لینے والے چار ہیں میں عرب سے

7134 - قال في المجموع جلد 9 صفحہ 316 و اسنادہ حسن .

7135 - قال في المجموع جلد 9 صفحہ 305، ورواه الحاكم جلد 3 صفحہ 402 قال الذهبي في تلخيص المستدرک: عبارة

واه ضعفه الدارقطني . ورواه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 149، 185 .

سبقت لینے والا ہوں، صہیب روم سے سبقت لینے والا ہے، سلمان فارس سے اور بلال حبش سے سبقت لینے والا ہے۔

حضرت ابن جریجؒ: اللہ عزوجل کے ارشاد: ”لوگوں میں سے کچھ نے اپنے آپ کے لیے اللہ کی رضا خریدی“ حضرت صہیب اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی، حضرت صہیب کو مدینہ کے راستہ میں قنفذ بن عمیر بن جدعان نے پکڑا تھا۔

حضرت ابن جریجؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام عکرمہ کا خیال ہے کہ حضرت صہیب نے اپنے گھر کے مال کے بدلے فدیہ دیا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے، ہجرت کے لیے نکلنے کے لیے راستے میں آپ کو پکڑ لیا گیا، آپ نے باقی مال بھی ان کو دے دیا۔

حضرت صہیب کی روایات کردہ
احادیث، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ
حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں

عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّابِقُ أَرْبَعَةٌ: أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ، وَصَهْبٌ سَابِقُ الرُّومِ، وَسَلْمَانٌ سَابِقُ فَارِسَ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْحَبَشِ

7136 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِهِ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ) (البقرة: 207) نَزَلَتْ فِي صُهَيْبِ بْنِ سَنَانٍ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَنَّ الَّذِي أَدْرَكَ صُهَيْبًا بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَنَفْذُ بْنُ عَمِيرِ بْنِ جُدْعَانَ

7137 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عِكْرَمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ صُهَيْبًا، افْتَدَى مِنْ أَهْلِهِ بِمَالِهِ، ثُمَّ خَرَجَ مُهَاجِرًا، فَأَدْرَكَهُ بِالطَّرِيقِ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ مِمَّا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ

مَا أَسْنَدَ صُهَيْبٌ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،
عَنْ صُهَيْبٍ

ما أسند صهيب عبد الله بن عمر عن صهيب

7138 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَرْفٍ يُصَلِّي فِيهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

7139 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْبِيُّ، ثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَكَانَ يُصَلِّي، وَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فَيَسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ صُهَيْبٌ سَأَلْتُهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِهَا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بنی عمرو بن عوف کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی داخل ہوئے اور انصار سے کچھ لوگ داخل ہوئے آپ پر سلام کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت صہیب سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں جب آپ کو سلام کیا جاتا تو کیسے کرتے تھے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مسجد قباء میں تشریف لاتے اور نماز پڑھا رہے ہوتے لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کو سلام کرتے جب حضرت صہیب نکلے تو میں نے آپ سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ فرمایا: اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے تھے اور آپ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔

7138 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3597 والحميدى رقم الحديث: 148 مطولا. وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 74

والبيهقي جلد 2 صفحہ 259 والطحاوى جلد 1 صفحہ 453-454 والنسائي جلد 3 صفحہ 6-5 وابن ماجه رقم

الحديث: 1017.

7139 - رواه الطحاوى جلد 1 صفحہ 454.

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارہ کیا۔

7140 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً

ابو لیلیٰ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

أَبُو لَيْلَى،
عَنْ صُهَيْبٍ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ملک شام آئے تو دیکھا کہ یہودی اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کر رہے ہیں عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پیشواؤں کو سجدہ کر رہے ہیں جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس آئے تو آپ کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا: اے معاذ! یہ کیا ہے؟ عرض کی: میں ملک شام گیا تو میں نے یہود کو اپنے علماء اور پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے عیسائیوں کو اپنے پیشواؤں کو علماء کو سجدہ کرتے دیکھا میں نے کہا: یہ کیا

7141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا النَّهَّاسُ بْنُ فَهْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ، وَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ

7140 - ورواه النسائي جلد 3 صفحہ 5 والترمذی رقم الحديث: 365 وحسنه وأبو داود رقم الحديث: 913 وأحمد جلد 4

صفحہ 332

7141 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 310 رواه البزار جلد 2 صفحہ 127 (زوائد البزار) والطبرانی وفيه النهاس بن فهم

وهو ضعيف

ہے؟ انہوں نے کہا: یہ انبیاء کو سلام ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: وہ اپنے انبیاء پر جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح انہوں نے ان کی کتابوں کو جلا یا ہے اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً لَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ فَقَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعِلْمَانِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسْيَسِيهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَفُوا كِتَابَهُمْ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

سعید بن مسیب، حضرت صحیب سے روایت کرتے ہیں

حضرت صحیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس کے قرآن کے حرام کو حلال جانا وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ صُهَيْبٍ

7142 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْبِصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ الرَّهَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ صُهَيْبًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحْلَ مَحَارِمَهُ

حضرت صحیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

7143 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

7142 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 177 وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه البخاري وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وأبو يزيد ضعفه أبو داود وغيره وقال البخاري: مقارب الحديث. قلت: ورواه الترمذي رقم الحديث: 3085 وضعفه. ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 775، 776، 778.

7143 - قال في المجموع جلد 6 صفحہ 60 وفيه جماعة لم أعرفهم.

الْمُعِينُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، ثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ حُذَيْفَةَ،
أَخْبَرَنِي أَبِي، وَعُمُومَتِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ
سَبِيحَةً بَيْنَ ظَهْرَانِي حَرَّةٍ، فِيمَا أَنْ يَكُونَ هَجْرٌ،
أَوْ يَكُونَ يَتْرَبٌ. قَالَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ
مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكُنْتُ قَدْ
هَمَمْتُ بِالْخُرُوجِ مَعَهُ، وَصَدَّنِي فَيَّانُ مِنْ
قُرَيْشٍ، فَجَعَلْتُ لِيَلَيَّ تِلْكَ أَقْوَمُ لَا أَقْعُدُ،
فَقَالُوا: قَدْ شَغَلَهُ اللَّهُ عَنْكُمْ بَطْنِيهِ، وَلَمْ أَكُنْ
شَاكِيًا فَنَامُوا فَخَرَجْتُ، فَلَحَقَنِي مِنْهُمْ نَاسٌ
بَعْدَ مَا سَرْتُ يُرِيدُونَ رَذَى، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَلْ
لَكُمْ أَنْ أُعْطِيَكُمْ أَوْاقِي مِنْ ذَهَبٍ وَسِيرًا إِلَى
بِمَكَّةَ، وَتُخْلُونَ سَبِيلِي، وَتَوْفُقُونَ لِي. فَفَعَلُوا
فَتَبِعْتُهُمْ إِلَى مَكَّةَ فَقُلْتُ: اخْفَرُوا تَحْتَ
أُسْكُفَةِ الْبَابِ، فَإِنْ تَحْتَهَا الْأَوْاقِي، فَادْهَبُوا
إِلَى قُلَانَةِ بَايَةِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذُوا الْحُلِيِّينَ،
وَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَاءَ قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهَا،
فَلَمَّا رَأَى قَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى، رَيْحُ الْبَيْعِ؟ ثَلَاثًا
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ،
وَمَا أَخْبَرَكَ إِلَّا جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہاری ہجرت والا گھر دکھایا گیا
اس حال میں کہ وہ (ہجرت کرنے سے پہلے کی بات ہے
فرمایا: یا وہ ہجر ہوگا یا یشرب۔ راوی کا بیان ہے: رسول
کریم ﷺ مدینہ کی طرف نکلے آپ کے ساتھ حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے میں نے آپ ﷺ کے ساتھ نکلنے
کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ مجھے دو قریشی جوانوں نے روک لیا میں
نے وہ رات کھڑے ہو کر گزاری بیٹھ تک نہیں۔ پس انہوں
نے کہا: اللہ نے اسے اس کے پیٹ (کی خرابی) کی وجہ
سے تم سے غافل کر دیا حالانکہ مجھے شکایت نہ تھی۔ پس وہ سو
گئے تو میں نکل کھڑا ہوا میرے چلنے کے بعد کچھ لوگ مجھے
پیچھے سے آ کر ملے جو مجھے واپس لوٹانا چاہتے تھے۔ میں
نے ان سے کہا: کیا تمہیں اس بات میں دلچسپی ہے کہ میں
تمہیں چند اوقیہ سونا جو میرا مکہ میں ہے دے دوں اور تم میرا
راستہ چھوڑ دو اور تم مجھ پر یقین کر لو۔ پس انہوں نے ایسا
ہی کیا۔ پس میں نے ان کو مکہ لوٹا دیا پس میں نے کہا:
دروازے کے کواڑوں کے نیچے سے کھودنا کیونکہ اس کے
نیچے کئی اوقیہ سونا ہے۔ پس فلانی کے پاس یہ یہ نشانی لے
جاؤ۔ پس انہوں نے دو زیورات لے لیے میں نکل کر
رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں آ گیا آپ ﷺ قباء کے
مقام پر تھے ابھی پھرے نہ تھے پس جب آپ ﷺ نے
مجھے دیکھا تو فرمایا: اے ابویحییٰ! تو نے اپنی بیع میں نفع
کمایا ہے تین بار کہا پس میں نے عرض کی: اے اللہ کے
رسول! کوئی آدمی مجھ سے پہلے نہیں آیا (دیکھو) آپ کو پھر
حضرت جبریل نے ہی بتایا ہے۔

أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ صُهَيْبٍ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
کے غلام اسلم، حضرت صہیب سے
روایت کرتے ہیں

7144 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى صُهَيْبٍ حَائِطًا بِالْعَالِيَةِ، فَلَمَّا رَأَاهُ صُهَيْبٌ قَالَ: يَا نَاسُ يَا نَاسُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا لَهُ لَا أَبَا لَهُ يَدْعُو عَلَى النَّاسِ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَدْعُو غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَخْنَسُ قَالَ: يَا صُهَيْبُ، مَا فِيكَ شَيْءٌ أَعْيِيهِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ لَوْلَاهُنَّ مَا قَدَّمْتُ عَلَيْكَ أَحَدًا، قَالَ: مَا هُنَّ فَإِنَّكَ طَعَّانٌ. قَالَ: فَهَلْ هُوَ مُخْبِرِي عَنْهُمْ؟ قَالَ: مَا أَنْتَ سَائِلِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا أَنْتَ بِمُخْبِرِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا صَدَّقْتُكَ، قَالَ:

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس عالیہ کے مقام پر ایک باغ میں آیا جب انہیں حضرت صہیب نے دیکھا تو فرمایا: اے لوگو! اے لوگو! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان کو کیا ہوا (اس کا باپ نہ ہو) یہ مجھ پر لوگوں کو بلاتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا: اپنے غلام جس کا نام تخنس ہے اس کو بلا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے صہیب! آپ میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے ان تین باتوں کے! اگر یہ نہ ہوتیں تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ عیب کیا ہیں؟ کیونکہ طعن کرنے والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا ان کے بارے آپ مجھے بتائیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے

7144 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 333 جلد 6 صفحہ 16، ورواه ابن ماجہ مقتصرًا على قصة الكنية رقم الحديث: 3738

قال في الزوائد اسناد حسن لأن عبد الله بن محمد مختلف فيه. وقال في المجموع جلد 5 صفحہ 17 وفيه عبد الله بن محمود بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقي رجاله ثقات. ونسبه الى أحمد فقط. قلت: رواية أحمد الأولى من طريق بهز عن حماد بن سلمة أن عمر فذكره والثانية من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه وهو عند ابن سعد في الطبقات جلد 3 صفحہ 226-227. وفي رواية المصنف عبود الله والد مصعب لم يوثقه إلا ابن حبان وضعفه ابن معين.

عرض کی: آپ مجھ سے کسی بھی شی کے متعلق سوال کریں گے (اگر وہ سچی ہوئی تو) میں آپ کو خبر کروں گا۔ انہوں نے فرمایا: آپ جو بھی مجھے خبر کریں گے میں اس کی تصدیق کروں گا۔

أَرَاكَ تُبَدِّلُ مَالَكَ، وَتَكْتَسِبُ بِاسْمِ نَبِيِّ أَبِي يَحْيَى، وَتَنْسَبُ عَرَبِيًّا، وَلِسَانَكَ أَعْجَمِيٌّ قَالَ: أَمَّا تَبْدِيرِي مَالِي، فَمَا أَنْفَقُهُ إِلَّا فِي حَقِّهِ، وَأَمَّا اكْتِسَائِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَنِي بِأَبِي يَحْيَى، أَوْ أَتَرَكُهَا لِقَوْلِكَ، وَأَمَّا انْتِسَابِي فِي الْعَرَبِ، فَإِنَّ الرُّومَ سَبَتْنِي وَأَنَا صَغِيرٌ، فَإِنِّي لَا أَذْكُرُ أَهْلَ بَيْتِي، وَلَوْ أَنِّي انْفَلَقْتُ عَنْ رَوْثَةِ انْتَسَبْتُ إِلَيْهَا

حضرت کعب احبار حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں

كَعْبُ الْأَخْبَارِ، عَنْ صُهَيْبٍ

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہم تورات میں پاتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے: ”اللّٰهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عَصْمَةً اَمْرِي اِلَى آخِرِهِ“۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور ﷺ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔

7145 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ قَالَ: إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عَصْمَةً أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا

يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ جَدُّهُ قَالَ كَعْبُ الْأَخْبَارِ:
وَأَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ بِهَذَا الدُّعَاءِ مِنْ
صَلَاتِهِ

7146 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْعَمَرِيُّ الْقَاضِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ،
ح وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْخَطَّابِيِّ الْبَصْرِيُّ،
ثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثَنَا حَفْصُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا خَلَفَ بِاللَّهِ
الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى، أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا يَرَى قَرْيَةً
يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: اللَّهُمَّ رَبَّ
السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ
السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا
أَضَلَّنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنِ، إِنَّا نَسْأَلُكَ
خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا

7147 - حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ

الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْقَيْلِيُّ، ثَنَا

حضرت عطاء بن ابیہر و ان اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت کعب نے قسم کھائی کہ اس خدا کی قسم
جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھاڑ دیا، حضرت
صہیب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور ﷺ جس گاؤں میں
داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اس کو دیکھتے وقت یہ دعا
کرتے تھے: ”اللھم رب السموات السبع وما
اظللن الی آخرہ۔“

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ یہ دعا کرتے تھے: ”اللھم انک لست بالہ

7146 - قال في المعجم جلد 10 صفحہ 135، ورجاله رجال الصحيح غير عطاء ابن أبي مروان وأبيه وكلاهما ثقة. ورواه

النسائي في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 544، وابن حبان رقم الحديث: 2377، والحاكم جلد 2 صفحہ 100،
وابن السني رقم الحديث: 529، والبيهقي جلد 2 صفحہ 252.

7147 - قال في المعجم جلد 10 صفحہ 183، وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك.

استحدثناه الى آخره۔“ حضرت کعب نے فرمایا:
حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے۔

الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ مُغَيْثٍ، عَنْ كَعْبٍ، حَدَّثَنِي
صُهَيْبٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلَهِ
اسْتَحْدَفْنَاهُ، وَلَا بَرٍّ ابْتَدَعْنَاهُ، وَلَا كَانَ لَنَا
قَبْلَكَ إِلَهٌ نَلْجَأُ إِلَيْهِ، وَنَذْرُكَ، وَلَا أَعَانَكَ عَلَى
خَلْقِنَا أَحَدٌ، فَنُشْرِكْهُ فَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
قَالَ كَعْبٌ: وَهَكَذَا كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو

صَيْفِيُّ بْنُ صُهَيْبٍ،
عَنْ صُهَيْبٍ

7148 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْفَسَوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ
بْنِ مُحَمَّدٍ بَنِي يَزِيدَ بَنِي صَيْفِيٍّ بَنِي صُهَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ مُحَمَّدٍ بَنِي يَزِيدَ، وَعَمِّهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِي
يَزِيدَ بَنِي صَيْفِيٍّ، عَنْ صَيْفِيٍّ بَنِي صُهَيْبٍ، عَنْ
صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْدَقُ امْرَأَةً صَدَاقًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ

صیفی بن صہیب، حضرت صہیب
سے روایت کرتے ہیں

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے عورت کا حق مہر مقرر کیا
اس کو پتا ہے کہ وہ نہیں دے سکتا ہے وہ اللہ عزوجل سے اس
حالت میں ملے گا کہ وہ زانی ہے اور جس نے قرض لیا اس
کو معلوم ہے کہ وہ دے نہیں سکے گا وہ اللہ سے اس حالت
میں ملے گا کہ وہ چور ہوگا۔

7148 - ورواہ ابن ماجہ رقم الحدیث: 2410 بالنسبة للندین فقط من طریق یوسف بن محمد بہ - وما بین المعکوفین من
روایۃ فاطمة . ورواہ أحمد جلد 4 صفحہ 332 من طریق آخر قال فی المجمع جلد 4 صفحہ 284 رواہ أحمد
والطبرانی وفی اسناد أحمد رجل لم یسم وبقیۃ رجالہ ثقات وفی اسناد الطبرانی من لم أعرفہم . قلت : ویوسف بن
محمد قال الحافظ : مقبول ' ویزاد قال الحافظ : صدوق ' وعبد الحمید بن الحدیث ' وہم فی سند ابن ماجہ .

أَنْ لَا يُوفِّيَهَا إِثَابَهُ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ زَانٌ .
وَمَنْ إِذَا كَانَ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوفِّيَهُ لَقِيَ
اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ

7149 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي
جَعْفَرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَكِيلُ الزُّبَيْرِ بْنِ
شُعَيْبٍ الْبُصْرِيُّ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ قَالُوا
لِصُهَيْبٍ: يَا أَبَانَا، إِنَّ أَبْنَاءَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُونَ عَنْ آبَائِهِمْ،
فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَوَّأْ مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ

7150 - وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً،
فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، مَاتَ يَوْمَ
يَمُوتُ وَهُوَ زَانٌ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ
بَيْعًا، فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، مَاتَ
يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَائِنٌ، وَالْخَائِنُ فِي النَّارِ

7151 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

الْعَلَّافِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ
مُحَمَّدٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

حضرت زبیر بن شعیب بصری فرماتے ہیں کہ حضرت
صہیب کے بیٹوں نے عرض کی: اے ہمارے والد!
حضور ﷺ کے اصحاب کے بیٹے اپنے آباء کے حوالے
سے حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے
سنا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے
چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس آدمی نے کسی
عورت کو حق مہر سے کوئی شے نہ دینے کی نیت کی تو وہ اس دن
مر گیا وہ زانی ہوگا، جو کوئی کسی آدمی سے بیع کرے اور اسے
دینے کی نیت نہ ہو تو وہ اس دن مر گیا تو وہ خائن ہوگا، خائن
جہنم میں ہوگا۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کی محبت اختیار کی، آپ پر وحی نازل ہونے
سے پہلے۔

7149 - قال في المعجم جلد 4 صفحہ 131 'وعمر بن دينار هذا متروك . فهو حديث ضعيف جدًا . وروى الحديث الثاني

ابن ماجه رقم الحديث: 2410 من طريقين آخرين وفيهما من هم متكلمون فيهم . فراجعه .

7151 - قال في المعجم جلد 9 صفحہ 305 'وفيه من لم أعرفه .

عَنْ أَبِي جَدِّهِ، عَنْ صُهِيبٍ قَالَ: صَحِبْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ
يُوحَى إِلَيْهِ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
حضور ﷺ کے پاس آیا، آپ کے آگے کھجور اور روٹی
پڑی ہوئی تھی آپ نے فرمایا: قریب ہو کر کھاؤ! میں نے
کھجور کھانے کے لیے پکڑی تو آپ نے فرمایا: کیا تم کھجور
کھاؤ گے حالانکہ تمہیں داڑھ درد ہے؟ میں نے عرض کی:
یا رسول اللہ! میں دوسری طرف سے چباؤں گا۔ تو
حضور ﷺ نے تبسم فرمایا۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب
اکیلے نماز پڑھنے سے پچیس گنا زیادہ ہے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7152 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِي - رَجُلٌ
مِنْ وَلَدِ صُهِيبٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
صُهِيبًا، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ وَخَبْرٌ، فَقَالَ:
اذْنُ، فَكُلْ، فَأَخَذْتُ أَكُلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ:
أَتَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَمُصُّهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7153 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ
الْوَحَّاطِيُّ، ثَنَا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهِيبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي
جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ

7154 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى

7152 - ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3443 قال في الزوائد: اسناده صحيح رجاله ثقات .

7153 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 38 وفيه من لم يسمع .

7154 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 94 ورجاله ثقات . قلت: بل الدفاع أبو روح القيسي ضعيف كما قال الحافظ في

التقريب . وعبد الحميد هو ابن زياد بن صيفي وهو لين الحديث كما قال الحافظ . فالحديث ضعيف .

حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر پچھنا لازم ہے کیونکہ یہ ۷۲ بیماریوں کی دوا ہے ان میں سے پانچ یہ ہیں: جنون، جذام، برص اور داڑھ درد (کی بیماری) ہے۔

السَّاجِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرِثِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا الدَّفَاعُ أَبُو رُوْحٍ الْقَيْسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَفِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّالِحَةِ فِي جُورَةِ الْقَمَحْدُورَةِ، فَإِنَّهُ دَوَاءٌ مِنَ الثَّيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً، وَخَمْسَةَ أَذْوَاعٍ: مِنَ الْجُسُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَوَجَعِ الْأَضْرَاسِ

7155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبٍ الْأَصْهَانِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ صَفِيٍّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِأَسِيرٍ لَهُ لَيْسَتْ أَمْنٌ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصُهَيْبٌ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: أَسِيرٌ لِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اسْتَأْمَنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: لَقَدْ كَانَ فِي عُقِّي هَذَا مَوْضِعٌ لِلسَّيْفِ فَعَضَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قیدیوں کے پاس سے گزرے تاکہ ان کے لیے رسول اللہ ﷺ سے امن مانگیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ نے فرمایا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا: مشرکوں میں سے میرا قیدی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کیلئے حضور ﷺ سے امن مانگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کی گردن میں تلوار کے لیے جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، حضور ﷺ نے دیکھا اور فرمایا: میں تمہیں غصہ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اپنے قیدی کے ساتھ حضرت صہیب کے پاس سے گزرا، اس نے کہا: یہ گردن کاٹنے کے زیادہ قابل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تو نے اس کو تکلیف دی ہو۔ عرض کی: نہیں! قسم بخدا! فرمایا: اگر

ورواه أيضا ابن السني وأبو نعيم في الطب النبوي بهذا الاسناد .

اس کو تو نے تکلیف دی تو تو نے اللہ کے رسول ﷺ کو تکلیف دی۔

غَضَبَان؟، فَقَالَ: مَرَرْتُ بِأَسِيرِي هَذَا عَلَى صُهَيْبٍ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ فِي رَقِيَّةٍ هَذَا مَوْضِعٌ لِلْسَيْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَعَلَّكَ آذَيْتَهُ. فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، فَقَالَ: لَوْ آذَيْتَهُ لَأَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

7156 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

شَيْبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ بْنُ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ الْمُسْشَرِكِينَ لَمَّا أَطَافُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلُوا عَلَى الْغَارِ، وَأَذْبَرُوا قَالُوا: وَاصْهَيْبَاهُ، وَلَا صُهَيْبَ لِي، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرُوجَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِلَى صُهَيْبٍ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَكِرْهُتُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ. قَالَ: أَصَبْتَ، وَخَرَجَا مِنْ لَيْلِيهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَ حَتَّى أَتَى أُمَّ رُومَانَ زَوْجَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: أَلَا أَرَاكَ هَهُنَا، وَقَدْ خَرَجَ أَخَوَاكَ، وَوَضَعَا لَكَ شَيْئًا مِنْ زَادِهِمَا. قَالَ صُهَيْبٌ: فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ ﷺ کے سامنے پھرنے لگے غار کے پاس واپس چلے گئے کہا: ہائے صہیب! کوئی صہیب میرے لیے نہیں ہے۔ جب حضور ﷺ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا میں نے اس کی نماز توڑنا پسند کیا آپ نے فرمایا: تو نے اچھا کیا آپ اور حضرت ابو بکر رات کو نکلے جب صبح ہوئی تو نکلے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت ام رومان کے پاس آئے پس انہوں نے کہا: میں تمہیں یہاں کیوں دیکھ رہی ہوں جبکہ تمہارے دونوں بھائی نکل گئے ہیں اور اپنے زادراہ میں سے کچھ تمہارے لیے رکھ لیے ہیں۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں: پس میں نکلا یہاں تک کہ اپنی بیوی ام عمر کے پاس آیا۔ پس میں نے اپنی تلوار زرہ اور اپنی کمان پکڑی یہاں تک کہ مدینہ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پس میں نے رسول کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیٹھے ہوئے تھے پس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

عنه نے مجھے دیکھا تو اُٹھ کر میری طرف آئے اور مجھے اس آیت کی خوشخبری دی جو میرے حق میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے ان کے سامنے ملامت کے الفاظ کہے۔ انہوں نے معذرت کے الفاظ دہرائے اور رسول کریم ﷺ نے مجھے نفع بخش بیج کی خوشخبری دی۔ اور فرمایا: بیج نفع والی ہے اے ابویحییٰ!

عَلَى زَوْجَتِي أُمِّ عُمَرَ، فَأَخَذْتُ سَيْفِي وَجُعْتُي وَقُوسِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَأَجِدُهُ وَأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِسَيْنِ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ قَامَ إِلَيَّ فَبَشَّرَنِي بِالْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِيَّ، وَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَسْتُ بَعْضَ اللَّائِمَةِ فَأَعْتَذَرَ، وَرَبَّحَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رِبْحَ الْبَيْعِ أَبَا يَحْيَى

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جس جنگ میں بھی گئے میں بھی اس میں شریک تھا اور ہر بیعت میں شریک تھا شروع سے آخر تک جنگ میں رہتا تھا جب آپ کی دائیں یا بائیں جانب ہوتا اگر آگے سے ڈر ہوتا تو میں آپ کے آگے ہو جاتا اور پیچھے سے ڈرا ہوتا تو پیچھے ہو جاتا رسول اللہ ﷺ میرے اور دشمن کے درمیان ہوتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا۔

7157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ شَيْبٍ الْأَصْهَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: لَمْ يَشْهَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْهَدًا قَطُّ إِلَّا كُنْتُ حَاضِرَهُ، وَلَمْ يَبَايِعْ بَيْعَةً قَطُّ إِلَّا كُنْتُ حَاضِرَهُ، وَلَمْ يُسَرِّ سَرِيَّةً قَطُّ إِلَّا كُنْتُ حَاضِرَهَا، وَلَا غَزَا غَزْوَةً قَطُّ أَوَّلَ الزَّمَانِ وَآخِرَهُ إِلَّا كُنْتُ فِيهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ، وَمَا خَافُوا أَمَامَهُمْ قَطُّ إِلَّا كُنْتُ أَمَامَهُمْ وَلَا مَا وَرَاءَهُمْ إِلَّا كُنْتُ وَرَاءَهُمْ، وَمَا جَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَدُوِّ قَطُّ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَمَزَةُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ

7158 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّيَابِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ حَمَزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: يَا صُهَيْبُ، اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا قَوْلُكَ اكْتَنَيْتَ، وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَانِي بِأَبِي يَحْيَى، وَأَمَا قَوْلُكَ انْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ، وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ السَّعْدِ بْنِ قَاسِطٍ سُبَيْتٍ مِنَ الْمُؤَصِّلِ بَعْدَ أَنْ كُنْتُ غُلَامًا قَدْ عَرَفْتُ أَهْلِي وَنَسَبِي

عُثْمَانُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ

7159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت حمزہ بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت حمزہ بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے صہیب! آپ نے کنیت رکھی ہے آپ کی اولاد نہیں ہے آپ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں حالانکہ آپ روم کے رہنے والے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! بہر حال آپ کا قول کہ تُو نے کنیت رکھی ہے جبکہ آپ کی اولاد نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے میری کنیت ابو یحییٰ رکھی ہے آپ کا ارشاد: آپ عربی کہلاتے ہیں جبکہ روم کا آدمی ہوں، کیونکہ میں نمر بن قاسط کا آدمی ہوں مجھے موصل سے قیدی بنا کر پکڑا گیا اس وقت میں بچہ تھا جب بڑا ہوا تو میں نے اپنے اہل اور نسب کو پہچان لیا۔

حضرت عثمان بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

7159 - قال في المعجم جلد 9 صفحہ 126 رواه الطبرانی وأبو يعلى وفيه رشد بن سعد وقد وثق وبقية رجاله ثقات . قلت: ورشد بن ضعيف وعثمان بن صهيب وان ذكره ابن حبان في الثقات فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . فهو مجهول على قاعدة ابن أبي حاتم .

الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ
بْنُ عَبَادٍ السَّخَطِيُّ، ثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا:
ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْهَادِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صُهِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لِعَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ؟ قَالَ: الَّذِي
عَقَرَ النَّاقَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ، فَمَنْ
أَشَقَى الْآخِرِينَ؟ قَالَ: لَا عِلْمَ لِي يَا رَسُولَ
اللَّهِ. قَالَ: الَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هَذِهِ، وَأَشَارَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى يَافُوخِهِ
فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ:
أَمَّا وَاللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ قَدْ ابْتَعَتْ أَشْقَاكُمْ،
فَخَصَبَ هَذِهِ - يَعْنِي لِحْيَتَهُ - مِنْ هَذِهِ،
وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَاللَّفْظُ لِحْدِيثٍ
سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ:
وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى يَافُوخِهِ

7160 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ صُهِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ صُهِيبٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: إِذَا نَهَقَ الْحِمَارُ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

حضور ﷺ نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
فرمایا: پہلے لوگوں میں سب سے بڑا بد بخت کون تھا؟ عرض
کی: یا رسول اللہ! جس نے اونٹ کی کونچیں کاٹی تھیں، آپ
نے فرمایا: تم نے سچ کہا ہے! بعد والوں میں سب سے بڑا
بد بخت کون ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے اس کا علم نہیں
ہے آپ نے فرمایا: جو تمہیں شہید کرے گا۔ حضور ﷺ
نے گردن کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
عراق والوں کو فرمایا کرتے: اللہ کی قسم! مجھے پسند ہے کہ تم
میں سے کوئی بد بخت اٹھے اور اس داڑھی کو رنگ دے یعنی
آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو یہاں سے آپ نے اپنا ہاتھ
سر کے آگے والے حصے پر رکھا۔ اور یہ الفاظ حضرت سويد
بن سعيد کی حدیث کے ہیں اور ان کی حدیث میں حضرت
حضرمی نے کہا: اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تالو کی طرف
اشارہ کیا۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب گدھا بولتا ہے
تو آپ اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔

عَبِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ صُهَيْبٍ

7161 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ
صَالِحٍ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ،
ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ
جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ
عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ،
قَالَ: لَمَّا عَرَضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ، ثُمَّ الْخَمْرُ، ثُمَّ اللَّبَنُ أَخَذَ
اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: أَصَبْتَ أَخَذْتَ
الْفِطْرَةَ، وَبِهَا عَذِبَتْ كُلُّ دَابَّةٍ، وَلَوْ أَخَذْتَ
الْخَمْرَ غَوَيْتَ، وَغَوَتْ أُمَّتُكَ، وَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ
هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْوَادِي الَّذِي يُقَالُ لَهُ: وَادِي
جَهَنَّمَ، فَنَظَرْتُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَلْتَهَبُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ

7162 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيُّ،

عبيد بن عمير ليشي، حضرت صهيب سے روایت کرتے ہیں

حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ کو پانی اور پھر شراب پیش کی گئی، پھر دودھ تو
آپ نے دودھ پکڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض
کی: آپ نے درست کیا! آپ نے فطرت پر عمل کیا! اس
کے ذریعے ہر جاندار کو عذاب دیا گیا تھا! اگر آپ شراب
پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور آپ کی امت
اگر پڑے گی تو جہنمی ہوگی! میں نے دیکھا کہ اس میں جل
رہے تھے۔

عبد الرحمن بن ابولیلی، حضرت صہیب سے روایت کرتے ہیں

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7161 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 78 وفيه ابن لهيعة . قلت : هو هنا ضعيف وفي يحيى ابن عثمان شيخ المصنف كلام
لينه بعضهم .

7162 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 332، 333 جلد 6 صفحہ 15-16، ومسلم رقم الحديث: 681، والترمذی رقم
الحديث: 2676، وابن ماجه رقم الحديث: 187، وابن خزيمة في التوحيد صفحہ 180، 181، وابن حبان وابن جرير
(17626)، والطيالسي رقم الحديث: 2842، والنسائي في الكبرى .

حضور ﷺ نے فرمایا: جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا: اے جنت والو! تمہارے لیے اللہ کے ہاں وعدہ ہے اللہ عزوجل اس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو جنت والے کہیں گے: وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے میزان کو بھاری نہیں کیا گیا اور ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا گیا اور ہمیں جنت میں داخل کیا اور اس نے ہمیں جہنم سے نکالا اللہ عزوجل اپنا پردہ اٹھائے گا جتنے لوگ اسے دیکھیں گے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ان کو اللہ کی زیارت کرنے سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں ہوگی جو ان کو دی گئی ہو۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ آیت: ”نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی اور زیادہ ہے۔“ فرمایا: جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے پس اس جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مومن کے لیے فیصلہ کیا وہ سارے کا سارا بہتر

ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ أَحْمَدُ بْنُ يَسِيرٍ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هُذَبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنَجِّزَ كُمُوهَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضَ وُجُوهَنَا، وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ، وَأَخْرَجَنَا مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) (يونس: 26) قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

7163 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسَلْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتِ

ہے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ حماد نے اضافہ کیا ہے کہ مسلمان کے لیے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے۔

الْبَنَانِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ لِلْمُسْلِمِ كُلِّهِ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ، فَشَكَرَ آجِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، فَصَبَرَ آجِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَادَ فِيهِ حَمَادٌ: وَكُلُّ قَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِ خَيْرٌ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی جب سلام پھیرا تو آپ ہماری طرف مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا: تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں! آپ نے فرمایا: میں اللہ کے فیصلہ پر متعجب ہوا جو اُس نے اپنے مسلمان بندہ کے لیے کیا ہے ہر فیصلہ درست کیا ہے ہر فیصلہ میں بھلائی ہے یہ صرف مسلمان بندہ کے لیے ہے۔

7164 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشَاءِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَاحِبًا، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ ضَحِكْتُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ، إِنْ كُلَّ مَا قَضَى اللَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ كُلَّ قَضَاءِ اللَّهِ لَهُ خَيْرٌ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جنین کے دنوں میں جب بھی فجر کی نماز ادا

7165 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا أَبُو عَمَرَ الصَّرِيرُ، ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ ثَابِتًا

7165 - رَوَاهُ أَحْمَدُ جلد 4 صفحہ 332، 333 جلد 6 صفحہ 16، والدارمی رقم الحديث: 2446 مختصرًا والقضاعي في

مسند الشهاب رقم الحديث: 1483 وراجع تعليقنا على مسند الشهاب ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم

الْبُسَائِي أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، أَنَّ صُحَيْبًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ شَفْتَيْهِ بِشَيْءٍ فِي أَيَّامِ
حُنَيْنٍ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا
تَرَأَى تُحَرِّكُ شَفْتَيْكَ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ،
وَكُنْتَ لَا تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: إِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَنَا
أَعْجَبْتُهُ كَثْرَةَ أَمْيِهِ، فَقَالَ: لَا يَدُومُ هَؤُلَاءِ -
أَحْسَبُهُ قَالَ شَيْئًا - فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ:
أَنْ خَيْرَ أَمْتِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أَسْلَطَ
عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ أَوْ الْعُدُوَّ أَوْ الْجُوعَ، فَعَرَضَ
عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: أَمَّا الْجُوعُ فَلَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ، وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِالْعُدُوِّ، وَلَكِنَّ الْمَوْتَ، فَمَاتَ
مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَأَنَا الْيَوْمَ
أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ، وَبِكَ أَصَاوِلُ، وَبِكَ
أُقَاتِلُ

کرتے تو آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کرتے تھے، ہم
نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کے ہونٹ مبارک نماز فجر
کے بعد کسی شی کے ساتھ حرکت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ
پہلے آپ ایسا تو نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا: ہم سے
پہلے ایک نبی تھے، ان کو اپنی امت کے زیادہ ہونے نے
تعجب میں مبتلا کر دیا، تو انہوں نے عرض کی: یہ لوگ ہمیشہ
ندرہیں۔ (میرا گمان ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کہی) تو اللہ
تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی: تیری امت کی بھلائی تین
چیزوں میں سے ایک میں ہے یا تو میں ان پر موت مسلط کر
دوں یا دشمن یا بھوک۔ پس اس نبی علیہ السلام نے یہ تینوں
چیزیں اپنی امت پر پیش کیں تو انہوں نے عرض کی: جہاں
تک تعلق ہے بھوک کا تو وہ ہم میں طاقت نہیں اور نہ ہی
دشمن کی، ہم میں طاقت ہے لیکن مدت قبول ہے۔ پس تین
دنوں میں ان میں سے ستر ہزار آدمی مر گئے اور آج
میں کہتا ہوں: اے اللہ! تیری دی ہوئی توفیق سے ارادہ
کرتا، حملہ کرتا اور جہاد کرتا ہوں۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7166 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

7166 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9751 ومن طريقه الترمذی رقم الحديث: 3398 وقال حسن غريب . قال ابن
كثير في تفسيره جلد 4 صفحہ 494 وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله
عليه وآله وسلم . قال شيخنا أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كانه كان عنده
علم من أخبار النصارى . وقال الحافظ في الفتح جلد 8 صفحہ 698 صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ومن طريقه أخرجه مسلم رقم الحديث: 3005 . والنسائي في
السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 614 أى القسم الأوسل من الحديث كما تقدم . وأحمد
جلد 6 صفحہ 17-18 ووقفها معمر عن ثابت الخ . قلت وليس عندهم الحديث الأول .

حضور ﷺ نماز عصر پڑھتے تو آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہوتے، گویا کوئی گفتگو کر رہے ہیں آپ سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! جب آپ نماز عصر ادا کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: انبیاء میں سے ایک نبی تھے ان کو اپنی امت سے تعجب ہوا، کہا: ان کے لیے کھڑا کون ہوگا؟ اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی، ان کو ان چیزوں کے درمیان اختیار ہے، ان سے انتقام لوں یا ان پر ان کا دشمن مسلط کروں۔ انہوں نے موت کو پسند کیا تو ان پر موت مسلط کی گئی، ان میں سے ایک دن میں ستر ہزار مرے۔

حضرت صہیب فرماتے ہیں: پس جب آپ ﷺ نے یہ حدیث (اوپر والی) ارشاد فرمائی تھی تو ساتھ دوسری یہ حدیث (نیچے والی) بھی بیان کی تھی: بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک جادوگر (کاہن) تھا جو اس کے کہنے پر جادو کیا کرتا تھا۔ پس اس کاہن نے کہا: میرے لیے ایک ذہین و فطین بچہ دیکھو، جس میں اپنا یہ علم سکھاؤں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میں (اب) مر جاؤں گا (اگر میں کسی کو سکھائے بغیر مر گیا) تو یہ علم تم سے منقطع (جدا) ہو جائے گا اور تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی نہ ہوگا جو اس کو جاننے والا ہو، پس انہوں نے اس کے بتائے اوصاف کے مطابق بچہ تلاش کیا اور اس لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اس کاہن کے پاس آجایا کرے۔ راوی کا بیان ہے: اس

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ - وَالْهَمْسُ فِي قَوْلٍ بَعْضُهُمْ يُحَرِّكُ شَفْتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ - فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ؟ فَقَالَ: إِنْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَعْجَبَ بِأَمْرِي، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لَهُؤُلَاءِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ خَيْرُهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، وَبَيْنَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَذْوَهُمْ فَاخْتَارُوا النِّقْمَةَ، فَسَلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا

7167 - قَالَ: فَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْآخِرِ قَالَ: كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَتَكَلَّمُ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ الْكَاهِنُ: انْظُرُوا لِي غُلَامًا فِطْنًا، أَوْ قَالَ: لَقِينَا أَعْلَمُهُ عِلْمِي هَذَا، فَلَمَّا أَخَافَ أَنْ أَمُوتَ، فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ، وَلَا يَكُونَ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ، فَظَنَرُوا لَهُ غُلَامًا عَلَى مَا وَصَفَ، وَأَمَرُوهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ، وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأُخْسِبُ أَنْ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمِنِيذٍ مُسْلِمِينَ، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ

عَنْ رِجَالِهِ

كُلَّمَا مَرَّ بِهِ عَنْ دِينِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا
أَعْبُدُ اللَّهَ، وَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ،
وَيُطِئُهُ عَلَى الْكَاهِنِ، فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ
الْغُلَامِ أَنَّهُ لَا يَسْكَدُ بِحَضْرَتِي، فَأَخْبَرَ الْغُلَامُ
الرَّاهِبَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: إِذَا قَالَ لَكَ
الْكَاهِنُ: أَيَّنَ كُنْتُ؟ فَقُلْ: عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ
لَكَ أَهْلُكَ: أَيَّنَ كُنْتُ؟ فَقُلْ: عِنْدَ الْكَاهِنِ،
فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ
النَّاسِ كَثِيرَةٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:
إِنَّ يَتْلِكَ الدَّابَّةُ كَانَتْ الْأَسَدَ، فَأَخَذَ الْغُلَامُ
حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ
حَقًّا، فَاسْأَلْكَ أَنْ أَقْتُلَ هَذِهِ الدَّابَّةَ، وَإِنْ كَانَ مَا
يَقُولُ الْكَاهِنُ حَقًّا أَنْ لَا أَقْتُلَهَا، ثُمَّ رَمَاهَا فَقَتَلَ
الدَّابَّةَ، فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا؟ فَقَالُوا: الْغُلَامُ.
فَفَزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقَالُوا: قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ
عِلْمًا لَمْ يَعْلَمَهُ أَحَدٌ، فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى فَجَاءَهُ،
فَقَالَ لَهُ الْأَعْمَى: إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ عَلَيَّ بَصْرِي،
فَإِنَّ لَكَ كَدًّا وَكَدًّا، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: لَا أُرِيدُ
مِنْكَ هَذَا، وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصْرُكَ
أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدَّكَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ، فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصْرَهُ، فَأَمَّنَ الْأَعْمَى.
فَبَلَغَ الْمَلِكُ أَمْرَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَاتِي بِهِمْ،
فَقَالَ: لَا أَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لَا أَقْتُلَهَا
صَاحِبَتَهَا. فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَبِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ

لڑکے کے راستے پر ایک راہن کا گر جاتا تھا۔ حضرت معمر
فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ اس وقت کے گرجوں والے
بچے مسلمان تھے۔ لڑکا اس راہب سے (بھی) سیکھنے
(سوال کرنے) لگا اس کا دین جب بھی وہ اس کے پاس
سے گزرتا یہاں تک کہ اس راہب نے لڑکے کو اپنا دین بتا
دیا۔ کہا: میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس لڑکینے راہب
کے پاس (کچھ دیر) ٹھہرنا شروع کر دیا اور کاہن کے پاس
دیر سے جا نیلگا۔ پس کاہن نے لڑکے کے گھروالوں کی
طرف پیغام بھیجا کہ وہ میرے پاس پابندی سے حاضر نہیں
ہوتا۔ پس لڑکے نے راہب کو یہ بات بتادی تو راہب نے
اس سے کہا: جب کاہن آپ سے کہے: کہاں تھا؟ تو اسے
کہہ دے: گھروالوں کے پاس تھا اور جب تیرے
گھروالے تجھے کہیں: کہاں تھا؟ تو کہہ دیا کہ کاہن کے
پاس تھا۔ لڑکا اسی حال پر تھا کہ ایک دن وہ لوگوں کے ایسے
جم غفیر کے پاس سے گزرا جن کو ایک خطرناک جانور نے
روک رکھا تھا۔ پس ان میں سے بعض نے کہا کہ جانور شیر
تھا۔ پس لڑکے نے پتھر اٹھا کر کہا: اے اللہ! جو کچھ راہب
کہتا ہے اگر وہ سچ اور حق ہے تو عرض کرتا ہوں کہ اس جانور
کو (اس پتھر سے) مار دے اور اگر کاہن کا قول سچ ہے تو
اسے نہ مارنا۔ پھر اس نے پتھر مارا تو جانور کو قتل کر دیا
لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کس نے اس کو قتل کیا؟
پس دوسرے لوگوں نے بتایا: اس لڑکے نے قتل کیا ہے۔
پس لوگ گھبرا کر اس کی طرف آئے اور کہا: اس لڑکے نیوہ
علم حاصل کر لیا ہے جو کسی نے نہیں پڑھا پس ایک اندھے

أَعْمَى فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ عَلَى مَفْرِقِ أَحَدِهِمَا،
فَقِيلَ وَقَتْلَ الْآخَرِ بِقِتْلَةِ أُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغَلَامِ،
فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا، فَالْقُوهُ
مِنْ رَأْسِهِ، فَلَمَّا انْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ،
وَأَنْتَهَوْا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا جَعَلُوا
بَيْنَهُمَا قُوتَ مِنَ الْجَبَلِ، وَبِتَرَدُّونَ مِنْهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ
إِلَّا الْغَلَامُ، ثُمَّ رَجَعَ الْغَلَامُ فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ،
فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَالْقُوهُ فِيهِ،
فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَفَرَّقَ اللَّهُ الَّذِينَ كَانُوا
مَعَهُ، وَأَنْجَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ الْغَلَامُ: إِنَّكَ
لَنْ تَفُتِنَنِي حَتَّى تَصْلُبَنِي، ثُمَّ تَرْمِنِي، وَتَقُولَ
إِذَا رَمَيْتَنِي: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغَلَامِ - أَوْ
قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ - فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ،
ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ، فَوَضَعَ الْغَلَامُ
يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ
عَلِمَ هَذَا الْغَلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُوْمِنُ
بِرَبِّ هَذَا الْغَلَامِ، فَقِيلَ لِلْمَلِكِ: أَجَزِعْتَ أَنْ
خَالَفَكَ ثَلَاثَةٌ؟ فَهَذَا النَّاسُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ،
فَخَذَ أَخْذُودًا أَلْقَى فِيهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ، ثُمَّ
جَمَعَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ
تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ
فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأَخْذُودِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ
عَزَّ وَجَلَّ: (قَاتِلِ أَصْحَابَ الْأَخْذُودِ، النَّارِ ذَاتِ
الْوَقُودِ) (البروج: 5) حَتَّى بَلَغَ (الْعَزِيزِ

نے اس کے بارے سنا تو وہ اس کے پاس آیا تو اندھے
نے اس سے کہا: اگر میری بیٹائی لوٹا دے تو تیرے لیے
فلاں فلاں چیز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا: مجھے کسی چیز کی
ضرورت نہیں لیکن تجھے بیٹائی مل جائے تو اس ذات پر
ایمان لائے گا جس نے تجھے بیٹائی دی؟ اس نے کہا: جی
ہاں! اس لڑکے نے اللہ عزوجل سے دعا کی پس اللہ نے
اس کی آنکھیں لوٹا دیں پس نابینا ایمان لایا اس کی بات
بادشاہ تک پہنچی اس نے آدمی بھیجا ان کی طرف ان کو لایا
گیا۔ بادشاہ نے کہا: میں تم میں سے ہر ایک کو قتل کر دوں گا
ایسے جیسے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ پس اس نے راہب
اور اندھے کو قتل کر نیک حکم دیا۔ پس ان میں سے ایک کے
سر پر آری رکھی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا اور دوسرے کو
دوسرے طریقے سے قتل کیا۔ پھر اس نے لڑکے کے حوالے
سے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ۔ پس اس کو سر کے بل
پھینک دو۔ پس جب وہ اسے اس پہاڑ کی طرف لے گئے
اور اس جگہ تک پہنچے جہاں کا انہوں نے ارادہ کیا تھا تو وہ
پہاڑ سے گرے اور ہلاک ہونے لگے یہاں تک کہ
(سارے ہلاک ہو گئے) صرف وہ لڑکا باقی رہا۔ پھر وہ لڑکا
واپس لوٹ آیا پھر بادشاہ نے اس کے حوالے سے حکم دیا
اسے سمندر میں لے جا کر غرق کر دو۔ پھر وہ اس کو سمندر کی
طرف لے گئے پس اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ والوں کو
غرق کر دیا اور اللہ نے اس لڑکے کو نجات دی۔ پس اس
لڑکے نے کہا: تم مجھے ہرگز قتل نہ کر سکو گے حتیٰ کہ مجھے سولی
چڑھاؤ پھر مجھے تیر مارتے وقت یہ کہو: اللہ کے نام سے

الْحَمِيدِ) (البروج: 8) فَلَذِكْرَ أَنَّ الْغَلَامَ
أُخْرِجَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ وَاضْعًا بَدَهُ عَلَى صُدُغِهِ، كَمَا وَضَعَهَا
جِبْنَ قَيْلٍ

شروع جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پس بادشاہ نے حکم دیا کہ
اس کو سولی دے دی جائے پھر کہا: اللہ کے نام سے شروع
جو لڑکے کا رب ہے۔ پس لڑکے نے اپنا ہاتھ کپٹی پر رکھا
پھر فوت ہوا۔ پس لوگوں نے کہا: تحقیق اس لڑکے کے پاس
ایسا علم تھا جو کسی کے پاس نہیں۔ پس ہم تو اسی لڑکے کے
رب پر ایمان لاتے ہیں۔ پس بادشاہ سے کہا گیا: تو تین
آدمیوں کی مخالفت سے عاجز آ گیا تھا؟ پس (اب تو) یہ
سارے کے سارے لوگ تیرے مخالف بنے ہوئے ہیں۔
پس اس نے خندقیں کھدوائیں ان میں لکڑی ڈال کر آگ
جلوائی پھر لوگوں کو جمع کیا پھر کہا: جو اس کے دین کی طرف
واپس آ جائے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور جو نہ لوٹے گا
اسے ہم اس آگ میں پھینک دیں گے۔ پس وہ لوگوں کو
ان خندقوں میں ڈالنے لگا۔ پس یہی اللہ کا فرمان بتا رہا ہے:
”خندقوں والے شہید کر دیئے گئے جو آگ والی اور
ایندھن والی تھیں یہاں تک: العزیز الحمید۔“ پس
ذکر کیا گیا کہ وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں
(کسی کھدائی کے دوران) نکالا گیا اس حال میں کہ اسی
طرح اس نے اپنا ہاتھ اپنی کپٹی پر رکھا ہوا تھا جس طرح
اس نے شہید ہوتے وقت اپنا ہاتھ رکھا تھا۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول
اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے جو امت
گزری اس میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا
جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب

7168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

التَّمَارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ النَّاحِقِيُّ،
ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا قَابِتُ بْنُ أَبِي
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ

میں بوڑھا ہو گیا ہوں (موت کا زمانہ قریب آ گیا) مجھے کوئی لڑکا دے دے تاکہ میں اس کو سحر سکھلا دوں۔ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا دے دیا تو اس کو وہ ہر روز جادو سکھلایا کرتا تھا۔ جب بادشاہ کے ہاں سے جادوگر کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ ایک روز یہ لڑکا اس راہب کے پاس گیا اور اس کی باتیں سن کر خوش ہوا اور یہ باتیں اس کو بہت پسند آئیں ہر روز آتے اور جاتے وہ راہب کی خدمت میں بیٹھتا تھا اور جب وہ ساحر کے پاس دیر سے پہنچتا تو ساحر اس کو سزا دیتا کہ تُو کہاں بیٹھا رہا جب گھر میں دیر سے آتا تو گھر والے مارتے تھے کہ کہاں بیٹھا رہتا ہے۔ لڑکا مذکور نے راہب سے یہ شکوہ کیا کہ میں اس مصیبت میں ہوں۔ راہب نے کہا کہ جب ساحر تجھ پر خفا ہو کر مارنا چاہے تو اس سے کہنا کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا اور جب گھر والے مارنا چاہیں تو کہنا کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک روز اتفاق سے اس نے راستے میں دیکھا کہ عظیم ہولناک درندے نے راہ روکی ہوئی ہے اور لوگ راستہ میں چلنے سے معذور ہیں۔ طفل مذکور نے کہا: آج میں جان جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساحر کا معاملہ پسند ہے یا راہب کا معاملہ پسند ہے۔ اس نے ایک پتھر لے کر کہا: الہی! اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ اس جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہو تو اس درندہ کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پس راہب کے پاس پہنچا اور اس معاملے سے آگاہ کیا تو راہب نے کہا: آج تُو مجھ سے افضل ہے! لیکن

اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَلِكٌ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ السَّاحِرُ، قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَادْفَعْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، فَدْفَعَ إِلَيْهِ غُلَامًا، وَكَانَ يُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، وَكَانَ بَيْنَ الْمَلِكِ وَبَيْنَ السَّاحِرِ رَاهِبٌ، فَسَمِعَ الْغُلَامُ مِنْ كَلَامِهِ فَأَعْجَبَهُ نَحْوَهُ وَكَلَامُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ جَلَسَ عِنْدَ الرَّاهِبِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ يَقُولُ: مَا حَبَسَكَ؟ وَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَعَدَ عِنْدَ الرَّاهِبِ، فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَقُولُونَ: مَا يَحْبِسُكَ؟ فَيَضْرِبُونَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، وَقَالَ: إِذَا أَرَادَ السَّاحِرُ أَنْ يَضْرِبَكَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُكَ أَنْ يَضْرِبُوكَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، فَاتَى يَوْمًا عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ أَنْ يَجُوزُواَهَا، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَمْرُ السَّاحِرِ أَحَبُّ إِلَيَّ، أَوْ أَمْرُ الرَّاهِبِ، فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ، إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ وَأَفْضَلَ، فَأَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ فَرَمَاهَا فَتَقَتَّلَهَا، وَذَهَبَ النَّاسُ، قَبْلَ الرَّاهِبِ، فَقَالَ: أَيُّ بَنِي، أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّي، وَإِنَّكَ سَتُبَنِّي، فَبَانَ ابْتِلِيتَ فَلَا تَذُلْ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ بَرِيءًا الْأَكْمَةَ، وَالْأَبْرَصَ، وَهَذِهِ الْأَذْوَاءَ، وَكَانَ لِلْمَلِكِ خَلِيسٌ، فَعَمِيَ فَسَمِعَ

بِهِ فَاتَّاهُ بِهَذَا يَا كَثِيرَةً، فَقَالَ: أَشْفِيِي وَلَكَ مَا هَهُنَا، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ شَفَاكَ، فَأَمَنْ بِهِ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَرَأَ، فَأَخَذَ الْأَعْمَى، فَلَمَّ يَزُلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّهُ عَلَى الْغَلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَلَيْكَ رَبِّ غَيْرِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ. فَلَمَّ يَزُلْ بِهِ حَتَّى دَلَّهُ عَلَى الرَّاهِبِ فَأَخَذَهُ بِالْعَذَابِ، فَقَالَ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَأَمَرَ بِالْمِنْشَارِ فَوَضَعَ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقُّوه، وَقَالَ لِلْأَعْمَى: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاؤُهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقِيلَ لِلْغَلَامِ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَبَعَثَ بِهِ فِي نَفَرٍ إِلَى جَبَلٍ، فَقَالَ: اصْعَدُوا بِهِ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَلَغَ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَذْهِدْهُوهُ. قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّا بَلَغَ ذُرْوَتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَزَحَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَذْهَبُوا أَجْمَعُونَ، وَجَاءَ الْغَلَامُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَّيْنِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَبَعَثَ بِهِمْ فِي نَفَرٍ فِي قُرْقُورَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا تَوَسَّطْتُمْ بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ، وَإِلَّا فَعَرِّقُوهُ، فَذْهَبُوا بِهِ، فَلَمَّا لَجَعُوا بِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَعَرِّقُوا أَجْمَعُونَ،

عنقریب تو امتحان میں ڈالا جائے گا! پس اگر تو امتحان میں پڑے تو میرا نہ بتانا۔ پھر یہ لڑکا اندھے کو دھی وغیرہ کو اچھا کیا کرتا تھا! اللہ تعالیٰ اس کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے ان کو شفاء دیتا تھا۔ بادشاہ کے قریب بیٹھنے والا اندھا تھا جب اُس نے سنا تو بہت سارے ہدیے لے کر اس کے پاس آیا اور درخواست کی کہ مجھے بھی اچھا کر دے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے لڑکے نے کہا: میں کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے! پس اگر تو ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفاء دیدے وہ ایمان لایا! پس لڑکے کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں روشن کر دیں۔ اس کو عذاب دیتے رہے حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتا بتا دیا! پس بادشاہ نے اس کے لیے کہا: میرے سوا تیرا رب ہے! پس اس نے کہا: جی ہاں! میرا اور تیرا رب اللہ ہے! پس عذاب دیا گیا حتیٰ کہ اُس نے ان سب کا پتا بتا دیا! کہا: تو اپنے دین سے انکار کر دے! پس آری اس کے سر کی ماگ کی جگہ رکھ کر کاٹ دیا گیا اور تاپینا کے لیے کہا: اپنے دین سے پھر! اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کے سر پر آری رکھ کر چیر دیا گیا حتیٰ کہ زمین میں بھی شق پڑ گئی۔ پس لڑکے کے لیے کہا: اپنے دین سے پھر جا! پس اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اس کو چند آدمیوں کے ساتھ پہاڑ پر بھیجا کہ جب تم چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر نہیں! تو اس کو پہاڑ سے گرا دینا جب یہ لوگ پہاڑ پر چڑھے تو اس نوجوان نے دعا کی: الہی! جس طرح چاہے ان کو مجھ سے کفایت دے۔ پس ایک بار پہاڑ نے

ہلا کر ان لوگوں کو زمین پر پٹخ دیا تو نو جوان چلا آیا اور بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ نے پوچھا: تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدی سے مجھے کفایت فرمائی۔ بادشاہ نے چند لوگوں کے ساتھ کشتی میں بٹھادیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم لوگ سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اگر یہ نو جوان اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر ورنہ اس کو سمندر میں غرق کر دو۔ وہ لوگ روانہ ہوئے جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو لڑکے نے کہا: الہی! جس طرح تو چاہے ان کو مجھ سے کفایت فرما! پس وہ لوگ غرق ہوئے اور نو جوان واپس آیا۔ پس بادشاہ نے کہا: تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا: اللہ نے مجھے ان کی بدی سے کفایت فرمائی پھر اس نے بادشاہ سے کہا: تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو اس طرح نہ کرے جس طرح میں تجھے بتاؤں اگر تو نے ایسا کیا جس طرح میں نے کہا تو تو مجھے قتل کر لے گا ورنہ تو مجھے قتل نہ کر پائے گا۔ بادشاہ نے کہا: وہ کیسے؟ لڑکے نے کہا: تو لوگوں کو میدان میں جمع کر پھر مجھے سولی پر لٹکا میرے ترکش میں سے ایک تیر لے اور کمان میں رکھ کر کہہ: اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے! تو نے اگر ایسا کیا تو مجھے مار لے گا۔ بادشاہ مذکورہ نے ایسے ہی کیا اور تیر کمان میں رکھ کر ”بسم اللہ رب الغلام“ کہا تو یہ تیر اس لڑکے کی کپٹی پر لگا لڑکے نے کپٹی پر ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ پس اس نے کہا: کیا تو نے وہی کچھ دیکھ لیا جس سے تو ڈرتا تھا۔ پس تحقیق تجھ پر مصیبت اُتری ہے کہ تمام لوگ ایمان لائے ہیں پس اس

وَجَاءَ الْغُلَامُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَّاهِهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمُرُكَ بِهِ، فَإِنْ أَنْتَ فَعَلْتَ قَتَلْتَنِي. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ سَهْمًا مِنْ كِسَانَتِكَ، فَتَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ تَرْمِيهِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَقَتْنِي، فَفَعَلَ فَوَضَعَ السَّهْمَ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ، فَمَاتَ الْغُلَامُ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ، فَقَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَأَمَرَ بِأَفْوَاهِ السِّكِّ فَخُذَّتْ فِيهَا الْأَخْدُودُ، فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَأَقْبَحُوهُ فِيهَا

نے گلیوں کے درمیان خندقیں کھودنے کا حکم دیا، پس کہا: جو اپنے دین سے رجوع کرے گا (تو ٹھیک ہے) ورنہ اس کو دن خندقوں میں ڈال دو۔

ابو السلیل، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

أَبُو السَّلِيلِ،
عَنْ صُهَيْبٍ

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے کھانا تیار کیا، میں آپ کے پاس آیا تو آپ ایک گروہ میں تشریف فرما تھے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ سارے؟ میں نے عرض کی: نہیں! میں خاموش ہو گیا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہا، جب آپ نے میری طرف دیکھا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا: یہ سارے؟ میں نے عرض کی: نہیں! دو مرتبہ عرض کی یا تین مرتبہ میں نے عرض کی: جی ہاں! سارے تھوڑی سی شے میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ آئے اور وہ لوگ بھی آئے انہوں نے کھایا اور میرا گمان ہے کہ وہ کھانا اسی طرح باقی بچ رہا۔

حضرت صہیب بن نعمان رضی اللہ عنہ

حضرت صہیب بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرْدَيْ، ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرٍ جَالِسٍ، فَقُمْتُ حِيَالَهُ، فَأَوْمَأَتْ إِلَيْهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ وَهُوَ لَا؟، فَقُلْتُ: لَا. فَسَكَّتُ، فَقُمْتُ مَكَانِي، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ أَوْمَأَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَهُوَ لَا؟، فَقُلْتُ: لَا. مَرَّتَيْنِ فَعَلَ ذَلِكَ - أَوْ ثَلَاثًا - فَقُلْتُ: نَعَمْ وَهُوَ لَا؟، وَإِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا صَنَعْتُهُ لَهُ، فَجَاءَ وَجَاءَ وَمَعَهُ فَأَكَلُوا - وَأَحْسَبُهُ قَالَ -: وَفَضَّلَ مِنْهُ

صُهَيْبُ بْنُ النُّعْمَانِ

7170 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

7169 - قال في المجموع جلد 4 صفحہ 55 ورجاله رجال الصحيح الا أن ضريب بن نفير أبو السليل لم يسمع من صهيب .

7170 - قال في النجم جلد 2 صفحہ 247 وفيه محمد بن مصعب القرقيساني ضعفه ابن معين وغيره ووثقه أحمد . قال

الحافظ في التقریب: صدوق كثير الغلط . قلت: وقيس بن الربيع قال الحافظ في التقریب: صدوق تغير لما كبر

حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی کی نماز کی فضیلت اس کے اپنے گھر میں اس کی اس نماز پر ہے جہاں لوگ دیکھیں اس طرح ہے جس طرح فرض نماز کو فضیلت حاصل ہے نفل نماز پر۔

السَّعْمَرِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقَسَانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ صُهَيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

جن کا نام صفوان ہے
حضرت صفوان بن امیہ بن
خلف جمحی رضی اللہ عنہ

مَنْ اسْمُهُ صَفْوَانُ
صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ
خَلْفِ الْجُمَحِيِّ

آپ کی کنیت ابو وہب ہے آپ فتح مکہ کے دن نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پس آپ ﷺ نے ان کو چار ماہ کی مہلت دی اور حنین کے دن حاضر ہوئے اس حال میں کہ مشرک تھے پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے ان کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ہوئی۔

يُكْنَى أَبَا وَهْبٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَجَلَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَشَهِدَ حَنِينًا وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، تَوَفَّى مَقْتَلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان اپنے والد کو دفن کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک سوار آیا اُس نے عرض کی: امیر المؤمنین عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا ہے آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے معلوم نہیں ہے کہ دو مصیبتوں میں کون سی بڑی ہے میرے والد کی

7171 - حَدَّثَنَا الْإِسْقَاطُ بْنُ دَاوُدَ الْبَصْرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ زَادٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَذْفِنُ أَبَاهُ أَتَاهُ رَاكِبٌ، فَقَالَ: قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا أَذْرِي أُمَّ

مَنْ اسْمُهُ صَفْوَانُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفِ الْجُمَحِيِّ

الْمُصِيبَتَيْنِ أَعْظَمَ مَوْتُ أَبِي، أَمْ قَتْلُ عُثْمَانَ؟

7172 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ،

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ

النُّعْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،

قَالَ: لَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ

الْجُمَحِيُّ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: عَلَى مَنْ نَزَلْتَ أَبَا وَهْبٍ؟ قَالَ: نَزَلْتُ

عَلَى عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. قَالَ: نَزَلْتُ

عَلَى أَشَدِّ قُرَيْشٍ لِقُرَيْشٍ حُبًّا

7173 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُتَيْبِيُّ، ثنا

أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ

شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ،

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قِيلَ لَصَفْوَانَ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ

يُهَاجِرْ، فَقَدْ هَلَكَ. فَدَعَا بِرَأْسِهِ فَرَكَبَهَا،

فَأَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا وَهْبٍ؟ قَالَ:

بَلَّغَنِي أَنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ. قَالَ:

ارْجِعْ إِلَيَّ أَبَاطِحَ مَكَّةَ فَرَجِعْ، فَدَخَلَ

موت بڑی مصیبت ہے یا حضرت عثمان کی شہادت؟

حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ جب

حضرت صفوان بن امیہ بن خلف نجی رضی اللہ عنہ آئے تو

حضور ﷺ نے ان کو فرمایا: اے ابو وہب! کہاں ٹھہرے

ہو؟ عرض کی: میں حضرت عباس بن عبدالمطلب کے پاس

ٹھہرا ہوں آپ نے فرمایا: تو اس قریشی کے پاس ٹھہرا ہے

جو مجھے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت صفوان بن عبداللہ بن صفوان اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن

عمال سے عرض کی گئی: جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک

ہو گیا آپ نے سواری منگوائی اس پر سوار ہوئے مدینہ

آئے حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابو وہب! کیسے آئے

ہو؟ عرض کی: مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا دین نہیں ہے جس

نے ہجرت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا: مکہ کی وادیوں کی

طرف واپس جاؤ۔ وہ واپس لوٹے جب مسجد میں داخل

ہوئے تو اپنی چادر کا تکیہ بنایا ایک آدمی آیا اس نے چوری

7172 - قال في المعجم جلد 9 صفحہ 270 وفيه من لم أعرفهم .

7173 - ورواه مالك جلد 2 صفحہ 174 عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان . قال ابن عبد البر:

رواه جمهور أصحاب مالك مرسلًا . ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله

عن جده . ورواه أحمد جلد 6 صفحہ 465 من طريق الزهري عن صفوان كذلك مرسلًا .

کر لی اس کو لے کر حضور ﷺ کے پاس آئے عرض کی:
یا رسول اللہ! میری چادر کی اتنی قیمت نہیں تھی جس کے
بدلے ہاتھ کاٹا جائے میں اس چادر کو صدقہ کرتا ہوں۔
حضور ﷺ نے فرمایا: میرے پاس لانے سے پہلے کر لینا
تھا ایسا کیوں نہ کیا؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت
صفوان بن امیہ مدینہ آئے مسجد میں سو گئے اپنا کپڑا اپنے
سر کے نیچے رکھا ایک چور آیا اور اُس نے چوری کر لی اس کو
لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا آپ نے اس کے
ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا حضرت صفوان نے عرض کی: یا رسول
اللہ! یہ اس کے لیے ہے آپ نے فرمایا: میرے پاس
لانے سے پہلے تم نے معاف کیوں نہ کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت
صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں
سوئے ہوئے تھے اپنا کپڑا اپنے سر کے نیچے رکھ کر ایک
آدی آیا اس نے آپ کے سر سے کپڑا نکالا اور چوری کر

الْمَسْجِدَ، فَتَوَسَّدَ رِذَاءَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ
فَسَرَقَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَرَقَ هَذَا رِدَائِي، فَأَمَرَ
بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَهُ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يَبْلُغْ رِدَائِي مَا يَقْطَعُ فِيهِ يَدُ
رَجُلٍ قَدْ جَعَلْتُهَا صَدَقَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟
7174 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي
الْمَسْجِدِ فَرَضَعَ خِمِصَةً لَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَأَتَاهُ
سَارِقٌ فَسَرَقَهَا، فَجِئَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، هِيَ لِي. قَالَ: فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟

7175 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ
مَنْدَه الْأَصْبَهَانِي، ثنا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ
الْبُرَيْعِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
سَوَّارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ

7174 - قال في المجموع جلد 6 صفحہ 276 وفيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقيت رجاله رجال الصحيح .

7175 - ورواه النسائي جلد 8 صفحہ 70 من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طائوس عن صفوان بن أمية فذكره .

صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِمًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ خِمِصَةٌ لَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَلَّهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فَلَسَحَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّ لَهُ أَمْرُهُ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَمْرِ رَدَائِي هَذَا أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي

بِهِ؟

مَا أَسْنَدَ صَفْوَانُ بُنْ أُمَيَّةَ

7176 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ، وَالْبُطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنَّفْسَاءُ شَهَادَةٌ

7177 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لِ اس آدمی کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا، اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی: میری چادر اتنی قیمت کی نہیں تھی جس کی وجہ سے ایک آدمی کے ہاتھ کاٹے جائیں، حضور ﷺ نے فرمایا: میرے پاس آنے سے پہلے تم نے معاف کیوں نہ کیا۔

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: طاعون، پیٹ، حالتِ نفاس میں مرنے والے شہید ہیں۔

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: طاعون، پیٹ، حالتِ نفاس میں مرنے والے شہید ہیں۔

وَسَلَّمَ، قَالَ: الطَّاعُونَ، وَالنَّفْسَاءُ، وَالْغَرَقُ
شَهَادَةٌ

7178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ بِنِ

كَامِلِ السَّرَاجِ، ثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ
التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ الطَّاعُونَ، وَالْغَرَقُ،
وَالْحَرَقُ، وَالنَّفْسَاءُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي

7179 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَا:
ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ،
قَالَ: كَانَتْ فِينَا وَلِيْمَةٌ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا صَفْوَانُ
بْنُ أُمَيَّةَ، فَأَتَانِي بِطَعَامٍ، فَقَالَ: ائْتِهَشُوا اللَّحْمَ،
فَأِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: ائْتِهَشُوا اللَّحْمَ، فَإِنَّهُ أَشْهَى، وَأَهْنَأُ
وَأَمْرًا

7180 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا

الْحَمِيدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو
أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ:

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: طاعون، پیٹ، حالتِ نفاس میں
مرنے والے شہید ہیں۔

حضرت محمد بن فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے
ہاں ولیمہ تھا، حضرت صفوان بن امیہ ہمارے پاس آئے
آپ کے پاس کھانا لایا گیا، آپ نے فرمایا: گوشت بڑیوں
سے علیحدہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
ہوئے سنا کہ بڑی سے گوشت علیحدہ کرو کیونکہ یہ زیادہ لذیذ
ہوتا ہے۔

حضرت حارث بن نوفل فرماتے ہیں کہ میرے والد
کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی،
لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دی گئی، حضرت صفوان بن امیہ

7179 - ورواہ أحمد جلد 3 صفحہ 400، جلد 6 صفحہ 464، 465، والترمذی رقم الحديث: 8195 قال الحافظ في الفتح

جلد 9 صفحہ 547، وعبد الكريم ضعيف لكن أخرجه ابن أبي عاصم من طريق آخر عن صفوان بن أمية فيہو حسن .

7180 - ورواه الحميدى رقم الحديث: 564، وانظر ما قبله .

ہمارے پاس آئے آپ نے فرمایا: گوشت ہڈی سے علیحدہ کرو میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔

عَرَسَ بِي أَبِي فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَدَعَا النَّاسَ فِي وَلِيمَةٍ لَنَا، فَكَانَ فِيمَنْ أَتَانَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فَقَالَ: انْتَهَشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُوَ أَشْهَى، وَأَمْرٌ، وَأَهْنَأُ، وَأَمْرٌ

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میں گوشت ہڈی سے کاٹ رہا تھا آپ نے فرمایا: اے صفوان! میں نے عرض کی: حاضر ہوں! آپ نے فرمایا: گوشت منہ کے قریب کر کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔

7181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَجْزُ اللَّحْمِ عَنِ الْعَظْمِ، فَقَالَ: يَا صَفْوَانُ، قُلْتُ: لَيْتَكَ، قَالَ: قَرِيبَ اللَّحْمِ مِنْ فَيْكِ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ، وَأَمْرٌ

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چور آیا میں سویا ہوا تھا اُس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا کھینچا میں اٹھا اور اسے پکڑ کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا آپ نے اس آدمی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس آنے سے پہلے کیوں معاف نہیں کیا جب قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ جائے تو پھر وہ حد

7182 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الْعِجْلُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ لَصًا أَتَاهُ وَهُوَ نَائِمٌ، فَاسْتَلَّ إِزَارَهُ مِنْ تَحْتِهِ، فَاسْتَقِظَ فَأَخَذَهُ، فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ،

7181 - ورواه أحمد جلد 3 صفحہ 401 جلد 6 صفحہ 466، وأبو داود رقم الحديث: 3761، وعثمان لم يسمع عن صفوان

كما قال أبو داود ومع ذلك صححه الحاكم جلد 4 صفحہ 112-113، ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في شعب

الایمان صفحہ 17، وفي الآداب صفحہ 105.

قائم کی جائے گی۔

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَحَلَّتْهُ. قَالَ: هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ أَقَامَهُ

حضرت صفوان بن امیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے سویا ہوا تھا جس کی قیمت میں درہم تھی ایک آدمی آیا اور اُس نے چادر چوری کر لی اس آدمی کو پکڑا گیا اور اسے حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا میں آیا اور عرض کی: کیا میں درہم کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ میں نے یہ چادر اسے دے دی۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس لانے سے پہلے معاف کیوں نہ کیا تھا۔

7183 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ

الْحَنَفِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَادُ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خِمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ، فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقَطَعَ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَقَطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ هِيَ لَهُ، قَالَ: فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟

7184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْمِصْبِصِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

حضرت صفوان بن امیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چور آیا میں سویا ہوا تھا اُس نے میرے سر کے نیچے سے کپڑا کھینچا میں اٹھا اور اسے پکڑ کر حضور ﷺ کی بارگاہ

7183 - ورواه النسائي جلد 8 صفحہ 69-70 و أبو داؤد رقم الحديث: 4371 من طريق عمرو بن حماد به ثم قال: ورواه

زائدة عن سمالك عن جعيد بن حجر قال: نام صفوان. ورواه طاووس ومجاهد أنه كان نائماً فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ.

ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه أحمد جلد 6 صفحہ 666 من طريق آخر عن سمالك عن جعيد به. ورواه جلد 3 صفحہ 401 جلد 6 صفحہ 465-466 من طريق آخر عن صفوان. وللحديث طرق آخر عند

میں لایا آپ نے اس آدمی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس آنے سے پہلے کیوں معاف نہیں کیا، جب قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ جائے تو پھر وہ حد قائم کرے۔

عُمَيْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ لَصًا أَتَى أَبَاهُ وَهُوَ نَائِمٌ، فَاسْتَلَّ إِزَارَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَاسْتَيْقَظَ فَأَخَذَهُ، فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يَقْطَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَخْلَلْتُهُ لَهُ قَالَ: فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَقَامَهُ

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے چادر چوری کی، اسے حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اسے معاف کر دیا، آپ نے فرمایا: اگر تُو نے میرے پاس لانے سے پہلے یہ کہا ہوتا، اے ابو وہب! حضور ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔

7185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرْقِعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَجَاوَزْتَ عَنْهُ، فَقَالَ: فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے میری چادر میرے سر کے نیچے سے نکالی، میں نے اسے پکڑا اور اسے حضور ﷺ کی بارگاہ میں لایا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ اس کے لیے ہے! آپ نے فرمایا: تُو نے میں پاس لانے سے پہلے

7186 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى، إِذَا مَشَقَّى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نِمْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَاسْتَلَّ إِزَارِي مِنْ تَحْتِي، فَأَذْرَكْتُهُ، فَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ

کیوں نہ کیا۔

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، هِيَ لَه. قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

7187 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّةِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقُلْتُ: مَضْمُونَةٌ يَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: مَضْمُونَةٌ. قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاكَ لَكَ؟ قَالَ: لَا أَنَا أَرْغَبُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ

7188 - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّةٍ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حنین کے دن مجھ سے لوہے کی زرہ اُدھار لی، میں نے عرض کی: اے محمد! اس کی ضمانت دینا ہو گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ضمانت دوں گا۔ اس کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا۔ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: اگر تو چاہے تو اس کا بدلہ ہم تجھے دے دیتے ہیں، میں نے عرض کی: نہیں! اس سے مجھے اسلام لانے کی رغبت ہوگی۔

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حنین کے دن مجھے دیا حالانکہ آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند تھے آپ مسلسل مجھے دیتے رہے حتیٰ کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے۔

7187 - وعلقه البيهقي جلد 6 صفحہ 89 عن قيس بن الربيع عن عبد العزيز به. ورواه أحمد جلد 6 صفحہ 465 وأبو داؤد

رقم الحديث: 3562 والبيهقي جلد 6 صفحہ 89 عن شريك به فلم يذكر أبو أبي مليكة. ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 3563 ومن طريقه البيهقي جلد 6 صفحہ 89 من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. ورواه البيهقي جلد 6 صفحہ 89-90 عن طريق أنس ابن عبياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه. وللحديث شاهد من حديث جابر عند الحاكم جلد 3 صفحہ 48-49 والبيهقي جلد 6 صفحہ 89 وهو حديث حسن وقد صرح فيه ابن اسحاق بالتحديث. ومن حديث ابن عباس عند البيهقي جلد 6 صفحہ 88 من طريق الحاكم وفي اسناده اسحاق قال الذهبي: هو واه.

7188 - ورواه الترمذی رقم الحديث: 661 وهو في صحيح مسلم رقم الحديث: 2313 من طريق آخر عن يونس به.

حَنِينٍ، وَإِنَّهُ لَا بَغْضَ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَا حُبَّ النَّاسِ إِلَيَّ

7189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمَعْلَى

الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَنْ قِيلَ لِي هَلْكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبِي طَاحٍ مَكَّةَ

7190 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

الْمُسَوِّدُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا بَشَرُ بْنُ نُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كُتِبَتْ عَلَيَّ الشَّقْوَةُ، فَلَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُقَى بَغْغِي، فَتَأَذَّنْ لِي فِي الْغَنَاءِ مِنْ

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا: جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا، میں حضور ﷺ کے پاس آیا، میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا: اے ابو وہب! واپس مکہ جاؤ!

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس تھے، حضرت عمرو بن قرہ آپ کے پاس آئے، عرض کی: یا رسول اللہ! مجھ سے متعلق بد بختی لکھی گئی ہے، آپ مجھے بغیر بے حیائی والے گانے کی اجازت دیں، حضور ﷺ نے فرمایا: میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی (اس میں) کوئی عزت ہے، اے اللہ کے دشمن! تُو جھوٹ بولتا ہے، تجھے اللہ نے حلال رزق دیا ہے، تُو اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ نے حلال کیا، اس کی جگہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اگر میں پہلے آیا ہوتا تو میں

7190 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 63، وفيه بشر بن نمير وهو متروك. وكذا قال جلد 2 صفحہ 47، جلد 4 صفحہ 29.

والحديث رواه ابن ماجه رقم الحديث: 2613 مقتصرًا على قصة عمرو. قال في الزوائد: في اسناده بشر بن نمير البصري، قال فيه يحيى القطان: كان ركنًا من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وكذا قال غيره. ويحيى بن العلاء قال أحمد: يضع الحديث، وفريب منه ما قال غيره. والحديث رواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3628 بنفس السند واللفظ.

ضرورت تیرے ساتھ وہ سلوک کرتا میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ سے توبہ کر لیکن اگر تُو نے آنے کے بعد کوئی شئی پائی ہے تو میں تجھے دردناک سزا دوں گا تیرا سر منڈوا کر تیرا مثلہ کر دوں گا تیرے گھروالوں سے جدا کر کے تجھے جلاوطن کر دوں گا اور تیرا سامان مدینہ کے جوانوں کو لوٹ لینے کی اجازت دوں گا۔ پس عمرو بن قرہ کھڑے ہوئے بُرے حال اور ایسی رسوائی کے عالم میں جسے اللہ ہی جانتا ہے جب وہ چلا گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ان نافرمانوں میں سے اگر کوئی بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر ایسے کرے گا کہ وہ خسرہ اور زنگا ہوگا لوگوں سے کوئی کپڑا لے کر پردہ کرنے کی طاقت نہ ہووگی جب بھی کھڑا ہوگا گر جائے گا۔

حضرت عرفطہ بن نہیک تمیمی کھڑے ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اور میرے گھروالوں کو اس شکار کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے لیکن میں ذکر اللہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے رہ جاتا ہوں لیکن یہ ہماری ضرورت ہے کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ پس آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس کو حلال کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے اور بہتر ہے کہ اللہ سے عذر کر لیا جائے مجھ سے پہلے تمام کے تمام اللہ کے رسول شکار کرتے تھے۔ یا (فرمایا:) شکار طلب

غَيْرَ فَاحِشَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا آذَنُ لَكَ، وَلَا كَرَامَةً، كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ، فَمَنْ عَنَى وَتُبَ إِلَى اللَّهِ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ نِلْتَ بَعْدَ التَّقْدِيمَةِ شَيْئًا ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مِثْلَةَ، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَخْلَلْتُ سَبْلَكَ نَهْيَةَ لَفَيْتَانِ الْمَدِينَةِ . فَقَامَ عُمَرُو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ، وَالْخِزْيِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَؤُلَاءِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ مُخْتًا عُرْيَانًا، لَا يَسْتَرُ مِنَ النَّاسِ بِهَيْدِيَةٍ، كُلَّمَا قَامَ ضَرَعَ

7191 - فَقَامَ عُرْفُطَةُ بْنُ نَهَيْكٍ

التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَهْلُ بَيْتِي مُرَزَّقُونَ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ، وَلَنَا فِيهِ قَسَمٌ وَبَرَكَةٌ، وَهُوَ مَشْغَلَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَبِنَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَفْتَحِلُّهُ، أَمْ تَحْرِمُهُ؟ فَقَالَ: أَحِلُّهُ لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّهُ، نَعَمْ الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُدْرِ، قَدْ كَانَتْ لِلَّهِ قَبْلِي رُسُلٌ كُلُّهُمْ يَصْطَادُ، أَوْ يَطْلُبُ الصَّيْدَ، وَيَكْفِيكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ إِذَا غَبَتْ عَنْهَا

فِي طَلَبِ الرِّزْقِ حُبُّكَ الْجَمَاعَةَ وَأَهْلَهَا،
وَحُبُّكَ ذِكْرَ اللَّهِ وَأَهْلَهُ، وَابْتِغَاءُ عَلَى نَفْسِكَ
وَعِبَائِكَ خَلَالًا، فَإِنَّ ذَلِكَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَوْنَ اللَّهِ فِي صَالِحِ التِّجَارَةِ

کرتے تھے جب تو رزق تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے تو نماز
جماعت کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے تیری طرف سے
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شدید خواہش ہی کافی ہے
اور اللہ کے ذکر اور ذکر کرنے والوں کی محبت کافی ہے اپنے
لیے اور اپنے اہل و عیال کیلئے حلال رزق طلب کر کیونکہ یہ
بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور جان لے کر نیک تجارت
کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔

حضرت صفوان بن معطل

سلمی رضی اللہ عنہ

حضرت صفوان بن معطل کی روایت
کردہ احادیث

حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو کسی سفر میں دیکھا کہ آپ نے
نمازِ عشاء پڑھائی جب آدھی رات کا وقت ہوا تو کھڑے
ہوئے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں مکمل پھر
وضو کیا اور مسواک کی پھر دو رکعتیں پڑھیں مجھے معلوم نہیں
کہ آپ کا قیام یا رکوع یا سجود لہا تھا پھر آپ سو گئے پھر
اٹھے اور کچھ آیات پڑھیں مسواک کی اور وضو کیا پھر ایسے
ہی کیا پھر پہلے کی طرح نماز پڑھی آپ نے دو رکعتیں
پڑھیں پھر سو گئے پھر اٹھے اور پہلی مرتبہ کی طرح کیا آپ

صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ

السُّلَمِيُّ

مَا أَسْنَدَ صَفْوَانُ

بُنُ الْمُعَطَّلِ

7192 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ

الْمَدِينِيِّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ
أَسْفَارِهِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ
مَعَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ قَامَ، فَتَلَا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ
آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ
تَوَضَّأَ وَتَسَوَّكَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا أَدْرِي

نے گیارہ رکعتیں پڑھیں۔

أَقْبَامُهُ أَوْ رُكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ أَطْوَلُ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَرَأَ الْآيَاتِ أَيْضًا، ثُمَّ تَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى مَا صَلَّى مِثْلَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَنَامُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کا سینک بلند ہوتا ہے، جب بلند ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو پھر سینک طلوع ہوتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے تو سورج ڈھل جاتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو سینک پر غروب ہوتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، ان وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔

7193 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا حَمِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمَعْطَلِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا الشَّيْطَانُ، إِذَا انْبَسَطَتْ قَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا، وَإِذَا زَالَتْ قَارَقَهَا، وَإِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا، وَإِذَا غَرَبَتْ قَارَقَهَا، فَتَهَيَّ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ

7193 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 312 کذا فی نسختنا من المسند وقال فی المجموع جلد 2 صفحہ 244-245 رواه عبد الله فی زيادته فی المسند ورجاله رجال الصحيح الا انی لا ادری سمع المقبري منه أم لا، واللہ اعلم، وقد رواه ابن ماجه رقم الحديث: 1252 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن صفوان بن المعطل قال: يا رسول الله . وقال فی المجموع جلد 2 صفحہ 227 ورجاله موثقون . قلت: قال فی الزوائد: اسناده حسن .

7194 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 312 قال فی المجموع جلد 10 صفحہ 2 رواه عبد الله بن أحمد والطبرانی وفيه عمر بن نيهان العبدي وهو متروك . قلت نسخة الحافظ الهيثمي أصبح من النسخة المطبوعة لأن عمرو بن علي من شيوخ عبد الله بن أحمد .

الْوَلِيدُ النَّرْسِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،
ثَنَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ نَهَّانَ، حَدَّثَنِي
أَبُو عِيْسَى، سَلَامٌ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَلِ
قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعُرْجِ إِذَا
نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرُّبُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَتْ،
فَأَخْرَجَ لَهَا رَجُلٌ مَنَا خِرْقَةً مِنْ عُبْيَةٍ لَهُ، فَلَفَّهَا
وَخَدَّ لَهَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَإِنَّا
لِبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَخْصٌ،
فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ عَمْرٍو بْنِ جَابِرٍ؟ فَقُلْنَا: مَا
نَعْرِفُهُ. قَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ الْجَنَانِ؟ قَالُوا:
هَذَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ آخِرَ التَّسْعَةِ مُؤْمِنًا
الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

7195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، ثَنَا أَبُو وَهْبٍ، عَنْ
مَكْحُولٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعْطَلِ، قَالَ: بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَادِي: أَنْ لَا
تَبْذُوا فِي الْجَبْرِ

صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ
الْمُرَادِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودٍ، عَنْ صَفْوَانَ

ہم حج کے لیے نکلے جب ہم مقام عرج پر پہنچے تو ہم نے
سانپ حرکت کرتے ہوئے دیکھا کچھ دیر بعد وہ مر گیا ہم
میں سے ایک آدمی نے اس کے لیے زمین کھود کر دفن کر دیا
جب ہم مکہ آئے تو مسجد حرام میں اچانک ہمارے سامنے
ایک شخص آیا اُس نے کہا: تم میں سے عمرو بن جابر کا ساتھی
کون ہے؟ ہم نے کہا: ہم اس کو نہیں جانتے ہیں اس نے
کہا: جنوں کا ساتھی تم میں سے کون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ
ہے اس نے کہا: بہر حال وہ جو رسول اللہ ﷺ کے پاس
آئے اور قرآن سنا ان نو (جنوں) میں سے آخری تھا۔

حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے مجھے بھیجا کہ اعلان کروں کہ منگے میں نبیذ
نہ بناؤ۔

حضرت صفوان بن عسال مرادی
رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن
مسعود حضرت صفوان بن عسال

سے روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا آپ مسجد میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا: علم کی تلاش کے لیے آنے والے کو خوش آمدید! فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے پرجھاتے ہیں پھر ایک دوسرے پر سوار کر کے آسمان دنیا تک پہنچا دیتے ہیں علم کی تلاش کی محبت کرو تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟

حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کی: یا رسول اللہ! ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں ہمیں موزوں پر مسح کرنے کا فتویٰ دیں حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: مسافر تین دنوں کے لیے کرے گا اور مقیم ایک دن و رات کے لیے کرے گا۔

حضرت زر بن حبیش اسدی حضرت

بْن عَسَال

7196 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ

حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَضْرَمِيُّ، قَالَا: سَمِعْنَا شَيْبَانَ بْنَ فَرُّوخَ، سَمِعَ الصَّعْقُ بْنَ حَزْنٍ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ الْبُسَيْنِيَّ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَالٍ الْمُرَادِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بُرْدٍ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتُحْفَهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ، فَمَا جِئْتَ تَطْلُبُ؟

7197 - قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، لَا تَزَالُ نَسَافِرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَأَقْتِنَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفِيِّنَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمَقِيمِ

زُرُّ بْنُ حُبَيْشٍ الْأَسَدِيُّ

زُرُّ بْنُ حُبَيْشٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ

عَنْ صَفْوَانَ، زُبَيْدُ الْيَامِيٍّ
عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ،
عَنْ صَفْوَانَ

صفوان سے زبید الیامی حضرت زربن
حبیش سے اور وہ حضرت صفوان سے
روایت کرتے ہیں

7198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ بْنِ كَامِلٍ السَّرَّاجُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدِ الْيَامِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَالُوا: اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَمْ يَرَهُمْ. قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ،

7199 - ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، لَا يَنْزِعُهُ مِنْ بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا غَائِطٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

7200 - ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ التَّوْبَةِ، فَقَالَ: لِلتَّوْبَةِ بَابٌ بِالْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ سَعِينٍ عَامًّا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًّا، لَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْضُ

حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران حضور ﷺ سفر میں تھے اچانک ایک آدمی آیا اُس نے عرض کی: اے محمد! صحابہ کرام نے کہا: اپنی آواز رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آہستہ کر! اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے حالانکہ اس نے انہیں دیکھا نہیں آپ نے فرمایا: آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اُسی کے ساتھ ہوگا۔

پھر اس نے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا: مسافر تین دن و رات کرے گا اور مقیم ایک دن و رات کرے گا بول و براز کی صورت میں نہیں اُتارے گا حالت جنابت میں اُتارے گا۔

پھر اس نے توبہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: مغرب کی جانب توبہ کا دروازہ ہے اس کی مسافت ستر یا چالیس سال جتنی ہے وہ دروازہ کھلا رہے گا یہاں تک کہ

آيَاتِ رَبِّكَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

بعض نشانیاں آئیں یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو۔

طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ،

طلحہ بن مصرف، حضرت زرارہ رضی اللہ

عَنْ زَرٍّ

عنه سے روایت کرتے ہیں

7201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حضرت زرارہ بن حبیب، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ حج کے وقت کیسے آتے ہیں؟ عرض کی: علم کی تلاش کے لیے آپ نے فرمایا: جس طرح تو نے کہا اس طرح کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کی رضا کے لیے اس کام کے بدلے جو وہ کرتا ہے۔ میں نے کہا: میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا ہوں، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا میں موزوں پر مسح کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! مسافر تین دن و رات کرے گا، بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہ اتارے اور مقیم ایک دن و رات کرے گا۔

إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ الدَّقِيقِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ قَبِيصَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا أَبُو جَنَابٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، أَنَّ زَرَّ بْنَ حَبِيشٍ، أَتَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ إِلَيَّ الْغَدَاةُ؟ فَقَالَ: غَدَا بِي الْتِمَاسُ الْعِلْمِ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَا يَصْنَعُ مَا صَنَعْتَ أَحَدٌ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنَحَتَهَا، رِضًا بِالَّذِي يَصْنَعُ قُلْتُ: إِنِّي غَدَوْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثَلَاثَ لِمَسَافِرٍ لَا يَنْزِعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ، وَلَا بَوْلٍ، وَلَا نَوْمٍ، وَيَوْمَ لِلْمُقِيمِ

حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ،

حبیب بن ابوثابت، حضرت زرارہ بن

صفوان سے روایت کرتے ہیں

عَنْ زَرِّ بْنِ صَفْوَانَ

حضرت زرارہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت

7202 - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ الْعِجْلِيُّ، ثنا

يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْعَامِرِيُّ الرَّازِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ
الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا:
نَرَوِي عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ
بْنُ أَبِي قَابِثٍ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ الْأَسَدِيِّ، أَنَّهُ
أَتَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، وَكَانَ مِمَّنْ
يُسْأَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حَاجَتُكُمْ؟ قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ
يَوْمِنَا ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنَّهُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ
بَيْتِهِ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْرَ حَتَمِهَا
لِلْمُتَعَلِّمِ وَالْعَالِمِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ:
نَعَمْ، سَيَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَجَعَلَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلَاتٍ، وَلِلْمُقِيمِ
يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ
وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

عاصم بن أبي النجود عن زُرِّ

7203 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ
أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ

صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضور ﷺ
کے اصحاب آپ سے پوچھتے تھے، حضرت صفوان رضی
اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم
علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، حضرت صفوان رضی
اللہ عنہ نے فرمایا: جو دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر
سے نکلتا ہے تو فرشتے علم حاصل کرنے اور پڑھانے والے
کے لیے پر بچھاتے ہیں، میں نے آپ سے موزوں پر مسح
کرنے کے متعلق پوچھا تو حضور ﷺ نے فرمایا: مسافر
کے لیے تین دن و رات مدت مقرر فرمائی اور مقیم کے لیے
ایک دن و رات بول و براز اور نیند کی وجہ سے موزے نہیں
اتارے گا، ہاں البتہ غسل فرض ہو جائے تو اتارے گا۔

عاصم بن ابونجود حضرت زرار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت
صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس موزوں پر مسح
کرنے کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا تو حضرت صفوان
رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ مسافر

تین دن و رات اور اس سے پہلے نیند یا بول و براز کی وجہ سے نہ اتارے ماسوائے غسل فرض ہونے کے۔

حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کام کے صدقے جو وہ کرتا ہے۔

میں نے عرض کی: میں آپ سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں اس لشکر میں تھا جسے اللہ کے رسول ﷺ نے بھیجا تھا ہمیں آپ نے موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا جو ہم وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں سفر کی حالت میں تین دن و رات اور ہمیں حکم دیا کہ یہ بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہ اتاریں ہاں اگر غسل فرض ہو تو ہمیں اتارنے کا حکم دیتے۔

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا فِي السَّفَرِ أَنْ لَا نَتَزَعَ حِفَافًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ

7204 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ

7205 - قُلْتُ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ

الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طَهْوَرٍ، ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَكَيْلَةً إِذَا أَقْمُنَا، وَلَا نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ، وَلَا بَوْلٍ، وَلَا نَوْمٍ، وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

7206 - قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

7204 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 793 وابن ماجه رقم الحديث: 226 وابن حبان رقم الحديث: 79 وأحمد جلد 4

صفحة 239، 240 وابن خزيمة رقم الحديث: 193 والبيهقي جلد 1 صفحة 276.

7205 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 795 والحميدي رقم الحديث: 881 وابن خزيمة رقم الحديث: 196 والنسائي

جلد 1 صفحة 83-84 مقتصرًا على المسح والشافعي (82).

مغرب کی جانب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی مسافت ستر سال جتنی ہے وہ سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک بند نہیں ہوگا۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں فرمایا: فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں میں نے عرض کی: میرے سینے میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بات آئی بول و براز کے بعد۔ رسول اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک فرد بولا: میں آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے جان عالم حضور ﷺ سے اس کے متعلق کوئی شے سنی ہے؟ فرمایا: جی ہاں! آپ ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو تین دن و رات نہ اُتاریں سوائے بول و براز اور نیند کے ہاں غسل فرض ہو جائے تو پھر اُتارنے ہیں۔

میں نے عرض کی: کیا آپ نے محبت کے متعلق سنا ہے؟ فرمایا: جی ہاں! ہم سفر میں تھے کہ اچانک دیہاتی آدمی نے بلند آواز سے آواز دی اس نے عرض کی: اے محمد! آپ نے اس کے پکارنے کی طرح آواز دی اس نے عرض کی: آپ بتائیں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو اور اس سے ملاقات نہ ہو سکے تو؟ آپ نے فرمایا: وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِلْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ سَنَةً، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

7207 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ. قَالَ: قُلْتُ: حَكَ فِي صَدْرِي مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَكُنْتُ أَمْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

7208 - قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهُوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ - أَوْ قَالَ جَوْهَرِيٍّ - ابْنُ عُيَيْنَةَ شَكَّ - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ بِنَحْوِ مَنْ كَلَامِهِ، فَقَالَ: مَهْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

7209 - قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى

قَالَ: إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةً، عَرْضُهُ سَبْعِينَ سَنَةً، فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ

7210 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ

الْحَشَابُ الرَّقِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، فَقَالَ: كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافًا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَأَمَّا مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ فَلَا

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، وَجَعْفَرُ الْقَلَابِيسِيُّ،

قَالَا: ثنا آدَمُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

7211 - حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

آپ ہمیں مسلسل بیان کرتے رہے آپ نے فرمایا: مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے اس کی مسافت ستر سال چلے جتنی ہے اللہ عزوجل نے وہ توبہ کے لیے کھولا ہوا ہے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں وہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔

حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: ہم حضور ﷺ کے ساتھ سفر کرتے آپ ہمیں حکم دیتے کہ ہم موزوں پر تین دن و رات صبح کریں اور بول و براز کی وجہ سے نہ اُتاریں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے موزوں پر مسح کی مدت مسافر کے لیے تین دن و رات مقرر کی اور مقیم کے لیے ایک دن و رات مقرر کی۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں وصیت کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو ہم تین دن و رات موزوں کو نہ اُتاریں بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے غسل فرض ہونے کے۔

7212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا معاويةُ بنُ عمرو، ثنا زائدة، ثنا عاصمُ بنُ أبي النجود، عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ، عن صفوانِ بنِ عَسَّالٍ قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِينَا إِذَا سَافَرْنَا أَوْ كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَسْرِعَ خِفَافًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ وَغَائِطٍ

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بات تھی میں نے عرض کی: میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی بات ہے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو موزوں کو تین دن و رات نہ اُتاریں بول و براز کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

7213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَائِيُّ، ثنا أبي، ثنا زهير، ثنا عاصمُ بنُ أبي النجود، عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ، قال: أَتَيْتُ صفوانَ بنَ عَسَّالٍ، وَقَدْ حَكَ فِي صَدْرِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَ فِي صَدْرِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَسْرِعَ أَوْ نَخْلَعَ خِفَافًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ، وَلَا بَوْلٍ، وَلَا نَوْمٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ

دیہات سے ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آیا وہ بلند آواز سے آپ کو پکارنے لگا: اے محمد! اے محمد! اے محمد! ہم نے اسے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہو! اپنی آواز آہستہ کر! آپ کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس نے کہا: اللہ کی قسم! نہیں! (میں اس لیے آواز بلند کر رہا ہوں) یہاں تک کہ میں آپ ﷺ کو سناؤں پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آ جاؤ! اس نے عرض

7214 - وَإِنْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ، أَيَا مُحَمَّدُ، أَيَا مُحَمَّدُ، فَقُلْنَا لَهُ: وَيْحَكَ اخْفِضْ - أَوْ اغْضُضْ - مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ مِنْ هَذَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَسْمَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاؤُمُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ

کی: آپ بتائیں کہ کوئی آدمی کسی گروہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا: آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اُسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا تھا آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا: کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے حدیث سنائی فرمایا کہ آپ نے فرمایا: فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے پُر بچھاتے ہیں اس کے وسیلے جو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔

پھر میں نے آپ سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھا فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: مسافر تین دن و رات مسح کرے گا اور مقیم ایک دن و رات مسح کرے گا بول و براز کی وجہ سے نہیں اتارے گا ہاں اگر غسل فرض ہو جائے تو اتارے گا۔

دیہات سے ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آیا وہ بلند آواز سے آپ کو پکارنے لگا: اے محمد! اے محمد! اے محمد! ہم نے اسے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہوا اپنی آواز آہستہ کر! آپ کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا ہے تو نبی کریم ﷺ نے اسے اس کے مطابق جواب دیا جو اس سے سنا پس فرمایا: آؤ! پھر اس نے محبت کے بارے سوال کیا اس نے عرض کی: آپ

رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

7215 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حجاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمُرَادِيِّ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَرَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضَى بِمَا يُطْلَبُ

7216 - ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَكَايَهُنَّ مِنْ بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ نَوْمٍ، لَا مِنْ جَنَابَةٍ

7217 - ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ. فَقُلْتُ: اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ نَهَيْتَ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ، فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَحْوِ مِمَّا سَمِعَ مِنْهُ فَقَالَ: هَذَا زُمْ. ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ

بتائیں کہ کوئی آدمی کسی جماعت سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا: آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اُسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔

پھر ہمیں حدیث بیان کرنے لگے فرمایا: توبہ کا دروازہ مغرب کی جانب کھلا ہوا ہے اس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت جتنی ہے وہ سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”کیا وہ انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں۔“

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: اے اصلع! آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کام کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بات ہے کیا آپ کو رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے اس کے متعلق کوئی بات یاد ہے؟ حضرت صفوان نے فرمایا: جی ہاں! آپ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو تین دن و رات موزے نہ اتاریں بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

میں نے عرض کی: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے محبت کے متعلق کوئی بات سنی ہے؟ فرمایا: جی ہاں! ہم

الْهُوَى، عَنِ الْمَرْءِ يُحِبُّ الْقَوْمَ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

7218 - ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، وَعَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ) (الأنعام: 158) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

7219 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَصْلَعُ؟ فَقُلْتُ: انْتِفَاءُ الْعِلْمِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَضَعُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَاكٌ - أَوْ حَالٌ - فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا فَلَانَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ: غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ

7220 - قُلْتُ: فَهَلْ حَفِظْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُوَى

حضور ﷺ کے ساتھ تھے کہ اس اس طرح کے ایک آدمی نے لوگوں کے آخر میں بلند آواز میں پکارا اس نے کہا: اے محمد! اے محمد! لوگوں نے یہ سن کر آپ کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے سے منع کیا رسول اللہ ﷺ نے بھی اسے بلند آواز میں جواب دیا آپ نے فرمایا: کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کی: ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن سے ملاقات نہیں ہوئی آپ نے فرمایا: آدمی جس سے محبت کرتا ہے اُسی کے ساتھ ہوگا۔

آپ نے فرمایا: توبہ کا دروازہ کھلا ہے جس کی مسافت ستر سال جتنی ہے وہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہونے تک بند نہیں ہوگا اللہ عز وجل کا ارشاد: ”جس دن آپ کے رب کی (قیامت کی) کچھ نشانیاں آئیں گی اس شخص کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو پہلیا ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں (خلوص نام کی) بھلائی نہ کما لی۔“

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران ایک وفد میں آیا مجھے حضور ﷺ کے اصحاب سے ملنے کی خواہش تھی میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے ملا میں نے عرض کی: آپ کی حضور ﷺ سے ملاقات ہے؟ حضرت صفوان نے فرمایا: جی ہاں! میں نے آپ کے ساتھ بارہ غزوات کیے۔ میں نے کہا: مجھے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بتائیں حضرت صفوان نے فرمایا: حضور ﷺ ہمیں

شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ كَذَا وَكَذَا، فَنَادَاهُ رَجُلٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ أَعْرَابِيٍّ، جَلْفٍ جَافٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَهْ، فَإِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنْ هَذَا، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَحْوِ مِنْ صَوْتِهِ، فَقَالَ: هَاؤُمْ. قَالَ: الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ. قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

7221 - قَالَ لَمَّا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثَنِي: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةً عَرْضُهُ سَبْعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قَبْلِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام: 158)

7222 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو الصَّبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا عَاصِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: وَقَدْ ثُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الْوَفَادَةِ لِقَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقُلْتُ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَزَّوْتُ

حکم دیتے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو موزوں پر سح کریں
حالت سفر میں تین دن و رات اور حالت اقامت میں ایک
دن و رات اور بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہ اُتاریں
سوائے غسل جنابت کے۔

مَعَهُ ثِنْتَيْ عَشَرَ غَزْوَةً. فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنِ
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا: إِذَا كُنَّا سَفَرًا،
أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ نُمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ
وَأَيَّامَهُنَّ مِنْ: بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ نَوْمٍ، فَأَمَّا مِنْ
جَنَابَةِ فَلَا

7223 - قَالَ: وَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ بَابًا مِنْ قِبَلِ
مَغْرِبِ الشَّمْسِ مَسِيرَةً عَرَفِيهِ سَبْعِينَ عَامًا
مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ
قِبَلِهِ قَالَ، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِيهِ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرَتِي،
فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ الْقَوْمَ،
وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مَنْ صَوْتِهِ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

اور فرمایا: ہم ایک رات حضور ﷺ کے ساتھ تھے
آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ کا ذکر کیا جس کی
چوڑائی ستر سال کی مسافت جتنی ہے وہ توبہ کے لیے کھلا ہوا
ہے وہ مغرب کی جانب سورج طلوع ہونے تک بند نہیں ہو
گا ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آیا اس نے
آپ کو بلند آواز سے پکارا عرض کی: اے محمد! آپ بتائیں
کہ کوئی آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے
ملاقات نہیں کی؟ حضور ﷺ نے اس کی آواز کی طرح
جواب دیا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو
گا۔

7224 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ
الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا أَبُو
الْأَخْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَمَرَنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا
ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ،
أَوْ نَوْمٍ

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں
تو تین دن و راتیں موزے نہ اُتاریں بول و براز اور نیند کی
وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مسافر موزوں پر مسح تین دن و راتیں کرے گا اور مقیم ایک دن و رات۔

7225 - حَدَّثَنَا الْيَمْقَادُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِالْيَهْنِ، وَلِلْمَقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: مسافر جب با وضو ہو کر دونوں پاؤں میں حالت سفر میں موزے پہنے گا تو تین دن و رات مسح کرے گا اور بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہیں اتارے گا سوائے غسل جنابت کے۔

7226 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النُّجُودِ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِالْيَهْنِ، وَلَا يَنْزِعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ، وَلَا بَوْلٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

حضرت زر فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: آپ رسول کریم ﷺ کے صحابی ہیں میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بات آئی ہے پانخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد مجھے اس کے متعلق بتائیں اگر آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ

7227 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُونُسَ السَّمْعِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ، قَالَ زُرٌّ: أَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْرِ مُسْلِمٍ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا تَضَعُ لَهُ الْمَلَأَتُكُ أَجْنَحَتَيْهَا رَضَى بِمَا يَقَعُلُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ أَمْرُو مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهُ حَكَ فَمِنْ صَدْرِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ،

عاصم بن زكريا

نے فرمایا: حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو تین دن و رات نہ اُتاریں بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

فَأَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ نُمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ، وَأَنْ لَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَوْمٍ

7228 - فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ

فِي الْهَوَى شَيْئًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ - أَوْ عَمْرَةٍ - فَأِذَا أَعْرَابِيٌّ قَدْ أَقْبَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي أُخْرِيَّاتِ الْقَوْمِ جَعَلَ يَنَادِي بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ - فَقِيلَ: وَيْلَكَ، اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ أَمَرْتَ بِذَلِكَ قَالَ: وَاللَّهِ، لَا أَفْعَلُ حَتَّى أَسْمَعَهُ، وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ جَافٌّ جِلْفٌ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ قَالَ: هَؤُلَاءُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ: ذَاكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

7229 - فَلَمْ يَسْرُخْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى

حَدَّثَنِي أَنْ قَبِلَ الْمَغْرِبَ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ، مَسِيرَةً عَرَضِيَّةً سَعِينَ سَنَةً، لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ، فَذَاكَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا

میں نے عرض کی: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے محبت کے متعلق کوئی بات سنی ہے؟ فرمایا: جی ہاں! ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے کہ اس طرح کا ایک آدمی لوگوں کے آخر میں بلند آواز میں پکارا اس نے کہا: اے محمد! اے محمد! لوگوں نے یہ سن کر آپ کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے سے منع کیا رسول اللہ ﷺ نے بھی اسے بلند آواز میں جواب دیا آپ نے فرمایا: کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کی: ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن سے ملاقات نہیں ہوئی آپ نے فرمایا: آدمی جس سے محبت کرتا ہے اُسی کے ساتھ ہوگا۔

آپ ہم کو مسلسل حدیث بیان کرتے رہے کہ مغرب کی جانب توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر سال چلنے کی مقدار ہے وہ سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک کھلا ہوا ہے جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اللہ عز و جل کے ارشاد: ”کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے

خیراً) (الأنعام: 158)

ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔

7230 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

أَفْرَیَابِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْعِرِ بْنِ كَذَامٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، فَقَالَ لِي: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَطْلُبُ الْعِلْمَ. قَالَ: مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيهِ يَلْتَمِسُ عِلْمًا إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنَحَتَهَا رِضَى بِمَا يَفْعَلُ. قُلْتُ لَهُ: كُنْتُ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَ فِي نَفْسِي مَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَسْرِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِكَيْلَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ

7231 - وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ مِنْ أُخْرِيَاتِ النَّاسِ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ كَلَامِهِ: هَاؤُمْ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُحِبُّ قَوْمًا، وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ

الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو دَاوُدَ

حضرت زرفرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: آپ صحابی رسول ﷺ ہیں میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بات آئی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوتے تھے یا سفر کرنے والے (فرمایا): تین دن و رات نہ اُتاریں بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

اور مجھے بتایا کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کے پاس آیا اُس نے لوگوں کے پیچھے سے آپ کو بلند آواز سے پکارا عرض کی: اے محمد! آپ نے اس کی طرح اسے جواب دیا اُس نے عرض کی: آپ بتائیں کہ کوئی آدمی کسی قوم سے محبت کرنا ہے لیکن اُن سے ملاقات نہ ہو سکی آپ نے فرمایا: آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اُسی کے ساتھ ہو گا۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

الْحَرَّاسِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَرِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَّامٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ

7232 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ

الْحِثَّانِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ قُرُوخٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضَى بِمَا يَطْلُبُ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا، وَكُنَّا نَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالْمُقِيمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

7233 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمَكْلَبِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقُمْتُ عَلَى بَابِهِ، فَخَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَمَرُوا قَدْ صَحِبْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ حَاكَ فِي صَدْرِي

حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہوں نے فرمایا: تجھے کون سی چیز لائی ہے؟ میں نے عرض کی: میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا: ہم حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے علم حاصل کرنے کے طفیل تاکہ اس کی خوشنودی حاصل کریں پھر میں نے ان سے مسح علی الخفین کے بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: مسافر جب با وضو ہو کر دونوں پاؤں میں حالت سفر میں موزے پہنے گا تو تین دن و رات مسح کرے گا اور بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہیں اُتارے گا سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں آپ کے دروازہ پر کھڑا ہو گیا آپ میرے پاس آئے آپ نے فرمایا: تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: آپ صحابی رسول ہیں میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بات آئی کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق کوئی بات سنی ہے؟ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! حضور ﷺ

ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم حالتِ سفر میں ہوں تو تین دن تک موزے نہ اتاریں بول و براز اور نیند کے بعد۔

الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ،
فَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا
مُسَافِرِينَ، أَنْ لَا نَتَرَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكِنْ
مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَوْمٍ

حضرت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ
حضور ﷺ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ الْخُنْدِيسِيُّ،
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَلَكِيِّ، وَخَلَّادِ الصَّفَّارِ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمُرَادِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے
صحاب میں سے ایک آدمی کے پاس آیا اس کا نام
صفوان بن عسال ہے آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے
ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے آپ
نے فرمایا: کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ فرشتے طالب علم کی رضا
حاصل کرنے کے لیے پر بچھاتے ہیں جو وہ کرتا ہے ہم
نے دیکھا ہے کہ حضور ﷺ کے پاس ایک سفر میں ایک
دیہاتی نے بلند آواز سے پکارا: اے محمد! تو حضور ﷺ نے
اسی طرح بلند آواز سے جواب دیا جس طرح اُس نے پکارا
تھا اس نے عرض کی: آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن
اُن جیسے اعمال نہیں کر سکتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا: آؤ!
آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔

7234 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسَرِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ تَوَّابِ
الْحَضْرِيُّ، ثَنَا الْحَرُّ بْنُ مَالِكِ الْعَبْرِيُّ، ثَنَا
مُبَارَكُ بْنُ فَصَّالَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ يَهْدَلَةَ، عَنْ زُرِّ
بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: عَدَوْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ
صَفْوَانُ بْنُ عَسَالٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ:
جُنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ. قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ أَنَّ
السَّلَاحَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضَى
بِمَا يَفْعَلُ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَتَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، فَنَادَاهُ أَغْرَابِيُّ
بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَريُّ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاؤُمُ. فَقَالَ:
الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَمْ يَعْمَلْ مِنْ عَمَلِهِمْ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ
مَنْ أَحَبَّ

7235 - حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ
الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْبُرْجَانِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ
الْحَارِثِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُوصِينَا إِذَا سَافَرْنَا، أَوْ كُنَّا سَافِرًا أَنْ لَا
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ،
وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَبَوْلٍ وَغَائِطٍ

7236 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا يَحْيَى
بْنُ خَلْفٍ أَبُو سَلَمَةَ الْجَوَابَرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ
الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ
بْنُ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي
النَّجُودِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
عَسَّالٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ، قَالَ:
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْزِعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ
رَضِيَ بِمَا يَطْلُبُ

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ ہمیں وصیت کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں
ہوں تو موزے تین دن و راتیں نہ اتاریں بول و براز اور
نیند کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں حضور ﷺ کے پاس موزوں پر مسح کرنے کے
متعلق پوچھنے کے لیے آئے میں نے عرض کی: میں آپ
سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا:
فرشتے طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پر
بچھاتے ہیں جو وہ کرتا ہے۔

7237 - وَعَنْ أَبِي الْعِلْمِ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ:

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: نَعَمْ، يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثٌ لِلْمَسَافِرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، ثُمَّ أَحَدَتْ وَضُوءًا

کسی شی کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! موزوں پر مسح کرنے کے متعلق؛ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے! مقیم ایک دن ورات مسح کرے گا اور مسافر تین دن ورات کرے گا بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہ اتارے سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں وصیت کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو موزے تین دن وراتیں نہ اتاریں بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں وصیت کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو موزے تین دن وراتیں نہ اتاریں بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

7238 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

صَالِحٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنْ لَا نَسْرَعَ خِفَافًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ بَوْلٍ، وَلَا نَوْمٍ، وَلَا غَائِطٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

7239 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

صَدَقَةَ الْبَغْدَادِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَمَصِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوَصِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا إِذَا سَافَرْنَا أَنْ لَا نَسْرَعَ الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ

7240 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ

صفوان رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا: ہم حضور ﷺ کے ساتھ حالت سفر میں ہوتے تھے تو تین دن و رات مسح کرتے اور بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہیں اُتارتے تھے سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بول و براز کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بات آئی تو میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں نے اس کا ذکر کیا میں نے عرض کی: مجھے اس کے متعلق کچھ بتائیں! اگر آپ نے رسول اللہ ﷺ کے اس کے متعلق سنا ہے؟ آپ نے فرمایا: حضور ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو تین دن و رات نہ اُتاریں بول و براز اور نیند کی وجہ سے سوائے غسل جنابت کے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مسافر موزوں پر مسح تین دن و راتیں کرے گا اور مقیم ایک دن و رات۔

الرَّازِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ عَنِ الْمَسْحِ؟ فَقَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحًا عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

7241 - حَدَّثَنَا وَرْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي شَيْتَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، حَدَّثَنِي زُرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، قَالَ: حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. فَاتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. قُلْتُ: أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ نَوْمٍ

7242 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ

7243 - حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ،

ثَنَا عَبْسَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ،

عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي الْجُودِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ،

قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَالَ: مَا جَاءَ

بِكَ؟ قُلْتُ: أَطْلُبُ الْعِلْمَ. قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ

لَتَبْسُطُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضِيَ بِمَا

يَطْلُبُ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ،

فَقَالَ: كُنَّا نَمَسَحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ،

وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ

7244 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ بْنُ أَبَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَاصِمِ،

عَنْ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ:

لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ

وَلَيْلَةٌ

7245 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا أَبُو خَالِدٍ

الْأَحْمَرُ، ثنا حُجَّاجٌ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ

صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ فِي الْمَسْحِ: لِلْمَسَافِرِ عَلَى

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ میرے پاس آئے آپ نے فرمایا: تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنا چاہتا ہوں فرمایا: بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کیلئے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ان سے موزوں پر مسح کے بارے سوال کیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ﷺ کے زمانے میں جب ہم حالت سفر میں ہوتے تو تین دن تک موزے نہ اتاریں بول و براز اور نیند کے بعد۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: موزوں پر مسح کرنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسافر کیلئے تین دن اور رات اور مقیم کے لیے ایک دن و رات ہے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: موزوں پر مسح کرنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسافر کیلئے تین دن اور رات موزے نہ اتارو اور مقیم کے لیے ایک دن و رات ہے۔

الْخُفَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

7246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مَنِدِهِ الْأَصْبَهَانِيُّ نَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ فِي السَّفَرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ

7247 - وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْرَ حَيْثُهَا

7248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَبِيبٍ الطَّرَائِيفِيُّ الرَّقِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّانُ، ثنا عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُرْفِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا: إِنَّ لِنُتُوبَةٍ بَابًا عَرِضَ مَا بَيْنَ مِصْرَاعِهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ،

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں نے عرض کی: موزوں پر مسح کرنے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی کریم ﷺ ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو تین دن اور رات موزے نہ اتارو اور مقیم کے لیے ایک دن و رات ہے۔

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے بیان کرنا شروع کر دیا: بیشک توبہ کا ایک دروازہ ہے اس کے دو کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان جتنا ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے پھر رسول کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ الٰہِ آخِرُهُ“۔

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) (الأنعام:

(158)

7249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ، ثنا
أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: إِنَّهُ قَدْ حَاكَ فِي صَدْرِي
مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ شَيْءٌ، فَهَلْ سَمِعْتَ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَنْ
لَا نَنْزِعَ الْخِفَافَ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ
نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ، ثنا صَالِحُ بْنُ
مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ زَيْدِ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

7250 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ
الْكَيْسَانِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا
الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ،
عَنْ زَيْدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا
كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ، لَمْ نَنْزِعْ خِفَافَنَا ثَلَاثًا

7251 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت
صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں آپ کے
دروازہ پر کھڑا ہو گیا آپ میرے پاس آئے آپ نے
فرمایا: تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: آپ صحابی
رسول ہیں میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق
بات آئی کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد کیا آپ
نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق کوئی بات سنی ہے؟
حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! حضور ﷺ
ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو تین دن
تک موزے نہ اتاریں بول و براز اور نیند کے بعد۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ
سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم سفر میں ہوں تو تین دن
موزوں کو نہ اتاریں۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ حضور ﷺ نے موزوں پر مسح کی مدت مسافر کے لیے تین دن و راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن و رات مقرر کی۔

الْمُقِصِّصِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

7252 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطَرَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الْحَرَائِيُّ، قَالُوا: ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيَحْمُرِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ؟ قُلْتُ: طَلَبْتُ الْعِلْمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَدَا يَطْلُبُ عِلْمًا كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالْمَلَائِكَةُ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

7253 - قَالَ وَاسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ بَابًا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لِلتَّوْبَةِ، مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْهِ سَبْعِينَ عَامًا لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ موزوں پر مسح کرنے کے متعلق متردد تھا پس میں حضرت صفوان بن عسال سے ملا تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا: آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی: علم حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ حضور ﷺ نے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، علم حاصل کرنے کی وجہ سے واپس تک۔

اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: مغرب کی طرف توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے دونوں پتوں کی چوڑائی ستر سال چلنے کی مسافت جتنی ہے وہ سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے تک بند نہیں ہوگا۔

7254 - قَالَ: قُلْتُ زِدْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيَّ الصَّوْتِ، أَنْ يَا مُحَمَّدُ، قِفْ لِنَسْأَلَكَ ثَلَاثًا فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْوٍ مِنْ قَوْلِهِ: هَاؤُمْ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّْا يَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

7255 - فَمَا فَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ مَا فَرِحُوا بِهِ قُلْتُ: حَدَّثَنِي عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَسَحْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمَقِيمِ يَوْمٌ وَكَلَّةٌ وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ

7256 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ

حَنْبَلٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخُوَارِزْمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمَسَاوِرِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْنَا صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ خَاصًّا فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَمَنْ عَادَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ خَاصًّا فِي

میں نے عرض کی: اللہ آپ پر رحم کرے! میرے لیے اضافہ کریں! فرمایا: ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے ایک دیہاتی نے بلند آواز سے پکارا: اے محمد! ٹھہریے! تاکہ ہم آپ سے تین سوال کریں۔ حضور ﷺ نے اُسی کی طرح جواب دیا: آؤ! وہ دیہاتی آیا! اُس نے عرض کی: ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن جیسے اعمال نہیں کر سکتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی اُس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔

حضور ﷺ کے اصحاب یہ بات سن کر جتنے خوش ہوئے اتنے خوش کبھی نہیں ہوئے تھے میں نے کہا: مجھے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق بتائیں! فرمایا: ہم حضور ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم حالت سفر میں تین دن وراتیں کرتے رہے اور حالت اقامت میں ایک دن ورات۔ اور یہ الفاظ حضرت علی بن مدینی کے ہیں۔

حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ نے فرمایا: کیا زیارت کے لیے آئے ہیں؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں! فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے مؤمن بھائی کی ملاقات و زیارت کرے تو وہ جنت کے باغوں میں غوطہ زن ہوتا ہے واپسی تک جو اپنے مؤمن بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے وہ جنت کے باغوں میں غوطہ زن ہوتا ہے واپسی تک۔

عاصم بن ابی النجود عن زر

رِیَاضِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

7257 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

الْبُسَيْرِيُّ، ثنا الْمُسَيْبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا إِسْحَاقُ
الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
بَهْدَلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
عَسَّالٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُوَ مَرِيضٌ،
فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، ثُمَّ قُبِضَ، فَوَلَّيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَعَسَلُوهُ، وَدَفَنُوهُ

7258 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

مُقْبِلِ الْبَصْرِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا حَمَّادُ
بْنُ يَزِيدَ أَبُو يَزِيدَ الْمُقَرِّي، ثنا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ،
عَنْ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: قَالَ: إِنَّ
لِلَّهِ دِيكًا رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَجَنَاحُهُ فِي
الْهَوَاءِ، وَبَرَأئِئُهُ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا كَانَ فِي
الْأَسْحَارِ، وَأَذْبَارِ الصَّلَوَاتِ، خَفَقَ بِجَنَاحِهِ،
وَصَفَّقَ بِالتَّسْبِيحِ، فَتَصَيَّحَ الدِّيَكَةُ تَجِيئَهُ
بِالتَّسْبِيحِ

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ ایک یہودی بچہ کے پاس آئے جو بیمار تھا
آپ نے فرمایا: تُو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود
نہیں؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تُو گواہی
دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ اس نے عرض
کی: جی ہاں! پھر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ حضور ﷺ
اور صحابہ کرام نے اسے غسل دیا اور دفن کر دیا گیا۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے ہاں عرش کے نیچے ایک مرغ ہے اس کے
دونوں پر ہوا میں ہیں اور پاؤں زمین میں جب سحری کا
وقت اور فرض نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے پر ہلاتا
ہے تو سبحان اللہ کی آواز آتی ہے مرغ اس کی تسبیح کی آواز
سن کر جواب دیتے ہیں۔

7257 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 324 اسنادہ حسن . قلت : المسيب بن واضح فيه ضعف ، فالحديث ضعيف . بل ابن

عجلان هو عطاء وهو منهم بالكذب فالحديث ساقط .

7258 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 134 وفيه عاصم بن بهدلة وهو ضعيف وقد حسن حديثه .

7259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ جَبْرِ
الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُشَمَّعُ بْنُ مِلْحَانَ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زُرِّ
بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَيْنَا
نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
إِذْ سَمِعَ رَجُلًا يُؤَذِّنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْفِطْرَةِ. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ: شَهِدَ بِالْحَقِّ. قَالَ: أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ مِنَ النَّارِ

7260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ

كَامِلِ السَّرَاجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى
بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعِزَّارِ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ،
وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي
النَّجُودِ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
عَسَّالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرِّ

بْنِ صَفْوَانَ

7261 - حَدَّثَنَا وَرْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَيْدٍ

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم حضور ﷺ کے پاس تھے اچانک ایک آدمی نے
اذان کی آواز سنی حضور ﷺ نے فرمایا: فطرت پر ہے!
اس نے پڑھا: اشہدان لا الہ الا اللہ! آپ نے فرمایا: اس
نے حق کی گواہی دی! اس نے پڑھا: اشہدان لا الہ الا اللہ!
حضور ﷺ نے فرمایا: آگ سے نکل گیا۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے اذیٰ السماء انشقت میں سجدہ کیا۔

عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابُولَيْلَى

حضرت زر بن صفوان سے

روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

7259 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 336 وفيه عطاء بن عجلان وهو متهم بالكذب متروك الحديث .

7260 - قال في المجموع جلد 2 صفحہ 286 وفيه يحيى عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًا .

کہ حضور ﷺ نے مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے کی مدت تین دن و راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن و رات مقرر کی۔

الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني مروان بن جراح، عن إسحاق بن عبد الله، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زر بن عسال، عن صفوان بن عسال المرادي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة

7262 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ: مَسَاحَتُهُ سَبْعُونَ خَرِيفًا لِلتَّوْبَةِ، لَمْ يُغْلَقْهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَمَا عَدَا رَجُلٌ يَلْتَمِسُ عِلْمًا إِلَّا أَفْرَسَتْهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنَحَتَهَا رَضَى بِمَا يَعْمَلُ

7263 - قَالَتِ الْعَرَبُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَمْ يُعْطِ اللَّهُ عَبْدًا خَلَّةً وَاحِدَةً خَيْرًا؟ قَالَ: حُسْنُ خُلُقِي

7264 - ثُمَّ قَالُوا لَهُ: أَتَعْدَاوِي؟ قَالَ: هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ، أَوْ لَمْ يَنْزِلْ دَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا دَاءً

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مغرب کی جانب ایک دروازہ کھلا ہے وہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت جتنی ہے اور سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک بند نہیں ہوگا جو بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پرجھاتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ عمل کرتا ہے وہ رضا حاصل کرنے کے لیے۔

دیہات کے لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا اللہ عزوجل نے بندہ کو بہترین خصلت دی ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھا اخلاق۔

انہوں نے عرض کی: کیا ہم دوا لیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ عزوجل نے جو بھی بیماری بھیجی ہے اس کی دوا بھی بھیجی ہے ہر بیماری کی دوا ہے سوائے

وَاحِدًا. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَا هُوَ؟ قَالَ:
الْهَرَمُ.

7265 - ثُمَّ قَالَ: لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

يَمَسُّحُ عَلَى خُفَيْهِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَأَلَّةٌ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ

عَنْ صَفْوَانَ

7266 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ

يَعْقُوبَ بْنِ سُورَةَ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

مُرَّةٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

عَسَالٍ، أَنَّ يَهُودِيَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ:

انْطَلِقْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ: لَا تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ،

فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ صَارَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَغْيُنٍ، فَانْطَلَقَا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى

ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا موت۔

پھر فرمایا: مسافر موزوں پر تین دن اور تین راتیں
اور مقیم ایک دن و رات مسح کرے گا۔

عبد اللہ بن سلمہ، حضرت صفوان سے

روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے دوست سے

کہا: آؤ! ہم اس نبی کے پاس جائیں! اس نے آگے سے

کہا: اسے نبی نہ کہو! کیونکہ اگر اس نے سن لیا تو اس کی چار

آنکھیں ہو جائیں گی۔ پس وہ دونوں چل کر رسول

کریم ﷺ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے اس فرمان کے

متعلق سوال کیا: ”اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو سات

واضح نشانیاں عطا کیں۔“ پس رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ! اس جان کو قتل نہ کرو

جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ زنا نہ کرو چوری

7266 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 239، 240 والترمذی رقم الحديث: 5152، 2877 والنسائي جلد 7 صفحہ 111-112

وابن جرير جلد 15 صفحہ 173، 172 والحاكم جلد 1 صفحہ 9 وقال: صحيح لا يعرف له علة بوجه من الوجوه

ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضا الطيالسي رقم الحديث: 2242 وأبو نعيم في الحلية جلد 5 صفحہ 97-98 ورواه

ابن ماجه مختصراً رقم الحديث: 3705 وضعفه شيخنا في الرد على الكتاني صفحہ 15 لأن في اسناده عبد الله بن

سلمة. وقال ابن كثير في تفسيره جلد 3 صفحہ 67 فهذا حديث هكذا رواه الترمذی والنسائي وابن ماجه وابن

جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به. وقال الترمذی: حسن صحيح وهو حديث مشكل وعبد الله

بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه على التسع الآيات بالعشر الكلمات فانها وصايا في التوراة

لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم.

تَسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) (الإسراء: 101)، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَمْشُوا
بِسِرِّيَّ إِلَى سُلْطَانٍ لِقَتْلِهِ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا،
وَلَا تَقْدُلُوا الْمُحَصَّنَةَ، وَلَا تَفْرُوا مِنَ الرَّحْفِ،
وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ .
فَقَبِلُوا يَدَهُ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ
قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَجْعَلُونِي؟ قَالُوا: إِنْ دَاوُدَ
دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ
اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ

أَبُو غَرِيفٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ خَلِيفَةَ عَنْ صَفْوَانَ

7267 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ زَيْادٍ، ثَنَا أَبُو رَوْحٍ عَطِيَّةُ بْنُ
الْحَارِثِ، ثَنَا أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ،
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ: اغْزُوا
بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدُرُوا،

نہ کرو بری کو لے کر بادشاہ کے پاس قتل کروانے کیلئے نہ
لے جاؤ سود نہ کھاؤ پاکدامن پر تہمت نہ لگاؤ اور لشکر سے
نہ بھاگو! اور خاص کر کے اے یہود! تم پر لازم ہے کہ ہفتہ
کے دن حد سے تجاوز نہ کرو۔ پس انہوں نے آپ ﷺ
کے ہاتھ چوم لیے اور عرض گزار ہوئے: ہم گواہی دیتے
ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا: میری اتباع سے
تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ انہوں نے عرض کی: بے شک
حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی اولاد میں کوئی
نہ کوئی نبی ہمیشہ رہے اور ہمیں ڈر لگا کہ اگر ہم نے آپ کی
پیروی کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔

ابو غریب عبید اللہ بن خلیفہ، حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے مجھے ایک سریہ میں بھیجا، فرمایا: اللہ کا
نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو خیانت نہ کرو غلو نہ کرو
بچوں کو قتل نہ کرو مسافر موزوں پر تین دن و راتیں اور مقیم
ایک دن و رات مسح کرے گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا وَلِدَكُمْ، وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
وَلِلْيَاهِنِّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ يَمْسَحُ عَلَى
الْخَفِيِّينَ

ابوسلمہ بن عبد الرحمن، حضرت صفوان
سے روایت کرتے ہیں

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ صَفْوَانَ

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے علم پر ابھارا اس کے جانے سے پہلے۔
ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! علم کیسے چلا جائے گا؟
ہم خود سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ آپ
ناراض ہوئے فرمایا: کیا تورات، انجیل اہل کتاب کے پاس
نہیں تھی، کیا ان کے پاس اب کوئی شی ہے؟

7268 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى

الِدِمَشْقِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا هِشَامُ
بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ قَبْلَ
ذَهَابِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ يَذْهَبُ وَقَدْ تَعَلَّمْنَاهُ،
وَعَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَنَا؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: أَوَلَيْسَ
التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي يَدِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَهَلْ
يُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا؟

حضرت صفوان ابوالقاسم
الزہری رضی اللہ عنہ

صَفْوَانُ أَبُو الْقَاسِمِ
الزُّهْرِيُّ

حضرت صفوان ابوالقاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو کیونکہ

7269 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

سَعِيدٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ

7268 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 201 وفيه مسلمة بن علي الخشنی وهو ضعيف .

7269 - ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 262 والحاكم جلد 3 صفحہ 251 قال في المجموع جلد 1 صفحہ 306 والقاسم بن صفوان

وثقه ابن حبان . وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف الا في هذا الحديث .

الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَلِيدٍ الْحَلَبِيُّ،

ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: ثَنَا بَشْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ

الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَذْبَرُوا

بِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

صَفْوَانُ بْنُ قَدَامَةَ

الْمُرَائِيُّ

7270 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ،

وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنَبَرٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ:

ثَنَا مُوسَى بْنُ مَيْمُونٍ بْنُ مُوسَى الْمُرَائِيُّ، قَالَ،

حَدَّثَنِي أَبِي مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ قَدَامَةَ، قَالَ:

هَاجَرَ أَبِي صَفْوَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ،

فَمَدَّ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ،

فَمَسَحَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إِنِّي أُحِبُّكَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

صَفْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ

وَقِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ

حضرت صفوان بن قدامه

المرائي رضي الله عنه

حضرت صفوان بن قدامه رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابو صفوان رضي الله عنه نے مدینہ کی طرف ہجرت کی

آپ سے اسلام پر بیعت کی حضور ﷺ نے ان کی طرف

ہاتھ بڑھایا ان پر پھیرا حضرت صفوان رضي الله عنه نے

آپ سے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ سے محبت کرتا

ہوں حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس

سے محبت کرتا ہوگا۔

صفوان بن محمد، بعض نے

کہا: محمد بن صفوان

بْنُ مُحَمَّدٍ

بن محمد

7271 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ أَتَى غَنَمَهُ، فَصَادَ

أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى بِهِمَا النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّقَهُمَا، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَقَالَ:

كُلْهُمَا

صَفْوَانُ أَوْ

ابْنُ صَفْوَانَ

حضرت صفوان یا ابن

صفوان رضی اللہ عنہ

7272 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو

الْقَطْرَانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ يَسْمَاقِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ،

أَوْ ابْنَ صَفْوَانَ قَالَ: بَعَثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

حضرت ابن صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے حضور ﷺ کو شلوار پہنی آپ نے میرے لیے

وزن کیا اور میرے لیے اسے جھکایا۔

7271- ورواہ احمد جلد 3 صفحہ 471 و ابو داؤد رقم الحديث: 2805 والنسائي جلد 7 صفحہ 225 وابن ماجه رقم

الحديث: 3244 وابن حبان رقم الحديث: 1069 والحاكم جلد 4 صفحہ 235 وصححه ووافقه الذهبي ورواه

البيهقي جلد 9 صفحہ 320، 321.

7272- ورواه النسائي جلد 7 صفحہ 284 والحاكم جلد 2 صفحہ 30-31 وقال أبو صفوان كنية سويد بن قيس هما واحد

من صحابي الأنصار والحديث صحيح على شرط مسلم. قلت: رواه الطيالسي رقم الحديث: 1309 ومن طريقه

البيهقي جلد 6 صفحہ 33 وأبو داؤد رقم الحديث: 3321 ومن طريقه البيهقي جلد 6 صفحہ 33 وسماه الطيالسي

مالك بن عمير وأبو داؤد ابن عميرة وقال أبو أحمد الحاكم اسمه مالك بن عمير ويقال سويد بن قيس. قال أبو

داؤد: رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان وقال النسائي: حديث سفيان أشبه بالصواب.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ سَرَّادِيلٌ قَوَّزَنَ لِي،
فَارْجَحَ لِي

جن کا نام صحار ہے
صحار بن عباسؓ آپ کو ابن عباس
العبدی بھی کہا جاتا ہے

مِنْ اسْمِهِ صَحَارٌ
صَحَارُ بْنُ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ
ابْنُ عَبَّاسٍ الْعَبْدِيُّ

حضرت صحار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
عرض کی: یا رسول اللہ! میں بیمار آدی ہوں مجھے اس چھوٹے
مٹکے میں نبید پینے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے اجازت
دی۔

7273 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ
الْكُتَيْبِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ
بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحَارٍ، عَنْ صَحَارٍ، أَنَّهُ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ مُسْقَمٌ، فَأَنْذَنُ
لِي أَنْتَبِدَ فِي جَرِيرَةٍ مِثْلَ هَاتِيهِ - يَعْنِي صَغِيرَةً -
فَإَذِنَ لَهُ

حضرت صحار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت آنے سے
پہلے کچھ قبائل دھنسا دیئے جائیں گے یہاں تک کہ کہا
جائے گا: بنی فلاں سے کون باقی رہا ہے مجھے معلوم ہو گیا کہ
وہ عرب والے ہیں کیونکہ عجمیوں کے لیے کوئی قبائل نہیں
ہے۔

7274 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَنَى، ثَنَا
مُسَدَّدُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ
يَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ،
عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحَارٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

7273 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 63؛ رواه أحمد جلد 3 صفحہ 483؛ جلد 5 صفحہ 31؛ والبخاری (275-276) زوائد

البخاری وفيه عبد الرحمن بن صحار ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه، والضحاك بن يسار وثقه أبو حاتم
وابن حبان وقال ابن معين: يضعفه البصريون وبقي رجاله ثقات .

7274 - ورواه أحمد جلد 3 صفحہ 483؛ جلد 5 صفحہ 31؛ والبخاری ورجالہ ثقات .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
يُخَسَفَ بِقَبَائِلَ حَتَّى يُقَالَ مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي
فُلَانٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَغْنِي الْعَرَبَ، لِأَنَّ الْعَجَمَ
لَيْسَتْ لَهَا قَبَائِلُ

7275 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ
الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي
مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ صَحَارَ بْنَ صَخْرِ الْعَبْدِيِّ
حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّا بَارِضٌ كَثِيرَةٌ أَخْبَارُهَا وَتَقُولُهَا،
وَنَشْرِبُ النَّبِيذَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْرَبُوا مِنْهُ مَا لَا يَذْهَبُ
الْعَقْلَ وَالْمَالَ

7276 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ، ثنا
حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى،
عَنْ صَحَارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا صَحَارُ بْنُ عَبَّاسٍ أَطْبَ
شَرَابَكَ، وَاسْقِ جَارَكَ

مَنْ اسْمُهُ صَلَّةٌ

حضرت صحار بن صخر عبدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ سے عرض کی گئی: ہم ایسے ملک میں رہتے
ہیں کہ وہاں روٹی اور سبزیاں بہت زیادہ ہیں، ہم اس کے
بعد نبیذ پیتے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا: نبیذ پو جس سے
عقل اور مال نہ جائے۔

حضرت صحار بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اے صحار بن عباس! اپنا پاکیزہ پانی
لاؤ! (خود بھی پانی پیو) اور اپنے پڑوسی کو بھی پلاؤ۔

جس کا نام صلہ ہے

مَنْ اسْمُهُ صَلَّةٌ

7275 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 66 'ورشدین بن سعد ضعفه الجمهور وقد وثق ومنصور بن أبي منصور مجهول .

7276 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 67 'وفيه مصعب بن المثنى جهله الذهبي .

صِلَةُ بَنِ الْحَارِثِ الْغِفَارِيُّ

حضرت صلہ بن حارث الغفاری رضی اللہ عنہ

7277 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شَدَّادِ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغِفَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سُلَيْمَ بْنَ عَتَرِ التَّحِييِّيَّ كَانَ يَقْضُ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْغِفَارِيُّ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْنَا عَنْهُ نَبِيًّا، وَلَا قَطَعْنَا أَرْحَامَنَا حَتَّى قُتِمَتْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا

حضرت ابوصالح سعید بن عبد الرحمن الغفاری نے بتایا کہ حضرت سلیم بن عتر تحیقی کھڑے ہو کر لوگوں کو قضا بیان کرتے تھے اس کو حضرت صلہ بن حارث غفاری صحابی رسول ﷺ نے بتایا کہ اللہ کی قسم! ہم نے اپنے نبی ﷺ کے زمانہ کو نہیں چھوڑا اس حال میں کہ ہم نے اپنی رشتہ داریاں نہیں چھوڑیں یہاں تک کہ تو اور تیرے ساتھی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔

مِنْ اسْمِهِ صِرْمَةٌ صِرْمَةُ الْعُذْرِيِّ

جن کا نام صرمہ ہے حضرت صرمہ العذری رضی اللہ عنہ

7278 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعَةَ

حضرت صرمہ العذری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ بنی مصطلق کا جہاد کیا، ہم کو عرب کی عورتیں ملیں، ہمیں ان سے نفع اٹھانے کی رغبت ہوئی اس

7277 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 189 واسنادہ حسن . ورواه البخاری فی التاريخ الكبير (351/2/2) والبقوی

ومحمد بن الربيع الحيزي وابن السكن . قال ابن السكن: ليس لصله غير هذا الحديث .

7278 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 297 وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف . قال ابن منده: هذا وهم الصواب

ما رواه يحيى بن أيوب عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد

الخدري . قال الحافظ في الاصابة جلد 3 صفحہ 426 قلت: هو على الاحتمال .

حال میں کہ اپنی بیویوں کی جدائی ہم پر سخت ہوئی، ہم نے نفع اٹھانا چاہا اور عزل کرنا، ہم میں بعض بعض سے کہنے لگے: رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا، حضور ﷺ نے فرمایا: عزل کرو یا نہ کرو جس روح کے آنے کے متعلق اللہ نے لکھا ہے وہ آکر رہے گی۔

بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ صِرْمَةَ الْعُذْرِيِّ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا كَرَّالِمَ الْعَرَبِ، فَأَرْغَبْنَا فِي التَّمَتُّعِ، وَقَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ، وَنَعْزِلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ هَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، حَتَّى نَسْأَلَهُ فَمَسَّأَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْزِلُوا أَوْ لَا تَعْزِلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ مِنْ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

مَنْ اسْمُهُ صَالِحٌ
صَالِحٌ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
مَا أَسْنَدَ صَالِحٌ شُقْرَانُ
مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
النَّسْرِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ثنا عَثْمَانُ
الْغَطَفَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ،

جن کا نام صالح ہے
رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت
صالح شقران رضی اللہ عنہ رسول
اللہ ﷺ کے غلام حضرت صالح
شقران رضی اللہ عنہ کی
روایت کردہ احادیث

حضرت صالح شقران رسول اللہ ﷺ کے غلام
فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! مجھے رسول اللہ ﷺ کی تربت
انور میں آپ کے نیچے چادر بچھانے کی سعادت حاصل

ہوئی ہے۔

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهُ طَرَحْتُ الْقُطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضور ﷺ کے غلام حضرت شقران فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خیر کے دن دیکھا کہ آپ جا رہے تھے اور اپنے دراز گوش مبارک پر اشارہ کے ساتھ نفل ادا کر رہے تھے۔

7280 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُقْرَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُتَوَجِّهًا يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ يُصَلِّي، يَوْمَ إِيمَاءٍ

حضرت صعصعہ بن معاویہ بن حصین بن عبادہ بن نزال بن مرہ بن عبید بن حارث بن عمرو بن سعید بن زید مناة بن تمیم بن مرہ حضرت اخف بن قیس کے چچا، آپ بصرہ میں

صُعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَصِينِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ نَزَالِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ مُرَّةَ، عَمُّ الْأَخْنَفِ بْنِ

قَيْسٌ كَانَ يَنْزِلُ الْبَصْرَةَ

7281 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَبْلٍ، حَدَّثَنِي هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ

حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ،

عَمِّ الْأَخْنَفِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ:

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 8)، فَقُلْتُ:

وَاللَّهِ، لَا أَبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا حَسْبِي

حَسْبِي

صَعْصَعَةُ بْنُ نَاجِيَةَ بْنِ عِقَالٍ

بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ

مُجَاشِعِ بْنِ دَارِمَ جَدُّ

الْفَرَزْدَقِ الشَّاعِرِ كَانَ

يَنْزِلُ الْبَصْرَةَ

7282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّا

آءِ تَه

حضرت اخف کے چچا حضرت صعصہ بن معاویہ

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا تو

میں نے آپ کو سنا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے: ”جس

نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ

برابر بُرائی کی تو وہ بھی دیکھ لے گا“۔ میں نے کہا: اللہ کی

قسم! مجھے کوئی پروا نہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہ

سنوں! میرے لیے کافی ہے میرے لیے کافی ہے۔

صعصہ بن ناجیہ بن عقال بن محمد بن

سفيان بن مجاشع بن

دارم حضرت فرزدق

شاعر کے دادا آپ

بصرہ آئے تھے

حضرت صعصہ بن ناجیہ مجاشعی فرماتے ہیں: جبکہ

7281 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 59 الا أنه عنده عم الفرزدق قال في المجمع جلد 7 صفحہ 141 رواه أحمد والطبرانی

مرسلًا ومتصلًا ورجال الجميع رجال الصحيح. ورواه النسائي في التفسير من الكبرى عن ابراهيم بن يونس بن

محمد عن أبيه عن جرير حازم عن الحسن قال حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذكره. قال الحافظ في الاصابة جلد 3

صفحہ 429 كذا قال 'وليس للفرزدق عم اسمه صعصعة' وانما هم عم الأخنف بن قيس.

7282 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 95 رواه الطبرانی في الكبير واليزار وفيه الطفيل بن عمرو التميمي قال البخاري: لا

يصح حديثه وقال العقيلي: لا يتابع عليه.

صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع

الْعَلَابِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو
أُمَيَّةَ سَلَمٌ بْنُ عِصَامٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ الرِّيَّاسِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ
الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا عَبْدُ بْنُ كُسَيْبٍ
أَبُو الْحَسَابِ الْعَبْرِيُّ، ثَنَا طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو
الرَّبِيعِيُّ رِبِيعَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةَ إِخْوَةُ
عُجَيْفٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْمُجَاشِعِيِّ،
وَهُوَ جَدُّ الْفَرَزْدَقِ بْنِ غَالِبٍ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ:
قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَعَرَضَ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ، وَعَلَّمَنِي آيَا
مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَمِلْتُ
أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:
وَمَا عَمِلْتُ؟ فَقُلْتُ: إِنِّي ضَلْتُ نَافِثَانِ لِي
عَشْرَ أَوَانٍ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِيهَا عَلَى جَمَلٍ لِي،
فَرَفَعَ لِي بَيْتَانِ فِي فِضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ،
فَقَصَصْتُ قِصَصَهُمَا، فَوَجَدْتُ فِي أَحَدِهِمَا
شَيْخًا كَبِيرًا، فَقُلْتُ: هَلِ اخْتَسَسْتُمْ نَافِثَتَيْنِ
عَشْرَ أَوَانٍ؟ قَالَ: مَا نَارَاهُمَا؟ قُلْتُ: مَيْسَمُ
ابْنُ دَارِمٍ، قَالَ: قَدْ أَصَبْنَا نَافِثَتِكَ، وَنَتَجَاهُمَا
وَطَارَ نَاهُمَا، وَقَدْ نَعَشَ اللَّهُ بِهِمَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ
قَوْمِكَ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ مُضَرَ، فَبَيْسَمَا هُوَ
يُخَاطِبُنِي إِذْ نَادَتْ امْرَأَةً مِنَ الْبَيْتِ الْآخَرِ،
وَلَدْتُ مِثْمَنَ وَلَدْتُ قَالَ: قَالَ: وَمَا وَلَدْتُ إِنْ
كَانَ غُلَامًا، فَقَدْ شَرَكْنَا فِي قَوْمِنَا، وَإِنْ كَانَتْ

فرزدق بن غالب صمصعہ کے دادا ہیں، میں رسول
کریم ﷺ کی بارگاہ میں آیا، پس آپ ﷺ نے مجھ پر
اسلام پیش کیا تو میں اسلام لایا۔ پس آپ ﷺ نے مجھے
قرآن کی کئی آیات سکھائیں۔ پس میں نے عرض کی:
میں نے زمانہ جاہلیت میں چند اچھے اعمال کیے تھے کیا ان
میں میرے لیے اجر ہے؟ پس آپ ﷺ نے فرمایا: تو
نے کیا عمل کیا؟ میں نے عرض کی: میری دو اونٹیاں دس ماہ
کی حاملہ گم ہو گئیں، میں ان کو تلاش کرنے کیلئے اپنے اونٹ
پر سوار ہو کر نکلا۔ پس زمین کی فضا میں میرے لیے دو گھر
بلند کیے گئے۔ پس میں نے ان دونوں کا قصد کیا، پس میں
نے ان میں سے ایک میں ایک بوڑھا آدمی دیکھا، میں نے
کہا: کیا تم نے دس ماہ کی حاملہ دو اونٹیاں دیکھی ہیں؟ اس
نے کہا: ان کی نشانی رنگ وحلیہ کیا ہے؟ میں نے کہا:
خوبصورت، موٹی تازی۔ اس نے کہا: ہم نے تیری دونوں
اونٹیوں کو پکڑا، انہوں نے بچے دیئے، ان دونوں کے ساتھ
اللہ نے تیری قوم کے عربی قبیلہ بنو مضر کے ایک گھر والوں کو
دولت مند کر دیا۔ اسی اثناء میں کہ وہ مجھ سے مخاطب تھا
جب دوسرے مکان سے ایک عورت نے نداء دی: بچہ پیدا
کر دیا جس سے بھی جن دیا۔ صمصعہ کہتے ہیں کہ اس نے
کہا: اس نے کیا جنا؟ اگر تو وہ لڑکا ہے تو ہم اسے اپنی قوم کا
فرد بنائیں گے اور اگر لڑکی ہے تو ہم اسے (زندہ) دفن کر
دیں گے۔ اس عورت نے کہا: لڑکی ہے۔ میں نے کہا: زندہ
درگور کی جانے والی کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا: میری بیٹی
ہے۔ میں نے کہا: میں اسے تم سے خریدوں گا۔ اس نے کہا:

جَارِيَةً فَأَدَقْنَاهَا، فَقَالَتْ: جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذِهِ الْمَوْزُودَةُ؟ قَالَ: ابْنَةٌ لِي. فَقُلْتُ: إِنِّي أَشْتَرِيهَا مِنْكَ قَالَ: يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ، أَتَقُولُ أَتَبِيعُ ابْنَتَكَ؟ وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ مُضَرَ؟ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَشْتَرِي مِنْكَ رَقَبَتَهَا، إِنَّمَا أَشْتَرِي رُوحَهَا أَنْ لَا تَقْتُلَهَا. قَالَ: بِسَمِّ تَشْتَرِيهَا؟ قُلْتُ: نَاقِيَتِي هَاتَيْنِ وَوَلَدَيْهِمَا. قَالَ: وَتَزِيدُنِي بِعِيرِكَ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، عَلَى أَنْ تُرْسِلَ مَعِيَ رَسُولًا، فَإِذَا بَلَغْتُ إِلَى أَهْلِي رَدَدْتُ إِلَيْكَ الْبَعِيرَ فَفَعَلَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَهْلِي رَدَدْتُ إِلَيْهِ الْبَعِيرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَكُرْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ هَذِهِ لَمَكْرُمَةٌ، مَا سَبَقَنِي إِلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَظَهَرَ الْإِسْلَامُ، وَقَدْ أَحْيَيْتُ ثَلَاثِمِائَةَ وَبَيِّتَيْنِ مِنَ الْمَوْزُودَةِ أَشْتَرِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِنَاقَتَيْنِ عَشْرًا وَبَنٍ وَجَمَلٍ، فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكَ أَجْرُهُ إِذْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِإِلْسَالِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمُصَدِّقُ قَوْلِ صَعْصَعَةَ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ:

(البحر المتقارب)

وَجَدِي الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ ... فَأَخْبَى
الْوَيْدَةَ، فَلَمْ يُؤَادِّ

اے بنو تميم کی بھائی! کیا تو کہتا ہے کہ میں تیری بیٹی کو بیچوں گا جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں عرب کے بنو مضر قبیلے کا فرد ہوں۔ میں نے کہا: میں تجھ سے اس کی گردن نہیں خریدوں گا بلکہ میں اس کی روح خریدوں گا کہ تو اسے قتل نہ کرے۔ اس نے کہا: کس چیز کے بدلے خریدے گا؟ میں نے کہا: میری یہ دو اونٹیاں اور ان کے بچے تیرے اور لڑکی میری۔ اس نے کہا: اپنا یہ اونٹ نہیں دے گا؟ میں نے کہا: جی ہاں! میرے ساتھ اپنا قاصد بھیج دے جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچوں گا تو اونٹ تیری طرف بھیج دوں گا۔ پس اس نے ایسا ہی کیا، پس جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنا اونٹ اس کو بھیج دیا۔ پس جبرائیل کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ عزت والی ہے جب کسی عربی نے اس کی طرف سبقت نہیں کی ہے اسلام ظاہر ہو چکا تھا جبکہ میں نے تین سو ساٹھ زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو زندہ کیا، میں نے ان میں سے ہر ایک کو دس ماہ کی گاجھن دو اونٹیوں اور ایک اونٹ کے عوض خریدا۔ پس اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تیرے لیے اس کا اجر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ تیرے اوپر احسان کر دیا ہے۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں: حضرت صَعْصَعَةَ کے قول کا

مصدق فرزدق کا یہ قول ہے۔

”اور میرا دادا وہ ہے جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو روکا“ اس نے زندہ درگور ہونے والی کو زندہ کیا اور زندہ درگور نہیں ہونے دیا۔“

7283 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُقْبِلٍ

الْبَصْرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَسْعَدٍ، يُلَقَّبُ
 بِابْنِ دَاخَةَ، حَدَّثَنِي عَقَالُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عِقَالِ بْنِ
 صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْمُجَاشِعِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي،
 عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِيهِ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ
 الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 رَبَّمَا فَضَلْتَ لِي الْفَضْلَةَ، خَبَاتُهَا لِلنَّائِيَةِ، وَابْنِ
 السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: أُمُّكَ وَأَبَاكَ أُخْتُكَ وَأَخَاكَ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ

مَنْ اسْمُهُ صُنَابِحُ

صُنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ الْبَجَلِيُّ

بْنُ الْأَحْمَسِيِّ، كَانَ

يَنْزِلُ الْكُوفَةَ

7284 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا عَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا
 مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

حضرت صعصعہ بن ناجیہ مجاشعی رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا، میں نے عرض کی:
 یا رسول اللہ! بسا اوقات مجھے مال ملتا ہے، میں نے اپنے بعد
 والوں اور مسافروں کے لیے ذخیرہ کیا ہے، حضور ﷺ
 نے فرمایا: اس کے حق دار تیری ماں اور تیرا باپ اور تیری
 بہن اور تیرا بھائی پھر درجہ بدرجہ جو تیرے قریبی رشتہ
 دار ہیں۔

جن کا نام صنابح ہے
 حضرت صنابح بن اعسر البجلی
 پھر احمسی، آپ کو فہ
 آئے تھے

حضرت صنابح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
 نے فرمایا: میں تمہارا حوض پر انتظار کروں گا، میں کثرت
 امت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، میرے بعد

7283 - قال في المجمع جلد 3 صفحہ 120، وفيه من لم اعرفه .

7284 - ورواه أبو يعلى رقم الحديث: 1452، قال في المجمع جلد 7 صفحہ 295، وفيه مجالد بن سعيد وفيه خلاف قلت:

هو ضعيف . ولكن الحديث صحيح من غير طريق مجالد به . وفيه عن حماد قال عن الصنابحي وربما قال

الصنابح .

کافر نہ ہونا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ۔

الصَّنَابِيحُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، فَلَا تَرَجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

حضرت صنابح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تمہارا حوض پر انتظار کروں گا، میں کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا، میرے بعد کافر نہ ہونا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ۔

7285 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصَّنَابِيحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلَنَّ بَعْدِي

حضرت صنابح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تمہارا حوض پر انتظار کروں گا، میں کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا، میرے بعد کافر نہ ہونا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ۔

7286 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَحْيَى الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو فَرَوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

7285 - رَوَاهُ أَحْمَدُ جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 349 عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِ فَقَالَ فِيهِ عَنِ الصَّنَابِيحِ الْأَحْمَسِيِّ . وَرَوَاهُ جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 351 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَوَكَيْعٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِ كَذَلِكَ . وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِ وَفِيهِ الصَّنَابِيحُ الْبَجَلِيُّ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3944 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِ وَعِنْدَهُ الصَّنَابِيحُ . وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1454 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكَيْعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِ . وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1455 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ بِهِ . وَفِيهِ عَنِ الصَّنَابِيحِ الْأَحْمَسِيِّ . وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكَيْعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِ وَفِيهِ عَنِ الصَّنَابِيحِ . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 738 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنُفِ جُلْدَ 11 صَفْحَةَ 438 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكَلَابِيِّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَعِنْدَهُ عَنِ الصَّنَابِيحِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي هَذَا الصَّنَابِيحُ هَلْ هُوَ الصَّنَابِيحُ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ الصَّنَابِيحُ . فَرَوَى الْحَدِيثَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِيحِ . أَمَّا أَحْمَدُ فَقَدْ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِيحِ مَرَّةً وَفِي مُسْنَدِ الصَّنَابِيحِ الْأَحْمَسِيِّ . مَرَّةً أُخْرَى .

7286 - فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الرَّهَاوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ أَبُو يَزِيدَ بْنُ سِنَانَ .

أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ
الصَّنَابِيحِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى
الْحَوْضِ، مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ، لَا تَقْتَلُوا بَعْدِي
7287 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا ابْنُ الْأَظْهَرَانِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الصَّنَابِيحِ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ
الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبِعِيرٍ مِنْ
حَاشِيَةِ الْإِبِلِ قَالَ: فَنِعْمَ إِذَنْ

7288 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَرِيبَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْه، ثَنَا وَكِيعٌ،
عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ،
عَنِ الصَّنَابِيحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي فِي مَسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا

حضرت صنابح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے صدقہ کے اونٹوں میں سے اچھی اونٹنی دیکھی آپ نے
فرمایا: اس اونٹنی کے مالک کو اللہ ہلاک کرے! اس نے
عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اونٹوں کے گلہ سے اونٹ
کے بدلے اس کو خریدا ہے آپ نے فرمایا: پھر تو ٹھیک
ہے۔

حضرت صنابح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: میری امت ہمیشہ دین پر رہے گی جب تک
مغرب میں ستاروں کے ڈوب جانے کا انتظار نہ کریں یہود
کی طرح ان کی مشابہت میں اور فجر کو مؤخر نہ کریں
نصرانیوں کی مشابہت میں۔

7287 - قال في المجموع جلد 3 صفحہ 83 وفيه محمد بن يزيد بن سنان الراوى وهو ضعيف . قلت أنه ليس في سنده بل
في سند الحديث الذي قبله . وفيه مجالد بن سعيد . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 3 صفحہ 125-126 وأبو
يعلى رقم الحديث: 1453 وأحمد جلد 4 صفحہ 349 وعند أحمد عن الصنابحي وعند ابن أبي شيبة وأبي يعلى
الصنابحي الأحمسي وحرف في مصنف ابن أبي شيبة الى عن الأعمش .

7288 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 311 ورجاله ثقات . ورواه أحمد جلد 4 صفحہ 349 وعنده عن ابن نمير عن الصلت
به وعنده عن أبي عبد الرحمن الصنابحي . وتقدم التنبيه على ذلك آنفاً وأن أبا عبد الرحمن الصنابحي تابعي
فالحديث مرسل وهو من أنواع الضعيف .

مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالْمَغْرِبِ اسْتَبَاكَ النُّجُومُ،
مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ
مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ

جن کا نام صعب ہے
حضرت صعب بن جثامہ بن
قیس لیثی رضی اللہ عنہ

یہ صعب بن جثامہ بن قیس بن عبد اللہ بن وہب بن
یمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیث کہا جاتا ہے کہ
حضرت صعب کی والدہ ابوسفیان کی بہن تھیں ان کا نام
زینب بنت حرب بن امیہ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جثامہ بن
قیس قریش کے حلیف ہیں۔

باب

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حلال و
حرام کرنے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے
ہے۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

مَنْ اسْمُهُ الصَّعْبُ
الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ
بْنِ قَيْسِ اللَّيْثِيِّ

وَهُوَ الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ وَهَبِ بْنِ يَعْمَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ
عَامِرِ بْنِ لَيْثٍ وَيُقَالُ أَنَّ أُمَّ الصَّعْبِ أُخْتُ أَبِي
سُفْيَانَ، وَهِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ،
وَيُقَالُ أَنَّ جَثَامَةَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ حَلِيفًا لِقُرَيْشٍ

بَابُ

7289 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
الرُّمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

7290 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ

7289 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 19750 وأحمد جلد 4 صفحہ 37، 38، 71، 73، والبخاری رقم

الحديث: 3013، 2370، والبيهقي جلد 5 صفحہ 78، جلد 6 صفحہ 126، جلد 7 صفحہ 59، والحمیدی رقم

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

الْمُضَرِّي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي
الْثَّيْتُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

7291 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُزَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
سُلَيْمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ
جَثَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

7292 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

7293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ يَمِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ
جَثَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق
حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق
حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق
حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

7294 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

7295 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَارُ، ثنا أَبُو النَضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْمُسَوْدِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَى، فَقَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

7296 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

7297 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ دُرُوحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حق حلال و حرام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔

7298 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُوسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ میرے پاس سے گزرے میں مقام البواء پر تھا میں نے آپ کو ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

7299 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، قَالَ: مَرَّبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَخَشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

7299 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 8322، وأحمد جلد 4 صفحہ 37، 38، 71، 72، 73، والبخاری رقم الحديث: 2596.

1825، 2573، ومسلم رقم الحديث: 1193، ومالك جلد 1 صفحہ 257، والترمذی رقم الحديث: 851، والنسائی

جلد 5 صفحہ 183، 184، 185، وابن ماجه رقم الحديث: 3090، والبيهقی جلد 5 صفحہ 191، 192، 193،

والحمیدی رقم الحديث: 783.

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا جبکہ آپ ﷺ ابواء یا وذان کے مقام پر تھے آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ میرے پاس سے گزرے میں مقامِ ابواء یا وذان پر تھا میں نے آپ کو ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا (جو حلال ہے) آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا گیا جبکہ آپ ﷺ ابواء پر تھے آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

7300 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقُعَيْبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدَّمِطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بَوْدَانَ - حِمَارًا وَخَشِيئًا، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ

7301 - حَدَّثَنَا مُطَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بَوْدَانَ -، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَخَشِيئًا، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

7302 - حَدَّثَنَا مُطَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ بْنِ قَيْسِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَخَشٍ، وَهُوَ بِالْأَنْبَاءِ، فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7303 - حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ حَفْصِ

السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَخَشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ مِنْ رَدِّ هَدِيَّتِهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7304 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسْتَشْيِ، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَخَشِيًّا صَدْتُهُ بِوَدَّانَ، وَأَهْدَيْتُهُ لَهُ بِالْأَنْبَاءِ، فَرَدَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى مَا فِي وَجْهِهِ مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ عَلَى، فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ كَرَاهِيَةً لَهُ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

7305 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ

حضرت صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا، آپ نے مجھے واپس کر دیا، جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا جو میں نے شکار کیا تھا وڈان سے آپ نے مجھے واپس کر دیا، جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ کو ایک آدمی نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا، آپ

نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا جبکہ آپ

أَحْمَدُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ، فَرَدَّهٗ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا حُرْمٌ

7306 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ يَعْقِيَةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهٗ، فَرَأَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهٗ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ

7307 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهٗ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

7308 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ، ثَنَا

احرام کی حالت میں تھے آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مقام ابواء پر تھا کہ میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں جبکہ آپ ﷺ مقام وڈان پر تھے۔

أَبُو النَّضْرِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى الْيَدَى فِي وَجْهِی قَالَ: لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

7309 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ، يَقُولُ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ بِالْأَبْوَاءِ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِی كَرَاهِيَةَ رَدِّهِ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

7310 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا جبکہ آپ ﷺ ابوا یا وذان کے مقام پر تھے آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو میں نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا جبکہ آپ ﷺ مقام وذان پر تھے آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو جنگلی گدھا ہدیہ دیا جبکہ

7311 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشٍ، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بَوْدَانَ قَالَ: فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِ رَدَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَدٍّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

7312 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَ حِمَارٍ وَحْشٍ وَهُوَ بَوْدَانٌ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى مَا بَوَّجْهِي، قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنَا حُرْمٌ

7313 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْسُوسٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَفِيرٍ،

آپ ﷺ مقام ابواء یا وذان پر تھے آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا خَالِي الْمَغِيرَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةَ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَخَشِيًا، وَهُوَ بِوَذَانَ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ كَاتِبَةً رَدَّهُ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ میرے پاس سے گزرے میں مقام ابواء پر تھا میں نے آپ ﷺ کو ایک جنگلی گدھا ہدیہ دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا جب حضور ﷺ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی تو آپ نے فرمایا: ہم تحفہ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حالتِ احرام میں ہیں۔

7314 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمُؤَصِّلِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَخَشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

باب

بَابُ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7315 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

7315 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9385 وأحمد جلد 4 صفحہ 37، 38، 71، 72، 73، والبخاری رقم الحديث: 3013، 3012، ومسلم رقم الحديث: 1745، وأبو داود رقم الحديث: 2655، والترمذی رقم الحديث: 1618، وابن ماجه رقم الحديث: 2839، والبيهقی جلد 5 صفحہ 78، والطحاوی فی شرح معانی الآثار جلد 3 صفحہ 222، والحمیدی رقم الحديث: 781.

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم مشرکوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں، ہم مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے اور عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم رات کے وقت مشرکوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں، ہم مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے اور عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! ایک گھڑسوار گروہ نے مشرکوں کے گھروں میں حملہ کیا ہے، مشرکوں کے بچوں کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے اپنے آباء مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! گھڑسواروں نے مشرکوں کے بچوں کو روندنا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذُرَارِي الْمُشْرِكِينَ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ

7316 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَعْشَى الدَّيْرَ لَيْلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهُمْ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَفَقَتْلُهُمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ

7317 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُيَيْنَةَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ خَيْلًا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

7318 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

مشرکوں میں شامل ہیں۔

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الْخَيْلِ يُوطِنُهَا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّيْلِ، قَالَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

7319 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، وَعَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ أَوْلَادًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ، وَلَا عُبَيْدَ اللَّهِ، وَلَا الصَّعْبَ

7320 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمْسَارُ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ السَّرِيَّةِ تُصِيبُ الدَّرِيَّةَ فِي غَشَمِ الْغَارَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَادُهُمْ مِنْهُمْ

7321 - ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ الدَّرِيَّةِ يَوْمَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے گھڑسواروں نے مشرکوں کے بچوں کو روند دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے مشرکوں میں شامل ہیں۔ حضرت امام زہری نے نہ عبید اللہ اور نہ صعب کا تذکرہ کیا ہے۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! حملہ میں مشرکوں کے بچوں کو مار دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے بچے مشرکوں میں شامل ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے خیبر کے دن اُن کے بچوں کو قتل

خَيْر

کرنے سے منع فرمایا۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم رات کو مشرکوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں، ہم مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے اور عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

7322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ عَنْ كَامِلِ السَّرَّاجِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا الزُّنَجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَعُشَى الدَّارَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَيْلًا مَعَهُمْ صِبْيَانَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ فَنَقُتْلُهُمْ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! گھرسواروں نے مشرکوں کے گھروں میں حملہ کیا ہے، مشرکوں کے بچوں کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے مشرکوں میں شامل ہیں۔

7323 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخُفَّافُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْغَيْلَ فِي غَشْمِ الْغَارَةِ تُصِيبُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْهُمْ أَوْ مَعَ الْآبَاءِ

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے بارے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! وہ رات گزارتے ہیں، ہم گھروں میں حملہ کرتے ہیں، ہم مشرکوں کے بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے اور عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

7324 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانَ الرَّامِهُرْمَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ الْعَدُوِّ يَبْتَغُونَ قَيْصَابَ مِنْ نِسَائِهِمْ
وَصِبْيَانِهِمْ فِي الْغَارَةِ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ

7325 - وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ

وَالصِّبْيَانِ .

فرمایا۔

7326 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا:
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْثِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ
الْكُوفِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّرَارِيِّ فِي دُورِ
الْمُشْرِكِينَ، نَفْسَاهَا بَيَّاتًا، كَيْفَ يَمْنُ يَكُونُ
تَحْتَ الْغَارَةِ مِنَ الْوِلْدَانِ؟ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ

7327 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتْوَيْهِ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَمِيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، أَنَّهُ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ
نُصِيهِهُمْ فِي الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ، قَالَ: لَا تَعُوذُوا

اور اُن کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے عرض کی: مشرکوں کے
گھروں میں مشرکوں کے بچوں کے بارے میں ہم رات کو
ان کے گھروں پر حملہ آور ہوتے ہیں ہم ان کے بچوں کو
کیسے بچائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے بچے اور
عورتیں مشرکوں میں شامل ہیں۔

حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے
ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم رات کو مشرکوں
کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ
نہ کرو حالانکہ حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے بچے مشرکوں میں
شامل ہیں اور آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے
منع فرمایا۔

ذَلِكَ، وَلَا حَرَجَ، فَإِنْ أَوْلَادُهُمْ مِنْهُمْ وَنَهَى عَنْ
قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

7328 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ

حَبْلٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، الدَّارُ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ
نُصَبِحُهَا بِالْغَارَةِ، فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ
بُطُونِ الْخَيْلِ وَلَا نَشْعُرُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُمْ مِنْهُمْ

صُدِّيُّ بْنُ الْعَجْلَانِ أَبُو
أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

نَزَلَ الشَّامَ، وَمَاتَ بِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهِ

7329 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

الْجَوْهَرِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمِنْقَرِيُّ، ثنا
الْأَصْمَعِيُّ، قَالَ: أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ الصَّدِيُّ بْنُ
عَجْلَانَ مِنْ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ بَنُو سَهْمِ بْنِ عَمْرٍو
بَطْنٌ مِنْ بَنِي قُتَيْبَةَ

7330 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ

الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ:
تُرْفِي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاسْمُهُ
صُدِّيُّ بْنُ عَجْلَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ، سَنَتُهُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں
کہ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم مشرکوں کے گھروں میں
حملہ کرتے ہیں، ہم لاشعوری طور پر مشرکوں کے بچوں کو
مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بچے مشرکوں میں
شامل ہیں۔

حضرت صدی بن عجلان ابوامامہ
الباہلی رضی اللہ عنہ

آپ ملک شام آئے وہاں وصال پایا ان کی باتوں
میں سے کچھ یہ ہیں۔

حضرت اصمعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ باہلی
صدی بن عجلان ان کے قبیلہ کے تھے اس قبیلہ کو بنو سہم بن
عمرو بنی قتیبہ کے لطن کے رہنے والے تھے۔

حضرت یحییٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ
باہلی کا وصال ۸۷ ہجری میں ہوا ان کی عمر ۹۱ سال تھی ان کا
نام صدی بن عجلان تھا۔

إِخْدَى وَتَسْفُونَ

مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ
الْيَحْصِي، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ

ابو امامہ کی روایت کردہ احادیث
عبداللہ بن بسر یحصری، حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

7331 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشْبِيُّ، ثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ،
قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ
عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ
يَسْجَرُغُهُ) (إبراهيم: 17) قَالَ: يَقْرُبُ إِلَيْهِ
فَيَتَكَرَّهُهُ، فَإِذَا أَذْنِي مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ
فَرْوَةُ رَأْسِهِ، وَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے اللہ عزوجل کے ارشاد: ”اسے پیپ کا پانی
پلایا جائے گا“ کے متعلق فرمایا کہ جہنمی لوگوں کو جہنم کے
قریب کیا جائے گا وہ اس کے قریب ہونے کو ناپسند کریں
گئے ان میں جو قریب ہو گا اس کا چہرہ جل جائے گا اس کی
گرمائش سر پر پڑے گی جب وہ پیس گئے تو ان کی آنتیں
کاٹ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی دیر سے نکلیں
گی۔ (اللہ عزوجل نے فرمایا:) ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا
جائے گا اس سے ان کی آنتیں کاٹی جائیں گی۔ (اللہ
عزوجل نے فرمایا:) اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی

7331 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 265 وابن جریر فی تفسیرہ (20631، 20632) والترمذی رقم الحديث: 2709 قال هذا

حدیث غریب ہکذا قال محمد بن اسماعیل عن عیبد اللہ بن بسر، ولا یعرف عیبد اللہ بن بسر الا فی هذا
الحدیث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا
الحدیث وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخته قد سمعت من النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وعبد الله ابن بشر الذي روى عنه صفوان بن عمرو وحديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عبد
الله بن بسر، ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 924، وعبيد الله بن بسر قيل يقال له عبد الله بن
بسر، وهذا هو الظاهر إذا الحديث عند الجميع من طريق عبد الله بن المبارك، وعندهم عبيد الله، وعند المصنف
عبد الله راجع ترجمة عبيد الله بن بسر من تهذيب التهذيب.

فریادری ہوگی اس پانی سے چرخ دے (کھولتے ہوئے)
دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا کیا ہی بُرا
پینا ہے۔

يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَسُقُوا
مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ) (محمد: 15)،
يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِنَسِ الشَّرَابِ)
(الكهف: 29)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے لیے محبت کرو اس کے
بندوں سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔

7332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَزْقٍ الْحِمَصِيُّ، ثنا عَبْدُ
الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: ثنا بِقِيَّةٌ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: حَبِّبُوا اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ، يُحِبَّكُمْ اللَّهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے لیے محبت کرو اس کے
بندوں سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔

7333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ
مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ،
ثَنَا بِقِيَّةٌ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو،
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَبِّبُوا
اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ يُحِبَّكُمْ اللَّهُ

رجاء بن حیوة، حضرت ابوامامہ سے

رَجَاءُ بْنُ حَيَّوَةَ،

7332 - قال المناوي في الفيض جلد 3 صفحہ 327 'وفيه عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي قال في الميزان كذبه أبو حاتم . وقال النسائي وغيره: متروك . والدارقطني: منكر الحديث . والبخاري: وعنده عجائب لم أورد أو أبد هذا منها' قلت: وقد توبع والبلية من بقية وهو مدلس وقد عنعن . ولكنه صرح بالحديث في مسند الشاميين رقم الحديث: 925 .

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

روایت کرتے ہیں

7334 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ كَيْسَانَ الْمِصْبِصِيُّ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ
هَلَالٍ، قَالَا: ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَغْقُوبَ، ثَنَا رَجَاءُ بْنُ
خَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَنشَأَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، اذْعُ اللَّهُ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ:
اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ، فَغَزَوْنَا فَسَلِّمْنَا، ثُمَّ
أَنشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوًا
آخَرَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْعُ اللَّهُ لِي
بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ
فَغَزَوْنَا فَسَلِّمْنَا وَغَنِّمْنَا، ثُمَّ أَنشَأَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوًا ثَالِثًا، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ مَرَّتَيْنِ تَدْعُو لِي
بِالشَّهَادَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ،
فَغَزَوْنَا فَسَلِّمْنَا وَغَنِّمْنَا

7335 - ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

مُرْنِي بِعَمَلٍ أَخْذُهُ عَنْكَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ،

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک غزوہ کے متعلق بتانے لگے میں آپ کے
پاس آیا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لیے
شہادت کی دعا کریں! آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو سلامت
رکھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے
پھر حضور ﷺ دوسرے جہاد کے لیے بھیجنے لگے تو میں نے
عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ
مجھے شہادت دے! آپ نے یہ دعا کی: اے اللہ! ان کو
سلامت رکھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور
سلامت رہے اور مال غنیمت لیا۔ پھر حضور ﷺ نے
تیسرے جہاد کے لیے بھیجا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کی
بارگاہ میں آپ کے پاس دو مرتبہ دعا کے لیے کہا کہ میرے
لیے شہادت کی دعا کریں! آپ نے یہ دعا کی: اے اللہ!
ان کو سلامت رکھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور
سلامت رہے اور مال غنیمت ملا۔

پھر میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے ایسے عمل
کے متعلق بتائیں جس پر میں عمل کر سکوں! آپ نے فرمایا:

7334 - رَوَاهُ أَحْمَدُ جُلْدَ 5 صَفْحَةٍ 248, 249, 252, 258 قَالَ فِي الْمَجْمَعِ جُلْدَ 3 صَفْحَةٍ 182 قُلْتُ: رَوَى النَّسَائِيُّ جُلْدَ 4

صَفْحَةٍ 165, 166 طَرَفًا مِنْهُ بِسِيرًا فِي الصِّيَامِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرَجَالُ أَحْمَدَ وَرَجَالُ الصَّحِيحِ .

وَرَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 930, 929 وَابْنُ خَزِيمَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1893 وَالْحَاكِمُ جُلْدَ 1 صَفْحَةٍ 421

وَصَحَّحَهُ . وَكَذَا قَالَ فِي جُلْدِ 5 صَفْحَةٍ 297 . وَرَوَاهُ الْمَصْنُفُ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2111 .

تم روزے رکھو کیونکہ روزہ کی مثل کچھ نہیں۔ پس حضرت ابوامامہؓ ان کی بیوی اور ان کے خادم سے جب بھی ملاقات ہوتی وہ روزے سے ہوتے تھے۔ پس جب ان کے گھر میں آگ یا دھواں نظر آتا تو ان کے ہاں کوئی مہمان ہوتا۔

پھر میں اس کے بعد آیا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مجھے کسی کام کے متعلق حکم دیں گے میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نفع دے گا مجھے دوسرے کام کا حکم دے اللہ مجھے اس کے ساتھ نفع دے گا آپ نے فرمایا: تو یقین سے اللہ کو سجدہ کر اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا اور تیرے گناہ معاف کرے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک غزوہ کے متعلق بتانے لگے میں آپ کے پاس آیا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لیے شہادت کی دعا کریں! آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو سلامت رکھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے پھر حضور ﷺ دوسرے جہاد کے لیے بھیجے لگے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہادت دے! آپ نے یہ دعا کی: اے اللہ! ان کو سلامت رکھ اور مال غنیمت دے! ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور مال غنیمت لیا۔ پھر حضور ﷺ تیسرے جہاد کے لیے بھیجا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آپ کے پاس دوسرے جہاد کے لیے کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں! آپ نے یہ دعا کی: اے اللہ!

فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ لَا يُلْقُونَ إِلَّا صِيَامًا، فَإِذَا رَأَوْا فِي دَارِهِمْ نَارًا أَوْ دُخَانًا عَلِمُوا أَنَّهُ قَدْ اغْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ

7336 - ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِأَمْرِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يَنْفَعُنِي بِهِ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ آخَرَ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، قَالَ: ااعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

7337 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبِوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثًا، فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ فَسَلِّمْنا وَغَنِّمْنا، ثُمَّ بَعَثَ جَيْشًا آخَرَ، فَخَرَجْتُ فِيهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ ثُمَّ الدَّائِلَةُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُو لِي بِالشَّهَادَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ فَسَلِّمْنا وَغَنِّمْنا

رَسُولَ اللَّهِ، فَأَمُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ: عَلَيْكَ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَلَا عِدْلَ لَهُ قَالَ أَبُو
أَمَامَةَ: قَدْ رَزَقَ مِنْ ذَلِكَ خَيْرًا

ان کو سلامت رکھ اور مالی غنیمت دے! (ہم نے جہاد کیا
اور) سلامت رہے اور مالی غنیمت ملا! اے اللہ کے رسول!
مجھے کسی عمل کا حکم دیں۔ فرمایا: تو روزہ رکھ کیونکہ اس کی مثل
کوئی عمل نہیں اور نہ کوئی عمل اس کے برابر ہے۔ حضرت
ابو امامہ کا قول ہے: تحقیق اس سے بہتر عطا کیا گیا۔

7338 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا زَوْحُ بْنُ
عَبَادَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنشَأَ
غَزْوَةً فَذَكَرَهُ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے ایک جہاد کے لیے بھیجا ابو ادريس
خولانی نے ذکر کیا از حضرت ابو امامہ۔

أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

ابو ادريس خولانی، حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

7339 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ
بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تہجد پڑھا کرو کیونکہ تم سے پہلے نیک
لوگوں کا طریقہ ہے اور اپنے رب کے قرب کا ذریعہ
برائیوں کو مٹانے والی اور گناہ سے روکنے والی ہے۔

7339 - ورواه في الأوسط (93 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 2 صفحہ 251 وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث
قل عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه جماعة. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم
الحديث: 1931. ثم رأيت عند الترمذی رقم الحديث: 3619 وابن خزيمة رقم الحديث: 1135. والحاكم
جلد 1 صفحہ 308 وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. ورواه البغوي في شرح السنة رقم
الحديث: 922 وهو صحيح لشواهد.

وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ ذَابُ
الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ،
وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ

7340 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ
حَمَزَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ،
ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
أَبِي فَرُوةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سَعِيدٍ
بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَحَدَثَ
هَجَاءً فِي الْإِسْلَامِ، فَاقْطَعُوا لِسَانَهُ قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَيُّ مَعْنَاهُ: هَجَا
الْإِسْلَامَ

قَوْلُ صَالِحِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

أَبُو صَالِحِ الْأَشْعَرِيِّ،

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7341 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

حضرت ابو صالح اشعري، حضرت

ابو امامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامه باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7340 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 123، وفيه اسحاق ابن أبي فروة وهو متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين
رقم الحديث: 3584 .

7341 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 252، 264، والطحاوی فی المشکل جلد 3 صفحہ 68، وابن أبي الدنيا فی المرض
والکفارات جلد 2 صفحہ 162، وأبو بکر الشافعی فی الفوائد جلد 1 صفحہ 19، وابن عساکر (2/39/19) من طریق
محمد بن مطرف به . وأبو الحصين الفلسطيني قال الحافظ: مجهول: فهو ضعيف بهذا الاسناد لكن له شواهد
ذكرها شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 4 صفحہ 437 . قال في المجمع جلد 2 صفحہ 305، وفيه أبو حصين
الفلسطيني ولم أر له راوياً غير محمد بن مطرف . وقال المنذرى جلد 6 صفحہ 108 رواه أحمد باسناد لا بأس به .

حضور ﷺ نے فرمایا: بخار جہنم کی دھونکی ہے جو مومن کو بخار ہوتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کا حصہ ہے۔

صَالِح، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، ثَنَا أَبُو الْحُصَيْنِ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحُمَى كَبِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ

خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7342 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوَّرُ الْبُصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ الْعِشَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

7343 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ

خالد بن معدان، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی عادت تھی کہ جب آپ کے آگے سے رات کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا کرتے: ”الحمد لله كثيرا طيبا طيبا الى آخره“۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی عادت تھی کہ جب آپ کے آگے سے

ورواه البيهقي في الآداب جلد 1 صفحہ 216 جلد 2 صفحہ 215۔

7342 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 252، 256، 261، 267، والبخاری رقم الحديث: 5458، 5459، وأبو داود رقم الحديث: 3831، والترمذی رقم الحديث: 3521، وابن ماجه رقم الحديث: 3284، والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 419، وانظر تعليقا عليه. ورواه البهوي في شرح السنة رقم الحديث: 2827، 2828.

7343 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 420.

رات کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ
یہ دعا کرتے: ”الحمد لله كثيرا طيبا الى آخره“۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ کی عادت تھی کہ جب آپ کے آگے سے
رات کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ
یہ دعا کرتے: ”الحمد لله كثيرا طيبا الى آخره“۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ کی عادت تھی کہ جب آپ کے آگے سے
رات کے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ
یہ دعا کرتے: ”الحمد لله كثيرا طيبا الى آخره“۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے

يَزِيدُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ
مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ،
غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

7344 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

الْدِّمِيَّاطِيُّ، وَمُطَلِّبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَا:
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ
صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا
كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا
مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ

7345 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ،
حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ نَعِيمٍ الْخِزْلَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَامِرُ
بْنُ جَشِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ طَعَامِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ
حَمْدًا كَثِيرًا، طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا
مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

7346 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا

7344 - ورواه المصنف في مسند الشاهين رقم الحديث: 1946 وانظر تعليقا عليه .

7346 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 123 ورجاله موثقون . وقال العراقي في تخریج الأحياء جلد 4 صفحہ 461

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے مسجد آتا ہے یا سکھانے کے لیے آتا ہے تو اس کو ایک مکمل حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

هشامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا ثَوْرٌ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًا حِجَّتُهُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت آنے سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔

7347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، ثنا ثَوْرٌ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ حَتَّى يَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل عجز پر ملامت کرتا ہے اپنے نفس کو تھکا، اگر تجھ پر غلبہ ہو جائے تو پڑھ: میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔

7348 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

واسنادہ جید' ورواہ المصنف فی مسند الشامیین رقم الحدیث: 423، والحاکم جلد 1 صفحہ 91 وقال: صحیح علی شرطہما. وقال الذہبی فی تلخیصہ: علی شرط البخاری، ورواہ البیہقی فی الآداب (2-1/257) من طریق الحاکم.

7347 - ورواہ ابن ماجہ رقم الحدیث: 3384، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 6 صفحہ 97، وفي اسنادہ عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعیف. وله شواہد.

7348 - ورواہ المصنف فی مسند الشامیین رقم الحدیث: 422.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ، فَأَنْتَ مِنْ نَفْسِكَ الْجَهْدِ، فَإِنْ غَلَبَتْ فَقُلْ: تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، أَوْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو آدمی اپنے گھر اور اہل خانہ اور بچوں اور خادموں پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔

7349 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمِهِ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نرمی اور رضا اور مدد کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن سختی پر مدد کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔

7350 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرَّبِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرْضَاهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُفْرِ

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی بندہ جنت میں داخل ہوگا

7351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّائِيُّ، قَالَا:

7349 - قال في المجمع جلد 3 صفحہ 120، رواه الطبرانی في الأوسط (126 مجمع البحرين) والكبير باسنادين أحدهما حسن. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1132.

7350 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 19، وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم الرازي وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 421.

7351 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 419، وفيه من لم أعرفهم، وفي المجمع بتحميد الله.

اس کے سر اور دونوں پاؤں کے پاس حور العین بیٹھیں گی اچھی آواز میں گائیں گی جن اور انسان سنیں گے شیطانی مزامیر نہیں ہوں گے اور اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہوں گی۔

ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ نِسَاءٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، تُغْنِيهِ بِأَحْسَنِ صَوْتٍ سَمِعَهُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ، وَلَيْسَ بِمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ يَتَمَجِّدُ اللَّهُ وَتَقْدِيسُهُ

7352 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى

الْحُلَوَانِيُّ، ثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ أَيُّ جَمَاعٍ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: دَحَامًا دَحَامًا، وَلَكِنْ لَا مَنِيَّ، وَلَا مَنِيَّةَ

7353 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُتَوَيْهِ

الْأَصْبَهَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرُوقٍ الْهَمَصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ الْأَوْصَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا: کیا جنت والے جماع کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں کریں گے لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کی راہ میں حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا اللہ عزوجل اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا۔

7352 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 416-417 رواه كلها الطبرانی بأسانيد ورجال بعضها وثقوا على ضعف في بعضهم . ونقله ابن كثير في نهاية البداية من هذا المكان وفيه عنده دحما دحما .

7353 - ورواه في الأوسط (226 مجمع البحرين) ولم يتكلم عليه في المجمع جلد 5 صفحہ 289 وهو حديث صحيح .

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 927 .

خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، أَمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

7354 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بَكْرِ السَّرَّاجِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ التَّرْجَمَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْصَنِ
الْعُكَّاشِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَعْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعِيَّ
مِنَ الْإِيمَانِ، وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدَانِ
مِنَ النَّارِ، وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ،
وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ
فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ لِأَبِي أُمَامَةَ: إِنَّا لَنَقُولُ فِي الشَّعْرِ:
إِنَّ الْعِيَّ مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ: تَرَانِي أَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحَسَّنْ
بِشَعْرِكَ النَّتَنِ

7355 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: حیاء اور شرم دونوں ایمان سے ہیں
دونوں جنت کے قریب کریں گی اور جہنم سے دور رکھیں گی
نخس اور بے حیائی شیطان کی طرف سے ہیں اور یہ دونوں
جہنم کے قریب کریں گی اور جنت سے دور رکھیں گی۔
ایک دیہاتی نے ابو امامہ سے کہا: ہم شعر میں کہتے ہیں:۔
شرم بزدلی ہے۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا: آپ کو معلوم
ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا: تو اس کو
بُرے اشعار سے جوڑ رہا ہے۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس کسی آدمی کا چہرہ اللہ کی راہ میں

7354 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 269 والترمذی رقم الحديث: 2096 وابن أبي شيبة في كتاب الايمان رقم
الحديث: 118. وهو حديث صحيح وصححه الحاكم جلد 1 صفحہ 52 من غير هذا الطريق قال في المجمع
جلد 1 صفحہ 92 وفيه محمد بن محسن العكاشي وهو ضعيف لا يحتج به. ورواه المصنف في مسند الشاميين
رقم الحديث: 926 بنسفس الاسناد واللفظ. ومحمد بن محسن كذبوه. ورواه البغوي في شرح السنة رقم
الحديث: 3394.

7355 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 287 وفيه جميع بن ثوب بالفتح وقال بالضم متروك. وهو حديث ضعيف جدًا.

غبار آلود ہوتا ہے اللہ عزوجل اس کو قیامت کے دن جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رکھے گا جس کی آدمی کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوتے ہیں اللہ عزوجل اس کے پاؤں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔

الْوَحَاطِيُّ، ثَنَا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبِرُ وَجْهَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَمَنَهُ اللَّهُ دُخَانَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبِرُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَمَنَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

7356 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعَمَ الرَّجُلُ أَنَا لِشِرَارِ أُمَّتِي. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِخِيَارِهِمْ؟ قَالَ: أَنَا شِرَارُ أُمَّتِي فَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، وَأَمَّا خِيَارُهُمْ فَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِأَعْمَالِهِمْ

7357 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتَوَيْه،

وِإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِرْقٍ الْحِمَصِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ الْأَوْصَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی امت کے بُرے آدمیوں کے لیے میں کتنا اچھا آدمی ہوں آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! نیکو کاروں کے لیے آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بہر حال میری امت کے گناہ گار جنت میں داخل ہوں گے میری شفاعت کی وجہ سے اور نیک لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا ان کے اعمال سے۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اور دن کو روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور جنازہ میں شرکت کی اور نکاح میں شرکت کی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

7356 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 377 وفيه جميع بن ثوب الرحبي وهو بفتح الجيم وكسر الميم على المشهور

وقيل بالتصغير قال في البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: رواياته تدل على أنه ضعيف وبقي رجاله رجال الصحيح.

7357 - قال في المجمع جلد 3 صفحہ 200 رواه الطبراني والأوسط (139 مجمع البحرين) وفيه محمد بن حفص

الأوصابي وهو ضعيف.

أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَصَامَ يَوْمَهُ، وَعَادَ
مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَشَهِدَ نِكَاحًا وَجَبَتْ
لَهُ الْجَنَّةُ

سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ
قَاضِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ صَدِيقِي
بْنِ عَجَلَانَ

7358 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدَّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ،
ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ
نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ
عَبْدٍ يَصْرُعُ صَرَعَةً مِنْ مَرَضٍ إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْهَا
طَاهِرًا

7359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

سليمان بن حبيب محاربي
قاضی عمر بن عبدالعزیز
حضرت ابوامامہ صدیق بن

عجلان سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو کوئی آدمی بیماری
میں مرجائے تو اللہ عزوجل اسے اٹھائے گا اس حالت میں
کہ وہ گناہوں سے پاک ہوگا۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7358 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 302 رجاله ثقات . وهو حديث صحيح رواه أيضًا ابن أبي الدنيا والرويان

والضياء والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1595 .

7359 - رواه أحمد جلد 5 صفحہ 251 وابن حبان رقم الحديث: 257 قال في المجمع جلد 7 صفحہ 281 بعد أن نسبته الى

أحمد والطبرانی: رجالهما رجال الصحيح . رواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1602 .

حضور ﷺ نے فرمایا: اسلام کے کنڈے ہیں جب ایک کنڈا کم ہوگا تو لوگوں میں اس کی کمی ہوگی جو اس کے ساتھ ہے سب سے پہلے کمی فیصلہ کرنے میں اور آخری نماز نہ پڑھنے والا ہوگا۔

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَسْتَقْصَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةُ عُرْوَةٍ، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّهَتِ النَّاسُ بِأَلْتَى تَلِيهَا، فَأُولَئِهِمْ نَقْضُ الْحُكْمِ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مدائن والے اللہ کی راہ میں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے لیے چادر اور ان کی سرحد ہیں نہ خیرہ اندوزی کرو شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے اپنے بھائی کے سودا پر سودا نہ کرے اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے کوئی عورت اپنی بہن کا برتن نہ توڑے (یعنی طلاق دلو اگر خود اس سے نکاح کرے) سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔

7360 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْأَنْطَاطِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا خَالِدُ بْنُ الزَّبْرَقَانِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَهْلُ الْمَدَائِنِ الْجُلَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رِذَاءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَتَغْرُهُمْ، فَلَا تَغْلُوا عَلَيْهِمْ، وَلَا تَحْتَكِرُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبِيهِ، وَلَا تَكْتِفُ الْمَرْأَةُ إِنْاءَ أُخْتِهَا، فَكُلُّ رِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7361 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ

7360- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 81 وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث مجهول . ورواه المصنف في

مسند الشاميين رقم الحديث: 1603 .

7361- ورواه أبو داود رقم الحديث: 4779 وابن عساكر (1/493/17) والدولابی فی الکنی جلد 2 صفحہ 133

حضور ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں گھر کا ذمہ دار ہوں جو ریا کاری چھوڑ دے اگرچہ درست ہو اور جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق کے طور پر ہو اور جنت میں سب سے اوپر گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چار آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ عزوجل عرش کے اوپر سے لعنت کرتا ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں ایک وہ جو خود کو عورتوں سے محفوظ رکھتا ہے نہ شادی کرتا ہے نہ خواہش رکھتا ہے تاکہ اس سے اولاد نہ ہو ایک وہ آدمی جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا ہے اور عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے حالانکہ اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا ہے وہ جو مساکین کو پریشان کرنے والا ہے۔ حضرت خالد بن زبرقان نے کہا: جو ان کو مزاح کا نشانہ بنائے مساکین سے کہے: آ! میں تجھے دیتا ہوں پس جب مسکین آدمی اس کے پاس آئے تو اس سے کہے: میرے پاس تو کوئی شی ہی نہیں ہے

الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو الدِّمَشْقِيِّ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا أَبُو كَعْبٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

7362 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَأَمْنَتْ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتُهُ: الَّذِي يُحْصِنُ نَفْسَهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى لِأَنَّهُ لَا يُؤَلِّدُ لَهُ وَلَدًا، وَالرَّجُلُ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، وَقَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ ذَكَرًا، وَالْمَرْأَةُ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَقَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْتَى، وَمُضِلِّلُ الْمَسَاكِينِ قَالَ خَالِدُ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَعْنِي الَّذِي يَهْزَأُ بِهِمْ

وله شواهد . انظر سلسلة الصحيحة (273) لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 1594 .

7362 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 251 حماد بن عبد الرحمن الكعمكي عن خالد بن الزبرقان وكلاهما ضعيف . ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1604 .

(جو میں تجھے دوں) اور تُو کہے: کنویں سے بچ اور سواری سے بچ! حالانکہ اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہ ہو اور کوئی آدمی اس سے قوم کے گھر کے بارے میں سوال کرے تو وہ ان کے گھر کے علاوہ گھر کا راستہ لگا دے۔

يَقُولُ لِلْمَسْكِينِ: هَلَمْ أُعْطِيكَ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ قَالَ: لَيْسَ مَعِيَ شَيْءٌ، وَيَقُولُ لِلْمَكْفُوفِ: أَتَيْتِ الْبَيْتَ، أَتَيْتِ الدَّابَّةَ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ، وَالرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ دَارِ الْقَوْمِ، فَيُرِيهِ إِلَى غَيْرِهَا

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا: یہ دعا کر: اے اللہ! میں تجھ سے نفس مطمئن مانگتا ہوں، تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے فیصلہ پر خوش ہوں اور تیری عطا پر قناعت کرتا ہوں۔

7363 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْبُيُوتِيُّ، حَدَّثَنِي رَوَاحَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارَبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةٌ، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین باتوں میں سے ایک بات بھی جس میں ہو تو وہ اللہ کے سپرد ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے تو وہ اللہ کے سپرد ہے اگر مر جائے گا تو اللہ عزوجل اس کو جنت میں داخل کرے گا اگر گھر واپس آئے تو مال غنیمت ثواب لے کر واپس آئے گا ایک وہ آدمی جو مسجد میں ہو تو وہ اللہ کے سپرد ہے اگر مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں

7364 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبُيُوتِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارَبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ إِنْ تَوَفَّاهُ

7363 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 180، وفيه من لم أعرفه . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1598 .

7364 - ورواه أبو داود رقم الحديث: 2477، وإسناده صحيح . ورواه الحاكم جلد 2 صفحہ 73-74، وصححه ووافقه

الذهبي ورواه البيهقي جلد 9 صفحہ 166، والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1596 .

داخل کرے گا اور اگر گھر واپس آئے گا تو مالی غنیمت اور ثواب لے کر آئے گا ایک وہ آدمی جو اپنے گھر سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کے سپرد ہے۔

أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهٖ إِلَى أَهْلِهِ، فِيمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، إِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهٖ إِلَى أَهْلِهِ، فِيمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت سلمان بن حبیب محارب فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے نکلا جب میں حمص کے پاس سے گزرا تو میں سفر کے لیے کچھ خریدنے بازار کی طرف گیا جب میں نے مسجد کا دروازہ دیکھا تو میں نے کہا: اگر میں مسجد میں جاؤں اور دو رکعت پڑھوں۔ جب میں داخل ہوا تو میں نے حضرت ثابت بن معبد اور ابن ابوزکریا اور مکحول کو دیکھا دمشق کے لوگوں کے ایک گروہ میں جب میں ان کے پاس آیا میں ان کے پاس بیٹھا انہوں نے کچھ گفتگو کی پھر انہوں نے کہا: ابو امامہ باہلی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہم ان کے پاس آئے وہاں ایک بزرگ بہت کمزور اور زیادہ عمر کا تھا تو

7365 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمِطِاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ غَارِيًّا، فَلَمَّا مَرَرْتُ بِحِمَصَ، خَرَجْتُ إِلَى الشُّوقِ لِأَشْتَرِيَ مَا لَا غِنَى لِمُسَافِرٍ عَنْهُ، فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: لَوْ أَنِّي دَخَلْتُ فَرَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا دَخَلْتُ نَظَرْتُ إِلَى ثَابِتِ بْنِ مَعْبُدٍ، وَابْنِ أَبِي زَكْرِيَّا، وَمَكْحُولٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَتَحَدَّثُوا شَيْئًا، ثُمَّ قَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَبَا

7365 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 354 'وفيه كلثوم بن زياد وبكر بن سهل الدميطي وكلاهما وثق وفيه ضعف وبقيّة

رجال رجال الصحيح . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1597.

أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَقَامُوا وَقُمْتُ مَعَهُمْ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ رَقَّ وَكَبِرَ، وَإِذَا عَقْلُهُ وَمِنْطَقُهُ أَفْضَلُ مِمَّا نَرَى مِنْ مَنْظَرِهِ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا حَدَّثَنَا أَنْ قَالَ: إِنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا مِنْ بَلَاغِ اللَّهِ، إِنَّا كُفِّمُكُمْ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَإِنَّ أَصْحَابَهُ قَدْ بَلَغُوا مَا سَمِعُوا، فَبَلَغُوا مَا تَسْمَعُونَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، أَوْ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ جِسْرًا لَهُ سَبْعُ قَنَاطِرَ عَلَى أَوْسَطِهَا الْقَضَاءُ، فَيَجَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَنْطَرَةِ الْوُسْطَى قِيلَ لَهُ: مَاذَا عَلَيْكَ مِنَ الدِّينِ؟ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا) (النساء: 42)، قَالَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَيَقَالُ لَهُ: اقْضِ دَيْنَكَ، فَيَقُولُ: مَا لِي شَيْءٌ، وَمَا أَذْرِي مَا أَقْضِي؟ فَيَقَالُ: خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَا زَالَ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا تَبَقِيَ لَهُ حَسَنَةٌ حَتَّى إِذَا أَفْنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قِيلَ لَهُ فَبِمَتِ حَسَنَاتُهُ، يُقَالُ: خُذُوا مِنْ سَيِّئَاتِ مَنْ يَطْلُبُهُ، فَرَكِبُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّ رَجُلًا يَجِيئُونَ بِأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، فَمَا يَزَالُ يُؤْخَذُ لِمَنْ يَطْلُبُهُمْ

اس کی سمجھ اور اس کی بول چال بہتر تھی جو ہم اس کو دیکھ رہے تھے سب سے پہلے جو بات ہم کو بتائی کہ بے شک تمہاری یہ مجلس اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے اور اس کی حجت قائم کرنے کی مجلس ہے۔ بے شک رسول کریم ﷺ نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو آپ ﷺ کی طرف بھیجا گیا اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام نے جو سنا وہ پہنچا دیا۔ پس تم جو سنتے ہو اسے پہنچاؤ۔ تین آدمی ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک پر خدا ہے ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں نکلا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے یا اجر یا ثواب پائے یا غنیمت حاصل کر لے وہ آدمی جو اس کے گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوا۔ پھر فرمایا: جہنم میں ایک بڑا پل ہے جس کے ساتھ چھوٹے پل ہیں ان کے درمیان کے اوپر قضا ہے۔ پس بندے کو لایا جائے گا یہاں تک کہ جب درمیان تک پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا: تیرے اوپر کتنا قرض ہے؟ اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے“۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کہے گا: اے میرے رب! مجھ پر اتنا قرض ہے۔ اس سے بولا جائے اپنا قرض ادا کر۔ پس وہ کہے گا: میرے پاس کوئی شی نہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کیسے ادا کروں؟ پس کہا جائے گا: اس کی نیکیاں لے لو اس کی نیکیاں لینے کا سلسلہ شروع ہو گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی باقی نہیں رہ جائے گی حتیٰ کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا: اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں۔ کہا جائے گا: طالب کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دو۔ پس مجھے یہ بات

حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُمْ حَسَنَةٌ

پہنچی ہے کہ کچھ لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ پس جب ان کی نیکیاں لینے کا سلسلہ شروع ہو گا ان کیلئے جو ان سے قرض مانگ رہے ہوں گے تو ان کیلئے کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب بنی عباس کے مشرق کی جانب سے جھنڈے نکلیں گے اس کا اول اور آخر روک لیا جائے گا تم ان کی مدد نہ کرنا جو ان کے جھنڈا کے نیچے چلے گا اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا اللہ عزوجل ان کو جہنم میں داخل کرے گا خبردار! اللہ کی مخلوق میں بدتر ہیں وہ ان کی اتباع کرنے والے بھی بدترین اللہ کی مخلوق ہیں وہ چال کریں گے وہ مجھ سے ہیں خبردار میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں ان کی نشانی لمبے بال ہوں گے اور سیاہ کپڑے پہنیں گے ان کے گروہ میں بیٹھنا بازار میں ان سے خرید و فروخت نہ کرنا ان کو راستہ نہ بتانا اور ان کو پانی نہ پلانا نیز آسمان والے ان کی تکبیر سے تکلیف پاتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7366 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ

الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُوصِلِيُّ، ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مَخِيمَةَ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَخْرُجُ رَايَاتٌ مِنَ الْمَشْرِقِ لِبَنِي الْعَبَّاسِ، أَوَّلُهَا مَثْبُورٌ، وَآخِرُهَا مَثْبُورٌ، لَا تَنْصُرُوهُمْ لَا نَصْرَهُمُ اللَّهُ مَنْ مَشَى تَحْتَ رَايَةٍ مِنْ رَايَاتِهِمْ أَدْخَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَهَنَّمَ، أَلَا أَنَّهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ، وَاتَّبَاعُهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مِنِّي أَلَا إِنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ عَلامَتُهُمْ، يُطِيلُونَ الشُّعُورَ، وَيَلْبَسُونَ السَّوَادَ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فِي الْمَلَأَ، وَلَا تُبَايَعُوهُمْ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا تُهْدُوهُمْ الطَّرِيقَ، وَلَا تُسْقُوهُمْ الْمَاءَ يَتَأَذَى بِتَكْبِيرِهِمْ أَهْلُ السَّمَاءِ

7367 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ

7366 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 245 وفيه عبسة ابن أبي صغيرة وقد اتهم بالكذب . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1599 .

7367 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 319 وفيه عبسة بن أبي صغيرة وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين

سليمان بن حبيب المصنف عن أبي امامة صدى بن عجلان

حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب تمہارے اور روم والوں کے درمیان چار معاہدے ہوں گے چوتھا آل ہرقل کے ایک آدمی کے ہاتھ پر ہوگا جو لگا تار سات سال رہے گا۔ عبد القیس کے ایک آدمی نے عرض کی: جس کا نام مستور بن فلان تھا: یا رسول اللہ! اس دن لوگوں کا امام کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جو چالیس سال کا جوان ہوگا اس کا چہرہ چمکتے ستارے کی طرح ہوگا اس کے دائیں رخسار پر سیاہ نکتہ ہوگا اس نے دو چادریں پہنی ہوں گی محسوس ایسے ہو گا کہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے دس سال حکومت کرے گا خزانہ نکالے گا اور شرک والوں کے شہروں کو فتح کرے گا۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں پس فارغ ہونے والا جب نماز سے سلام پھیرتا ہے اور یہ دعا نہیں کرتا ہے: اے اللہ! مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ اور جنت میں داخل کر اور حورالعین سے میری شادی کر! تو جہنم کہتی ہے: اے ہلاکت اس پر یہ اللہ کی جہنم سے پناہ

الرَّازِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَبَّسَةُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرُّومِ أَرْبَعُ هَدَنَ، تَقُومُ الرَّابِعَةُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هِرَقْلَ يَذُومُ سَنَعِ سِنِينَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَقُولُ لَهُ: الْمُسْتَوْدُ بْنُ خَيْلَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: مَنْ وَلِدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَانَ وَجْهُهُ كَوَكَبٍ ذَرِيٍّ، فِي خِدِّهِ الْأَيْمَنِ خَالٍ أَسْوَدُ، عَلَيْهِ عِبَاءُ ثَانٍ قَعَوَاتَانِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَمْلِكُ عَشْرِينَ سَنَةً يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرْكِ

7368 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَسْرُوحٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُعَلَّلُ بْنُ نَفِيلٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْصَنِ الْعُكَّاشِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ

رقم الحديث: 1600.

7368 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 148، وفيه محمد بن محسن العكاشي وهو متروك. وكذا قال جلد 10 صفحہ 109،

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1601. وفي المخطوطة قال الملائكة بدل قالت النوا وهو خطأ

والنصوب من مسند الشاميين.

مانگنے سے عاجز رہا ہے؟ جنت کہتی ہے: اے ہلاکت! اللہ سے جنت مانگنے سے عاجز رہا۔ حورالعین کہتی ہے: اس کے لیے ہلاکت! حورالعین سے شادی کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے سے عاجز رہا ہے۔

الدُّعَاءُ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، وَرَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، قَالَتِ النَّارُ: يَا وَيْحَ هَذَا، أَعْجَزَ أَنْ يَسْتَجِيرَ اللَّهَ مِنْ جَهَنَّمَ؟ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا وَيْحَ هَذَا، أَعْجَزَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ؟ وَقَالَتِ الْحُورُ الْعِينُ: يَا وَيْحَ هَذَا، أَعْجَزَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يُزَوِّجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ؟

راشد بن سعد مقرانی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

رَاشِدُ بْنُ سَعْدِ الْمُقْرَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ لیتا ہے۔

7369 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ماں کا ذبح بچہ کا ذبح ہے۔

7370 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

7369 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 268 'واسنادہ حسن . قلت وراشد بن سعد وان كان ثقة فانه كثير الارسال كما قال الحافظ . ومعاوية صدوق له اوهام وعبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط وكان فيه غفلة فاني للحديث الحسن' وزوى عن بعض الصحابة الآخرين وكلها ضعيفة' ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2042' والبيهقي في الزهد الكبير رقم الحديث: 259' والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 663 .

7370 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 35 'رواه البزار (2-1/105) ورواه البزار' والطبرانی في الكبير وفيه بشر بن عماره وقد وثق وفيه ضعف . وله شواهد .

بِشْرِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ
رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ذِكَاةُ الْجَنِينِ ذِكَاةُ أُمِّهِ

7371 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ الْوَلِيدِ
الْبُقَعْقَاعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَقِيتُ
أَبُو أُمَامَةَ فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ
قَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ
قَلْبِي

7372 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ دَحِيمُ
الْبَدَمَشْقِيُّ ثنا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا
يَحْيَى بْنُ الْحَمَّانِيِّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ،
كَلاَهُمَا، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ
بْنِ سَعْدٍ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَا
أُمَامَةَ يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَقُولُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ

حضرت راشد بن سعد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا پھر فرمایا: رسول
اللہ ﷺ مجھے ملے تھے میرا ہاتھ پکڑا پھر فرمایا: اے
ابو امامہ! ایمان والوں میں سے کچھ ہیں جن کے لیے میرا
دل نرم ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا سکھائی:
”اللّٰهُمَّ اطعمتنا الى آخره“۔

7371 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 67 الا انه قال من يلين لي قلبه . قال في المجمع جلد 1 صفحہ 63 رجال أحمد رجال

الصحيح . وقال جلد 10 صفحہ 276 رواه الطبرانی ورجاله وثقوا . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 850 .

7372 - أبو بكر ابن أبي مریم ضعیف .

قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَنَا وَسَقَيْتَنَا وَأَرَوَيْتَنَا، فَلَكَ
الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَفْنَى
عَنْكَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اس کی
مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ
الْحِمَصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِثْلَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: آسمان کے نیچے کوئی چیز ایسی نہیں
ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہو وہ بڑا ہے اللہ
کے ہاں سوائے ایسی خواہش نفس سے جس کی پیروی کی
جاتی ہے۔

7373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ
سَعِيدٍ أَبُو عَمَرَ الصَّرِيرُ الْكُوفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
يُونُسَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْخَصْبِ بْنِ جَحْدَرٍ، عَنْ رَاشِدِ
بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ
مِنْ إِلَهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مِنْ هَوَى مُتَّبَعٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: پانی کو کوئی شی ناپاک نہیں
کرتی ہے سوائے اس کے کہ اس کی خوشبو یا ذائقہ بدل
جائے۔

7374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ
مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ
الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيُّ، ثنا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي

7374 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 521 والبيهقي جلد 1 صفحہ 259 مع ذكر لونه ورواه الدارقطني جلد 1 صفحہ 28-29

والمصنف في الأوسط (35 مجمع البحرين) والطحاوي جلد 1 صفحہ 16 كاللفظ المصنف هنا ورشد بن سعد

ضعيف كما قال في المجموع جلد 1 صفحہ 214 .

أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ
أَوْ طَعْمِهِ

ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7375 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَعَاوِيَةَ الْعُتَيْبِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُبَيْرٍ الْجَمْعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
رَجَاءٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ السَّفَرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ
ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ تَعَالَى:
إِذَا قَبَضْتُ كَرِيمَةَ عَبْدِي، وَهَوَّيْتُهَا ضَيْئًا،
فَحَمَدَنِي عَلَى ذَلِكَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ
الْجَنَّةِ

7376 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي
الْمِصْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْجَمْعِيُّ، ثنا
أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الشَّيْبَانِيُّ،

حضرت ضمرة بن حبيب، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: جب میں
اپنے بندہ کی کوئی محبوب شے لے لوں اور وہ شے عمدہ ہو اور وہ
اس کے باوجود میری تعریف کرے تو میں اس کے لیے عام
ثواب نہیں دوں گا بلکہ جنت دوں گا۔

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول
ہوں اور وہ پیشاب بند ہونے کی وجہ سے نماز کے لیے نہ

7375 - فيه السفر بن نسير وهو ضعيف وعبد الله بن رجاء هو الحمصي مجهول واسحاق اتهم: قال في المجموع جلد 2
صفحة 310 وفيه السفر بن نسير ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطني . وهو تعليل قاصر .

7376 - قال في المجموع جلد 1 صفحه 89 وقد روى ابن ماجه رقم الحديث: 617 وفيه السفر بن نسير وعبد الله بن
صالح وقد وثقا وفيهما ضعف وبقي رجاله وثقوا . وقال جلد 8 صفحه 43 رواه الطبرانی وأحمد جلد 5 صفحه 261.
260,250 وفي اسناد الأول السفر بن نسير وثقه ابن حبان وضعفه غيره وعبد الله بن رجاء الشيباني لم أعره
وبقية رجاله ثقات . قلت في اسناده عبد الله بن صالح بل معاوية بن صالح .

آئے یہاں تک کہ وہ درد چلی جائے۔

جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ لوگوں کی امامت کروائے وہ دعا کرتے وقت خود کو خاص نہ کرے۔
جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لے اور سلام کر لے جب اس نے گھر کے اندر جھانک لیا تو گویا وہ داخل ہو گیا۔
حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں فوت ہو گیا تو اس کیلئے کفن نہ ملا تو صحابہ رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا: اس کے کپڑے میں دیکھو! ایک یا دو دینار ملے آپ نے فرمایا: یہ دو سانپ ہیں تم خود اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ پھر آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

یزید بن شریح حضرمی حضرت

ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

عَنِ الشَّفَرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ صَهَبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ حَاقِنًا حَتَّى يَتَخَفَّفَ

7377 - وَمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ

اللَّهِ، فَأَمَّ قَوْمًا فَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِالذُّعَاءِ

7378 - وَمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ

اللَّهِ، فَلَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَيُسَلِّمَ، فَإِذَا نَظَرَ فِي قَعْرِ الْبَيْتِ فَقَدْ دَخَلَ

7379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

أَبِي خَيْثَمَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الرَّقِّيُّ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: تَوَفَّى رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنٌ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى دَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَأُصِيبَ دِينَارٌ أَوْ دِينَارَانِ، فَقَالَ: كَيْتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِلَيَّ قَضَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

يَزِيدُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7380 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

عن أبي امامة

حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی پیشاب بند ہونے کی وجہ سے نماز کے لیے نہ آئے یہاں تک کہ وہ ہلکی ہو جائے۔

الْبِمَاطِي، وَمُطْلَبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السَّفَرِ بْنِ بُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ، وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ

7381 - وَمَنْ أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ

بَغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ذَمَّرَ

7382 - وَمَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ، فَخَصَّ

نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ

أَبُو عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7383 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ

أَبِي عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ:

تُرِفِي رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ

لَهُ وَفَاءٌ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: صَلُّوا عَلَى

صَاحِبِكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: أَنَا أَقْضِي

عَنْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جس نے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکا تو اس نے نقصان کیا۔

جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ صرف اپنے لیے دعا کرے دوسرے کے علاوہ تو اس نے ان سے خیانت کی۔

ابو عتبہ کنڈی حضرت ابو امامہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں فوت ہو گیا اس نے اپنے اوپر دو درہم قرض چھوڑا اس کو ادا کرنے کیلئے روپیہ پیسہ کوئی نہیں تھا۔ حضور ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا: تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ کھڑے ہوئے اور عرض کی: میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ پھر حضور ﷺ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

فَصَلَّى عَلَيْهِ

7384 - وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا تُوَفِّيَ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَيْنِ

7385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ

مَنْدَه الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ
رُسْتَه، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا مُعَاوِيَةُ
بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَتَعْرِفُ أَمَّتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ:
مَنْ رَأَيْتَ، وَمَنْ لَمْ تَرَ؟ قَالَ: مَنْ رَأَيْتَ؟ وَمَنْ
لَمْ أَرَ؟ قُلْتُ: بِمَاذَا؟ قَالَ: غُرٌّ مُحْتَلُونَ مِنْ

آثَارِ الرُّضْوَعِ

حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّحَبِيُّ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7386 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

الْبِزْمَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ
الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يَسْتَمْتِعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللَّهِ

حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّحَبِيُّ

یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے
زمانہ میں فوت ہوا اس نے دو درہم قرض چھوڑا
حضور ﷺ نے فرمایا: دو سانپ۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن آپ
اپنی امت کو پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! میں
نے عرض کی: صرف ان کو جن کو آپ نے دیکھا یا ان کو بھی
جن کو آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا: جن کو دیکھا
ہے اور جن کو نہیں دیکھا! میں نے عرض کی: کیسے؟ آپ نے
فرمایا: ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔

حبيب بن عبيد الرحبي حضرت

ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات
کی امید رکھتا ہے وہ ریشم سے فائدہ نہ اٹھائے۔

7387 - حَدَّثَنَا وَإِلَهُ بْنُ الْحَسَنِ

الْعَرَفِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا بَقِيعَةُ، عَنْ أَبِي
بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: لَا يَسْتَمِيعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ كَانَ يَرْجُو أَيَّامَ
اللَّهِ

7388 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوَاطِي، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ
صَالِحِ الْوَحَاطِي، ثَنَا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبِ الرَّحْبِيِّ،
عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ
رَجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ الْوَانَ الطَّعَامَ،
وَيَشْرَبُونَ الْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ الْوَانَ
الْبَاسِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ
أُمَّتِي

7389 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

عَرِيقِ الْجُمُصِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات
کی امید رکھتا ہے وہ ریشم سے فائدہ نہ اٹھائے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب میری امت سے کچھ لوگ
ایسے ہوں گے جو کئی طرح کا کھانا کھائیں گے اور کئی رنگوں
کے شروبات پیئیں گے اور مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے
اور شوخ گفتگو کریں گے یہ میری امت کے بدترین لوگ
ہوں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب میری امت سے کچھ لوگ

7387 - ورواہ احمد (267-268) 'وأشار المنذرى فى الترغيب جلد 4 صفحہ 167 الى ضعفه . وقال فى المجمع جلد 5

صفحہ 131 'وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط . ورواه المصنف فى مسند الشاميين رقم الحديث: 1460 .

7388 - قال فى المجمع جلد 10 صفحہ 250 رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وقد وثق والجمهور على

تضعيفه . وحسنه شيخنا لشواهد . ورواه من طريق جميع به تمام فى الفوائد (264-265) 'وانظر سلسلة

الصحيحة جلد 4 صفحہ 512-515 .

7389 - ورواه المصنف فى الأوسط رقم الحديث: 2536 'وفى مسند الشاميين رقم الحديث: 1458 .

ایسے ہوں گے جو کئی طرح کا کھانا کھائیں گے اور کئی رنگوں کے مشروبات پیئیں گے اور مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے اور شوخ گفتگو کریں گے یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔

الْأَوْصَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ اللِّبَاسِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ أَوْلَيْكَ شِرَارُ أُمَّتِي

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا سکھائی آپ نے فرمایا: تو پڑھ: ”اللّٰهُمَّ اَنْتَ اطْعَمْتَنَا اِلٰى آخِرِهِ“۔

7390 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَحِيمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ السَّرْحِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الطَّعَامِ، فَقَالَ قُلْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَطْعَمْتَنَا، وَأَرْوَيْتَنَا، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرُ مَكْفُورٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

شرح بن عبید حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

شَرِيحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ

7391 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمَّصِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

7391 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 194، وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو ضعيف . وكذا قال جلد 5

صفحہ 220 . قال في المجمع جلد 5 صفحہ 215 قلت حديث أبي أمامة رواه أبو داود رقم الحديث: 3868 رواه

أحمد جلد 6 صفحہ 4 والطبرانی ورجاله ثقات . قلت بل عن الكل رواه أبو داود . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 1660، 1645 .

معاملہ آپ کی امت میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! عرض کی: ہم کو ان کے متعلق وصیت فرمائیں! آپ نے قریش کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم میرے بعد میری امت پر مشقت ڈالو۔

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ نَفِيرٍ، وَكَثِيرُ بْنُ مَرْثَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدَى كَرَبَ، وَأَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِي قَوْمِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَوَصَّيْهُمْ بِنَا، فَقَالَ لِقُرَيْشٍ: إِنِّي أُحَذِّرُكُمْ اللَّهَ أَنْ تَشْقُوا عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي.

7392 - ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَأَذُوا إِلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ، فَإِنَّ الْأَمِيرَ مِثْلُ الْمَجْنُونِ يُتَقَى بِهِ، فَإِنْ صَلَحُوا وَاتَّقُوا وَأَمَرُواكُمْ بِخَيْرٍ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا وَأَمَرُواكُمْ فَعَلَيْهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وَإِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيَّةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ

پھر لوگوں سے فرمایا: میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے ان کی اطاعت کرو کیونکہ ان کی مثال ڈھال کی طرح ہے اس ذریعہ سے بچا جاتا ہے اگر نیک ہوں اور تم ڈریں اور تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو تمہارے لیے اور ان کے لیے ثواب ہوگا اور اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تو تمہیں ثواب ہوگا اور تم ان سے بری ہو گے کیونکہ حکمران لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے تو ان کو فاسد کرتا ہے۔

7393 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى، التَّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ، وَعَمْرُو بْنِ الْأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدَى كَرَبَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيَّةَ فِي

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حکمران لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے تو ان کو فاسد کرتا ہے۔

النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ

7394 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ضَمْصَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ
بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَثِيرِ بْنِ
مُرَّةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَحْيَارَ
أَيِّمَةِ قُرَيْشٍ خِيَارُ أَيْمَةِ النَّاسِ

مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7395 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

الْدِّمِاطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا
إِدْرِيسُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ
يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَهُ. قَالَ: فَمَا عَلِمْتُ
أَحَدًا سَبَقَهُ بِالسَّلَامِ إِلَّا يَهُودِيًّا مَرَّةً اخْتَبَأَ لَهُ
خَلْفٌ أَسْطُورَانِيَّةٌ، فَخَرَجَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ
أَبُو أُمَامَةَ: وَيْحَكَ يَا يَهُودِيٌّ، مَا حَمَلَكَ عَلَى
مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ رَجُلًا تَكْثِرُ السَّلَامَ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: قریش کے ائمہ میں سے بہتر وہی
ہیں جو لوگوں کے ائمہ میں بہتر ہیں۔

محمد بن زیاد الہانی، حضرت ابوامامہ
سے روایت کرتے ہیں

حضرت محمد بن زیاد الہانی فرماتے ہیں کہ حضرت
ابوامامہ رضی اللہ عنہ ہر ملنے والے کو سلام کرتے، مجھے معلوم
نہیں کہ کوئی آپ سے پہلے سلام کرتا تھا سوائے ایک
یہودی کے کہ ایک مرتبہ وہ ایک ستون کے پیچھے ہوا وہ نکلا
تو اس نے آپ پر سلام کیا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ
نے اسے کہا: اے یہودی! تیرے لیے ہلاکت ہو! تُو نے
ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسے کرنے پر تجھے کس نے ابھارا ہے؟
اس نے کہا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ سلام
کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ فضیلت ہے، میں نے اس

7394 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 195 واسنادہ حسن . ورواه المصنف مطبوعاً في مسند الشاميين رقم

الحديث: 1644 . ومحمد بن اسماعيل ضعيف .

7395 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 33 رواه الطبرانی عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي وقال غيره

مقارب الحديث . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 817 .

فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فَضْلٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَخَذَ بِهِ، فَقَالَ
أَبُو أَمَامَةَ: وَيَحْكُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ
السَّلَامَ تَحِيَّةً لِأُمَّتِنَا، وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا

7396 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ
الْدِّمَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَأَى سِجَّةَ الْحَرْثِ فَقَالَ: لَا تَدْخُلْ
عَلَى قَوْمٍ إِلَّا أَذَلَّهُ اللَّهُ

7397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ
الْأَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ح
وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ،
وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا: ثنا
هَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ،
قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ،

میں پہل کرنا پسند کیا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے
فرمایا: تیرے لیے ہلاکت ہو! میں نے رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا: اللہ عزوجل نے سلام کو ہماری امت
کے لیے برکت اور ہمارے ذمیوں کے لیے امن بنایا ہے۔
حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے کھیتی میں چلایا جانے والا ہل دیکھا فرمایا:
جن لوگوں کے پاس ٹو ہوتا ہے ان کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میرے رب نے مجھ
سے وعدہ کیا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و
عذاب کے جنت میں داخل کرے گا، لیکن میرے رب
کے چلوؤں میں سے میرے رب کی رحمت کے تین چلو۔

7396 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 816. وهو عند البخاري رقم الحديث: 2321 والبيهقي في

شرح السنة رقم الحديث: 4060.

7397 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 820 وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 589 ورواه ابن

أبي شيبة في المصنف جلد 11 صفحہ 471 وأحمد جلد 5 صفحہ 268 والترمذي رقم الحديث: 2554 وابن ماجه

رقم الحديث: 4286 وما بين المعكوفين منها.

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، وَثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ مِنْ حَثِيَّاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ مِهْرَانَ الدَّقَاقِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ مُضْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو غسل کرتا ہے عرض کی: یا رسول اللہ! غسل کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ اس کو نیک اعمال کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اس کو موت دیتا ہے۔

7398 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا أَبُو تَيْبٍ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمَاصِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا غَسَلَهُ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا غَسَلَهُ؟ قَالَ: يُفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا، ثُمَّ يُقْبِضُهُ عَلَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

7399 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ

7398 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 215 رواه الطبرانی من طرق وفي بعضها غسله بدل طهره وفي إحدى طرقه بقية بن الوليد وقد صرح بالسماع وبقية رجالها ثقات . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 819 وله شواهد .

7399 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 165 'واسناده جيد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 823 'وأحمد جلد 5 صفحہ 267 'والخراطي رقم الحديث: 37 'وقال شيخنا في الارواء جلد 3 صفحہ 404 .

رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی جدعاء نامی اونٹنی پر یہ فرما رہے تھے آپ نے فرمایا: تمہیں پڑوسی کے متعلق نصیحت کرتا ہوں، کئی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، میں نے دل میں کہا کہ کہیں آپ انہیں وراثت میں وارث نہ بنادیں۔

الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَقُولُ: أَوْصِيكُمْ بِالْجَارِ حَتَّى أَكْثَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيُورَثُهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں سلام عام کرنے کا حکم دیا۔

7400 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَّابِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْفِثَ السَّلَامَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں سلام عام کرنے کا حکم دیا۔

7401 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ خَالِدِ بْنِ حَبِيبَانَ الرَّقِئِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِشْرِ الْكُوفِيُّ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْفِثَ السَّلَامَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میں عرب والوں سے

7402 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الصُّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ،

7400 - ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3693 قال في الزوائد: اسناده صحيح رجاله ثقات . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 821 .

7401 - ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 8 صفحہ 623 .

7402 - قال في المجمع جلد 9 صفحہ 305 'واسناده حسن . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 827 .

اور صہیب روم والوں سے بلال حبشہ والوں سے اور سلمان فارس والوں میں سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ عزوجل ان کو قیامت کے دن نور کے منبروں پر بٹھائے گا ان کے چہروں پر نور چھایا ہوگا یہاں تک کہ مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی بندہ کو قرآن کی ایک آیت سکھائی وہ اس کا آقا ہے تو اس بندہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو سوا کرے اور نہ اس پر کسی کو ترجیح دے۔

حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَصُهَيْبُ سَابِقُ الرُّومِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْحَبَشَةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَسَلْمَانٌ سَابِقُ الْفُرْسِ إِلَى الْجَنَّةِ

7403 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُجْلِسُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، وَيَغْشَى وُجُوهَُهُمُ النُّورُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ

7404 - حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ رَزِينٍ اللَّاذِقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عِيَّاشٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة

7403- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 277 'واسنادہ جید . ورواہ المصنف فی مسند الشامیین رقم الحدیث: 826 . وقال

فی الترغیب جلد 5 صفحہ 238 أيضًا اسنادہ جید .

7404- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 128 'وفیه عبید بن رزین اللاذقی ولم أر من ذكره . ورواہ المصنف فی مسند

الشامیین رقم الحدیث: 818 .

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ مَوْلَاهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْذُلَهُ، وَلَا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں کو تعلیم دو کیونکہ وہ تعلیم حاصل کریں گے۔

7405 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، حَدَّثَنِي جَدِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَابُوا الْخَيْلَ، فَإِنَّهَا تُعْتَبُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: تمہیں خضر کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: حضرت خضر ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھے ایک مکاتب آدمی نے آپ کو دیکھا اس نے کہا: مجھے صدقہ دیں! اللہ آپ کو برکت دے! حضرت خضر نے فرمایا: میں اللہ پر ایمان لایا جو امر

7406 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عِمْرَانَ الْكِنْدِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقِّي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَطَّابُ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي

7405 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 262 رواه الطبرانی من رواية ابراهيم بن العلاء الزبيدي عن بقية وبقيّة مدلس' وسأل ابن جوصا محمد بن عوف عن هذا الحديث فقال: رأيته على ظهر كتاب ابراهيم ملحقاً فأنكرته فقلت له فتركه . قال: وهذا من عمل ابنه محمد بن ابراهيم كان يسوي الأحاديث وأما أبوہ فشيخ غير متهم وقال فيه ابو حاتم: صدوق ووثقه ابن حبان . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 833 .

7406 - ورواه أبو نعيم من طريق المصنف وأورده الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء جلد 2 صفحہ 224-225 وقال: هذا حديث رفعه خطأ والأشبه أن يكون موقوفاً وفي رجاله من لا يعرف قاله أعلم . وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر من طريق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقيّة . وقال في المجموع جلد 8 صفحہ 213 ورجاله موثقون إلا أن بقيّة مدلس . وكذا في جلد 3 صفحہ 103 . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 832 من الطريق الأولى . قال الحافظ في الإصابة جلد 2 صفحہ 298 وسند هذا الحديث حسن لولا غنعة بقيّة .

أَمَامَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أُخَذُّكُمْ
 عَنِ الْخَضِرِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
 بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَمْشِي فِي سُوقٍ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ، أَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتَّبٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ
 عَلَيَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، فَقَالَ الْخَضِرُ: آمَنْتُ
 بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءٌ
 أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ الْمُسْكِينُ: أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ
 لِمَ تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ؟ فَإِنِّي نَظَرْتُ السَّمَاءَ فِي
 وَجْهِكَ، وَرَجَوْتُ الْبَرَكَاتِ عِنْدَكَ، فَقَالَ
 الْخَضِرُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ
 إِلَّا أَنْ تَأْخُذَنِي فَيَسْعَنِي، فَقَالَ الْمُسْكِينُ:
 وَهَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ الْحَقُّ أَقُولُ، لَقَدْ
 سَأَلْتَنِي بِأَمْرِ عَظِيمٍ، أَمَا إِنِّي لَا أُخَيِّبُكَ بِوَجْهِ
 رَبِّي بَعْنِي، قَالَ: فَقَدَّمَهُ إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَهُ
 بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَمَكَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي زَمَانًا
 لَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا
 ابْتَعْتَنِي الْيَمَاسَ خَيْرٍ عِنْدِي، فَأَوْصِنِي بِعَمَلٍ
 قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ
 ضَعِيفٌ، قَالَ: لَيْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ، قَالَ: فَقُمْ
 فَانْقِلْ هَذِهِ الْحِجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَنْقُلُهَا دُونَ
 سِتَّةِ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ لِبَعْضِ
 حَاجَتِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ نَقَلَ الْحِجَارَةَ فِي
 سَاعَةٍ، فَقَالَ: أَحْسَنْتُ وَأَجْمَلْتُ، وَأَطَقْتُ مَا

اللہ نے چاہا میرے پاس کوئی شی تجھے دینے کے لیے نہیں
 ہے۔ مسکین نے کہا: میں اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں آپ
 مجھے صدقہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میں نے آپ کے
 چہرے میں دیکھا ہے اور میں آپ سے برکت کی امید رکھتا
 ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا: میں اللہ پر ایمان لایا میرے
 پاس کوئی شی نہیں ہے جو تمہیں دوں سوائے اس کے کہ مجھے
 پکڑو اور بیچ دو۔ مسکین نے کہا: کیا یہ درست ہے؟ حضرت
 خضر نے فرمایا: جی ہاں! میں حق کہتا ہوں آپ نے مجھ
 سے بڑے امر کے بدلے سوال کیا ہے لیکن میں اپنے رب
 کی رضا کے بدلے تجھے بے مراد نہیں کروں گا، تو مجھے
 فروخت کر۔ وہ انہیں لے کر بازار گیا اور انہیں چار سو درہم
 کے بدلے فروخت کیا۔ پس خریدنے والے کے پاس
 ایک عرصہ رہے اس نے آپ سے کوئی کام نہ لیا۔ پس
 آپ نے اس سے فرمایا: بے شک تو نے میرے پاس خیر
 تلاش کرنے کو مجھے خریدا ہے پس مجھے کسی کام کا حکم دیں۔
 اس نے جواب دیا: میں ناپسند کرتا ہوں کہ تیرے اوپر
 مشقت ڈالوں کیونکہ تو زیادہ عمر والا کمزور آدمی ہے۔ فرمایا:
 مجھے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے! اس نے کہا: پھر اٹھ کر یہ
 پتھر ہی ادھر رکھ دیجئے! جبکہ اس پتھر کو پورے دن میں چھ
 آدمی منتقل کیا کرتے تھے۔ پس وہ آدمی اپنے کسی کام کیلئے
 چلا گیا پھر وہ واپس آیا تو حال یہ تھا کہ آپ ایک گھڑی میں
 اسے منتقل کر چکے تھے۔ اس نے کہا: تو نے بہت اچھا اور
 خوبصورت کام کیا اور آپ نے اتنی طاقت کا مظاہرہ کیا جتنا
 کہ میں آپ کے اندر طاقت دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرمایا: پھر

لَمْ أَرَكَ تُطِيقُهُ. قَالَ: ثُمَّ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْسَبُكَ أَمِينًا، فَأَخْلَفَنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنَةً. قَالَ: فَأَوْصِنِي بِعَمَلٍ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. قَالَ: لَيْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ، قَالَ: فَاصْطِرِبْ مِنَ السَّيِّئِ لِيَتَنِي حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ. قَالَ: فَسَمَضَى الرَّجُلُ لِسَفَرِهِ فَرَجَعَ الرَّجُلُ، وَقَدْ شَبَدَ بِنَاءَهُ، فَقَالَ: أَسَأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ مَا سَبِيلُكَ، وَمَا أَمْرُكَ؟ قَالَ: سَأَلْتَنِي بِوَجْهِ اللَّهِ، وَوَجْهُ اللَّهِ أَوْفَعُنِي فِي الْعُبُودِيَّةِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: سَأَخْبِرُكَ مَنْ أَنَا، أَنَا الْخَضِرُ الَّذِي سَمِعْتَ بِهِ سَأَلَنِي مُسْكِينٌ صَدَقَةً، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيَهُ، فَسَأَلَنِي بِوَجْهِ اللَّهِ، فَأَمَّا كُنْتُ مِنْ رَقِيتِي فَبَاعَنِي، وَأَخْبِرُكَ أَنَّهُ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ، فَرَدَّ سَأَلَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ وَقَفَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِلْدُهُ وَلَا لَحْمَ لَهُ وَلَا عَظْمَ يَتَقَعَّقُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، شَقَقْتُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أَغْلَمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، أَحْسَنْتَ وَأَبْقَيْتَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا نَبِيَّ اللَّهِ اخْكُمْ فِي أَهْلِي وَمَالِي بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ أَوْ أَخْبِرْكَ، فَأَخْلَى سَبِيلَكَ، فَقَالَ: أَحِبُّ أَنْ تُخْلَى سَبِيلِي فَأَعْبُدَ رَبِّي فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَقَالَ الْخَضِرُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْفَعُنِي فِي الْعُبُودِيَّةِ، ثُمَّ نَجَّانِي مِنْهَا

اس آدمی کو سفر پیش آ گیا تو اس نے عرض کی: میں آپ کو امانت دار یقین کرتا ہوں، پس آپ میرے گھر والوں میں اچھے نائب ثابت ہوں گے۔ فرمایا: آپ مجھے کوئی کام بتائیں! اس نے کہا: میں آپ کو مشقت میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ فرمایا: مجھ پر کوئی کام شاق نہیں ہے۔ اس نے کہا: میرے گھر کیلئے میرے آنے تک اینٹیں بنادیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پس وہ آدمی اپنے سفر کو چلا گیا۔ پس لوٹا تو حالت یہ تھی کہ آپ نے اس کی عمارت مضبوط بنا دی تھی۔ اس نے عرض کی: اللہ کے واسطے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تُو نے بوجہ اللہ مجھ سے سوال کیا اور بوجہ اللہ نے ہی مجھے غلامی کی زندگی میں ڈالا۔ پس حضرت خضر نے فرمایا: میں تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں؟ میں وہی خضر ہوں جس کے بارے آپ نے سن رکھا ہے۔ ایک غریب نے مجھ سے صدقہ مانگا اس کو دینے کیلئے میرے پاس کوئی شی نہ تھی پس (دوبارہ) اس نے بوجہ اللہ مجھ سے مانگا تو میں نے اسے اپنی گردن پیش کر دی۔ پس اس نے مجھے (تیرے ہاتھ) بچ دیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آدمی جس سے کسی سائل نے بوجہ اللہ مانگا جبکہ وہ دینے پر قادر تھا لیکن اس نے خالی لوٹا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں کھڑا کرے گا کہ اس کی جلد ہوگی نہ گوشت ہوگا اور نہ اس کی ہڈیاں حرکت کریں گی۔ پس اس آدمی نے کہا: میں اللہ پر ایمان لایا اے اللہ کے نبی! میں نے معلوم نہ ہونے کی بناء پر آپ کو مشقت

میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، تو نے اچھا کام کیا اور نیکی کو باقی چھوڑا۔ پس اس آدمی نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! میرے گھر والوں اور میرے مال کے حوالے سے کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے یا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں! پس میں آپ کا راستہ چھوڑتا ہوں! پس آپ نے فرمایا: مجھے پسند ہے کہ تو میرا راستہ چھوڑ دے! پس میں اپنے رب کی عبادت کروں! پس اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ پس حضرت خضر نے کہا: شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے غلامی کی زندگی میں ڈالا! پھر اس سے مجھے نجات دی۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! اللہ عز و جل نے ہر حق والے کا حق بیان کر دیا ہے، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اس کو جنت میں جانے سے رکاوٹ

7407 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَدْنِيُّ، ثنا الْمُسَيْبُ بْنُ وَاصِحٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِرِوَايَةٍ

7408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَيْسَانَ الْمِصْبِصِيِّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرِ الطَّرْسُوسِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ

7408- قال في المجموع جلد 10 صفحہ 102 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 824 ورواه النسائي رقم الحديث: 100 وابن السني رقم الحديث: 124 كلاهما في عمل اليوم والليلة . وهو حديث صحيح . وأخطأ ابن الجوزي فأوردته في الموضوعات .

محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة

صرف موت ہوگی۔ محمد بن ابراہیم نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس سے مراد قل هو اللہ احد ہے۔

الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِيقٍ الْحِمَصِيُّ، ثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَارُونَ بْنُ دَاوُدَ النَّجَّارُ الطَّرُسِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبَّرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلَّا الْمَوْتُ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِهِ: وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير پڑھا، اس سے زیادہ نیکیاں کسی کی نہ ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا۔

7409 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمَصِيُّ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمْ يَسْبِقْهَا عَمَلٌ، وَلَمْ تَبْقَ مَعَهَا سَيِّئَةٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے سبحان اللہ وبحمدہ

7410 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ،

7409 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 85، وفيه سليم بن عثمان الطائي ثم الفوزي وقد ضعفه غير واحد من قبل حفظه، وذكره ابن حبان في الثقات جلد 6 صفحہ 415، وقال: لم يرو عنه غير سليمان ابن سلمة الخبائري وهو ضعيف، فان وجد له راو غيره اعتبر حديثه ويلزق به ما يتساهل من جرح أو تعديل. وذكره ابن أبي حاتم وقال عن أبيه وروى عنه محمد بن عوف وأبو عتبة أحمد ابن أبي الفرج وهو مجهول وعنده عجائب. وقد روى عنه ثلاثة وبقي رجاله رجال الصحيح. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 829.

پڑھا تو اسے سو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا جو سورتہ پڑھے گا۔

قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمَصِيُّ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، كَانَ مِثْلَ مِائَةِ رَقَبَةٍ تَعْتَقُ إِذَا قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ

اور جس نے سورتہ الحمد للہ پڑھا تو اسے سو گھوڑے بمع زین و لگام کے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔

7411 - وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ عِدْلَ مِائَةِ فَرَسٍ، مُسَرَّحٍ مُلَجِّمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جس نے اللہ اکبر سورتہ پڑھا تو اسے سو اونٹ مکہ میں قربان کرنے جتنا ثواب ملے گا۔

7412 - وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَ عِدْلَ مِائَةِ بَدَنَةٍ تَنْحَرُ بِمَكَّةَ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں تم اپنے رب کی عبادت کرو اور پانچ نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دو (نیک صالح) حکمرانوں کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

7413 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَابِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَصِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ إِلَّا فَاغْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَذُّوا

7411, 7412 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 92 وفيه سليم بن عثمان الطائي القوزي وقد روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان

في الثقات وذكر شرطاً فوجد في الحديث حسن لأن رجاله ثقات. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 830 قلت: حكم أبو زرعة بوضع هذا الحديث كما في اللسان جلد 3 صفحہ 111 فكيف يكون حسناً

7413 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 262, 251 والترمذي رقم الحديث: 611 وابن حبان رقم الحديث: 795 والحاكم

جلد 1 صفحہ 389, 9 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، وَأَطِيعُوا
وَلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

7414 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ
عَرْقِ الْحَمِصِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ
الْجُبَلَانِيُّ، ثنا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَدَ ظَهْرَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ
حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے ناحق کسی مسلمان کی پیٹھ
نگی کی وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے
ناراض ہوگا۔

7415 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ
الرَّازِيُّ، ثنا نُوحُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَوَّيْ
السَّكْسَكِيُّ الْحَمِصِيُّ، ثنا بَقِيعَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تبوک
کے مقام پر تشریف لائے عرض کی: اے محمد! آپ معاویہ
بن معاویہ کے جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں؟

7414 - ورواه في الأوسط (208 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 6 صفحہ 253 'واسنادہ جيد . قلت: كيف يكون
اسنادہ جيداً واليمان بن عدی قال الحافظ لين الحديث . وشيخ الطبرانی تقدم حاله مراراً . ولذا قال الحافظ في
الفتح جلد 11 صفحہ 85 في سنده مقال . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 825 . فهو حديث
ضعيف .

7415 - قال في المجمع جلد 3 صفحہ 38 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (113 مجمع البحرين) وفيه نوح بن عمر قال
ابن حبان يقال انه سرق هذا الحديث . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 831 'ورواه ابن جوصا
ومن طريقه الذهبي في الميزان جلد 4 صفحہ 278 'وقال: هذا حديث منكر . ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب
جلد 3 صفحہ 1424-1425 'وأبو أحمد الحاكم في فوائده والخلال في فضائل (قل هو الله أحد) . قال ابن حبان في
كتاب المجروحين جلد 2 صفحہ 181 'وقد سرق هذا الحديث شيخ من أهل الشام فرواه عن بقية عن أبي أمامة
بطوله . فاستنبط من ذلك الذهبي فقال في الميزان: قال ابن حبان: يقال انه سرق هذا الحديث . وأخذ الحافظ
الحديث هذا القول وأقره كما تقدم . أما الحافظ ابن حجر فقال بعد أن نقل نص كلام ابن حبان: قلت فما أدرى
عني نوحاً أو غيره 'فانه لم يذكر نوحاً في الضعفاء وقال ابن عبد البر بعد أن روى هذا الحديث وحديث أنس:
أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية . وفي الميزان والمغني نوح بن عمرو .

حضور ﷺ نکلے، حضرت جبریل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلے، اپنا دایاں پر پہاڑ پر رکھا اور پس وہ جھک گئے اور اپنا پایاں پر زمین پر رکھا وہ ہموار ہو گئی یہاں تک کہ آپ ﷺ نے مکہ و مدینہ تک سب کچھ دیکھ لیا۔ حضور ﷺ نے معاویہ بن معاویہ کی نماز جنازہ پڑھائی اس حال میں کہ جبریل و دیگر ملائکہ ساتھ تھے جب فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے جبریل! (ویسے سرکار ﷺ کو معلوم تھا) معاویہ بن معاویہ اس مقام پر کیسے پہنچا؟ عرض کی: یہ بیٹھے کھڑے ہوئے سوار ہوئے پیدل چلتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔

حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کوئی آدمی آپ سے تلوار کے زیور کے متعلق پوچھ رہے تھے کیا یہ خزانہ ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! یہ خزانہ ہے ایک آدمی نے کہا: یہ پاگل آدمی ہے اس کی عقل ختم ہوگئی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہیں وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا ہے۔

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ يَتَبَوَّكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْهَدْ جَنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزْنِيَّ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْجِبَالِ فَتَوَاضَعَتْ، وَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِ فَتَوَاضَعَتْ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا جَبْرِيلُ، مَا بَلَغَ مُعَاوِيَةَ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمُزْنِيَّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ؟ قَالَ: بِقَرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا

7416 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِ عِرْقٍ الْحِمَصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثنا بَقِيَّةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ حِلْيَةِ السُّيُوفِ، أَمِنْ الْكُنُوزِ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، هِيَ مِنَ الْكُنُوزِ. فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا شَيْخٌ أَحْمَقُ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: أَمَا إِنِّي مَا حَدَّثْتُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ

أَبُو سَلَامٍ الْأَسْوَدُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

ابو سلام اسود حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے متعلق تیرا دل کھٹکے اسے چھوڑ دے۔

اس نے عرض کی: ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کو گناہ بُرا اور نیکی اچھی لگے وہ مؤمن ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کو گناہ بُرا اور نیکی اچھی لگے وہ مؤمن ہے۔

7417 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّيِّدِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَا الْإِيمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعَهُ

7418 - قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَتْهُ حَسَنَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ

7419 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًى، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتَكَ

7417 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20104 قال في المجمع جلد 1 صفحہ 84 رواه الطبرانی فی الكبير، وله فی الأوسط (2-1/16) نسخة أحمد الثالث أيضًا قال: قال رجل: ما الاثم يا رسول الله؟ قال: ما حك في صدرك فدعه قال: فما الايمان؟ قال: من ساءت سينته وسرته حسنته فهو مؤمن. ورجاله رجال الصحيح الا أن فيه يحيى ابن أبي كثير وهو مدلس وان كان من رجال الصحيح. قال في المجمع جلد 10 صفحہ 295 بعد أن نسبته الى أحمد والطبرانی رجال الطبرانی رجال الصحيح. وقال جلد 1 صفحہ 176 بعد أن نسبته الى أحمد ورجاله رجال الصحيح. وانظر ما بعده. ورواه البيهقي في شعب الايمان صفحہ 7-8 والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 401.

7419 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 251، 252، 256 وابن حبان رقم الحديث: 103، والحاكم جلد 1 صفحہ 14 وقال: صحيح متصل على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني انما هو على شرط مسلم وحده.

حَسَنَتُكَ، وَسَاءَ ثَلَاثُ سَيِّئَتِكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

7420 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

عَرِيْقِ الْحِمَصِيِّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ

الصَّحَّاحِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ

بْنِ يُوْسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي

سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ يَنْكُحُ أَهْلَ الْجَنَّةِ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ

7421 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ،

وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ،

عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ

يَأْتِي شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ

بِالزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا

يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا

غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ

يُحَاجَّجَانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اقْرَأُوا

سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةً، وَتَرَكَهَا

حَسْرَةً، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبُطْلَةُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُرَاطِيُّ، ثنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
نے پوچھا: کیا جنت والے نکاح کریں گے؟ آپ نے
فرمایا: جی ہاں! نیز وہ کھائیں گے بھی اور پیئیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن قیامت
کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، تم پر لازم
ہے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیونکہ یہ
دونوں اپنے پڑھنے والے پڑدونوں پروں والے پرندوں
کی طرح سایہ کیے ہوں گی اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے
والے کے لیے رب سے جھڑیں گی، سورۃ بقرہ کی تلاوت
کیا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اس کا چھوڑنا حسرت
ہے اور جادوگر اس کو نہیں پڑھ سکتے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے اس کی

مثل روایت کرتے ہیں۔

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي
سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

7422 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَلِيدٍ
الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ
بْنُ سَلَامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
سَلَامٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُدْفَعُ لِأَصْحَابِهِ. اقْرَأُوا الزُّهْرَاوَيْنِ: الْبَقْرَةَ
وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَّاتَانِ، أَوْ كَانَهُمَا فِرْقَانِ
مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ يَحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابَيْهِمَا، اقْرَأُوا
وَأَسُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةً، وَتَرَكَهَا
حَسْرَةً، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبُطْلَةُ

7423 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَلِيدٍ
الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ
بْنُ سَلَامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن قیامت
کے دن اپنے پڑھنے والے کی مدافعت و حفاظت کرے گا
تم دو روشن سورتوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت
کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن دو عمامے ہوں یا فرمایا:
گویا یہ دونوں پر پھیلانے والے پرندے کے دو پر ہیں
اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے
جھگڑیں گی، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا
برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور جادوگر اس کو
نہیں پڑھ سکتے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
نے حضور ﷺ سے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا حضرت آدم
نبی تھے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی:

7422 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2860 .

7423 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 210 ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خلیل الحلبي وهو ثقة . قلت: ورواه ابن

حبان رقم الحديث: 2085 وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية جلد 1 صفحہ 101 وهذا على شرط مسلم

ولم يخرج له . وقال في المجمع جلد 1 صفحہ 196 ورجاله رجال الصحيح بعد أن نسبته الى الأوسط . ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2859 .

حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا: دس زمانوں کی۔ اس نے عرض کی: حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا: دس زمانوں کا۔ اس نے عرض کی: کتنے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین سو تیرہ۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرا حوض عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ جتنا ہے اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے جو اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا میرے حوض پر جو لوگ آئیں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے بال بکھرے ہوں گے ان کے کپڑے میلے ہوں گے نہ مال دار لوگ ان سے شادی کریں گے اور دنیا داروں کے دروازے پر نہیں جائیں گے کہ ان کا حق دے نہ اپنا حق ان کو دیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

سَلَامٌ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَبِيًّا كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: عَشْرَةُ قُرُونٍ. قَالَ: كَمْ كَانَ بَيْنَ نُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: عَشْرَةُ قُرُونٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ كَانَتِ الرُّسُلُ؟ قَالَ: ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ

7424 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَابِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْخِطَّاطُ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَدْنَ وَعُثْمَانَ، فِيهِ الْأَكَاوِيبُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَإِنَّ مِمَّنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي الشَّيْثَةُ رءُ وَسُهِمِ الدَّيْسَةِ يُسَابِهُمُ، لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ، وَلَا يَحْضُرُونَ السُّدَدَ - يَعْنِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ - الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ

7425 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ

7424 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 366 ورجاله وثقوا علی ضعف فی بعضه .

7425 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 206 رواه الطبرانی باسنادین فی أحدهما بشر بن نمير وهو متروك وفي الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف . ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 323 وأبو القاسم الصفار في الأربعين في شعب الدين كما في المنتقى منه جلد 2 صفحہ 50 للضياء المقدسي منه لأبي الفتح الجويني جلد 2 صفحہ 74

حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کے قیامت کے دن فرض و نفل قبول نہیں ہوں گے:
(۱) نافرمان (۲) احسان جتلانے والا (۳) تقدیر کو جھٹلانے والا۔

الِدَمْشَقِيُّ، ثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ: عَاقٍ، وَمَنَانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ آگ سے پکی ہوئی شی کھانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔

7426 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ راستے کے کچھڑیا راستے میں پڑی نجاست سے وضو نہیں فرمایا کرتے تھے (صرف اسی کو دھو ڈالتے)۔

7427 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

وابن عساکر (423/11/1 و 193/13/2 و 97/17/1) من طریق عمر بن یزید بہ قال شیخنا فی سلسلۃ الصحیحۃ جلد 4 صفحہ 391 و هذا اسناد حسن و رجالہ ثقات غیر عمر بن یزید النصری و هو مختلف فیہ و الذی یتبین لی من مجموع ما قبل فیہ أنه حسن الحدیث فقد وثقه دحیم و أبو زرعة الدمشقیان .

7426 - قال فی المجموع جلد 1 صفحہ 152 و فیہ محمد بن سعید المصلوب (أبو قیس) و هو کذاب .

7427 - قال فی المجموع جلد 1 صفحہ 285-286 فیہ أبو قیس محمد بن سعید المصلوب و هو ضعیف . قلت بل کذاب

والحدیث موضوع .

يَتَوَضَّأُ مِنْ مُوْطَأٍ

حضرت ابو امامہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بول مبارک کرنے کے بعد موزوں پر مسح کرتے تھے۔

7428 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، ثنا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَثُوبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ مَا بَالَ

أَبُو ظَبْيَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

ابوظبیه، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: محبت اللہ کے لیے اور مبارک باد آسمان میں ہے جب اللہ کی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے: اے جبریل! آپ کا رب فلاں سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں: تمہارا رب فلاں سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو۔ اس کی محبت زمین میں رہنے والوں کے دلوں میں بھی ڈالی جاتی ہے۔

7429 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَقَّةُ مِنَ اللَّهِ، وَالصَّبْتُ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوه قَالَ: فَيُنْزَلُ لَهُ الْمَقَّةُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ

الْهَيْثَمُ بْنُ يَزِيدَ،

ہیثم بن یزید، حضرت ابو امامہ سے

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دنیا میں ریشم وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

7430 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، أَنَّ الْهَيْثَمَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَشہر بن حوشب، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، کچھ لوگ سر لائے اور ان کو دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پر رکھا، میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایسے بکھرے گا جس طرح روڑی بکھوڑیں بکھر جاتی ہیں، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے دوبارہ اس میں واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیر اوپر سے واپس آ جائے آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہوں

7431 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنِيرِ الْبَصْرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاعُ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: كُنْتُ بِدِمَشْقَ، فَجَاءَ وَابِرَاءُ وَسِ قَوْضَعُوهَا عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَرَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَبْكِي فَقُلْتُ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا أَمَامَةَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَنَاسٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِيهِمْ يَنْتَشِرُونَهُ، كَمَا يَنْتَشِرُ الدَّقْلُ، يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ

گئے خوشخبری ان کے لیے جو ان کو قتل کرے یا وہ اس کو قتل کریں۔

مِنَ الرِّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ
السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاءِ،
طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے وضو کیا اور آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو تین
تین مرتبہ دھویا اور چہرے کو تین مرتبہ اور کلائیوں کو تین تین
مرتبہ دھویا اور سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا اور فرمایا: دونوں
کان سر سے ہیں جو اس میں ہے اس کو دھویا جائے گا۔ یہ
الفاظ حدیث کے ابو عمر کے ہیں۔

7432 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثَنَا عَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ
الْكُشَيْبِيُّ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شُعَيْبٍ السَّمْسَارُ، ثَنَا خَالِدُ
بْنُ خِدَاشٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
السَّوْطِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا،
وَطَهَّرَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَذَرَاغِيهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا،
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنَ
الرَّأْسِ وَغَسَلَ مَا فِيهِ وَاللِّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي
عُمَرَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے قباء والوں سے فرمایا: تم پاکی کیسے حاصل
رکتے ہو کہ تمہارا خصوصی ذکر اس آیت میں ہے کہ کچھ مرد
ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکی سے
رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول

7433 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّكْبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ،
عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ قَبَاءَ: مَا هَذَا

7432 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 268، 285 و أبو داؤد رقم الحديث: 134 و الترمذی رقم الحديث: 37 و ابن ماجہ رقم

الحديث: 444 و البيهقی جلد 1 صفحہ 67، 66 و الدارقطنی جلد 1 صفحہ 104، 103 و الطحاوی جلد 1 صفحہ 33 .

7433 - ورواه فی الأوسط (34 مجمع البحرين) قال فی المجمع جلد 1 صفحہ 213 و فیہ شهر أيضًا .

اللہ! ہم میں سے کوئی پاخانہ کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ دھوئے بغیر نہیں آتا ہے۔

الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصَتْ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) (التوبة: 108) ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ يَخْرُجُ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے اللہ کی راہ میں بڑھا پاپا یا وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں تیر مارا درست لگا یا چوک گیا اس کو اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کی طرح ثواب ملے گا۔

7434 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَخْطَأَ، أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو میری طرف جھوٹی حدیث بنا کر بیان کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

7435 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثنا سَلَمُ بْنُ زُرَيْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا كَذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

7434 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9548 قال في المجمع جلد 5 صفحه 270 رواه الطبرانی باسنادين رجال أحدهما

ثقات .

7435 - قال في المجمع جلد 1 صفحه 147 وفيه شهر بن حوشب وهو مختلف فيه .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ موزوں اور عمامہ کا مسح تین دن و رات کرتے تھے حالت سفر میں اور حالت اقامت میں ایک دن و رات۔ (عمامہ پر مسح سے مراد یہ ہے کہ عمامہ کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کا مسح کرتے تھے نہ کہ عمامہ کا)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں بدترین وہ بندہ ہوگا جو کسی دوسرے آدمی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7436 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا مَرْوَانُ أَبُو سَلَمَةَ، ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ

7437 - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ التَّعَمَّانِ الْمَعْرُ الْمِصْبِصِيُّ قَالُوا: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدًا أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ

7438 - حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

7436 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 260 وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي مجهول . قلت: وقد عرفت حال شهر بن حوشب .

7437 - ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 3966 قلت مروان مدلس وقد عتق وعبد الحكم قال الحافظ مقبول وشهر بن حوشب تقدم فالحديث ضعيف .

7438 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 252، 256، 264 قال في المجمع جلد 1 صفحہ 223 واسناده حسن . وقال

حضور ﷺ نے فرمایا: جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی آنکھوں اور کانوں، دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے نکل جاتے ہیں اگر نماز کے لیے بیٹھے گا تو بخشا ہوا ہوگا۔

بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْإِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت رسول اللہ ﷺ کے لیے تھا۔

7439 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی آنکھوں اور کانوں، دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے نکل جاتے ہیں۔

7440 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْإِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ

جلد 1 صفحہ 222، رواہ أحمد جلد 5 صفحہ 263، والطبرانی فی الكبير والأوسط (36 مجمع البحرين) وفی

اسنادہ أحمد عبد الحمید بن بہرام عن شهر واختلف فی الاحتجاج بهما . والصحيح أنهما ثقتان ولا يقدح الكلام فيهما .

7439 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 256، 257، قال فی المجمع جلد 7 صفحہ 50 رواہ أحمد باسنادین فی أحدهما شهر وفی

الآخر أبو غالب وقد وثقا وفيهما ضعف لا يضر .

وَيَدِّيهِ وَرَجْلَيْهِ

7441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا
إِسْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَائِنَةَ، ثنا رَقِيبَةُ بْنُ
مَصْقَلَةَ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ
الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ
مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ

7442 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ شَمْرِ بْنِ
عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، يَقُولُ:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ
يَتَقَلَّبِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنِّي
لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا أَوْ
خَمْسًا لَمْ أُحَدِّثْكُمْوه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ
الْمُسْلِمُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّلَاةِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ
مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ

7443 - فَقَالَ أَبُو ظَبْيَةَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ

عَبْسَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ إِذَا آوَى الرَّجُلُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب مسلمان آدمی وضو کرتا ہے تو
اس کے گناہ اس کی آنکھوں اور کانوں، دونوں ہاتھوں اور
پاؤں سے نکل جاتے ہیں۔

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا میں نے آپ کو
جاتے ہوئے پایا میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! مجھے
رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے حدیث سنا میں! آپ نے
فرمایا: ٹھیک ہے! اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک یا دو
تین چار پانچ بار حدیث نہ سنی ہوتی تو میں آپ کو بیان نہ
کرتا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب
مسلمان وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کی
آنکھوں اور کان اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ نکل جاتے
ہیں۔

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے
اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں اضافہ ہے
کہ آپ نے فرمایا: جب با وضو ہو کر اپنے بستر پر سوتا ہے

پھر رات کو حالت بدلتے ہوئے اللہ عزوجل سے دنیا و آخرت کی کوئی شے مانگے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔

إِلَى فَرَاشِهِ طَاهِرًا، ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، لَمْ يَسْأَلِ
اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَيْئًا إِلَّا
أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ سے سات مرتبہ یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں تمہیں بیان نہ کرتا آپ نے فرمایا: جب آدمی وضو کرتا ہے جس طرح حکم دیا گیا ہے تو اس کی آنکھ اور کان اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

7444 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ
الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ، قَالَ: إِذَا
تَوَضَّأَ الرَّجُلُ كَمَا أُمِرَ، ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ
وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا میں نے آپ کو جاتے ہوئے پایا میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! مجھے رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے حدیث سنائیں! آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے! اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک یا دو تین چار پانچ بار حدیث نہ سنی ہوتی تو میں آپ کو بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب مسلمان وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کی آنکھوں اور کان اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔

7445 - حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ
الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْبُرْجَلَانِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
قَالَ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأَ
الرَّجُلُ كَمَا أُمِرَ، ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ
وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

7444- ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 807 من طريق آخر عن عاصم به. وحسنه المنذرى. قال شيخنا في تعليقه على صحيح الترغيب جلد 1 صفحہ 82 هذا الحديث له في المسند ثلاث طرق وألفاظ بعضها حسن لذاته وسائرهما حسن في المتابعات كما قال المؤلف وتصحيحه لبعضها ما أظنه الا وهما تبعه عليه الهشمي في المجمع كما حققته في الأصل اللهم الا أن يريد أنه صحيح لغيره فنعم وكذلك ما قبله وله في هذا الحديث أو هام أخرى نبهت عليها هناك.

7446 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ

يَحْيَى الرَّقِيُّ، ثنا أَبُو قُرَّةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ الرَّهَائِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ
بْنِ حَوْشِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ
الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ مَسَامِعِهِ وَبَصَرِهِ
وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا میں نے آپ کو
جاتے ہوئے پایا میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! مجھے
رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے حدیث سنائیں! آپ نے
فرمایا: ٹھیک ہے! اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک یا دو
تین چار پانچ بار حدیث نہ سنی ہوتیں تو میں آپ کو بیان نہ
کرتا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب
مسلمان وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کی
آنکھوں اور کان اور ہاتھوں اور پاؤں کے گناہ نکل جاتے
ہیں۔

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے
اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں اضافہ ہے
کہ آپ نے فرمایا: جب با وضو ہو کر بستر پر آتا ہے پھر
رات کو حالت بدلتے ہوئے اللہ عزوجل سے دنیا و آخرت
کی کوئی شی مانگے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔

7447 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ
بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْهَمَّانِيُّ،
قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا
يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَذْرُكَهُ النَّعَاسُ، لَمْ يَتَغَلَّبْ
سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: وضو کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے

7448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

7447 - ورواه الترمذی رقم الحديث: 3597 وقال حسن غريب .

7448 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 261، 251 قال في المجموع جلد 1 صفحہ 223 رواه أحمد من طريق صحيحه .

ہیں اور نماز اضافی ثواب ہے۔

وَإِقْدِ الْحَرَّائِي، ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ يُكْفِّرُ، وَالصَّلَاةُ نَافِلَةٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وضو کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز اضافی ثواب ہے۔

7449 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوُضُوءُ يُكْفِّرُ مَا قَبْلَهُ، ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وضو کے ساتھ سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

7450 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الْحَنْطِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوُضُوءُ يُكْفِّرُ مَا قَبْلَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وضو کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

7451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوُضُوءُ يُكْفِّرُ مَا قَبْلَهُ

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی چادر میں ایک دینار پایا گیا، آپ نے فرمایا: سانپ ہے پھر دوسرا فوت ہوا تو اس کی چادر میں دو دینار تھے، حضور ﷺ نے فرمایا: دو سانپ ہیں۔

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے ایک آدمی گیا، اس کی چادر میں ایک دینار پایا گیا، آپ نے فرمایا: ایک سانپ ہے اس کی چادر میں دو دینار تھے، حضور ﷺ نے فرمایا: دو سانپ ہیں۔

مکحول الشامی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7452 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: تُوْقِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ، فَوَجَدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ، ثُمَّ تُوْقِي آخَرُ، فَوَجَدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَانِ

7453 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ الْأَصْهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: تُوْقِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ، فَوَجَدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ، ثُمَّ تُوْقِي آخَرُ، فَوَجَدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَانِ

مَكْحُولُ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7454 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضور ﷺ نے فرمایا: لوگ ایک درخت ہیں کانٹوں والا قریب ہے کہ کانٹے کا درخت تم بھی بن جاؤ، اگر تم ان پر تنقید کرو گے تو وہ تم پر تنقید کریں گے اور اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ تم کو چھوڑ دیں گے، تم ان سے بھاگو گے تم کو تلاش کریں گے، عرض کی: یا رسول اللہ! اس سے کیسے نکلنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اپنی عزت سے تو ان کو اپنے فاقہ کے دن کے لیے قرض دے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو چیز سامنے موجود نہیں ہے وہ حلال کو حرام کرنے والی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اپنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔

يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ شَجَرَةٌ ذَاتُ جَنَى، وَيُوشِكُ أَنْ تَعْوِدُوا شَجَرَةً ذَاتَ شَوْكٍ، إِنْ نَاقَدْتَهُمْ نَاقِدُوكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوكَ، وَإِنْ هَرَبْتَ مِنْهُمْ طَلَبُوكَ. قَالَ: فَكَيْفَ الْمَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَقْرِضُهُمْ مِنْ عَرْضِكَ لِيَوْمٍ فَاقَتِكَ

7455 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَمِيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ

7456 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَى بَيْنَ النَّاسِ، وَآخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7455- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 76، وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدًا. ورواه البيهقي جلد 5

صفحہ 348-349 بلفظ آخر من طريق موسى به، وضعفه.

7456- قال في المجموع جلد 9 صفحہ 112 بشر بن عبد عون ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 3405, 627.

7457 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ

الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَةٍ

7458 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خَالِدِ بْنِ

عَمْرٍو الْحِمَصِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْفَارِزِ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، إِنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّاهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ الْحَدِيثِ

7459 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

صَالِحٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَصِيدٍ، عَنْ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو باجماعت فرض نماز پڑھنے کے لیے چلے اس کو حج کا ثواب ملے گا، جو نفل نماز کے لیے پہلے آئے اسے مکمل عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو اللہ کی راہ میں نکلے وہ اللہ کے ذمہ ہے اگر اللہ اسے موت دے گا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر واپس آئے گا تو مالِ غنیمت اور ثواب لے کر آئے گا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے امانت رکھی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔

7457- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 268، وأبو داؤد رقم الحديث: 554، والبيهقي جلد 3 صفحہ 63، وابن عدي وابن عساکر

وهو حديث حسن. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3406.

7458- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3407.

7459- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 145، وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه: ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3408. وله شواهد.

أَبِي حَفْصِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ، وَلَا
تَخُنْ مَنْ خَالَكَ

7460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْجَعْدِ

الْوُشَاءُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
الْفَضْلِ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ مَكْحُولٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَشَدُّونَ
الْأَشْعَارَ، وَيَضْحَكُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَسِمُ مَعَهُمْ

7461 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ

مَسَاوِرِ الْجَوْهَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ، ثنا الْبُلَيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ
غِيَّانٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ عَلَى الْاِثْرِ
صَلَاةٍ، لَا لَفْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيْنِ

7462 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، ثنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ کے اصحاب اشعار پڑھتے اور مسکراتے اور ان
کے ساتھ بعض اوقات رسول کریم ﷺ تشریف فرما
ہوتے تھے تو آپ ﷺ بھی تبسم کناں ہوتے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نماز کے بعد نماز پڑھنے تک
کے درمیان کوئی لغو نہ ہو تو اس کا ثواب علیین میں لکھا جاتا
ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ اپنے اونٹ پر وتر ادا کرتے تھے۔

7460 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 128 وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 3409 .

7461 - ورواه احمد جلد 5 صفحہ 263، 264، 268، وأبو داود رقم الحديث: 544 .

7462 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 162 وفيه العلاء بن كثير اللبني وهو ضعيف جدًا . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 3411 . قلت: وحكيم بن خذام متروك .

حَكِيمُ بْنُ خِذَامٍ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ

7463 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا حَكِيمُ بْنُ
خِذَامٍ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَضُوءُ النَّوْمِ أَنْ تَمَسَّ الْمَاءَ، ثُمَّ
تَمَسَّحَ بِتِلْكَ الْمَسْمَةِ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ
كَمَسْحَةِ التَّيَمِّمِ

7464 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا حَكِيمُ بْنُ
خِذَامٍ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَفَا عِنْدَ قُدْرَةٍ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ
يَوْمَ الْعُسْرَةِ

7465 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: سونے والا پانی کے ساتھ وضو کرے
پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں پر ملے تیمم کے مسح کی
طرح۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے قدرت ہونے کے باوجود
معاف کر دیا اللہ عزوجل اسے تنگی کے دن معاف کرے
گا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت

7463- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 248 فيه العلاء بن كثير الليثي وقد اجمعوا على ضعفه . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 3412 وانظر ما قبله .

7464- قال في المجمع جلد 8 صفحہ 190 فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 3413 وحكيم بن خذام متروك .

7465- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 240 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (46 مجمع البحرين) وفيه عبد الملك

الكوفي عن العلاء بن كثير لا ندرى من هو . قلت وعرفت حال العلاء ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 3414 .

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

الطَّيَالِسِيُّ، ثنا الْقُضْلُ بْنُ غَانِمٍ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہماری امامت کروائی آپ نے ایک چادر رکھی تھی جو آپ کے دونوں کندھوں پر تھی۔

7466 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ عَمِيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَطِيفَةٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی وہ قیامت کے دن اُس کے سامنے ہوگی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔

7467 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، الْمُحَارِبِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عَمِيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقْبَلَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَضْحَكَ فِي وَجْهِهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7468 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

7466 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 51 فيہ موسى بن عمير وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3416 . وسويد بن سعيد أيضا ضعيف .

7467 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 161 'ورجاله ثقات . قلت في اسناده موسى بن عمير وقد عرفت حاله . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3415 .

7468 - في اسناده يحيى الحماني وهو ضعيف وأبو سنان القسملی قال الحافظ: لين الحديث وقال الذهبي في الميزان: الحديث منكر جدًا . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3417 . قلت: قال الذهبي ذلك في ترجمة أبو سنان القسملی .

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اللہ اسے ۷۲ صدیقین کا ثواب دے گا۔

التَّسْتَرِي، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا نَاشٍ نَشَأَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ صَدِيقًا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اللہ اسے ننانوے صدیقین کا ثواب دے گا۔

7469 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْغَزَّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَظِيَّةٍ، ثَنَا مَرْزُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِمَصِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا نَاشٍ نَشَأَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى يُكْبَرَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ الثَّيْنِ وَتِسْعِينَ صَدِيقًا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے لعنت فرمائی جو چہروں کو پیٹتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں۔

7470 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِشَاتِ الْوُجُوهِ،

7469- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 125، 124 وفيه يوسف بن عطية وهو متروك الحديث . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3418 وتمام (112/29/1) وابن عبد البرقي جامع العلم جلد 1 صفحہ 98 فهو حديث ضعيف جدًا .

7470- ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1585 قال في الزوائد اسناده صحيح . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3419، 567 .

وَسَاقَاتِ الْجُيُوبِ

7471 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَيْسَعُوا الشَّمْرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پھل پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

7472 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوْطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خیبر کے دن حاملہ عورتوں سے دلی کرنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ حمل جن دیں۔

7473 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا حصہ تقسیم ہونے سے پہلے فروخت ہونے سے منع فرمایا۔

7474 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

7471- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 102 ورجاله رجال الصحيح . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3420,563 .

7472- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 300 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3421,564 .

7473- قال في المجموع جلد 4 صفحہ 101 ورواه المصنف في مسند الشاميين جلد 2 صفحہ 564 رقم الحديث: 3422 .

7474- قال في المجموع جلد 5 صفحہ 169 ورواه المصنف في مسند الشاميين جلد 3 صفحہ 564 رقم الحديث: 3423 .

کریم ﷺ نے واصلہ موصولہ واشمہ اور موممہ پر لعنت فرمائی ہے۔

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُوصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوشِمَةَ

7475 - وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

7476 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

الْحَسَنِ الصَّابُونِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْدٍ بْنِ عَقِيلٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
بْنِ مَيْمُونٍ الْأُبُلِيُّ، ثنا قُورُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ
مَكْحُولٍ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَاهُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ قَيْمَةَ بِحَجَرٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشَجَّهُ فِي
وَجْهِهِ، وَكَسَرَ رَبَاعِيَّتَهُ، وَقَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ
قَيْمَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: مَا لَكَ،
أَقْمَاكَ اللَّهُ، فَسَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلٍ، لَا
تَيْسَ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً

7477 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ

الصَّوَّافِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْدٍ بْنِ

حضور ﷺ نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ کو عبد اللہ بن قمرہ نے اُحد کے دن پتھر مارا جس
سے آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے سامنے والے دانت
مبارک ٹوٹے، اس نے کہا: میں ابن قمرہ ہوں، حضور ﷺ
نے اسے اس حالت میں فرمایا کہ آپ اپنے چہرے سے
خون صاف کر رہے تھے: تجھے کیا ہے! اللہ تجھے ہلاک
کرے! اللہ عزوجل نے اس پر مسلط کر دیا وہ اسے سینگ
مارتا رہا یہاں تک کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ جب ابن قمرہ نے اُحد کے دن آپ کو تیر

7476 - قال في المجموع جلد 6 صفحہ 117 وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين

رقم الحديث: 3424,453 .

7477 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 264 وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين

رقم الحديث: 3425,454 .

مارا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تو اس کو پٹی کر کے اس پر وضو کے وقت مسح کرتے۔

عَقِيلٌ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا قُورُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قَيْمَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ حَلَّ عَنْ عَصَابَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نماز میں جمائی لینے کو ناپسند کرتے تھے۔

7478 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْجَعْدِ الرَّشَاءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ التَّأَوُّبَ فِي الصَّلَاةِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بنالے پس صحابہ کرام پر یہ بات گراں گزری عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی حدیث بیان کرتے ہیں، کبھی اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ہم سے کمی بھی ہو ہی جاتی ہے۔ فرمایا: میری یہ مراد نہیں ہے پس بات

7479 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الدَّلَّالُ، ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَوَّأْ مَقْعَدُهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحَدِّثُ عَنْكَ بِالْحَدِيثِ

7478 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 86 وفيه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3426, 1514 .

7479 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 148 وفيه الأخوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره ووثقه العجلي ويحيى ابن سعيد القفطان في رواية ورواه عن الأخوص محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف . قلت وأسيد بن زيد كذبه يحيى بن معين وقال غيره متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3427 .

صرف یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر اسلام کو عیب دار کرنے کیلئے میری حدیث کا سہارا لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بے شک آپ نے فرمایا: جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا جہنم کی بھی کوئی آنکھ ہے؟ فرمایا: جی ہاں! کیا میں اللہ کو فرماتے ہوئے نہیں سنتا ہوں: ”جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کی چنگھاڑ اور کھولنے کی آوازیں سنیں گے۔“

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے نعلین مبارک کے تسمے ٹوٹ گئے آپ نے فرمایا: انا للہ وانا الیہ راجعون! ایک آدمی نے آپ سے عرض کی: اس تسمہ کے ٹوٹنے پر آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ بھی ایک مصیبت ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی مسجدوں کو تم اپنے بچوں اور پاگلوں اور جھگڑوں اور بلند آوازیں کرنے اور تلواریں

نَزِيدُ وَنَقِصُ، قَالَ: لَيْسَ ذَا أَغْنِيَكُمْ إِنَّمَا أَغْنِي
الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ مُتَحَدِّثًا، يَطْلُبُ بِهِ شَيْنَ
الْإِسْلَامِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ:
بَيْنَ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ وَهَلْ لْجَهَنَّمَ عَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ،
أَمَّا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: (إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ
سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا) (الفرقان: 12)
فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ

7480 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو
نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْقَطَعَ شِسْعُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَذَا الشِّسْعُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا
مُصِيبَةٌ

7481 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ رَاهَوِيَّةَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ
النَّخَعِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،

7480.. قال في المجموع جلد 2 صفحہ 331 وفيه العلاء بن كثير وهو متروك. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 3428.

7481- في اسناده العلاء بن كثير. ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 750 من حديث وثلة قال في الزوائد: اسناده ضعيف

فان الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. والحديث ضعفه ابن الجوزي والمنذرى وابن حجر والبوصيرى وقال

عبد الحق: لا اصل له. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3429.

لہرانے اور حدیں قائم کرنے سے محفوظ رکھو تم مسجد کے دروازے پر وضو کے لیے پانی رکھو۔

عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَوَائِلَةَ، قَالُوا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَحَارِبَكُمْ، وَخُصُومَاتَكُمْ، وَأَصْوَاتَكُمْ، وَنَسْلَ سُيُوفِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَجَمْرُوهَا فِي سَبْعٍ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمُ الْمَطَاهِرَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے آپ مرنے سے پہلے بیمار ہونے کو پسند کرتے تھے۔

7482 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُبَيْسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمَرَّضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے آپ مرنے سے پہلے بیمار ہونے کو پسند کرتے تھے۔

7483 - حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا حَجَّاجُ الْأَزْرَقِيُّ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمَرَّضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

7484 - حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا

7482 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 318 وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك وانظر ما بعده . ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3430 .

7484 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 47 رواه الطبرانی عن شيخه المقدم بن داود وهو ضعيف وقال ابن عقيق العبد

حضور ﷺ کے ساتھ سواری پر تھے ہم بوڑھی بکھری کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا: یہ کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: بنی عنبر کے لیے ہے حضور ﷺ نے فرمایا: یہ ہماری قوم ہے۔

حَبَّاجُ الْأَزْرَقِ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَانًا، فَمَرَرْنَا بِهِجْمَةَ، فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: لِبَنِي الْعَنْبَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ قَوْمُنَا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ بندے سے سب سے پہلے اس کے متعلق حساب لیا جائے گا۔

7485 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوا الْبَوْلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چالیس دن نگہبانی کرو جس نے چالیس دن نگہبانی کی ان دنوں میں خرید و فروخت نہ کی اور کوئی فضول گفتگو نہ کی تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہوں گے جس طرح آج ہی اُس کی ماں نے جنا ہے۔

7486 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ السَّرَّاجِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي هَيْثَمٍ التَّرْجُمَانِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْقَمُولِيِّ قَالَ لَدَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَمَنْ رَابِطٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَمْ يَسْغُ وَلَمْ يَشْتَرِ، وَلَمْ يُحْدِثْ حَدَّثًا خَرَجَ مِنْ دُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

فی الامام وثق وبقية رجاله ثقات . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3431 .

7485 - قال في المجمع جلد 1 صفحه 209 ورجاله موثقون . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3432 .

7486 - قال في المجمع جلد 5 صفحه 290 وفيه ايوب بن مدرک وهو متروک . ورواه المصنف في مسند الشاميين

الحديث: 3433 .

7487 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3434 .

حضور ﷺ نے فرمایا: پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ بندے سے سب سے پہلے اس کے متعلق حساب لیا جائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے یہ مؤمن کے لیے قلعوں میں سے قلعہ ہے یہ نیکی اُس کے اپنے لیے ہے روزہ میرے لیے ہے میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ائمہ کو گالی نہ دو ان کے لیے اللہ سے دعا کرو ان کی اصلاح تمہاری اصلاح ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بَكَرِ السَّرَّاجُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْبُولَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ 7488 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرَّاجِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصِّيَامُ جَنَّةٌ، وَهُوَ حِصْنٌ مِنْ حِصُونِ الْمُؤْمِنِ، وَكُلُّ عَمَلٍ لِصَاحِبِهِ، وَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ

7489 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُصْعَبٍ الْأَشْنَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَمِيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْأَئِمَّةَ، وَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ

7490 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

7488 - قال في المجموع جلد 3 صفحہ 318 'وفيه أيوب بن مدرک وهو ضعيف . قلت : وهو حسن لشواهدہ . ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3435 .

7489 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 249 رواه الطبرانی في الأوسط (217 مجمع البحرين) 'والكبير عن شيخه الحسين

بن محمد بن مصعب الأشنانی ولم أعرفه وبقيہ رجالہ ثقات وفي اسناد الأوسط عبد الملك بن عبد ربہ الطائى

منكر الحديث . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3436 'وانظر ما بعده . وكذلك رواه البيهقي

جلد 10 صفحہ 103 .

7490 - وما قبله ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3437 .

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر پھینکا وہ لگا یا نہ لگا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے تو اللہ اس پر دس مرتبہ درود پڑھے گا اور ایک فرشتہ اس کا وکیل بن کر اسے میری بارگاہ میں پہنچا دے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں لگنے والا غبار اور جہنم کا دھواں ایک آدمی کے نتھنوں میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کے لیے محبت اور بغض رکھے

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَمَى بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَصَرَ أَوْ بَلَغَ كُتِبَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ

7491 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتَّى يُبْلَغَ بِهَا

7492 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ

الطَّائِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ رَيْهِ الطَّائِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعُ غَبَارٌ فِي مَنْجَرِي عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ

7493 - حَدَّثَنَا مُسْلِمَةُ بْنُ جَابِرٍ

اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُنْبِهٌ بْنُ عَثْمَانَ، حَدَّثَنِي

7491 - قال السخاوي قبل لم يسمع مكحول من أبي أمامة. قال في المجمع جلد 10 صفحہ 162 'وفيه موسى بن عمير القرشي وهو ضعيف جدًا'. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3438.

7492 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 286 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (225 مجمع البحرين) 'وفيه موسى ابن عمير القرشي الأعمى وهو متروك'. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3439.

7493 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 90 'وفيه صدقة بن عبد الله السمين ضعفه البخاري وأحمد وغيرهما وقال أبو حاتم: محله الصدق'. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3440.

اور اللہ کے بارے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے نہ لے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

صَدَقَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَيَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ يَعْنِي الدِّمَارِيَّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ .

7494 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ أَبِي زَكْرِيَّا، وَسَلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ بِحِمَصَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا مِنْ إِبْلَاحِ اللَّهِ لَكُمْ، وَاجْتِنَاحِهِ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَ فَيَلْفُوا

حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں اور ابن ابوزکریا اور سلیمان بن حبیب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمص میں آئے، ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا: تمہاری جس مجلس میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے لگے اور تم پر رحمت قائم کر دے کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے پیغام پہنچا دیا ہے پس تم بھی پہنچاؤ۔

شرحیل بن مسلم خولانی، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

شَرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

7495 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

7494 - قال في المجموع جلد 1 صفحہ 140، ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3441 .

7495 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 16308، وأحمد جلد 5 صفحہ 267، وأبو داود رقم الحديث: 3548، 2853،

والترمذی رقم الحديث: 2253، 665، وابن ماجه رقم الحديث: 2398، 2295، 2713، 2007، وعبد بن حميد في

المنتخب من المسند والبيهقي جلد 4 صفحہ 193-194، جلد 6 صفحہ 264، 244، 88، 72، والغوى في شرح السنة

رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے
سنا: اللہ عزوجل نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے اور
وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
عِيَّاشٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيُّ، ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ،
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ
أَبِي أَسَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي عَامِ حَجَّةِ
الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي
حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

بچہ بستر والے کا ہے زانی کے لیے پتھر ہیں اور ان کا
معاملہ اللہ کے سپرد ہے جس نے اپنا نسب بدلا اور غلام نے
اپنی نسبت کسی اور کی طرف کی تو اس پر اللہ کی لعنت قیامت
کے دن تک رہے گی۔

کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت
کے بغیر خرچ نہ کرے عرض کی: یا رسول اللہ! کھانا بھی؟
آپ نے فرمایا: یہ ہمارے اموال میں سے افضل ہے۔

پھر فرمایا: عاریتاً واپس کی جائے جوشی عاریتاً دی ہو
اس کو واپس کرنا ہے قرض ادا کرنا ہے نگہبانی کرنے

7496 - الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الْحَجَرُ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ
ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

7497 - وَلَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ
بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

7498 - ثُمَّ قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ،
وَالْمَنْيَحَةُ مُرْدُودَةٌ، وَالَّذِينَ يَقْضَى، وَالزَّعِيمُ

غَارِمٌ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

7499 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

يَحْيَى بْنِ حَمَزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ
الْحِمَصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَرَطَةٌ،
يَعْبُدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ
اللَّهِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَطَانَتِهِمْ

7500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَبَّاسِ الْمُؤَدَّبُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ:
ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي
خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا
نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ،
وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا
وَلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

7501 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

والے چٹی بھرنے والا ہے۔ یہ الفاظ عبدالرزاق کے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب آخر زمانہ میں شرطہ
(پولیس) ہوگی، صبح کریں گے اللہ کے غصہ میں اور شام
کریں گے اللہ کی ناراضگی میں، ان کا ساتھی بننے سے پرہیز
کرنا۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! میرے بعد نبی نہیں ہے نہ
تہمارے بعد کوئی امت ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو
اور پانچ نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو (نیک
صالح) حکمرانوں کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت
میں داخل ہو گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

7499 - شيخ الطبرانی هنا قال الذهبي: له من اكبر وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وله ترجمة في المعنى والميزان

واللسان. ورواه المصنف من هذا الطريق في مسند الشاميين رقم الحديث: 542.

7500 - قال في المعجم جلد 8 صفحہ 263 رواه الطبرانی ورجال أحد الطريقين ثقات وفي بعضهم ضعف.

7501 - قال في المعجم جلد 4 صفحہ 77 وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. ورواه المصنف في مسند الشاميين

رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: شیاطین اپنا جھنڈا لے کر بازار جاتے ہیں سب سے پہلے داخل ہونے والے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور آخر میں نکلنے والے کے ساتھ نکلتے ہیں۔

عِرْقُ الْجَمِصِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الصَّحَّاحِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَغْدُو بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَدْخُلُونَ مَعَ أَوَّلِ دَاخِلٍ، وَيَخْرُجُونَ مَعَ آخِرِ خَارِجٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

7502 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، الْجَمِصِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، ثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے موزے مانگے، جن کو آپ ﷺ پہنتے، ان میں سے ایک پہنا اور پھر ایک کو آیا تو اس نے دوسرے کو اٹھا لیا، اسے لے کر پھینک دیا تو اس سے سانپ نکلا

7503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْجَمِصِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَوْحٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ دَعَا

رقم الحديث: 544 .

7502 - قال في المجموع جلد 5 صفحہ 140 'وفيه هاشم بن عمرو ولم أعرفه الا ابن حبان ذكر في الثقات هاشم بن عمرو في طبقته والظاهر أنه هو الا أنه لم يذكر روايته عن اسماعيل بن عياش وشيخ اسماعيل في هذا الحديث شامي فرواته ثقات وهو صحيح ان شاء الله . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 546 .

7503 - ذكر الحافظ الهيثمي جلد 5 صفحہ 140 هذا الحديث وتكلم على سند الحديث قبله . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 547 . ولم أر ترجمة لسعيد بن روح فيما لدى من المراجع . وضعف شيخنا الحديث .

حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ موزے پہنے سے پہلے جھاڑے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُفَيْهِ يَلْبَسُهُمَا، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ جَاءَ غُرَابٌ فَاحْتَمَلَ الْآخِرَ، فَرَمَى بِهِ، فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسُ خُفَيْهِ حَتَّى يَنْفُضَهُمَا

صَفْوَانُ الْأَصَمُ الطَّائِيُّ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

صفوان الاصم طائی، حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

پھر فرمایا: عاریتاً جو واپس کی جائے جوشی عاریتاً دی ہو اس کو واپس کرنا ہے عطیہ ادا کرنا ہے نگہبانی کرنے والا سردار چٹی بھرنے والا ہے۔

7504 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْقَى، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَصَفْوَانُ الْأَصَمُ الطَّائِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ

بچہ بستر والے کا ہے زانی کے لیے پتھر ہیں۔

7506 - وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔

7506 - وَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ

اسد بن وداعہ، حضرت ابو امامہ صدی
بن عجلان سے وہ حضور ﷺ سے

أَسَدُ بْنُ وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ صَدِّي بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو اور پانچ نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو (نیک صالح) حکمرانوں کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے۔

7507 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ تَيْفِي بْنِ أَبِي تَيْفِي الْحَمَصِيُّ، ثنا جَدِّي أَبُو تَيْفِي هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا الْمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرَانَ الظَّهْرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ أَسَدِ بْنِ وَدَاعَةَ، وَشُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةٌ بَعْدَكُمْ، اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأَذُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

شداد ابوعمار، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: مجھ پر حد لگتی ہے آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اعراض کیا پھر فرمایا: مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے اعراض کیا اس نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے پھر اعراض کیا نماز کھڑی ہوئی جب آپ نے سلام پھیرا تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔

7508 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ح وَثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَوَّارِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابِلِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقَمَهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا

شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

آپ نے فرمایا: کیا تو نے وضو نہیں کیا؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! پھر فرمایا: جس وقت ہم نے نماز پڑھائی تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔

فَاقِمْنَاهُ عَلَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْنَاهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْنَاهُ عَلَيَّ قَالَ: هَلْ تَوَضَّأْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ صَلَّيْتَ حِينَ صَلَّيْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔ حضور ﷺ خاموش ہو گئے اس نے دوبارہ عرض کی: مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں! نماز کے لیے اقامت پڑھی گئی تو حضور ﷺ داخل ہوئے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا وہ آدمی آپ کے پیچھے چل رہا تھا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھ پر حد لگتی ہے مجھ پر حد قائم کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جس وقت تو اپنے گھر سے نکلا تھا تو تو نے اچھا وضو کیا تھا؟ اس نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تو ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوا تھا؟ اس نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے تیری حد یا تیرے قرض کو معاف کر دیا ہے۔

7509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سُورَةَ الْبَغْدَادِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَارِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَاقِمْنَاهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعَادَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَاقِمْنَاهُ عَلَيَّ. قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ قَالَ شَدَّادُ، فَحَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالرَّجُلُ يَتَّبِعُهُ وَهُوَ

يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: وَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ: دَيْنَكَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اگر تو اضافی مال خرچ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر روک لے تو تیرے لیے بُرا ہے بطور کفایت رکھنے پر اعتراض نہیں ہے، ابتداء اس سے کہ جو تیرے زیر کفالت ہیں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

7510 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرَّيَّانِ، ثنا عَبْسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ح وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلُ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا يَلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

7511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّوْمِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

7512 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ، ثنا
الْأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ شَدَّادَ أَبَا عَمَّارٍ، حَدَّثَهُ، ثنا أَبُو
أَمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا
مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ

7513 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ
النُّفَلِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفيُّ،
ثنا معاوية بن سلام، عن هود بن عطاء، قال:
سَمِعْتُ شَدَّادَ أَبَا عَمَّارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا
أَمَامَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَلْتَمِسُ
الْخَيْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهُ - يَقُولُ
ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ
مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ، وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ

7514 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ

الْمِصْرِيُّ الْأَيْلِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا جَسْرُ بْنُ
فَرْقِدٍ، ثنا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ الْقَيْسِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ

رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: دنیا میں ریشم وہ پہنتا
ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، اس نے عرض کی: یا رسول
اللہ! ایک آدمی بھلائی اور ذکر کی محفل تلاش کرتا ہے اس
کے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے لیے کوئی
ثواب نہیں ہے آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ عزوجل
وہی عمل قبول کرتا ہے جو خلوص سے اور اس کی رضا کے لیے
کیا جائے۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب
حضرت محمد بن عدنان کی اولاد چالیس تک پہنچی وہ حضرت

7513 - ورواه النسائي جلد 6 صفحہ 25، وهو حديث حسن. وقد حسن الحافظ العراقي اسنادہ فی تخريج أحاديث الأحياء
جلد 4 صفحہ 477، وذكره شيخنا في سلسلة الصحيحه (52).

7514 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 218، وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف. قلت: والنهاس بن قهم ضعيف. لكن البلاء
ليس منهما فالبراء من شيخ الطبراني قال ابن حبان في كتاب المجروحين جلد 1 صفحہ 149-150 كذاب دجال
بضع الحديث على الثقات وضعوا. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وقال الدارقطني: حدثونا عنه وهو
كذاب. فهو حديث موضوع.

موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے پاس کھڑے ہوئے اور اس کو لوٹا۔ پس حضرت موسیٰ بن عمران نے ان کے خلاف دعا کی عرض کی: اے میرے رب! یہ معد کی اولاد ہے انہوں نے میرے لشکر پر حملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی: اے موسیٰ بن عمران! ان کے خلاف دعا مت کر کیونکہ ان میں سے نبی آئی ہیں جو (میرے عذاب سے) ڈرانے والے اور میری جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں انہیں میں سے وہ اُمت ہے جس پر رحمت کی گئی ہے یعنی محمد ﷺ کی اُمت جو قلیل رزق پر راضی ہوگی اور میں ان سے قلیل عمل پر راضی ہوں گا پس میں ان کو اپنی جنت میں داخل کروں گا اس وجہ سے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا کیونکہ ان کے نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد ﷺ ہے جو حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کے بیٹے اپنی ہیئت میں عاجزی کرنے والے ہیں ان کے سکوت میں ساری عقل جمع ہے وہ حکمت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ردباری سے کام لیتے ہیں۔ میں نے ان کو پیدا کیا ہے قریشی بنا کر ان کی اُمت میں بہترین لوگوں سے پھر قریش میں سے انتخاب کر کے میں نے ان کو بنو ہاشم سے پیدا کیا پس وہ اچھے ہیں اچھائی سے اچھائی کی طرف جائیں گے اور ان کی اُمت بھی بھلائی کی طرف جائے گی۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام مجھے

أَبَى عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا بَلَغَ وَلَدُ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَقَفُوا عَلَى عَسْكَرِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَبُوهُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ وَلَدُ مَعْدٍ قَدْ أَغَارُوا عَلَى عَسْكَرِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، يَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، لَا تَدْعُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ النَّذِيرَ الْبَشِيرَ بِجَنَّتِي، وَمِنْهُمْ الْأُمَّةُ الْمَرْحُومَةُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ يَرْضَوْنَ مِنَ اللَّهِ بِالْيُسْرِ مِنَ الرِّزْقِ، وَيَرْضَى اللَّهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ، فَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لِأَنَّ نَبِيَّهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُتَوَاضِعِ فِي هَيْئَتِهِ، الْمُجْتَمِعَ لَهُ اللَّبُّ فِي سُكُوتِهِ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ، وَيَسْتَعْمِلُ الْحِلْمَ، أَخْرَجَتْهُ مِنْ خَيْرِ جِيلٍ مِنْ أُمَّتِهِ قُرَيْشًا، ثُمَّ أَخْرَجَتْهُ مِنْ هَاشِمٍ صَفْوَةً قُرَيْشٍ، فَهُمْ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ إِلَى خَيْرٍ بِصِيرٍ، وَأَمَّتُهُ إِلَى خَيْرٍ بِصِيرُونَ

شهادة ابو امامہ عن ابی امامہ

7515 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ

پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اُسے وارث نہ بناوے۔

يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ

یزید القینی، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

يَزِيدُ الْقِنِي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت مریم نے اپنے رب سے ایسا گوشت مانگا جس میں خون نہ ہو اللہ عزوجل نے آپ کو مڈی کھلائی، آپ نے عرض کی: اے اللہ! تو اسے زندہ رکھ بغیر دودھ پلائے اس کو بھوک نہ لگے۔

7516 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمِيدِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصَبِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ الْقِنِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ مَرْيَمَ سَأَلَتْ رَبَّهَا لَحْمًا لَا دَمَ فِيهِ، فَأَطْعَمَهَا الْجَرَادُ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَحْيِهِ بِغَيْرِ رِضَاعٍ وَتَابِعْ بَيْنَهُ بِغَيْرِ شَبَاعٍ

قحافہ بن ربیعہ، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

قُحَافَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7517 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

7516 - قال في المجموع جلد 4 صفحہ 39 وفيه بقية وهو ثقة لكنه مدلس، ويزيد القيني لم أعرفه وبقيه رجاله ثقات. قلت: يزيد ذكره ابن حبان في الثقات والبخاري في التاريخ الكبير وهو مجهول. ونمير قال الأزدي ليس بشيء، وقال الحافظ: شامي مجهول.

7517 - قال في المجموع جلد 3 صفحہ 271 رواه الطبرانی وفيه بقية بن الوليد وهو ثقة ولكنه مدلس وبقيه رجاله ثقات.

حضور ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہو کر آئے آپ عرفہ کے دن لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا: یہ کون سا دن ہے؟ عرض کی: یہ آج کا دن نویں ذی الحجہ کا ہے آپ نے فرمایا: کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: حرمت والا مہینہ! آپ نے فرمایا: یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: حرمت والا شہر! آپ نے فرمایا: تمہارے اموال اور عزتیں اور خون ایک دوسرے پر حرام ہیں تمہارے لیے اس شہر اور دن کی طرح ہر نبی نے جو دعا کی ہے وہ قبول ہوئی میں نے اپنے رب کے ہاں دعا قیامت کے دن کیلئے رکھی ہے اس کے بعد کیونکہ انبیاء کی امتیں کثیر ہوں گی تم مجھے مسوانہ کرنا کیونکہ میں حوض کوثر پر تمہارے لیے بیٹھوں گا۔

عَرِقَ الْجَمُصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتْوِيهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْجَمُصِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ يَزِيدٍ الْقِسِيِّ، عَنْ فُحَّافَةَ بِنِ رَبِيعَةَ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ صُدَيْ بِنِ عَجَلَانَ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى نَاقَةٍ حَتَّى وَقَفَ وَسَطَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الْحَرَامُ. قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ؟ قَالُوا: فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ؟ قَالُوا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ. قَالَ: فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَيْسَ مِنْكُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا، فِي بَلَدٍ كُمْ هَذَا، إِلَّا إِنْ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ مَضَتْ دَعْوَتُهُ إِلَّا دَعْوَتِي، فَإِنِّي قَدْ أَخَّرْتُهَا عِنْدَ رَبِّي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُكَاثِرُونَ، فَلَا تُخْزُونِي، فَإِنِّي جَالِسٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

سلمہ قیسی، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

سَلَمَةُ الْقَيْسِيِّ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7518 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

قلت: وتقدم أن نميرًا مجهول.

7518 - وقال في المنذرى في الترغيب جلد 1 صفحه 179 'وفي اسناده نظر. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 1033.

حضور ﷺ نے فرمایا: جو اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبروں کی خوشخبری ہے لوگ اس دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

عبدالاعلیٰ بن ہلال السلمی، حضرت
ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ جب کھانا کھا لیتے تو یہ دعا کرتے: ”الحمد
للہ حمداً كثيراً طیباً الى آخره“۔

عِرْقِ الْحَمِصِيِّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا
بَقِيَّةٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَلَمَةَ
الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَشِّرِ الْمَذَلِّجِينَ إِلَى
الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلُمِ بِمَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، يَقْرَعُ النَّاسُ وَلَا يَقْرَعُونَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثَنَا بَقِيَّةٌ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَلَمَةَ الْقَيْسِيِّ، عَنْ
رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ
هَلَالِ السَّلَمِيِّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7519 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حِمَّانٍ، ح وَحَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، ثَنَا هِشَامُ
بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِيهِمْ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هَلَالِ
السَّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
أَكَلَ طَعَامًا يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا

طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفُورٍ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ

7520 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْفَرِّبَابِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحُمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَمَارَةُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هَلَالٍ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، فَيَتْرُكُ أَصْفَرَ وَأَبْيَضَ إِلَّا كُورَى بِهِ

حَاتِمُ بْنُ حَرْيِثِ الطَّائِي، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7521 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّبَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ حَرْيِثِ الطَّائِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِحَةُ مُرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لِقَحَةً

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ مر جاتا ہے جس دن بھی مرتا ہے تو وہ زرد اور سفید (چاندی اور سونا) کے ذریعہ اسے دانا جائے گا۔

حاتم بن حریث طائی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عاریتاً لی گئی چیز کی واپسی ہے اور جس نے ایسا جانور لیا جس کے تھنوں میں دودھ روکا گیا تھا تو اس کا دودھ رکھنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اسے واپس کرے۔

7520 - قال في المجموع جلد 3 صفحہ 125 'وفيه بقية وهو مدلس . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 746'

وہو حدیث ضعیف .

7521 - ورواه ابن حبان رقم الحديث: 1174 قال شيخنا في الارواء جلد 5 صفحہ 246 سنده حسن . وكذا قال في سلسلة

الصحيحة جلد 2 صفحہ 169-170 فراجعہ .

مُصْرَاةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا حَتَّى يَرُدَّهَا

عبد الرحمن بن میسرہ حضرمی، حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ
الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7522 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ
الْحِمَصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ
الْحَوْطِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَا: ثنا حَرِيرُ
بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكَيْدُ خُلَنَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الرَّجُلِ
الْوَاحِدِ لَيْسَ بِنَبِيِّ مِثْلُ الْحَيِّينِ، أَوْ أَحَدِ
الْحَيِّينِ رَبِيعَةً، وَمُضَرَ

ابو الغازی عنسی، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

أَبُو الْغَازِي الْعَنْسِيُّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7523 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے اچھا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُفَرِّءُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ

7522 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 257، 261، 267 قال في المجمع جلد 10 صفحہ 381 رواه أحمد والطبرانی بإسناد

ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانی رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة .

7523 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 45 وفيه من لم أعرفه . قلت: عبد الرحمن ضعيف . قلت: يقصد الحافظ الهيثمي

أبا الغازی العنسی، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول .

بادشاہ حمیر، سفیان سکون اور اشعریین کا بادشاہ ہے۔

بْنِ اَنَعْمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْغَارِي الْعَنْسِيُّ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ
الْأَمْلُوكَ أَمْلُوكَ حَمِيرَ، وَسُفْيَانَ وَالسَّكُونِ،
وَالْأَشْعَرِيَّينَ

زائدہ بن حسین، حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ جب کسی امیر کو بھیجتے تو آپ فرماتے: مختصر
خطبہ اور مختصر گفتگو کرنا۔

زَائِدَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7524 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ
يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ
صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبٍ الرَّحْبِيُّ،
ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا
قَالَ: أَقْصِرِ الْخُطْبَةَ، وَأَقِلَّ الْكَلَامَ

ابو سفیان رعینہ، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

أَبُو سُفْيَانَ الرَّعِينِيُّ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو ولی بنتا ہے وہ عام ہوتا ہے اس
اس کو کان کی دائیں طرف سے لٹکایا جائے گا بیٹھا بنا کر۔

7525 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ
يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ
صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ثنا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبٍ، ثنا أَبُو
سُفْيَانَ الرَّعِينِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَثِي وَالِيًا

حَتَّى يُعَمِّمَهُ، وَيُرْخِيَ لَهَا عَذَابَهُ مِنْ جَانِبِ
الْأَيْمَنِ نَحْوَ الْأُذُنِ

عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ

عمرو بن عبد اللہ حضرمی، حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں

7526 - حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ نَاهِضٍ
الْمُقَدِسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانٍ، ثنا ضَمْرَةُ بْنُ
رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيَّانِي، عَنْ
عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقْبَلَ بِي الشَّامَ، وَوَلَّى
ظَهْرِي لِلْيَمَنِ، وَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، جَعَلْتُ مَا
تُجَاهَكَ غَنِيمَةً وَرِزْقًا، وَمَا خَلْفَ ظَهْرِكَ
مَدَدًا، وَلَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ الشِّرْكَ
وَأَهْلُهُ، حَتَّى تَسِيرَ الْمُرَاتَانِ لَا تَخْشَيَانِ جَوْرًا
7527 - ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
لَا تَذْهَبُ الْآيَاتُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَبْلُغَ هَذَا الدِّينُ
مَبْلَغَ هَذَا النَّجْمِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ملک شام میرے
سامنے کر دیا اور میری پیٹھ یمن کی طرف کی اور مجھے فرمایا:
اے محمد! آپ کے سامنے والے کو آپ کے لیے غنیمت اور
رزق بنایا اور آپ کی پشت کے پیچھے وہ آپ کی مدد کے
لیے بنایا! اسلام زیادہ ہوگا، شرکت اور اس کے اہل کم ہوں
گے یہاں تک کہ دو عورتیں چلیں گی، ان کو ظلم کا خوف نہ ہو
گا۔

پھر فرمایا: وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے! دن اور راتیں نہیں جائیں گی یہاں تک کہ یہ
دین اس ستارہ تک نہ پہنچے۔

7526 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 60 وفيه عبد الله بن هاني المتأخر الى زمن أبي حاتم وهو متهم بالكذب. ورواه
المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 859 بهذا الاسناد واللفظ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق
جلد 1 صفحہ 378 لكن رواه أبو نعيم في الحلية جلد 6 صفحہ 107-108 وابن عساكر جلد 1 صفحہ 377-378 من
غير هذا الطريق عن ضمرة به. ولذا أورده شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 35 مع أن شيخنا قال في الصحيحة
جلد 4 صفحہ 599-560 ما يأتي ولعله صححه لشواهد.

7528 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي

الْأَذَنِيُّ، ثنا أَبُو عُمَيْرٍ عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
إِسْحَاقَ النَّخَّاسِ، ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ
طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ
يَغْزُوهُمْ، قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَاهُمْ، حَتَّى
يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ، وَهُمْ كَذَلِكَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ

7529 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رُزَيْقٍ بْنُ

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر
رہے گا جو ان سے جہاد کرے گا ان پر غالب رہیں گے جو
ان سے مقابلہ کرے گا ان کا نقصان نہیں کرے گا یہاں
تک کہ اللہ کا حکم آجائے جبکہ وہ اسی حال پر ہوں۔ عرض کی
گئی: یا رسول اللہ! وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: بیت
المقدس میں۔

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7528 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 288 رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه جلد 5 صفحہ 269 والطبرانی ورجاله ثقات .
ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 860 . قال شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 4 صفحہ 599-560
وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله الحضرمي قال الذهبي في الميزان: ما علمت روى عنه سوى يحيى بن
أبي عمرو السيباني وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته التي لم يأخذ بها جمهور العلماء ولذلك لم يوثقه
الحافظ في التقريب وإنما قال مقبول أي لين الحديث وبقية رجال الاسناد ثقات . وزاد في تخريجه للحديث قبل
هذا أن العجلي أيضا وثقه . وللحديث شواهد .

7529 - رواه ابن ماجه رقم الحديث: 4077 عن علي بن محمد بن عبد الرحمن المحاربى عن اسماعيل بن رافع عن يحيى
به . قال الحافظ المزى وكذا رواه سهيل بن عثمان عن المحاربى وهو وهم فاحش قال الحافظ ابن كثير في نهاية
البداية جلد 1 صفحہ 89 . قلت: وقد جود اسناده أبو داؤد رقم الحديث: 4300 فرواه عن عيسى بن محمد عن
ضمرة عن يحيى السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أُمَامَةَ . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم
الحديث: 861 بهذا الاسناد واللفظ وفي الأحاديث الطوال (48) . ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم
الحديث: 391 والرواياني في مسند الصحابة جلد 2 صفحہ 814 والآجری في الشريعة صفحہ 375 والحاكم
جلد 4 صفحہ 536-537 وصححه على شر مسلم ووافقه الذهبي . أما شيخنا فضعه بسبب عمرو الحضرمي
وآلف رسالة في تخريج هذا الحديث وتحقيق الكلام على فقراته الذى وجد لاكثرها شواهد تفويها .

جَامِعِ الْمِصْرِيِّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ السَّرْحِيُّ،
 ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ
 عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو
 السَّيَّانِيِّ، عَنْ حَدِيثِ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيِّ مِنْ
 أَهْلِ حِمَاصٍ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ:
 خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا،
 وَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ ذِكْرَ الدَّجَالِ، يُحَذِّرُنَاهُ
 يُحَدِّثُنَا عَنْهُ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَكَانَ فِيمَا
 قَالَ لَنَا يَوْمَئِذٍ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا
 إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ، وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ
 الْأُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، فَإِنْ يَخْرُجُ
 وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَأَنَا حَاجِبُ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ
 يَخْرُجُ فِيكُمْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِءٍ حَاجِبُ نَفْسِهِ
 وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّهُ
 يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ عَاتٍ
 يَمِينًا، وَعَاتٍ شِمَالًا: يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا، فَإِنَّهُ
 يَسْدَأُ يَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَإِنَّهُ
 مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ،
 فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْتُلْ فِي وَجْهِهِ، وَلْيَقْرَأْ
 بِقَوَارِعِ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَإِنَّهُ يُسَلِّطُ
 عَلَى نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَيَقْتُلُهَا، ثُمَّ يُحْيِيهَا،
 وَإِنَّهُ لَا يَعْدُو ذَلِكَ، وَلَا يُسَلِّطُ عَلَى نَفْسٍ مِنْ
 غَيْرِهَا، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، وَنَارُهُ
 جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَغْمِصْ

حضور ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں دجال
 کا ذکر بہت زیادہ کیا، ہمیں اس سے ڈراتے رہے اور خطبہ
 مکمل ہونے تک بتاتے رہے اس دن ہمیں فرمایا: اللہ
 عزوجل کے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا میں
 تمام نبیوں کے آخر میں ہوا اور تم امتوں میں آخری ہوؤ
 یقیناً تم میں نکلے گا اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں ہر
 مسلمان کا نگہبان ہوں اگر تم میں میرے بعد نکلے تو ہر آدمی
 اپنی جان کا نگہبان ہے اللہ عزوجل ہر مسلمان کا نگہبان ہے
 وہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، دائیں بائیں
 پھرے گا اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہو! وہ ابتداء
 کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں
 ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا
 جسے ہر مومن پڑھے گا جو تم میں سے اس کو ملے اس کے
 چہرے کی طرف اپنا منہ کر کے تھو کے اور سورہ کہف پڑھے
 وہ بنی آدم سے اپنے آپ کو مسلط کرنے تک پھر قتل کرے گا
 اور زندہ کرے گا اس کے علاوہ نہیں کرے گا اس کے علاوہ
 سے مسلط نہیں ہوگا اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت
 اور دوزخ ہوگی اس کی دوزخ جنت اور جنت دوزخ ہوگی
 جس کو اپنی آگ سے آزمائے گا وہ اپنی آنکھیں بند کرے
 اور اللہ عزوجل سے فریاد کرے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو
 گی جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور
 سلامتی والی ہوئی تھی بیشک اس کے دن چالیس ہوں گے
 لیکن اس کا ایک دن سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک ماہ
 کے برابر ایک دن جمعہ کی طرح اور ایک دن ان دنوں میں

کئی دنوں کی طرح اور اس کا آخری دن سراب کی مانند ہو گا۔ آدمی شہر کے دروازے پر صبح کرے گا، پس وہ چلے گا اس سے پہلے کہ وہ شہر کے دوسرے دروازے تک پہنچے (شام ہو جائے گی) کہا: اے اللہ کے رسول! ایسے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا: تم اندازہ کرو گے جس طرح لمبے دنوں کا اندازہ لگاتے ہو۔

عَيْنِيهِ، وَلَيْسَتْ غَيْثٌ بِاللَّهِ يَكُونُ بَرْدًا وَسَلَامًا، كَمَا كَانَتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمًا كَسَنَةٍ، وَيَوْمًا كَشَهْرٍ وَيَوْمًا كَجُمُعَةٍ، وَيَوْمًا كَالْأَيَّامِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالسَّرَابِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ فَيَمْشِي قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بَابَهَا الْآخَرَ. قَالَ: فَكَيْفَ نُصَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقَصَارِ؟ قَالَ: تُقَدِّرُونَ فِيهَا كَمَا تُقَدِّرُونَ الْأَيَّامَ الطُّوَالَ

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے خطبہ دیا، پھر اس کی مثل ذکر کیا۔

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَدَنِيُّ، ثنا أَبُو عَمِيرٍ بْنُ النَّحَّاسِ، ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيَّانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

حُصَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْهَلَالِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7530 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَوَّارٍ الْهَلَالِيُّ، ثنا حُصَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْهَلَالِيُّ، ثنا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ

حُصَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْهَلَالِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنے صحابہ سے فرماتے تھے: جب کوئی با وضو ہو اور وہ کھانا کھائے تو وہ وضو کرے ہاں اگر اونٹ کا دودھ پیو تو پانی کے ساتھ کھلی کر لو۔

لَأَصْحَابِهِ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وُضوءٍ،
فَأَكَلَ طَعَامًا يَتَوَضَّأُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ الْبَابِلِ إِذَا
شَرِبْتُمُوهُ فَتَمَضَّضُوا بِالْمَاءِ

خَدَاشٌ، عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ

خداش، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ
جنتہ الوداع کے موقع پر حضور ﷺ کے پاس تھے وہ پہلے
تھے جن سے آپ نے گفتگو فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ عزوجل
تمہیں اپنے ماؤں کے متعلق نیکی کی وصیت کرتا ہے۔

7531 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُبَيْرٍ الْخَمَصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ضَمْضَمِ
بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ
خَدَاشٌ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ،
فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَفَوَّهَ بِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ يُوصِيكُمُ بِأُمَّهَاتِكُمْ

پھر اللہ کی حمد کی پھر فرمایا: جو اللہ نے چاہا! پھر فرمایا:
خبردار عاریتا دی ہوئی شی واپس کرو اور عطیہ واپس کرنا
ہے۔

7532 - ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ
قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ
الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَإِنَّ الْمُنْحَةَ مُؤَدَّاةٌ

بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔

7533 - وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَامِرِ

الْحَبَرُ

ابو عامر الہوزنی کا نام عبد اللہ بن لُحی
ہے وہ حضرت ابو امامہ سے

أَبُو عَامِرٍ الْهُوزَنِيُّ، وَاسْمُهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحَيٍّ، عَنْ

أَبِي أَمَامَةَ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عاریتاً لی ہو کی شی واپس کرنا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اللہ کے عہد کے متعلق بتائیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کا عہد زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔

ابو عامر الالہانی، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ فرماتے تھے: جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہاں بیٹھا رہا نماز چاشت ادا کی اس کے لیے مکمل ایک حج و عمرہ کا ثواب ہے۔

عبد الواحد بن قیس، حضرت ابو امامہ

7534 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافِ التُّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ

الْعَطَّارُ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ فَرِافِصَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عَهْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَهْدُ اللَّهِ أَحَقُّ مَا أَدَى

أَبُو عَامِرٍ الْهَلْبَانِيُّ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7535 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو

الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا

مَرْوَانُ مَعَاوِيَةُ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، ثَنَا

أَبُو عَامِرٍ الْهَلْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وَغُثَبَةَ بْنِ

عَبْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي مَسْجِدٍ

جَمَاعَةٍ، ثُمَّ مَكَتَ حَتَّى يُسَبِّحَ تَسْبِيحَةَ

الضُّحَى، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ تَامَ لَهُ

حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ

أَبُو عَامِرٍ الْهَلْبَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ

أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سے روایت کرتے ہیں

7536 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدٍ

الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُونُسَ
الْفَرَّاسِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ، ثنا
أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ،
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَأَمْرٌ مَا
اخْتَسَبَ، وَعَلَيْهِ مَا اخْتَسَبَ. وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ
أَحَبَّ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابِي الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنْ
أَهْلِي

كُهَيْلُ بْنُ حَرْمَلَةَ،

کھیل بن حرملہ، حضرت ابوامامہ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

سے روایت کرتے ہیں

7537 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ

أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْمَاطِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ مُوسَى، ثنا مُسْلِمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
دِهْقَانَ، عَنْ كُهَيْلِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ہر جھگڑنے
(لکے پھلکے) کا کفارہ دو رکعتیں ہیں۔

7536 - قال في المعجم جلد 10 صفحہ 281 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (491 مجمع البحرين) باختصار وفيه

عمر بن بكر السكسكي وهو ضعيف . قلت: بلى متروك كما قال الحافظ في التقریب .

7537 - قال في المعجم جلد 2 صفحہ 251 فيه مسلمة بن علي وهو متروك . ورواه من هذه الطريق ابن عساكر جلد 14

صفحہ 308 . ورواه تمام في الفوائد جلد 1 صفحہ 141 وابن الأعرابي في معجمه جلد 2 صفحہ 178 من حديث أبي

هريرة . وحسنه شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 4 صفحہ 397 والمراد بالحاء المخاصمة والمنازعة . وفي

الأصل ركعتين وهو خطأ .

الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءٍ رَكْعَتَانِ مَرِيحُ بْنُ مَسْرُوقٍ الْهُوزَنِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7538 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، ثنا مَيْبَعُ السَّرِيُّ بْنُ الضَّحَّاكِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْبَزْزِيُّ، عَنْ مَرِيحِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْهُوزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِذِي حَسَبٍ، أَوْ دِينٍ، أَوْ لِذِي حِلْمٍ

7539 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذِنِيُّ الْمِصْبِصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمَاصِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرِيحًا يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءٍ رَكْعَتَانِ

مرتج بن مسروق الهوزنی، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نیکی حسب اور دین دار اور بردبار کے لیے بہتر ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے اپنی امت پر بھوک کی وجہ سے مرنے کا خوف نہیں ہے نہ دشمن کے غالب آنے کا لیکن مجھے اپنی امت پر گمراہ کن ائمہ (حکمرانوں) کا خوف ہے اگر ان کی بات مانی جائے گی تو وہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کریں گے اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو وہ قتل کریں

7538 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 183 وفيه سليمان ابن سلمة الخبائري وهو متروك ورواه ابن عساكر (1/111/3)

من طريق سليمان به الا أنه زاد بين مريح بن مسروق وأبي أُمَامَةَ أبا زكريا - قال شيخنا في سلسلة الضعيفة جلد 2 صفحہ 196، وهذا اسناد ساقط من دون أبي زكريا لم أعرفهم غير سليمان بن سلمة الحمصي وهو متهم بالكذب - ثم اطل شيخنا فراجعه .

7539 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 239 وفيه من لم أعرفه .

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا
يَقْتُلُهُمْ، وَلَا عَذْوًا يَجْنَحُهُمْ، وَلَكِنِّي أَخَافُ
عَلَى أُمَّتِي أَيْمَةً مُضِلِّينَ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ قَتَلُوهُمْ،
وَإِنْ عَصَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ

غِيلَانُ بْنُ مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7540 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ
الِدَمْشَقِيُّ، ثنا أَبِي مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح
وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرَفٍ
الْحَمَصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثنا يَحْيَى، ح
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشَقِيُّ،
وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا: ثنا
هَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالُوا:
ثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا غِيلَانُ بْنُ مَعْشَرٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: تَوَقَّى رَجُلٌ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِدُوا
لَهُ كَفْنًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ
كَفْنًا. قَالَ: التَّمِسُوا فِي مَنَازِلِهِ. فَوَجَدُوا
دِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كَيْتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

غیلان بن معشر، حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا تو صحابہ
نے اس کیلئے کفن نہ پایا، پس عرض کی: اے اللہ کے رسول!
ہمیں اس کیلئے کفن نہیں ملا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی
چادر میں تلاش کرو، پس انہوں نے دو دینار پائے۔ فرمایا:
یہ دو سانپ ہیں، تم اپنے دوست کی نماز جنازہ پڑھو
(میں نہیں پڑھوں گا)۔

ابوراشد حبرانی، حضرت ابو امامہ سے

أَبُو رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيُّ،

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا: اے ابوامامہ! مومنین میں سے کچھ ہیں جن کے لیے میرا دل نرم ہے۔

زید بن ارطاة، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی آدمی کے لیے اس دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو دو رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ملے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی بندہ کے لیے دو رکعتیں پڑھنے

7542- عیسیٰ هذا ذكره ابن أبي حاتم والبخاري ولم يذكره فيه جرّاً ولا تعديلاً فهو مجهول وزيد بن أرتاة عن أبي امامة مرسل، فالحديث ضعيف وفي المخطوطة خير له .

7543- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 268، والترمذی رقم الحديث: 3078 وقال غريب . وفي اسنادہ بکر بن خنیس صدوق

له اغلاط وليث ابن أبي سليم صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز فترك كما قال الحافظ . وزواه الخطيب جلد 8

صفحہ 88، جلد 12 صفحہ 220 .

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7541 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَلِيدٍ

الْحَلَبِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ جُنَادٍ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْجُبَرَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي

زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ،

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِيْسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَوْتِيَ عَبْدٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا

7543 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَمِيدٍ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ،

سے افضل کوئی شی نہیں ہے نیکی بندے کے سر پر گھومتی رہتی ہے جب تک وہ اس نماز میں ہوتا ہے بندہ اس شی کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے جس سے وہ نکل رہا ہے۔ حضرت ابو نضر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔

ثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا أَذِنَ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، إِنَّ الْبِرَّ لَيَذُرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ، مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي الْقُرْآنَ

عبداللہ بن یزید بن آدم حضرت
ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ
آدَمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابوالدرداء ابو امامہ واثلہ بن اسقع، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا: علم میں راسخین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: جو اپنی قسم پوری کرتے ہیں اور ان کی زبان سچی ہوتی ہے اور اپنے پیٹ اور شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہی راسخین مراد ہیں۔

7544 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْقِرَظِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَوَائِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالُوا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ؟ قَالَ: هُوَ مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ، وَصَدَقَ لِسَانُهُ، وَعَفَّ بَطْنُهُ وَفَرَجَهُ، فَذَاكَ الرَّاسِخُ

حضرت ابوالدرداء ابو امامہ واثلہ بن اسقع، انس بن

7545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

7544 - قال في المجمع جلد 6 صفحہ 324 و عبد اللہ بن یزید ضعیف . قلت : قال أحمد : أحادیث موضوعه . وقال

البحر جانی : أحادیثه منكرة . وسیاتی قریباً حال عمرو بن عبد الجبار .

7545 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 156 وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدًا . وكذا قال جلد 7 صفحہ 259 وقال

جلد 1 صفحہ 106 وفيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني . وعلمت حال عبد الله بن يزيد آنفاً .

مالک رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے پاس آئے ایک دن ہم ان کے معاملہ میں کسی شی کے متعلق جھگڑ رہے تھے آپ سخت غصہ ہوئے آپ کو غصہ کبھی نہیں آیا پھر ہمیں ڈانٹا فرمایا: اے اُمّت محمد! چھوڑو! (یہ جھگڑے) تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے انہوں نے دکھاوے کی خیر کی کمی کے باوجود اسی کو اختیار کیا۔

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ مؤمن کی شان ریا کاری نہیں۔

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ ریا کاری کرنے والا نقصان میں ہوتا ہے۔

ریا کاری چھوڑ دو تیرے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مسلسل ریا کاری کرتا ہے۔

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ ریا کاری کرنے والے کی میں قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا۔

ریا کاری چھوڑ دو! میں جنت میں تین جگہ کا ذمہ دار ہوں جو ریا کاری چھوڑے اگرچہ وہ سچا ہو شروع درمیان بلند۔

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ مجھے میرے رب نے بتوں کی عبادت کے بعد جس سے منع کیا ہے وہ ریا اور شراب پینا ہے۔

الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ الْفَلَسْطِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ آدَمَ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأَبُو أَمَامَةَ، وَوَائِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالُوا: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَمْ يَغْضَبْ مِثْلَهُ، ثُمَّ انْتَهَرَنَا، فَقَالَ: مَهْلَا يَا أُمَّةُ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، اخَذُوا الْمِرَاءَ لِقَلَّةِ خَيْرِهِ

7546 - ذَرُّوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا

يُمَارَى

7547 - ذَرُّوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ الْمُتَمَارِيَ

قَدْ نَمَتْ خَسَارَتُهُ

7548 - ذَرُّوا الْمِرَاءَ، فَكَفَّاكَ إِثْمًا أَنْ

لَا تَزَالَ مُمَارِيًا

7549 - ذَرُّوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ الْمُتَمَارِيَ

لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

7550 - ذَرُّوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّا زَعِيمٌ

بِثَلَاثِ أُنْبِيَاءٍ فِي الْجَنَّةِ فِي رَبَاضِهَا، وَوَسْطِهَا، وَأَعْلَاهَا لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ

7551 - ذَرُّوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا

نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ الْمِرَاءُ، وَشَرُّبُ الْخَمْرِ

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ شیطان بندوں کو بتوں کی عبادت کروانے سے مایوس ہو چکا ہے لیکن تم میں ریا کاری پھیلانے پر خوش ہے۔

ریا کاری چھوڑ دو کیونکہ بنی اسرائیل کے اے فرقے تھے عیسائیوں کے ۷۲ گمراہ فرقے تھے سوائے سواد اعظم کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! سواد اعظم سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جو اس عقیدہ پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، دین میں ریا کاری بھی نہیں کرتے ہیں، توحید والوں کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے ہیں اس پر ان کو بخش دیا گیا ہے۔

پھر فرمایا: اسلام غریب سے شروع ہوا غریب میں ہی واپس آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: غرباء سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب لوگوں میں فساد ہو تو وہ اصلاح کریں، دین کے متعلق نہ جھگڑیں، گناہ کی وجہ سے توحید و سنت والوں کی تکفیر نہ کریں۔

حضرت ابوالدرداء وائلہ بن اسقع، ابوامامہ انس بن مالک رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم یہودی ایک مجلس میں تھے ہم تقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے حضور ﷺ غصہ کی حالت میں تیوری چڑھا کر ہمارے پاس آئے اور آپ نے جھڑکا پھر فرمایا: چھوڑو! چھوڑو! اے امت محمد! دو گہری اور اندھیری وادیاں ہیں اس میں نہ جھگڑو پھر آپ نے یہود کو کھڑے ہونے کا حکم دیا پھر فرمایا: آپ نے وادیاں ہاتھ پھیلا یا اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیلائیں۔

7552 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَبْسُ أَنْ يُعْبَدَ، وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِالْتَحْرِيشِ، وَهُوَ الْمِرَاءُ

7553 - ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى عَلَى ثَمْنِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِي مَنْ لَمْ يُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ، وَمَنْ لَمْ يُكْفِرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ غُفِرَ لَهُ

7554 - نُسِمَ قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُضِلُّحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَلَا يُمَارُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَلَا يُكْفِرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ

7555 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ سُفْيَانَ الرَّقِّيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ الْقُرْفَسَانِيُّ عَبْدُ دُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَوَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالُوا: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْقَدْرَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضِبًا، فَعَبَسَ،

وَقَطَبَ، وَانْتَهَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَهْ مَهْ، اتَّقُوا اللَّهَ يَا
أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَإِدْبَانِ عَمِيقَانَ قَعْرَانَ مُظْلِمَانَ،
لَا تَهْتَجُوا عَلَيْكُمْ وَهَجَ النَّارِ، ثُمَّ أَمَرَ الْيَهُودَ
أَنْ يَقُومُوا، ثُمَّ قَالَ وَبَسَطَ يَمِينَهُ، وَبَسَطَ
إِصْبَعَهُ الشِّمَالِ

7556 - ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ
وَعَشَائِرِهِمْ، فَرَعَ رَبُّكُمْ، فَرَعَ رَبُّكُمْ، ثُمَّ
بَسَطَ شِمَالَهُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهَا بِأَصْبَعِهِ الْيُمِينِ

7557 - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا
كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِأَسْمَاءِ أَهْلِ النَّارِ،
وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، فَرَعَ
رَبُّكُمْ، فَرَعَ رَبُّكُمْ، فَرَعَ رَبُّكُمْ

7558 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ
الْقُرْطُبِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، ثنا
عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ

پھر فرمایا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم
کرنے والا ہے یہ اللہ رحمن و رحیم کی طرف سے کتاب ہے
اس میں جنت میں رہنے والے ان کے آباء ان کے بیٹے
اور ان کے خاندان کے نام ہیں تمہارا رب لکھ چکا ہے
تمہارا رب لکھ چکا ہے پھر آپ نے بایاں ہاتھ پھیلایا پھر
اس کی طرف اپنے دائیں انگلی سے اشارہ کیا۔

پھر فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہم اللہ کے نام
سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا
ہے یہ کتاب رحمن و رحیم کی طرف سے ہے اس میں جہنم
والوں کے نام ہیں ان کے آباء اور بیٹے اور خاندان کے
نام ہیں تمہارا رب لکھ چکا ہے تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عز و جل رخصت کو ایسے پسند کرتا
ہے جس طرح بندہ پسند کرتا ہے کہ رب اس کو بخش دے۔

7558- ورواہ فی الأوسط (136 مجمع البحرين) وهو باطل بهذا اللفظ والآفة من عمرو بن عبد الجبار قال ابن عدی
روی عن عمه مناکیر، وعن شیخہ عبد اللہ بن یزید قال شیخنا فی سلسلۃ الضعیفۃ والموضوعة جلد 2 صفحہ 5 بل
هو بالحمل علیہ فیہ أولى فقد قال أحمد أحادیثہ موضوعة فراجعہ . قال فی المجمع جلد 3 صفحہ 163 وعبد اللہ
بن یزید ضعفہ أحمد وغیرہ . وقال جلد 7 صفحہ 202 وفيه عبد اللہ ابن یزید بن آدم قال أحمد وغیرہ . وقال
جلد 7 صفحہ 202 أحمد أحادیثہ موضوعة .

آدَمَ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَوَائِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ،
وَأَبُو أُمَامَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ
تُقْبَلَ رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ الْعَبْدُ مَغْفِرَةً رَبِّهِ

يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7559 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ
الْوَحَاطِيُّ، ثَنَا جَمِيعُ بْنُ ثَوْبٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ
خُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا قَالَ: أَقْصِرِ
الْخُطْبَةَ، وَأَقِلَّ الْكَلَامَ، فَإِنَّ مِنَ الْكَلَامِ سِحْرًا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَابِرٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7560 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ،
عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
غَابِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ
الصُّبْحِ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى

يزید بن خمیر، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ جب امیر کو بھیجتے تو آپ فرماتے: مختصر خطبہ اور
مختصر گفتگو کرنا کیونکہ کلام بھی ایک جادو ہے۔

عبد اللہ بن غابر، حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ فرماتے تھے: جس نے فجر کی نماز باجماعت
پڑھی پھر وہاں بیٹھا رہا، نماز چاشت ادا کی اس کے لیے
مکمل ایک حج و عمرہ کا ثواب ہے۔

بَصَلَى سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍ، أَوْ
مُعْتَمِرٍ تَامًا حَاجَّتُهُ وَعُمَرَتُهُ

سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ أَبُو يَحْيَى
الْخَبَائِرِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

سليم بن عامر ابو یحییٰ خباری
حضرت ابو امامہ معاویہ بن صالح
سے وہ سلیم بن عامر سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر جدعاء
اونٹنی پر فرماتے ہوئے سنا آپ نے دونوں پاؤں مبارک
زمین میں رکھے ہوئے تھے اونچی جگہ پر تاکہ لوگ سن سکیں۔
آپ نے فرمایا: کیا تم سن رہے ہو؟ آپ نے اپنی آواز
بلند کی لوگوں میں سے کچھ نے عرض کی: ہم سے کیا وعدہ
لیتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا: تم اپنے رب کی عبادت
کرو پانچ نمازیں پڑھو ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے
اموال کی زکوٰۃ دینیک صالح حکمرانوں کی اطاعت کرو تم
اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے۔ حضرت ابو یحییٰ
فرماتے ہیں: میں نے ابو امامہ سے کہا: آپ اس دن کتنی عمر
کے تھے؟ فرمایا: تیس سال کی عمر کا میں قافلے والوں سے
بھیڑ کرنے لگا یہاں تک کہ میں رسول اللہ ﷺ کے
قدموں کے پاس جا پہنچا تھا۔

7561 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي يَحْيَى سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى
الْجَدْعَاءِ، قَدْ جَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي غَرَزِ الرِّكَابِ
يَطَاوُلُ لِيَسْمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟
يُطَوِّلُ صَوْتَهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ طَوَائِفِ النَّاسِ:
مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ،
وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ،
وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ أَبُو
يَحْيَى: فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ
يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَرْحَمُ الْغَيْرِ حَتَّى
إِنِّي أَرْحَمُهُ قَدَمًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

سليم بن عامر عن أبي امامة عن سليمان بن عامر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7562 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَدْخُلُ مِنْ أُمْتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ
. قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ: وَمَا هَذَا فِي
أُمْتِكَ إِلَّا كَالذَّبَابِ الْأَزْرَقِ فِي الذَّبَانِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ
الْجَنَّةُ مِنْ أُمْتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ
سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَيَاتٍ

7563 - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا

سَعَةُ حَوْضِكَ؟ قَالَ: مِثْلُ مَا بَيْنَ عَدْنٍ وَعُمَانَ،
وَهُوَ أَوْسَعُ وَأَوْسَعُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فِيهِ شُعْبَانٍ
مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا
شَرَابُهُ؟ قَالَ: شَرَابُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى
مَذَاقَهُ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ

7564 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل میری امت کے ستر
ہزار لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔
حضرت یزید بن اخنس السلمی فرماتے ہیں: آپ کی امت
گوشت پر رکھیاں بیٹھنے کی طرح ہوگی، حضور ﷺ نے
فرمایا: میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت
میں جائیں گے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور تین
چلو۔

صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کے حوض
کی وسعت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا: عدن اور عمان کے
درمیان جتنی اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ وسیع۔
آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اس میں برتن
سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی:
یا رسول اللہ! اس میں شربت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:
دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری
خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7562 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 250، 251، 268 قال في المجمع جلد 10 صفحہ 362، 363 قلت عند الترمذی رقم
الحديث: 2554 وابن ماجه رقم الحديث: 4286 بعضه رواه أحمد والطبرانی ورجال أحمد بعض أسانيد الطبرانی
رجال الصحيح الا أنه قال في الطبرانی فما شرابه؟ قال: شرابه أبيض من اللبن وأحلى مذاقة من العسل . ورواه
المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1968 .

7564 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1966 بهذا الاسناد واللفظ . قال الحافظ الهيثمي في

اللّٰهُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ
عَامِرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ حَدَّثَهُ
قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ
رُؤْيَا هِيَ حَقٌّ فَأَعْقِلُوهَا، أَتَانِي رَجُلٌ فَأَخَذَ
بِيَدِي، فَاسْتَبَعَنِي حَتَّى أَتَى بِي جَبَلًا وَعَرًّا
طَوِيلًا، فَقَالَ لِي: ارْقَهُ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ،
فَقَالَ: إِنِّي سَأَسْهَلُهُ لَكَ، فَجَعَلْتُ كُتْمًا رَقِيتُ
قَدَمِي وَضَعْتُهَا عَلَى دَرَجَةٍ حَتَّى اسْتَوَيْنَا عَلَى
سَوَاءِ الْجَبَلِ فَأَنْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ
وَنِسَاءٍ مُشَقَّقَةٍ أَشَدَّ أَفْهَمَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟
قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ
انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ مُسَمَّرَةٍ
أَغْنِيهِمْ وَأَذَانُهُمْ، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ:
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرَوْنَ أَغْنِيَهُمْ مَا لَا يَرَوْنَ،
وَيَسْمِعُونَ أَذَانَهُمْ مَا لَا يَسْمَعُونَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا،
فَإِذَا نَحْنُ بِنِسَاءٍ مُعَلَّقَاتٍ بِعَرَاقِيهِنَّ مَصُوبَةً
رُءُوسُهُنَّ، تَنْهَشُ ثَدَاهُنَّ الْحَيَاتُ، قُلْتُ: مَا
هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ أَوْلَادَهُنَّ
مِنَ الْبَانِهِنَّ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ
وَنِسَاءٍ مُعَلَّقَاتٍ بِعَرَاقِيهِنَّ مَصُوبَةً رُءُوسُهُنَّ
يَلْحَسْنَ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ وَحَمًا، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ

سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

حضور ﷺ ہمارے پاس نماز فجر کے بعد آئے آپ نے
فرمایا: میں نے اچھا خواب دیکھا ہے وہ درست ہے اس کو
سمجھو کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے میرا ہاتھ پکڑا
مجھے پیچھے کیا مجھے ایک بلند اور لمبے پہاڑ پر لے آیا مجھے
فرمایا: تم چڑھو! میں نے کہا: میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا
ہوں اس نے عرض کی: میں آپ کے لیے آسان کر دوں
گا، میں جب بھی ایک قدم اٹھاتا تو ایک سیڑھی پر رکھتا یہاں
تک کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے پس ہم چلے تو ہم نے
مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ ان کی باجھیں چیر دی گئی ہیں
میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے
تھے وہ کچھ جانتے نہ تھے۔ پھر ہم چلے تو ہم نے ایسے مرد
عورتیں دیکھیں کہ ان کی آنکھوں میں اور کانوں میں گرم
سلاخیں پھیری جا رہی ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض
کی: وہ لوگ جو جھوٹے خواب بیان کرتے تھے ان سنی گفتگو
سناتے تھے۔ پھر ہم چلے تو ہم نے ایسی عورتیں دیکھیں جن
کو گردنوں سے باندھا ہوا ہے ان کے سر کھڑے ہیں ان
کے پستان سانپ نوچ رہے ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟
عرض کی: یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی
تھیں۔ پھر ہم چلے تو ہم نے مرد و عورتیں دیکھیں جو گردنوں
سے بندھی ہوئی ہیں ان کے سر کھڑے ہیں وہ پیپ چاٹ
رہے ہیں میں نے کہا: یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ وہ
لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے اور افطار کا وقت ہونے سے

؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلِّهِ صَوْمِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ أَقْبَحَ شَيْءٍ مَنَظَرًا، وَأَقْبَحَ لُبُوسًا، وَأَنْتَبِهَ رِيحًا كَأَنَّمَا رِيحُهُمُ الْمَرَّاحِيصُ. قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّانَاةُ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِمَوْتَى أَشَدَّ شَيْءٍ انْفِاخًا، وَأَنْتَبِهَ رِيحًا قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ مَوْتَى الْكُفَّارِ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا وَإِذَا نَحْنُ نَرَى دُخَانًا، وَنَسْمَعُ غَوَاءً قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ جَهَنَّمُ فَدَعَوْنَهَا. ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ نِيَامُ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ، قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِعِلْمَانٍ، وَجَوَارٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ذُرِّيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ أَحْسَنَ شَيْءٍ وَجْهًا، وَأَحْسَنِهِ لُبُوسًا، وَأَطْيَبِهِ رِيحًا كَأَنَّهُمْ جُوهَرُهُمُ الْقَرَّاطِيصُ قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَشْرَبُونَ خَمْرًا لَهُمْ، وَيَتَغَنَّوْنَ، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرُ، وَابْنُ رَوَاحَةَ، فَمِلْتُ قِبَلَهُمْ فَقَالُوا: قَدْ نَأَلْكَ، قَدْ نَأَلْكَ. قَالَ: ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ذَاكَ أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ،

پہلے انظار کرتے تھے۔ پھر ہم چلے تو ہم ایسے مرد اور عورتوں کے پاس سے گزرے کہ انتہائی بُرا منظر ہے کہ ان کا لباس انتہائی بُرا ہے ان سے ایسی بد بو آ رہی ہے جس طرح بیت الخلاء کی آتی ہے میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہ زانی مرد و عورتیں ہیں۔ پھر ہم چلے تو وہاں مرد ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں ان سے بد بو آ رہی ہے میں نے کہا: یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: کافر مرے ہیں۔ پھر ہم چلے تو ہم نے دھواں دیکھا اور ہم نے بھونکنے کی آواز سنی میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہ جہنم ہے اس کو چھوڑیں۔ پھر ہم چلے تو وہاں مرد درختوں کے سائے میں سوئے ہوئے تھے میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: مسلمان مرد۔ پھر ہم چلے تو ہم نے غلامان دیکھے اور ان کی بیجیاں اور بچے دو نہروں کے درمیان کھیل رہے ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: مومنوں کی اولاد۔ پھر ہم چلے تو وہاں ایسے مرد دیکھے جن کے چہرے خوبصورت اچھا لباس اچھی خوشبو ان کے چہرے سفید کاغذ کی طرح ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر ہم چلے تو ہم نے تین افراد دیکھے کہ ان کو شراب پلا رہے ہیں اور گارہے ہیں میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: حضرت زید بن ثابت، جعفر، ابن رواحہ۔ میں ان کے قریب ہوا انہوں نے عرض کی: ہم نے پالیا، ہم نے پالیا، ہم نے پالیا۔ پھر فرمایا: میں نے اپنا سر اٹھایا، تین آدمی عرش کے نیچے تھے میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: آپ کے والد حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام وہ آپ کے انتظار میں ہیں

اللہ کی ان تمام پر رحمت ہو۔

وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

عبد الرحمن بن یزید بن جابر، سلیم بن
عامر سے اور وہ حضرت ابوامامہ سے
روایت کرتے ہیں

7565 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى

الِدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ
خَالِدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ح
وَحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ
الْمُقَرَّءُ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي يَحْيَى سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْحَنْصِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ
أُتِيتُ فَأَنْطَلِقُ بِي إِلَى جَبَلٍ وَغَيْرٍ، فَقِيلَ أَصْعَدُ،
فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ أَسْتَطِيعُ الصَّعُودَ، قَالَ: أَنَا
سَأَسْهَلُهُ لَكَ. قَالَ: فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ
فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، إِذْ أَنَا بِأَصْوَاتٍ، فَقُلْتُ: مَا
هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قِيلَ: هَذِهِ أَصْوَاتُ جَهَنَّمَ.
ثُمَّ انْطَلَقْتُ بِي حَتَّى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ہمارے پاس نماز فجر کے بعد آئے آپ نے
فرمایا: میں نے اچھا خواب دیکھا ہے وہ درست ہے اس کو
سمجھو کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے میرا ہاتھ پکڑا
مجھے پیچھے کیا مجھے ایک بلند پہاڑ پر لے آئے مجھے فرمایا: تم
چڑھو! میں نے کہا: میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں
اس نے عرض کی: میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا میں
جب بھی ایک قدم اٹھاتا تو ایک سیڑھی پر رکھتا یہاں تک کہ
پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے میں نے آوازیں سنیں میں نے
کہا: یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا گیا: یہ جہنم والوں کی آوازیں
ہیں عرض کی: یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کہتے تھے جانتے تھے۔
پھر ہم چلے تو ہم ایسے مرد اور عورتوں کے پاس سے گزرے
کہ انتہائی برا منظر ہے کہ ان کا لباس انتہائی برا ہے ان سے
ایسی بد بو آ رہی ہے جس طرح بیت الخلاء کی آتی ہے میں
نے کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: یہ زانی مرد و عورتیں ہیں۔

7565 - رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ رَقْمُ الْحَدِيثِ: 1986 'وَابْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ رَقْمُ الْحَدِيثِ: 1800' وَالْمُصَنِّفُ فِي

مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ رَقْمُ الْحَدِيثِ: 577 'وَالْحَاكِمُ جُلْد 1 صَفْحَةُ 430' وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَوَأَفَقَهُ الذَّهَبِيُّ .

وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الثَّبَاتِ عَذَابُ الْقَبْرِ رَقْمُ الْحَدِيثِ: 98 .

عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن سلیم بن عامر عن ابی امامة

اِنْصَافًا، وَأَسْوَرِيهِ مَنظَرًا، وَأَنْتَبِهَ رِيحًا رِيحُهُمْ
 رِيحُ الْمَرَا حِيصٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ:
 هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى
 مَرَّ بِي عَلَى نِسْوَةٍ مُعَلَّقَاتٍ بِنَدِيهِنَّ، تَنْهَشُ بِيَهِنَّ
 الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ
 السَّالَوَاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ الْكِبَانَهُنَّ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي
 حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ
 مُشَقَّقَةً أَشَدَّ أَفْهَمُ تَسِيلُ أَشَدَّ أَفْهَمُ دَمًا، فَقُلْتُ:
 مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ
 حِينَ يُفْطِرُهُمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَشْرَفْتُ عَلَى
 ثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ
 هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَذَا زَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، وَابْنُ رَوَاحَةَ.
 ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَشْرَفْتُ عَلَى غُلَمَانٍ يَلْعَبُونَ
 بَيْنَ نَهْرَيْنِ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ ذَرَارِيُّ
 الْمُؤْمِنِينَ يَخْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي
 حَتَّى أَشْرَفْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَكَ

7566 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَحِيمٍ

الدِّمَشَقِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
 ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

پھر وہ مجھے لے چلے تو وہاں عورتیں اپنے پستانوں سے
 باندھی ہوئی ہیں جن کو سانپ نوچ رہے ہیں میں نے کہا:
 یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے
 والی عورتی ہیں کا فر مرے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسی قوم
 کے پاس سے گزرے جن کو ان کے ٹخنوں کے اوپر کے
 پٹھوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے ان کی باجھیں چیری ہوئی
 ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا: یہ کون ہیں؟ کہا
 گیا: یہ افطار کے وقت سے پہلے افطار کرنے والے ہیں
 پھر وہ مجھے لے چلا حتیٰ کہ ہم تین گروہوں کو اوپر سے جھانکا
 وہ شراب پی رہے تھے۔ کہا: یہ زید، جعفر اور ابن رواحہ
 ہیں۔ پھر وہ مجھے لے چلا حتیٰ کہ ہم نے بچوں کے اوپر سے
 جھانکا جو دو نہروں کے درمیان کھیل رہے ہیں میں نے
 کہا: یہ کون ہیں؟ عرض کی: مؤمنوں کی اولاد حضرت
 ابراہیم ان کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر ہم چلے تو وہاں ایسے
 تین گروہ مردوں کے دیکھے۔ عرض کی: آپ کے والد
 حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام وہ آپ کے انتظار
 میں ہیں اللہ کی ان تمام پر رحمت ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے نحر کے دن اپنی سواری پر خطبہ دیا۔

یزید بن سنان ابو فروہ رھاوی حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بے شک جو آدمی سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل ہوگا وہ آدمی ہوگا جو پل صراط پر کبھی پیٹھ اور کبھی پیٹ کے بل لیٹتا ہوگا اس لڑکے کی طرح جس کا باپ اسے سخت مارتا ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ پس وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے بھی جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ پس اللہ اسے الہام فرمائے گا: اے میرے بندے! اگر میں تجھے اپنی دوزخ سے نجات دے کر اپنی جنت میں داخل فرما دوں تو تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لے گا۔ پس بندہ عرض کرے گا: جی ہاں! اے میرے رب! تیرے عزت و جلال کی قسم! اگر تو مجھے دوزخ سے نجات دیدے تو میں تجھے بتا دوں گا کہ میں نے کون سے گناہ کیے اور خطائیں کیں۔ پس وہ پل عبور کرے گا بندہ کہے گا: جو اللہ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوگا کہ اگر میں نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لیا تو وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پس اللہ اس کی طرف الہام فرمائے گا: اے

یَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو فَرَوَةَ الرَّهَآوِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

7567 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ يَحْيَى الرَّقْفِيُّ، ثنا أَبُو فَرَوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَآوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْكَلَاعِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آخِرَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصِّرَاطِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، كَالْغُلَامِ يَصْرِبُهُ أَبُوهُ وَهُوَ يَقْرُؤُ مِنْهُ يَعْجُزُ عَنْهُ عَمَلُهُ أَنْ يَسْعَى فَيَقُولُ: يَا رَبِّ بَلِّغْ بِي الْجَنَّةَ، وَنَجِّنِي مِنَ النَّارِ، فَيُوحِي اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: عَبْدِي إِنَّ أَنَا نَجَّيْتُكَ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخَلْتُكَ الْجَنَّةَ، أَتُعْتَرِفُ لِي بِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ: نَعَمْ، يَا رَبِّ، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَئِنْ نَجَّيْتَنِي مِنَ النَّارِ لَأُعْتَرِفَنَّ لَكَ بِذُنُوبِي وَخَطَايَايَ، فَيَجُوزُ الْجِسْرَ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ: لَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَهُ بِذُنُوبِي وَخَطَايَايَ لَيُرْذَنِي إِلَى النَّارِ، فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي، اعْتَرِفْ لِي بِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ،

یَزید بن سنان ابو فروہ الرھاوی عن سلیم بن عامر

أَغْفِرْهَا لَكَ وَأَدْخِلَكَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: لَا، وَعِزَّتِكَ مَا أَذْنَبْتُ ذَنْبًا قَطُّ، وَلَا أَخْطَأْتُ خَطِيئَةً قَطُّ، فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ: عَبْدِي إِنَّ لِي عَلَيْكَ بَيِّنَةً، فَيَلْتَفِتُ الْعَبْدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى أَحَدًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَرِنِي بَيِّنَتَكَ، فَيَسْتَنْطِقُ اللَّهُ جِلْدَهُ بِالْمُحَقَّرَاتِ، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ الْعَبْدُ يَقُولُ: يَا رَبِّ، عِنْدِي وَعِزَّتِكَ الْعِظَائِمُ الْمُضْمَرَاتُ، فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَبْدِي: أَنَا أَعْرِفُ بِهَا مِنْكَ، اعْتَرَفَ لِي بِهَا، أَغْفِرْهَا لَكَ، وَأَدْخِلَكَ الْجَنَّةَ، فَيَعْتَرِفُ الْعَبْدُ بِذُنُوبِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ صَحَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ يَقُولُ: هَذَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، فَكَيْفَ بِالَّذِي قَوْفَهُ؟

میرے بندے! تو میرے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کر' میں وہ معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ پس بندہ عرض کرے گا: تیری عزت کی قسم! میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں نہ کبھی کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوئی۔ پس اللہ اسے الہام فرمائے گا: اے میرے بندے! میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ پس بندہ (یہ بات سن کر) دائیں بائیں دیکھے گا پس اسے کوئی آدمی نظر نہ آئے گا۔ پس وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! اپنے گواہ تو مجھے دکھا۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی جلد کو قوت گویائی عطا کرے گا وہ چھوٹے گناہ بتائے گی۔ پس جب وہ بندہ یہ دیکھے گا تو کہے گا: اے میرے رب! تیری عزت کی قسم! میرے پاس پوشیدہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ پس اللہ اس بندے کو الہام فرمائے گا: اے میرے بندے! میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ بس ایک بار تو میرے سامنیان کا اعتراف کر' میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر رسول کریم ﷺ اتانے کہ آپ ﷺ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں اور فرما رہے تھے: یہ تو سب سے چھوٹا جنتی ہے جو اس کے اوپر ہے اس کا کیا حال ہوگا؟

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میں اپنی اُمت کے ایک آدمی کو جانتا ہوں جو پل صراط سے گزرے پل صراط

7568 - حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا أَبُو عَقِيلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

پر پلے کھائے گا، جس طرح بچہ کو اس کا باپ مارتا ہے اس کے بعد اس کی مثل حدیث ذکر کی۔

سَنَانٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَجُوزُ الصِّرَاطَ، يَتَلَوَّى عَلَى الصِّرَاطِ كَالْغُلَامِ حِينَ يَضْرِبُهُ أَبُوهُ، فَذَكَرَ

مِثْلَهُ

صفوان بن عمرو، حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ لوگوں میں کھڑے ہوئے فرمایا: اے لوگو! ہم پر حج فرض ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی: کیا ہر سال؟ حضور ﷺ نے گفتگو بند کر دی اور ناراض ہوئے دیر تک خاموش رہے پھر گفتگو کی آپ نے فرمایا: یہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس دیہاتی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ہوں! آپ نے فرمایا: تیرے لیے ہلاکت ہو! تم یقین کرتے ہو کہ اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہو جاتا اور اگر واجب ہو جاتا تو تم ضرور چھوڑتے، اگر قسم چھوٹے تو تم نے کافر ہو جانا تھا، تم سے پہلے لوگ حج میں ڈالنے والے

7569 - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَايْعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، لَنَا أَبُو زَيْدٍ بْنُ أَبِي الْعَصَمِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَغَلِقَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَضِبَ، وَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ تَكَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا السَّائِلُ؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ

صفوان بن عمرو عن سلیم بن عامر

7569- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 204 واستاده حسن جيد . ورواه ابن جرير في تفسيره رقم الحديث: 12807 وقال

ابن كثير في تفسيره بعد أن ساقه عن ابن جرير جلد 2 صفحہ 106 في استاده ضعف . في المخطوطة فعلن كان آخرها نون واختار المرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير فغلق كما أثبتناه تبعاً له . ومعاوية بن يحيى صدوق له أوهام فالحدیث ضعیف من أجله . والحدیث رواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 955 بهذا الاستاد واللفظ .

حکمرانوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں اللہ کی قسم! اگر میں تمہارے لیے زمین کی ہر چیز حلال کر دوں اور اونٹ کے گھر کے برابر چیز حرام کروں گا تو تم اس میں بھی پڑ جاؤ (اگر تقدیر میں لکھا ہو) پس اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: "لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ"

اللَّهِ، فَقَالَ: وَيَحَكَ، مَاذَا يُؤْمِنُكَ أَنْ أَقُولَ نَعَمْ، وَاللَّهِ لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَسَرَّكُمُ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ لَكَفَرْتُمْ. أَلَا إِنَّهُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَيْمَةُ الْحَرَجِ، وَاللَّهِ، لَوْ أَنِّي أَحْلَلْتُ لَكُمْ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ خُفِّ بَعِيرٍ لَوْ قَعْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ) (المائدة: 101) (الآية)

7570 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّابِيُّ، ثنا دَحِيمٌ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي الْيَمَانِ الْهَوَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ أَمَتِيَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَرَأَدَنِي ثَلَاثَ حَيَاتٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جنت میں ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے داخل کرنے کا اور میرے لیے تین چلو کا اضافہ کیا ہے۔

7571 - قِيلَ: فَمَا سَعَةُ حَوْضِكَ؟ قَالَ: كَمَا بَيْنَ عَدْنٍ إِلَى عُمَانَ، فِيهِ شِعْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ؟ قَالَ: أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَخْلَى مَذَاقَهُ مِنَ الْعَسَلِ،

آپ سے عرض کی گئی: آپ کے حوض کی وسعت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا: جتنا فاصلہ عدن اور عمان کے درمیان ہے اس میں برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے عرض کی: آپ کے حوض میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اس کا دودھ

7570 - ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 588 إلا أنه عنده عن سليم بن عامر عن أبي اليمان واسناده صحيح

ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 250-251 مثل المصنف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 954 بهذا

بہت زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ بیٹھا ہوگا اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہوگی جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیسا نہیں ہوگا اس کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا۔

حضرت سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے ہمیں آپ نے بہت زیادہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنائیں جب آپ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا: کیا تم نے سمجھ لیا؟ جس طرح میں نے تم تک پہنچایا تم بھی پہنچاؤ۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا جنت والے نکاح کریں گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! خوب نکاح کریں گے ایسے ذکر کے ساتھ جو اکتائے گا نہیں اور ایسی شہوت کے ساتھ جو ختم نہ ہوگی۔

محمد بن ولید زبیدی، حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی

وَاطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا

7572 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَيَحْدِثُنَا حَدِيثًا كَثِيرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَكَتَ قَالَ: أَعَقَلْتُمْ؟ يَلْعَوُا كَمَا يَلْعَتُمْ

7573 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

عِرْقِ الْحِمَصِيِّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، ثنا يَحْيَى، ثنا صَفْوَانَ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَنَاقَحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَقَالَ: نَعَمْ، بِذِكْرِ لَا يَمَلُّ، وَشَهْوَةٍ لَا تَنْقُطُ دَحْمًا دَحْمًا

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ،

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

7574 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ

7572 - قال في المجمع جلد [صفحة 140] واسناده حسن - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 953 .

7573 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 956 وهذا الاسناد ضعيف جدًا .

7574 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1840 .

حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھ پر اللہ کی حد قائم کریں! ایک مرتبہ یا دو مرتبہ عرض کی آپ نے اعراض فرمایا پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی جب حضور ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: وہ کہاں ہے جو کہتا تھا کہ مجھ پر اللہ کی حد قائم کریں؟ اس آدمی نے عرض کی: میں ہوں! آپ نے فرمایا: تُو نے مکمل وضو نہیں کیا اور ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تیرے گناہ اس طرح معاف ہوئے جس طرح آج ہی تیری ماں نے تجھے جنا ہے پھر نہ کرنا۔ اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ”دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم کرو اور رات کے حصے۔“

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتَيْبِيُّ الْمِصْرِيُّ، قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، ثنا سُلَيْمُ بْنُ غَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ مَرَّةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: أَيُّنَ الْقَائِلُ أَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَا ذَا، قَالَ: أَتَمَمْتَ الْوُضُوءَ، وَصَلَّيْتَ مَعَنَا الْعِشَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ خَطِيئَتِكَ كَمَا وَلَدْتُكَ أُمْلَكَ، فَلَا تَعُدْ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ) (هود: 114)

7575 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، ثنا سُلَيْمُ بْنُ غَامِرٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ،

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم ﷺ کو اس حال میں سنا کہ آپ اپنی جدعا اونٹنی پر تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ اپنے کجاوے کے آگے رکھا ہوا تھا اور دوسرا کجاوے کے پیچھے پس آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! خاموش ہو جاؤ!

ممكن ہے اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ پس لوگوں میں سے ایک آدمی کو اللہ نے بھیجا۔ کسی نے کہا: ہم کیا کام کیا کریں؟ فرمایا: اپنے رب کی عبادت کرنا، پانچ نمازیں پڑھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور اطاعت کرنا، جب تمہیں کوئی حکم دیا جائے تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ نماز عشاء کے وقت کل تم نماز کے لیے جمع ہو جانا، مجھے تم سے کام ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا: اے فلاں! اس کو ضرور لکھنا جو رسول کریم ﷺ سب سے پہلے کلام فرمائیں کیونکہ تو آپ ﷺ کے قریب ہوتا ہے۔ دیگر لوگوں سے رسول

خَدَقَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَذْعَاءِ قَدْ أَذْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْغُرُزِ، وَوَضَعَ إِخْدَى يَدَيْهِ عَلَى مُقَدِّمِ الرَّحْلِ، وَالْأُخْرَى عَلَى مُؤَخَّرِهِ يَتَطَاوَلُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انْصَبُوا، فَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: مَاذَا نَفَعُ؟ قَالَ: تَعْبُدُونَ رَبَّكُمْ، وَتُقِيمُونَ حَمْسَكُمْ، وَتُؤْتُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَتَصُومُونَ شَهْرَكُمْ، وَتُطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

خَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِرْقٍ الْحِمَصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

7576 - خَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحِمَصِيِّ، ثنا أَبِي ح، وَخَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ الْحِمَصِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحِمَصِيِّ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، ثنا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا

کریم ﷺ کے کلام میں سے کوئی شی رہ جاتی ہے۔ پس جب آپ ﷺ صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا جس طرح میں نے حکم دیا تھا، تم اکٹھے ہو گئے؟ صحابہ نے عرض کی: جی ہاں! اے اللہ کے رسول! فرمایا: اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اب بتاؤ! تم نے سمجھ لیا۔ تین بار فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی: جی ہاں! فرمایا: نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تین بار فرمایا پھر تین بار فرمایا: کیا تم نے سمجھ لیا۔ صحابہ نے عرض کی: جی ہاں! پس ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ رسول کریم ﷺ زیادہ کلام فرمائیں گے، پھر آپ کے کلام میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے تمام بات اکٹھی ہو گئی۔

أَمَامَهُ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَمَةِ: أَنْ أَحْشَدُوا لِلصَّلَاةِ غَدًا، فَإِنْ لَبَى إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ. فَقَالَتْ رُفْقَةٌ مِنْهُمْ: يَا فُلَانُ دَوِّنْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الَّذِي تَلِيهَا لِئَلَّا يَقُولَهُمْ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: هَلْ حَشَدْتُمْ كَمَا أَمَرْتُكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَهَلْ عَقِلْتُمْ هَذِهِ؟ هَلْ عَقِلْتُمْ هَذِهِ؟ هَلْ عَقِلْتُمْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، هَلْ عَقِلْتُمْ هَذِهِ؟ هَلْ عَقِلْتُمْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، هَلْ عَقِلْتُمْ هَذِهِ؟ هَلْ عَقِلْتُمْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَدْ نَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَتَكَلَّمُ كَلَامًا كَثِيرًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي كَلَامِهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَمَعَ لَهُ الْأَمْرَ كُلَّهُ

حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ

سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ

سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ

7577 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے زنا کی اجازت دیں لوگ چیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ٹھہرو! پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رک جاؤ! اس (شخص) کو فرمایا: قریب آؤ! پس وہ قریب آ کر بیٹھ گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو ارشاد فرمایا: کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: اور اس طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، کہا: تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: اس طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟ عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ فعل پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے ارشاد فرمایا: لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، کیا تو اپنی خالہ کے لیے یہ فعل پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے ارشاد فرمایا: لوگ بھی اپنی خالہ کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، پس رسول اللہ ﷺ نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: اے اللہ! اس سے گناہوں کو دور فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کو پاک فرما!

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَا: ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عَفْمَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ غُلَامًا شَابًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْذَنْ لِي فِي الزَّيْنَا، فَصَاحَ النَّاسُ فَقَالَ: مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَرُّوهُ اذْنُ، فَدَنَّا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَجِبُهُ لِأُمِّكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُجِبُونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، أَتَجِبُهُ لِأَبْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُجِبُونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، أَتَجِبُهُ لِأَخِيكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُجِبُونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، أَتَجِبُهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُجِبُونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ؟ أَتَجِبُهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُجِبُونَهُ لِخَالَاتِهِمْ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ كَفِّرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

7578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ

حضور ﷺ کے گھر مبارک میں کبھی بھی جو کی روٹی نہیں
پکی تھی۔

خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ،
ح وَحَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ الطَّبْرَانِيُّ، ثنا
صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:
ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، سَمِعَهُ
مِنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَا كَانَ يُفْضَلُ عَنْ أَهْلِ
بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ
الشَّعِيرِ

عفیر بن معدان، حضرت سلیم بن
عامر سے روایت کرتے ہیں

عَفِيرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: بہترین جانور جو قربانی کے لیے ذبح
کیا جاتا ہے وہ سینگ والا مینڈھا ہے۔

7579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ
الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عَفِيرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الذَّبْحِ
الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ

بہترین کفنِ حِلہ ہے۔

7580 - وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحِلَّةُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: بہترین جانور جو قربانی کے لیے ذبح
کیا جاتا ہے وہ سینگ والا مینڈھا ہے۔

7581 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عَفِيرُ
بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

7579- ورواه الترمذی رقم الحديث: 1554 وقال: هذا حديث غريب وعفیر بن معدان يضعف فی الحديث وابن ماجه

رقم الحديث: 3130 وعندهما خبر الاضحية وهو حديث ضعيف . وهذا الحديث مكرر في الاصل ولذلك

كرناه .

اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: خَیْرُ الذَّبْحِ الْکَبْشُ الْأَقْرَنُ

7582 - وَخَیْرُ الْکَفَنِ الْحَلَّةُ

بہترین کفن حُلّہ ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو اس کے اور اپنے اوپر پردہ کرے اور فرمایا: گدھے کی طرح وہ دونوں ننگے نہ ہوں۔

7583 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عَفِيرُ بْنُ مَعْدَانَ،

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى

أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتُرْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ . قَالَ:

وَلَا يَتَعَرَّيَانِ تَعَرَّى الْحَمِيرِ

7584 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عَفِيرُ بْنُ مَعْدَانَ،

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ يَجْرِي

عِنْدَ بَابٍ أَحَدُكُمْ يَفْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خُمْسَ

مَرَّاتٍ، فَمَاذَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ

7585 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عَفِيرُ بْنُ مَعْدَانَ،

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْرًا لَا

تَسْتَطِيعُونَ تَغْيِيرَهُ، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ

هُوَ الَّذِي يَغْيِرُهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: پانچ نمازیں پڑھنے کی مثال اس نہر کی ہے جو میٹھی ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم ایسی بُرائی دیکھو جس کو تم خود نہیں بدل سکتے ہو تو صبر کرو اللہ عزوجل خود اس کو بدل دے گا۔

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

7583 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 294 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7584 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 300 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جدًا .

7585 - قال في المجمع جلد 7 صفحہ 275 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے نظر برحق ہے اچھی فال ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ جب بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نماز کو کوئی شی نہیں توڑتی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور

7586 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ،
عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ،
وَالْعَيْنِ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطَّيْرِ الْفَالُ

7587 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ،
عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ
فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ
فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
فَارْفَعُوا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا
أَجْمَعِينَ

7588 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ،
عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ شَيْءٌ

7589 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ،

7586 - قال في المجمع جلد 5 صفحہ 106 'وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7587 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 87 'وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7588 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 62 'واسنادہ حسن . قلت: كيف يكون اسنادہ حسنًا وفيه عفير بن معدان .

7589 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 177 'وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه .

جلدی آیا خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے لیے دُگنا ثواب ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھتے ہیں اور آنے والے کے لیے ثواب لکھتے ہیں جب امام منبر پر بیٹھتا ہے تو رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَّرَ، وَذَنَّا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ

7590 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُتَعَجِّلُ فِي الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي الْبَدَنَةَ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي الثَّوْرَ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي شَاةً، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً

7591 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَعْتُ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طُوِيَتْ الصُّحُفُ

7592 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ

7590 - انظر ما قبله .

7591 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 260 قال في المجموع جلد 2 صفحہ 177 ورجال أحمد ثقات .

7592 - قال في المجموع جلد 2 صفحہ 93 وفيه عفیر بن معدان وهو ضعيف . قلت وله شاهد من حديث أبي هريرة عند

مسلم وغيره .

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

حضور ﷺ نے فرمایا: بہترین صف اول مردوں کی ہے اور بدترین صف مردوں کی آخری اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف اول ہے (یعنی جس صورت میں مردوں کی صفیں آگے اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہوں عورتوں کے قرب کی وجہ سے مردوں کی صف کو بُرا اور مردوں کے قرب کی وجہ سے عورتوں کی صف کو بُرا کہا)۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: آدمی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روح القدس نے میرے دل میں پھونک ماری کہ ہر کوئی آدمی عمر اور رزق مکمل کر کے دنیا سے جائے گا اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو اللہ کی نافرمانی کر کے رزق تلاش نہ کرو کیونکہ اللہ کی جانب سے نیک کام کرنے پر ملتی ہے جو چیز اس کے پاس ہے۔

الْحَوَاطِي، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا

7593 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوَاطِي، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدْعُو الدَّعْوَةَ، فَيَغْفِرُ لَهُ وَلِمَنْ وَرَاءَهُ مِنَ النَّاسِ

7594 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوَاطِي، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفَتْ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِطْءَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

7595 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا

أَبُو الْيَمَانِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ الْبَيَانَ، كُلَّ الْبَيَانِ

7596 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثنا أَبُو

الْيَمَانِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُتَشَدِّقِينَ فِي النَّارِ

7597 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: انْطَلِقُوا إِلَى عَبْدِي، فَضُبُّوا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، فَيَأْتُونَهُ فَيَضُبُّونَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ، فَيَحْمَدُ اللَّهُ، فَيَرْجِعُونَ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا صَبَبْنَا عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا كَمَا أَمَرْتَنَا، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ

7598 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل تمہارے لیے بیان کو ناپسند کیا ہے ہر قسم کا بیان (ناجائز ہے)۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: منہ پھاڑ کر گفتگو کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندوں کے پاس جاؤ اس پر آزمائش ڈالو۔ فرشتے آتے ہیں اور اس پر آزمائش ڈالتے ہیں وہ اللہ کی حمد کرتا ہے تو فرشتے واپس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم نے اُس پر آزمائش ڈالی جس طرح تُو نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے: واپس جاؤ! میں ان کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل تم میں سے کسی کو

7595 - قال في المجموع جلد 8 صفحہ 116 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7596 - قال في المجموع جلد 8 صفحہ 116 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7597 - قال في المجموع جلد 2 صفحہ 291 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7598 - هو كاذب قبله .

آزمائش میں اس طرح رگڑتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی سونے کو آگ میں رگڑتا ہے اس سے سونے کی ڈالیاں نکلتی ہیں اسی طرح اللہ عزوجل بھی شبہات میں ڈالتا ہے اس سے کچھ سونے کی طرح نکلے اس طرح بعض شک والے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ سیاہ سونے کی طرح نکلتے ہیں اسی طرح اس کی مثال ہے جو آزمائش میں ڈالا گیا ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا کر چومنے لگے تو حضرت امام حسین نے پیشاب کر دیا صحابہ کرام پکڑنے لگے آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو پیشاب کرتے ہوئے نہ روکو! حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے زرد رنگ کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ نے فرمایا: یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ اس نے عرض کی: واہنہ کی آپ نے فرمایا: تیری کمزوری زیادہ ہو گی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب مسلمان بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْبَازِيرِ، فَذَلِكَ الَّذِي حَمَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الشُّبُهَاتِ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ دُونَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي شَكَّ بَعْضُ الشَّكِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ، فَذَلِكَ الَّذِي قَدْ افْتِنَ

7599 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا

أَبُو الْيَمَانِ، ثنا عَفِيرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يُقْبِلُهُ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ قَبَالَ، فَذَهَبُوا لِبَسَاوِلُوهُ، فَقَالَ: لَا تَقْطَعُوا دَرَهُ فَرَكَهُ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ بَوْلِهِ

7600 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ

رَجُلًا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْخَاتَمُ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُ إِلَّا وَهْنًا

7601 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

7599 - قال في المعجم جلد 1 صفحہ 285 وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه .

7600 - قال في المعجم جلد 5 صفحہ 145 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7601 - هو كالذي قبله انظر المعجم جلد 2 صفحہ 291 .

عز وجل فرشتوں کی طرف پیغام بھیجتا ہے فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میں نے اپنے بندہ کو اس سے روک رکھا ہے جو ادا کرتا تھا اگر میں اس کو موت دوں تو میں نے اس کو بخش دیا اگر میں صحت دوں تو بخشا ہوا جسم ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہی رضاعت سے حرام ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو ہمارے بزرگوں کا احترام اور بچوں پر شفقت نہ کرے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

اسی سند سے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے ساتھ ایک سو ستر فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اس چیز سے جس پر وہ قادر نہیں ہے اس گروہ میں سے نو فرشتے وہ ہیں جو اس کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح گرمیوں کے دن میں شہد کے پیالے کی مکھیوں سے حفاظت کی جاتی ہے اور اگر تمہارے لیے ظاہر ہو تو تم ضرور اسے پہاڑ پر اور ہموار جگہ پر دیکھو ان میں سے ہر ایک اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے ہے اور اگر بندے کو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اس کے اپنے حوالے

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَضَ أَوْ حَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَلَائِكَتِهِ فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أَنَا قَيْدْتُ عَبْدِي بِقَيْدٍ مِنْ قَيْدِي، فَإِنْ قَبَضْتُهُ، أَغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ عَافَيْتُهُ فَجَسَدٌ مَغْفُورٌ لَهُ لَا ذَنْبَ لَهُ

7602 - وَيَسْنَدُهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

7603 - وَيَسْنَدُهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَجَلِّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا

7604 - وَيَسْنَدُهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكُلِّ بِالْمُؤْمِنِ تَسْعُونَ وَمِنَةُ مَلَكٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، مِنْ ذَلِكَ النَّفَرِ تِسْعَةُ أَمْلاكٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ كَمَا يَذُبُّ عَنْ قَضْعَةِ الْعَسَلِ مِنَ الذُّبَابِ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ، وَمَا لَوْ بَدَأَ لَكُمْ لَرَأَيْتُمُوهُ عَلَى جَبَلٍ، وَسَهْلٍ كُلُّهُمْ بَاسِطٌ يَدَيْهِ فَأَعْرِفَاهُ، وَمَا لَوْ وَكَّلَ الْعَبْدُ فِيهِ إِلَى نَفْسِهِ طَرَفَةً عَيْنٍ خَطَفَتْهُ الشَّيَاطِينُ

7602- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 261 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7603- قال في المجمع جلد 8 صفحہ 15 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جدًا .

7604- قال في المجمع جلد 7 صفحہ 209 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف :

کر دیا جائے تو شیاطین اسے اچک لیں۔

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سورج کے ساتھ نو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اس پر ہر روز برف ڈالتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو جہنمی پر آئے اس کو جلادے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کا وسیع ہو اور اپنے گناہوں پر روئے۔

جو اللہ اور آخرت کے دن پر اور میری رسالت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے تاکہ فائدہ ہو یا اپنے شر

7605 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَمْرَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَتَكُلُّ بِالشَّمْسِ تِسْعَةَ أَمْلاكٍ يَرْمُونَهَا بِاللَّجِّ كُلَّ يَوْمٍ، لَوْ لَا ذَلِكَ مَا أَتَتْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَحْرَقَتْهُ

7606 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ، وَيَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَسَعُهُ بَيْتُهُ، وَلْيَبْلُكْ عَلَى خَطِيئَتِهِ

7607 - وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ، وَيَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا

7605- ورواه ابن عدی جلد 2 صفحہ 230، و ابو حفص الکنانی فی الامالی (9/2/1) والحافظ ابو محمد السراج القاری فی الفوائد المنتخبة (1/125/1) و ابو عمر والسمرقندی فی الفوائد المنتقاة جلد 1 صفحہ 71 والخطیب فی الموضح جلد 1 صفحہ 166، جلد 2 صفحہ 165، 79. قال فی المجمع جلد 8 صفحہ 131 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جدًا. قال شيخنا في سلسلة الضعيفة جلد 1 صفحہ 307 وهذا الحديث مع ضعفه الشديد اسنادًا لا أشك أنه موضوع متنا ثم ذكر ما يؤيد قوله.

7606- قال فی المجمع جلد 10 صفحہ 299 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

سے بچانے کے لیے خاموش رہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔
حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: کتنا بڑا متقی ہے (تین بار فرمایا)
پہاڑ کی چوٹی پر کھریاں چرانے والا جو نماز قائم کرتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: ہر اُمت کے لیے سیاحت ہے اور
میری اُمت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔

ہر اُمت کے لیے رہبانیت ہے میری اُمت کی
رہبانیت دشمن کے مقابلہ میں نگہبانی کرنا ہے۔
حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے
رات کو قیام کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے غزوہ تبوک میں موزوں اور عمامہ (کے

لِيَعْنَمَ، أَوْ لِيَسْكُتَ عَنْ شَيْءٍ فَيَسْلَمَ
7608 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اتَّقَاهُ مَا اتَّقَاهُ مَا اتَّقَاهُ

رَاعَى غَنَمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ يُقِيمُ فِيهَا الصَّلَاةَ
7609 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ سِيَاحَةً، وَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

7610 - وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةً،
وَرَهْبَانِيَّةَ أُمَّتِي الرِّبَاطُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ

7611 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَذُرُّكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً الْقَائِمِ
بِاللَّيْلِ الطَّامِءِ بِالْهَوَاجِرِ

7612 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ

7608 - قال في المجمع جلد 4 صفحہ 67 وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه .

7609 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 278 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 2469 بلفظ

سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله . وهو حديث حسن .

7610 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 25 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

7611 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 257 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (42 مجمع البحرين) وفيه عفير بن معدان

وهو ضعيف .

7612 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 217 رواه الطبرانی في الأوسط (34 مجمع البحرين) والكبير وفيه عفير بن معدان

وقد أجمعوا على ضعفه .

نیچے ہاتھ داخل کر کے) مسح کیا۔

النُّفْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْعِمَامَةِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

7613 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفْلِيُّ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَمَوَّ بِأَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: هَلْ مِنْ مَاءٍ لَوْضُوعٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا مَاءٌ إِلَّا فِي إِهَابٍ مَيْتَةٍ، دَبَغْنَاهُ بِلَبْنٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: إِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ فَأَتَى مِنْهُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى

7614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

الْمُؤَدَّبُ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَائِدٍ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ يُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَخْلَةً، فَمَنْعَهَا وَنَهَاهَا

7615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کسی جہاد کے لیے نکلے، عرب کے کچھ گھروں کے پاس سے گزرے آپ نے ان کی طرف کسی کو بھیجا کہ کیا ان کے پاس پانی ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے وضو کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس مردار کے چمڑے میں ہے جس کو ہم نے دودھ کے ساتھ دباغت دی ہے۔ آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ دباغت پاک کرنے والی ہے آپ کے لیے اس سے پانی لایا گیا آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھائی۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اس نے بتایا کہ اس کا شوہر کسی جہاد میں گیا ہے اس نے اجازت مانگی اپنے گھر کھجور کی تصویر بنانے کی تو آپ نے اس سے منع کیا اور روکا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: چار موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے، رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں: (۱) اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں بناتے وقت (۲) بارش کے اترنے کے وقت (۳) نماز کھڑی کرنے کے وقت (۴) کعبہ کے دیکھنے کے وقت۔

الْمُؤَدَّبُ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْيَقَازِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعِنْدَ نَزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کتاب میرے سرہانے کے نیچے سے کھینچ لی گئی، میں اس کو پیچھے سے دیکھتا رہا، پس وہ پھیلنے والا نور تھا حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ اس نے اس کو اڑا لیا ہے، پس اس کے ساتھ شام کا ارادہ کیا گیا ہے، بے شک میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ فتنے جب واقع ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔

7616 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصْبُوصِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْجَمْعِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتَزَعَ مِنْ تَحْتِ وَسَادَتِي، فَاتَّبَعْتُهُ بَصَرِي، فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ حَتَّى طَلَسْتُ أَنَّهُ قَدْ هَوَى بِهِ، فَعَمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَوَّلْتُ أَنَّ الْفِتْنَ إِذَا وَقَعَتْ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّامِ

7617 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُغَلَّى

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خوبصورت خوشبو لگانے والی تھی شوہر کے لیے اچھی حالت اور خوب اچھا لباس پہننا پسند کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو خراب

الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ

7616 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 58 وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه - ومن طريق المصنف وغيره رواه

ابن عساكر في تاريخ دمشق جلد 1 صفحہ 99-100 .

7617 - قال في المجموع جلد 4 صفحہ 302 وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف .

رُشَيْدٍ، قَالُوا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ
مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ عُثْمَانَ بْنِ
مَطْعُونٍ امْرَأَةً جَمِيلَةً عَطْرَةً، تُحِبُّ اللِّبَاسَ،
وَالْهَيَاةَ لِرِزْوَجِهَا، فَزَارَتْهَا عَائِشَةُ وَهِيَ تَقْلَعُ
قَالَتْ: مَا حَالُكَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: إِنَّ نَفَرًا مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
رَوَاحَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ قَدْ تَخَلَّوْا لِلْعِبَادَةِ،
وَأَمْتَنَعُوا مِنَ النِّسَاءِ، وَأَكَلِ اللَّحْمِ وَصَامُوا
النَّهَارَ، وَقَامُوا اللَّيْلَ، فَكِرِهْتُ أَنْ أَرِيَهُ مِنْ
حَالِي مَا يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدِي لِمَا يُخْلِي لَهُ،
فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ
عَائِشَةُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَعْلَهُ، فَحَمَلَهَا بِالسَّبَابَةِ مِنْ إِصْبَعِهِ
الْيُسْرَى، ثُمَّ انْطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِمْ،
فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ، قَالُوا: أَرَدْنَا الْخَيْرَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ
بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ
الْبِدْعَةِ، أَلَا وَإِنْ أَقْوَامًا ابْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّةَ
فَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، أَلَا
فَكُلُوا اللَّحْمَ، وَاتَّبَعُوا النِّسَاءَ، وَصُومُوا
وَأَقِطُوا، وَصَلُّوا وَنَامُوا، فَإِنِّي بِذَلِكَ أُمِرْتُ
7618 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

حالت میں دیکھا، آپ نے فرمایا: یہ کیا حالت ہے؟ عرض
کی: حضور ﷺ کے اصحاب میں کچھ جن میں حضرت علی
عبداللہ بن رواحہ عثمان بن مظعون شامل ہیں عبادت کے
لیے خلوت پسند کرتے ہیں اور عورتوں سے علیحدہ رہتے ہیں
اور گوشت نہیں کھاتے، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام
کرتے ہیں، میں نے ناپسند کیا کہ میری حالت کوئی دیکھے
جب وہ خلوت میں ہوں تو میں اپنی طرف بلاؤں۔ جب
حضور ﷺ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا
حضور ﷺ نے اپنی نعلین شریف پکڑی، بائیں ہاتھ کے
انگوٹھے سے پھر جلدی چلے یہاں تک کہ ان کے پاس
داخل ہوئے آپ نے ان کی حالت کے متعلق پوچھا
انہوں نے عرض کی: ہمارا مقصد بھلائی ہے۔ حضور ﷺ
نے فرمایا: مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے مجھے
رہبانیت کی بدعت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہے، خبردار! کچھ
لوگوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا تو وہ ان پر واجب ہو گئی، تو
وہ اس کی رعایت نہ کر سکے جس طرح کرنی چاہیے تھی، ان
پر فرض کی گئی، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، خبردار!
گوشت کھاؤ، عورتوں سے جماع کرو اور روزہ رکھو افطار
کرو اور نماز پڑھو اور کلام کرو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ سے سنا: سمندر میں شہید ہونے والا خشکی میں دو شہید ہونے والوں کی طرح ہے، سمندر میں چکر لگانے والا اس طرح ہے جس طرح خشکی میں خون سے رنگا ہوا ہو سمندر میں دو موجوں کے درمیان آدمی اللہ کی اطاعت میں ساری دنیا کا سفر کرنے والے کی طرح ہے بے شک اللہ نے روحیں قبض کرنے کیلئے حضرت عزرائیل (موت کے فرشتے) کو مقرر فرمایا ہے مگر سمندر میں شہید ہونے والوں کی روحیں خود قبض کرتا ہے، خشکی کے شہید کے سوائے قرض کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور سمندر کے شہیدوں کے سارے گناہ بھی اور قرض بھی معاف کر دیتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن تین جگہ اُترا: مکہ، مدینہ اور ملک شام۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

الْأَهْوَاؤِي، ثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ،
ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عِمْرَانَ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا
عَفِيرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدِ الْبَرِّ،
وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَعِّطِ فِي دِمِهِ فِي
الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ كَقَاطِعِ
الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ اللَّهَ وَكَلَّ مَلَكَ
الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ إِلَّا شُهَدَاءَ الْبَحْرِ،
فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لَشُهَدَاءِ
الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الَّذِينَ، وَيَسْتَغْفِرُ
لَشُهَدَاءِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ كُلَّهَا وَالَّذِينَ

7619 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا
أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ،
ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
عَنْ عَفِيرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي ثَلَاثَةِ أَمَكِنَةٍ:
بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالشَّامِ

7620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

7619 - قال في المجموع جلد 7 صفحہ 157، وفيه عفیر بن معدان وهو ضعيف . ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق جلد 1 صفحہ 154 .

7620 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 59، وفيه عفیر بن معدان وهو ضعيف . ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق جلد 1 صفحہ 107 من طريق المصنف .

حضور ﷺ نے فرمایا: ملک شام تمام شہروں سے اسی طرح پُچھا ہوا ہے جس طرح اللہ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جو ملک شام سے کسی دوسرے ملک کی طرف نکلے وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے اور جو ملک شام میں داخل ہو وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔

الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّامُ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ بِلَادِهِ، يَجْتَبِي صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الشَّامِ إِلَى غَيْرِهَا، فَبِسَخَطِهِ، وَمَنْ دَخَلَهَا فَبِرَحْمَةٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: چار موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں: (۱) اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں بناتے وقت (۲) بارش کے اترنے کے وقت (۳) نماز کھڑی کرنے کے وقت (۴) کعبہ کے دیکھنے کے وقت۔

7621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ دُعَاءُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ نَزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ زَحْفِ الصُّفُوفِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ

حضرت یزید بن ابومالک، حضرت سلیم بن عامر سے روایت کرتے ہیں

يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو کوئی مسلمان دس آدمیوں یا اس سے اوپر کا ولی بنے جو اس نے خیانت کی ہو

7622 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ خَلْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

گی تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اس کی نیکی اس کو چھڑوالے گی یا اس کا گناہ اسے مکمل پکڑوا دے گا' ولی بننا اولاً ملامت ہے درمیان میں ندامت ہے اور آخرت میں قیامت کے دن عذاب ہوگا۔

يَحْيَىٰ بِنُ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيَّ، ثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ
الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلِي أَمْرَ
عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَغْلُوبًا يَدُهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، فَكَهْ بَرَّةً، أَوْ أَوْقَعَهُ إِنْهُمُ،
أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت ہاشم بن زید، حضرت سلیم
بن عامر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا جنت والے نکاح کریں
گے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! ایسے ذکر جس میں اکٹھا
نہ ہوگی اور ایسی شہوت کے ساتھ جو کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی
خوب نکاح کریں گے۔

حضرت عبد اللہ بن دینار البہرانی
حمصی، حضرت ابوامامہ سے روایت
کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

هَاشِمُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

7623 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبُرْقِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ
أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا صَدَقَةُ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يُحَدِّثُ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَسُئِلَ هَلْ يَتَنَاقَحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
بِدَكْرٍ لَا يَمَلُّ، وَشَهْوَةٍ لَا تَنْقُطُ دُحْمًا دُحْمًا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
الْبَهْرَانِيُّ الْحَمَصِيُّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7624 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حضور ﷺ نے فرمایا: ہفتہ کے دن فرض روزہ ہی رکھو اگر کھانے کے لیے کوئی شی نہ پاؤ سوائے درخت کے پوست کے تو اس کے ساتھ ہی افطار کرلو۔

حَبْلٌ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُمِ السَّبْتَ إِلَّا فَرِيضَةً، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا لَحَا شَجَرٍ فَأَفِطِرْ عَلَيْهِ

سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْحُمْصِيُّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

سلیمان بن عبد الرحمن حمصی، حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گروہ نکلے گا جن کے ماتھے چمکدار ہوں گے، ان کو روک دیں گے ان کا نور سورج کی مانند ہو گا۔ پس ایک نداء دینے والا نداء دے گا: نبی امی! پس اس کو ہر امی نبی تلاش کرے گا۔ پس کہا جائے گا: محمد ﷺ اور آپ کی امت ہے۔ پس وہ جنت میں داخل ہوں گے کہ ان پر حساب و کتاب نہ ہوگا پھر ایک گروہ نکلے گا ان کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نور چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا ان کا نور دنیا کے کناروں کو بھر دے گا۔ پس نداء کرنے والا نداء کرے گا: امی نبی! پس اس کو ہر امی نبی تلاش کرے گا (کون ہیں)۔ پس کہا جائے گا: محمد ﷺ اور ان کی امت! پس وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے پھر ایک اور گروہ نکلے گا ان کے چہرے

7625 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرَفٍ الْحُمْصِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: تَخْرُجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ غُرٍّ مُحَجَّلُونَ يَسُدُّ الْأُفُقَ نُورُهُمْ مِثْلَ الشَّمْسِ فَيَنَادِي مُنَادٍ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيٍّ أُمِّيٍّ، فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ، ثُمَّ تَخْرُجُ ثَلَاثَةُ أُخْرَى غُرٍّ مُحَجَّلُونَ، نُورُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، يَسُدُّ الْأُفُقَ نُورُهُمْ، فَيَنَادِي مُنَادٍ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيٍّ أُمِّيٍّ، فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ

چمکدار ہوں گے ان کا نور آسمان میں بڑے ستارے کی مانند ہوگا ان کا نور اُفق کو روک لے گا۔ پس منادی ندا دے گا: اُمّی نبی! پس اس کو ہر اُمّی نبی تلاش کرے گا۔ کہا جائے گا: محمد اور ان کی اُمت ہے! پس وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے پھر تیرا رب عزوجل آئے گا پھر میزان (ترازو) اور حساب و کتاب کا پیمانہ رکھا جائے گا۔

وَأُمَّتُهُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ تَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ أُخْرَى غُرٌّ مُحَجَّلُونَ، نُورُهُمْ مِثْلُ أَعْظَمِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ يَسُدُّ الْأُفُقَ نُورُهُمْ، فَيَنَادِي مُنَادٍ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيٍّ أُمِّيٍّ، فَيَقَالُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ يَجِيءُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يُوضَعُ الْمِيزَانُ وَالْحِسَابُ

لقمان بن عامر، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو کوئی مسلمان دس آدمیوں یا اس سے اوپر کا ولی بنے جو اس نے خیانت کی ہو گی تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اس سے ان کو نیکی چھڑائے گی یا اس کا گناہ اسے بیڑیوں میں جکڑوا دے گا ولی بننا اولاً ملامت ہے درمیان میں ندامت ہے اور آخرت میں قیامت کے دن عذاب ہوگا۔

لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7626 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيهِمْ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ، فَكُهُ بَرٌّ، أَوْ أَوْثَقَهُ إِثْمُهُ، أَوْ لَهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لقمان بن عامر عن أبي أمامة

7626- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 267 من هذا الطريق كما تقدم . قال شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 349 ' وهذا اسناد شامي جيد رجاله كلهم ثقات ' وفي يزيد وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي مالك الدمشقي القاضي كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1580 بهذا الاسناد واللفظ . كذا هو في المخطوطة ومسند الشاميين يزيد بن أبيهم قال الحافظ مقبول ' وعند أحمد يزيد ابن (أبي) مالك .

7627 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَرِقٍ الْحِمَصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. مَقِيلٌ: مَا عَسَلَهُ؟ قَالَ: يَرْزُقُهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ

7628 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُوَصِّلِيُّ، ثنا فَرْجُ بْنُ فَصَّالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِي السُّفْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَمْلَ، وَيَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ

7629 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُوَصِّلِيُّ، ثنا فَرْجُ بْنُ فَصَّالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے عمل کی توفیق دیتا ہے، غرض کی گئی: عمل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ گھروں میں رہنے والے جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا سوائے دودھاریوں والے سانپ اور چھپکلی کے یہ دونوں حمل کو گراتے ہیں اور آنکھیں اچک لیتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، تم صفیں درست کرو اور کندھوں کو برابر رکھو اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کرو اور درمیان میں خلاء کو پر کرو کیونکہ شیطان تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے

7627- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1585 .

7628- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 262، قال في المجمع جلد 4 صفحہ 48، وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه . ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1586 .

7629- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 262، قال في المجمع جلد 2 صفحہ 91، ورجال أحمد موثقون . قلت: وفيه عندهما فرج

بن فضالة . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1587 .

بھیر کے چھوٹے بچے کی طرح اور حذف سے مراد
بھیر کا چھوٹا بچہ ہے۔

يُصَلُّونَ عَلَى الصَّبِّ الْأَوَّلِ، سَوَّوْا صُفُوفَكُمْ،
وَسَوَّوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلَيِّنُوا لِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ،
وَسَدِّدُوا الْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ
مِثْلَ الْحَذَفِ وَالْحَذَفِ: وَلَكَ الصَّانِ الصَّغَارِ

7630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا
فَرْجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ، فَخَطَبَ النَّاسَ
فَقَالَ فِي مَوْعِظَتِهِ: أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ
عَامِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَامَ رَجُلٌ طَوِيلٌ
أَشْعَثُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ، فَقَالَ: فَمَا
الَّذِي نَفَعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ااعْبُدُوا
رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ،
وَأَذُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ
تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

7631 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ
الوداع کے موقع پر حضور ﷺ کے ساتھ تھا آپ نے
لوگوں کو خطبہ دیا خطبہ میں فرمایا: ہو سکتا ہے کہ تم اس سال
کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو یہ تین مرتبہ فرمایا ایک لمبے قد کا
آدمی کھڑا ہوا گویا کہ تمام لوگوں سے اچھی حالت میں نہ تھا
اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کیا کریں؟ آپ نے
فرمایا: تم اپنے برکی عبادت کرو اور پانچ نمازیں پڑھو اور
رمضان کے روزے رکھو اور خوش طبعی سے اپنے مال کی
زکوٰۃ دو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کی

7630 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1581 -

7631 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 262 قال في المجمع جلد 8 صفحہ 222 واسناد أحمد حسن وله شواهد تقويه . ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1582 وابن سعد في الطبقات جلد 1 صفحہ 102 وابن عدي في الكامل

جلد 1 صفحہ 165 وأبو نعيم في الدلائل رقم الحديث: 317 والبيهقي في الدلائل جلد 1 صفحہ 20-21 . وللحديث

شواهد من حديث عبادة بن الصامت وعتبة بن عبد . ولذا حسنه شيخنا تبعاً للهيثمى في المجمع . ومن العجيب أن

محققى الجامع الكبير قالوا: انهم لم يروا ترجمة فرج بن فضالة ولقمان بن عامر الذى تحرف عندهم الى نعمان

بن عامر وهما من رجال التهذيب .

گئی: یا رسول اللہ! آپ اپنی ولادت کے متعلق بتائیں! آپ نے فرمایا: میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ بن مریم کی خوشخبری ہو اور میری والدہ نے نور دیکھا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔

مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيِّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا فَرْجُ بْنُ فَصَّالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ بُدُّ أَمْرِكَ؟ فَقَالَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے ہر کوئی جنت میں داخل ہو گا سوائے اُس کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگ گیا جس طرح پاگل اونٹ اپنے مالک سے بھاگتا ہے جو میری اس بات کی تصدیق چاہتا ہے وہ یہ پڑھے: ”نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا“۔ جو محمد ﷺ لے کر آئے اُس کو جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

7632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فَرْجُ بْنُ فَصَّالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرِدَ عَلَى اللَّهِ كَثِيرًا دِ الْعَبِيرِ السُّوءِ عَلَى أَهْلِهِ، فَمَنْ يُصَدِّقُنِي، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى) (اللیل: 16)، كَذَّبَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَوَلَّى عَنْهُ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اگر پتھر جس

7633 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ صَدَقَةَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ

7632 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 403 رواه الطبرانی موقوفاً ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . ورواه المصنف

في مسند الشاميين رقم الحديث: 1582 .

7633 - قال في المجموع جلد 10 صفحہ 389 وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال: يخطئون . ورواه المصنف في مسند

الشاميين رقم الحديث: 1589 . وله شواهد من حديث أنس وأبي هريرة ومعاذ .

کا وزن دس حاملہ اونٹنوں کے برابر ہوگا اس کو جہنم کے کنویں میں گرایا گیا وہ ستر سال تک اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ غی اور اٹام تک پہنچے گا عرض کی گئی: غی اور اٹام سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: جہنم کے نچلے حصے میں دو کنویں ہیں ان دونوں سے جہنم والوں کی پیپ بہتی ہے دونوں کا ذکر اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا: ”وہ لوگ جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشوں کی پیروی کی“ عنقریب وہ غی میں ڈالیں جائیں گے جو ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا۔“

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: صبح وشام کو آنے والی ہر جماعت قوم پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محترم ہے۔

بُنْ زَيْدِ بْنِ زَبَّارٍ الْكَلْبِيُّ، ثنا شَرْقِيُّ بْنُ الْقَطَامِيِّ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: جِئْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ فَقُلْتُ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ صَخْرَةً وَرَزَتْ عَشْرَ خِلْفَاتٍ، فَنُذِبَ بِهَا مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مَا بَلَغَتْ قَعْرَهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى غَيٍّ، وَأَثَامٍ. قِيلَ: وَمَا غَيٌّ، وَأَثَامٌ؟ قَالَ: بَثْرَانِ فِي أَسْفَلِ جَهَنَّمَ يَسِيلُ مِنْهُمَا صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَهُمَا اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم: 59) (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (الفرقان: 68)

7634 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُعَمَّرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سَلَامَةُ بْنُ عَمِيْرٍ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: كُلُّ سَارِحَةٍ، وَرَائِحَةٍ عَلَى قَوْمٍ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِمْ

قاسم بن عبد الرحمن بن يزيد الشامي
حضرت معاویہ کے غلام حضرت

القاسم بن عبد الرحمن بن
يزيد الشامي مولى معاوية،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

يُكْنَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحْيَى بْنُ
الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7635 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ
الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِيتُ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمُصِصِيِّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ح،
وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمِاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ يَوْسُفَ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ، ثنا
يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ
الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ
مُتَطَهِّرٌ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ
مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ
الْمُعْتَمِرِ

7637 - وَصَلَاةٍ عَلَى آثَرِ صَلَاةٍ، لَا
لَوْ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيْنِ

ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

آپ کی کنیت عبدالرحمن یحییٰ بن حارث الدیماری
حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
حضور ﷺ کے صحابہ سے ملا ہوں۔

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو با وضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے
کے لیے نکلا اس کو محرم کے ساتھ حج کرنے جتنا ثواب ملے
گا جو نماز چاشت ادا کرنے کے لیے چلا اس کو عمرہ کرنے
جتنا ثواب ملے گا۔

ایک نماز کے بعد دوسری نماز ان دونوں کے درمیان
کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کا ثواب علیین میں لکھا جاتا

7635- سويد لبن الحديث . لكن ذكر الذهبي في سير اعلام النبلاء (أن محمد بن شعيب بن شابور روى ذلك عن يحيى

عن القاسم) .

7636- ورواه أبو داود رقم الحديث: 554' والمصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 878 . وانظر حول صلاة على أثر

صلاة رقم الحديث: 7582 .

۴۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی
مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا
أَبِي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ
الْحَارِثِ، وَأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

7638 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنُ
أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى،
ثَنَا مُسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُشْنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
الْحَارِثِ الدِّمَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الرَّجُلَ جَهِيرًا رَفِيعَ
الصَّوْتِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ خَفِيفَ
الصَّوْتِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ اونچی آواز والے آدمی کو ناپسند کرتے تھے
آپ پست آواز والے کو پسند کرتے تھے۔

7639 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَسَّانَ
الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ
خَالِدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کے لیے محبت کرنے اور بغض
رکھے عطا کرے اور روکے اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تم میں
سے میرے نزدیک قیامت کے دن وہ ہو گا جس کے
اخلاق اچھے ہوں گے۔

7638- قال في المجمع جلد 8 صفحہ 114 وفيه مسلمة بن علي الخشنى وهو ضعيف . قلت: بل متروك ورواء المصنف
في مسند الشاميين رقم الحديث: 880 .

7739- وقال في المجمع جلد 8 صفحہ 24 رواه الطبرانی في حديث طويل باسنادين ورجال أحدهما ثقات . يقصد حسن
الأخلاق . ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 4655 وابن عساكر في تاريخه (16/6/2 ' 396/9/2) من طرق عن يحيى
به وحسنه شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 380 دون قوله: وان أقر بكم . وقد روى هذه القطعة المصنف في
مسند الشاميين رقم الحديث: 884 ولها شواهد .

وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ،
وَإِنَّ مِنْ أَقْرَبُكُمْ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ
أَخْلَاقًا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی
مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ هَاشِمٍ
الْبُغْلَبِجِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِثْلَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: صبح و شام مسجدوں کی طرف جانا اللہ
کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔

7640 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسَيْرِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ
الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا يَحْيَى
بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغَدَاؤُ
وَالرَّوَاحُ إِلَى الْمَسَاجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن غسل کرو کیونکہ جس نے

7641 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَحِيمٍ
الْدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

7640 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 29-30 وفيه القاسم بن عبد الرحمن وفيه اختلاف . قلت: هذا ليس بعله الحديث
للقاسم حسن الحديث . والحسين ابن أبي السري ضعيف كما قال الحافظ . وهذا لا يقتضى أن يكون الحديث
موضوعا . وقد حكم عليه شيخنا بالوضع ولا أدري ما هو مستنده في ذلك . ورواه المصنف في مسند الشاميين
رقم الحديث: 879 بهذا الاسناد واللفظ .

7641 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 173 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (83 مجمع البحرين) وفيه سويد ابن عبد
العزیز ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما ووثقه دحيم وغيره . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم
الحديث: 881 بهذا اللفظ، وضعفه شيخنا .

جمعہ کے دن غسل کیا اس کے لیے یہ غسل ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور تین دن مزید کا۔

إِسْحَاقُ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَخْرِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ السَّرَاجُ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالُوا: ثنا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَهُ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا رہا پھر کھڑا ہوا دو رکعت نفل ادا کیے وہ ایک حج و عمرہ کا ثواب لے کر اٹھے گا۔

7642 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو قرآن اونچی آواز میں پڑھتا ہے

7643 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمِيدِ الْاَنْطَاكِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

7642 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 104 'واسنادہ جید . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 885 .

7643 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 266 'رواه الطبرانی في الكبير من طريقين في احدهما بشير بن نمير وهو متروك

وفى الأخرى اسحاق بن مالك ضعفه الأزدي . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 886 من طريق

وہ ایسے ہی ہے جس طرح جہراً صدقہ کرنا اور وہ جو قرآن آہستہ پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح سراً صدقہ دینا۔

النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ
الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ النُّجَابِيُّ،
ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَالِكٍ
الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ
بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي يُسِرُّ
بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے سلام کرنے میں ابتداء کی
وہ اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہوگا۔

7644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ بْنِ الْوَلِيدِ،
ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ، فَهُوَ أَوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: مسواک منہ کے لیے پاکی اور رب
کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

7645 - حَدَّثَنَا وَائِلَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْعِمْرَقِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَدَّاءُ، ثنا بَقِيَّةُ،
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: السَّوَاكُ
مَطْيَبَةٌ لِلْقَمِّ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7646 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ

7644 - ورواه أبو داود رقم الحديث: 5175 والترمذي رقم الحديث: 2835 من طريق آخر وهو حديث صحيح. ورواه

المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 887.

7645 - ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 888 وله شواهد.

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے نمازِ عشاء باجماعت پڑھی اُس نے لیلۃ القدر کے مطابق ثواب حاصل کر لیا۔

الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُلَيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَقَدْ أَخَذَ مِنْ حَقِّهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

7647 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

7648 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا

أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصْبِصِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحَمِصِيُّ، قَالُوا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے انسان! تو میری رضا کے لیے دن کے شروع میں چار رکعت پڑھ تیرے لیے آخر دن میں کفایت کروں گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جہاد نہ کیا یا کسی نماز کے گھر میں اس کا نائب نہ بنا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھٹکھٹانے والی کے ساتھ مصیبت کا شکار کرے گا۔

7647 - قال في المجمع جلد 2 صفحہ 236 وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 890 .

7648 - ورواه أبو داود رقم الحديث: 2486 وابن ماجه رقم الحديث: 2762 والدارمي رقم الحديث: 2423 . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 491 والبيهقي جلد 9 صفحہ 48 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 891 والوليد صرح بالحديث عند الدارمي والمصنف هنا وفي مسند الشاميين . ولا قاسم فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن حديثه . فهو حديث حسن .

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گائے والیوں کی نہ بیع جائز ہے اور نہ خریدنا جائز ہے نہ ان کی تجارت جائز ہے ان کی کمائی حرام ہے یہ آیت اسی کے متعلق نازل ہوئی: ”لوگوں میں کچھ فضول باتیں خریدتے ہیں“ آخر آیت تک۔

7650 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ سُفْيَانَ الرَّقِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَيَّبَاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ وَتَمْنَهُنَّ حَرَامٌ وَقَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ (وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ) (لقمان: 6) حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الْآيَةِ

پھر اس کے پیچھے آپ نے بیان کیا کہ وہ ذات جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم! جو آدمی گانوں کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دو شیطانوں کو بھیجتا ہے جو اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں پھر وہ لگاتار اپنے پاؤں اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں اور اشارہ اپنے سینے کی طرف کر کے سمجھایا حتیٰ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7651 - ثُمَّ اتَّبَعَهَا، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا رَفَعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَهُ بِالْفَنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ شَيْطَانَيْنِ يَرْتَقِدَانِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، ثُمَّ لَا يَزَالَانِ يَضْرِبَانِ بَارِئِ جُلْهَمَا عَلَى صَدْرِهِ - وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِ نَفْسِهِ - حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْكُتُ

7652 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ

7650- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3247، 1300 وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، انْمَا يَرَوِي مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَالْقَاسِمِ ثِقَةٌ وَعَلَى بْنِ يَزِيدٍ يَضَعُفُ فِي الْحَدِيثِ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ جُلْد 21 صَفْحَةَ 60 وَأَمَّا اسْتِنَادُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ لِيْنِ الْحَدِيثِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ ثَابِتٍ بَنِ ثَوْبَانَ صَدُوقٌ يَخْطِئُ وَرَمَى بِالْقَدْرِ وَتَغْيِيرُ بَآخِرِهِ - وَرَوَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 893، 231 - قُلْتُ: الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَتَاهُمْ -

7652 - قَالَ فِي الْمَجْمَعِ جُلْد 3 صَفْحَةَ 192 وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ - قُلْتُ: وَسُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيْنِ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ -

حضور ﷺ شعبان کے روزے رمضان تک رکھتے تھے۔

حَنْبَلٌ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

7653 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِرْقٍ الْحَمَصِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا، ثُمَّ قَامُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تَرَةً

7654 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو مَعِيذٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ، لَا لَفْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيْنِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِرْقٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو لوگ بیٹھتے ہیں پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں وہ مجلس ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک نماز کے بعد دوسری نماز ان دونوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کا ثواب علیین میں لکھا جاتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 894 -

7653 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 80 ورجاله وثقوا . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 895.882

قلت: شيخ المصنف تقدم أنه غير معتمد . وسعيد قال الحافظ: مقبول . فالحديث ضعيف .

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

7655 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عِرْقٍ الْحُمْصِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ

7656 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغْلَبِغِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ حُسْنَ الْخُلُقِ، وَأَفْضَلُكُمْ إِيمَانًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے گھر سے با وضو ہو کر نکلے اُسے ایک حج کا ثواب ملے گا جو اپنے گھر سے نماز چاشت کے لیے نکلے اُسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حسن اخلاق ایمان سے ہے تم میں سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

كَثِيرُ بْنُ الْحَارِثِ،

كَثِيرُ بْنُ الْحَارِثِ، حضرت قاسم سے

عَنِ الْقَاسِمِ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: معاملہ زیادہ نہیں ہوگا مگر سختی کے لحاظ سے مال زیادہ نہ ہوگا مگر رفاضہ (غالب آنے) کے لحاظ سے اور لوگ زیادہ نہ ہوں گے مگر کنجوسی کے اعتبار سے۔

قیامت بڑے لوگوں پر ہی آئے گی۔

7657- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا يَزْدَادُ الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحًّا 7658- وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى

شِرَارِ النَّاسِ

غِيلَانُ بْنُ أَنَسٍ،

حضرت غیلان بن انس، حضرت

قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کا اسم اعظم قرآن کی تین سورتوں میں ہے: (۱) بقرہ (۲) آل عمران (۳) آلہ میں۔

7659- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَحِيمٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَيْسَى بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ غِيلَانَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي ثَلَاثِ سُورٍ مِنْ

7657- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 285 رواه الطبرانی ورجاله وثقوا - ورواه باسناد آخر ضعيف - ورواه المصنف في

مسند الشاميين رقم الحديث: 1941 والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 899 وشيخ المصنف فيه كلام

وكثير بن الحارث قال الحافظ: مقبول - ومعاوية صدوق له أوهام - فالحديث ضعيف - ورواه ابن ماجه رقم

الحديث: 3856 والطحاوي في مشكل الآثار جلد 1 صفحہ 63 والفريابي في فضائل القرآن جلد 1 صفحہ 184

وغيلان بن أنس قال الحافظ مقبول -

الْقُرْآن: الْبَقَرَة، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه

الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ،

عَنِ الْقَاسِمِ

حضرت علاء بن حارث، حضرت

قاسم سے روایت کرتے ہیں

7660- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

يَحْيَى بْنِ حَمْرَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

عَائِدٍ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزَّنَا، فَصَاحَ بِهِ

النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَقْرُوهُ فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبُّهُ لُئْلَكَ؟ قَالَ: لَا.

قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ.

قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ

النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِابْنَاتِهِمْ. قَالَ: أَتُحِبُّهُ

لِأَخِيكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا

يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ

كَفِّرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ قُرْبَهُ

الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ پس صحابہ یہ بات سن کر چیخ اٹھے! پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم اس کو ٹھہراؤ! پس وہ قریب ہو کر رسول کریم ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا تو نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: قریب آؤ! پس وہ قریب آ کر بیٹھ گیا تو رسول کریم ﷺ نے اس کیلئے فرمایا: کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کیلئے پسند نہیں کرتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو یہ اپنی بیٹی کیلئے پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کی: جی نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کیلئے پسند نہیں کرتے! کیا تو اپنی بہن کیلئے یہ پسند نہیں کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: لوگ بھی اپنی بہنوں کیلئے یہ پسند نہیں کرتے! کیا تو اپنی چھوٹی بہن کیلئے یہ پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! فرمایا: لوگ بھی اپنی چھوٹی بہنوں کیلئے یہ پسند نہیں کرتے! کیا تو اپنی خالہ کیلئے یہ پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح لوگ

بھی اپنی خالاؤں کیلئے پسند نہیں کرتے، پس رسول اللہ ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور عرض کی: یا اللہ! اس کے گناہوں کو دھو دے یا اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کو پاک فرما۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

7661- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِیَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِدٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّيَاحَةِ، فَقَالَ: إِنَّ سَيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ابومعید حفص بن غیلان، حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غِيْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں نہ صفر نہ ہامہ نہ مہینہ مکمل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں جس نے ذمہ کو توڑا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔

7662- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غِيْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا عَذْوَى، وَلَا صَفَرٍ، وَلَا هَامٍ، وَلَا يَتَمُّ

7661- رَوَاهُ الْحَاكِمُ جُلْد 2 صَفْحَة 73 وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ . وَرَوَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ رَقْم

الْحَدِيثِ: 1522 .

7662- قَالَ فِي الْمَجْمَعِ جُلْد 6 صَفْحَة 294 وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينِ وَثَقَهُ دَحِيمٌ وَغَيْرُهُ وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ . وَرَوَاهُ

الْمُصَنِّفُ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1551 .

شَهْرَانِ، وَمَنْ خَفَرَ بِذِمَّةٍ لَمْ يَرْحُ رَاحَةَ الْجَنَّةِ
7663- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 حضور ﷺ نے فرمایا: نہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں نہ صفر
 نہ ہامہ۔

يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ
 هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ، عَنْ أَبِي
 مُعَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَفَرَ، وَلَا
 هَامَةَ، وَلَا غَدَوَى

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 حضور ﷺ نے فرمایا: ایک نماز کے بعد دوسری نماز ان
 دونوں کے درمیان کوئی لغوبات نہ کرے تو اس کا ثواب
 علیین میں لکھا جاتا ہے۔

7664- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا
 أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
 التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ
 بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ،
 وَأَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غِيْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
 أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ عَلَى آثَرِ صَلَاةٍ، لَا لَغَوَ
 بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلَّتَيْنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے گھر سے با وضو ہو کر نکلے
 اُسے ایک حج کا ثواب ملے گا جو اپنے گھر سے نماز چاشت
 کے لیے نکلے اُسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔

7665- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ
 الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا
 يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ،
 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَشَى
 إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ، وَمَنْ
 مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ

7663- فیہ عمرو بن ہاشم قال الحافظ صدوق یخطئ: وھیثم بن حمید صدوق رمی بالقدر .

7664- ورواہ فی الصغیر جلد 1 صفحہ 171 ومسند الشامیین رقم الحدیث: 593 .

ابو معید حفص بن غیلان عن القاسم

7666- وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا تَغُورُ

بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلَّتَيْنِ

ایک نماز کے بعد دوسری نماز ان دونوں کے درمیان
کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کا ثواب عِلَّتین میں لکھا جاتا

ہے۔

عروہ بن رویم النخعی، حضرت قاسم بن
عبدالرحمن سے، وہ ابوامامہ صدی
بن عجلان سے روایت
کرتے ہیںعُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَدِّي
بْنِ عَجْلَانَ

7667- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ زِيَادٍ بِنِ زَكْرِيَّا الْأَيَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ زُبَيْرِ بْنِ الْحَمِصِيِّ، ثنا عَمِي
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَّابِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْعَلَاءِ الْحَمِصِيِّ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءٍ بِنِ حَيَّوَةَ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتِّ سَاعَاتٍ
عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوْ الْمُسِيءِ، فَإِنْحضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: بائیں کندھے والا بندے سے چھ
گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے، مسلمان بندہ سے بھول
جانے والے اور غلطی کرنے والے سے، پس اگر وہ شرمندہ
ہوا اور بخشش مانگی تو وہ قلم رکھ دیتا ہے ورنہ اس کے لیے
ایک نیکی لکھی جائے گی۔

لَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْفَاها، وَإِلَّا كُتِبَتْ
وَاحِدَةً

7668- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هُوْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الْفَجْرِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كُتِبَتْ
صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَاةِ الْأَبْرَارِ، وَكُتِبَ فِي

وَفِي الرَّحْمَنِ

7669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بَكْرِ السَّرَّاجِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا الْهَيْجَاجُ بْنُ بَسْطَامٍ، عَنْ
عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبَادَةَ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
عَمِلَ بِالْمَعَاصِي بَيْنَ ظَهْرَانِي قَوْمٌ هُوَ مِنْهُمْ لَمْ
يَمْنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُغَيِّرُوا الْمُنْكَرَ، فَقَدْ
بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے وضو کیا پھر مسجد میں آ کر
فجر سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا حتیٰ کہ اس نے
(جماعت کے ساتھ) نماز فجر ادا کی تو اس دن اس کی نماز
برابر کی نماز میں لکھی جائے گی اور لکھا جائے گا کہ وہ رحمان
کے گروہ میں ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے کسی قوم کے درمیان
کھلے بندوں بُرے اعمال کیے جو انہیں میں سے ہے اور
انہوں نے اسے اس سے نہ روکا یہاں تک کہ وہ بُرائی کو
بدلیں تو ان سے اللہ کی حفاظت و ذمہ ختم ہو گیا۔

7668- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 41 وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو مختلف في الاحتجاج به . ورواه المصنف في

مسند الشاميين رقم الحديث: 525 .

7669- قال في المجمع جلد 5 صفحہ 269 وفيه هيجاج بن بسطام وهو ضعيف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 528 .

7670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو

جَعْفَرُ التِّرْمِذِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجَدِّي،
 ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ،
 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
 أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاضُعِ، فَإِنَّ
 التَّوَاضُعَ فِي الْقَلْبِ فَلَا يُؤْذِنُ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا،
 فَلَرَبَّمَا مُتَضَاعِفٌ فِي أَطْمَارٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
 لَأَبْرَهُ

7671- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

يُونُسَ الْأَهْوَازِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
 الرَّبَاعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا
 هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنِ
 الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا
 وَلَا ذَهَبًا

عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ،

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7672- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر عاجزی لازم ہے کیونکہ عاجزی
 دل کا سکون ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو
 تکلیف نہ دے، بسا اوقات برا بیچتہ حالت والے اگر اللہ
 سے قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان
 رکھتا ہے وہ ریشم اور سونا نہ پہنے۔

عاصم بن رجاء بن حیوہ قاسم سے وہ

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

7670- قال في المجمع جلد 8 صفحہ 83 فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو يضع الحديث قلت فالحديث موضوع -

ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 529 .

7671- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 530، والواقدي متروك .

الْحَضْرَمِيُّ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ،
قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ، ثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ
حَيَوَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ تَرَكَ
الْمِرَاءَ، وَهُوَ مُحِقٌّ بَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ،
وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى
الْجَنَّةِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ
بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ

7673- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،
وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

7674- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،
وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوَطَّأَ
الْحَبَالَى حَتَّى تَضْفَنَ

7675- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

كَرِيمٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فرمایا: میں دکھاوا ترک کرنے والے کا
قائد ہوں گا وہ جنت کی ابتداء میں ایک گھر کا درمیان میں
دوسرے گھر کا اور اعلیٰ جنت میں تیسرے گھر کا حقدار ہوگا۔

عبد الرحمن بن یزید بن جابر حضرت
قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: پھل پکنے سے پہلے فروخت نہ کرو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے خیبر کے دن حاملہ عورتوں کے حمل وضع
ہونے سے پہلے وطی کرنے سے منع فرمایا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے لعنت فرمائی ایک کے بال دوسرے کو لگانے والی بال لگوانے والی گودنے والی اور گدوانے والی پر۔

بَكَرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَأْشِمَةَ، وَالْمَوْشُومَةَ

7676 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى يُقَسَّمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا حصہ تقسیم کرنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا۔

7677 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَاطِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِشَاتِ الْوُجُوهِ، وَشَاقَاتِ الْجُيُوبِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چہروں کو نوچنے والیوں اور گریبان پھاڑنے والیوں پر لعنت فرمائی۔

7678 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَاطِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَّابِيُّ، ثنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا۔

7678 - ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة وابن أبي عمر عن أبي أسامة به . كما في المطالب العالية النسخة المسندة جلد 1

صفحہ 67 جلد 2 صفحہ 77 قال شيخنا حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية جلد 1 صفحہ 401

ذكره البيهقي جلد 6 صفحہ 30 تعليقا واسناده حسن وسكت عليه البوصيري . ورواه المصنف في مسند الشاميين

إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْه، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْتَكَرَ الطَّعَامُ

7679- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، وَمُوسَى بْنُ
سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، قَالُوا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ
عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا
ابْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ لَمْ يُحَلِّ فِي الْفِتْنَةِ شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ،
مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَأْتِي أَخَاهُ فَيَسْلِمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي
بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقْتُلُهُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو
الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7680- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ مِسْمَعٍ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، رَفَعَهُ: الْكُنُودُ: الَّذِي يَضْرِبُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: فتنہ میں کوئی
شی حرام ہونے والی شی کو حلال نہیں کرتی، تم میں سے کسی
ایک کو کیا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس آئے تو اس کو سلام
کرتے پھر اس کے بعد اس کے پاس آ کر اس کو قتل
کرے۔

عبدالرحمن بن عمرو وازاعی حضرت
قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں
کہ کنود وہ ہے جو اپنے غلام کو مارے اس کو کھانے سے منع
کرے اور خود اکیلا کھائے۔

7679- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 298 وفيه عبد الملك بن محمد الصنعاني وثقه أيوب بن سليمان وغيره وفيه

ضعف . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 594 .

7680- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 142 رواه الطبراني باسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الآخر من

لم اعرفه .

عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، وَيَأْكُلُ وَحْدَهُ

مَعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ،
عَنِ الْقَاسِمِمعاویہ بن صالح، حضرت قاسم سے
روایت کرتے ہیں

7681- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

الِدِمَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي
مَعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَذْنُو
الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَبِدٍ مِيلٍ، وَيُزَادُ فِي
حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا يَغْلِي مِنَ الْهَوَامِ كَمَا تَغْلِي
الْقُدُورُ عَلَى الْأَنْفَالِ، يَعْرِفُونَ مِنْهَا عَلَى
خَطَايَاهُمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى كَعْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يَبْلُغُ إِلَى سَاقِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى وَسْطِهِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ

7682- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُونُسُ بْنُ

يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْأَزْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعَاوِيَةُ بْنُ
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا
كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَامَتْ ثَلَاثَةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْتَدُونَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سورج ایک میل کی
مقدار قریب کیا جائے گا اس کی گرمی دنیا کی گرمی سے بڑھ
جائے گی اس سے دماغ ابلے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے
اپنے گناہوں کی مقدار پسینہ میں ڈوبے ہوں گے کسی کے
دونوں کندھوں تک پسینہ ہوگا کسی کی دونوں پنڈلیوں تک
کسی کے درمیان (پسینے) تک کسی کو پسینے کی لگام ڈالی
جائے گی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول
کریم ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن آئے گا تو
لوگوں میں سے ایک گروہ اٹھے گا وہ آسمانوں سے کناروں
تک زمین کو بھر دے گا ان کا نور سورج کی مانند ہوگا۔ پس
کہا جائے گا: اُمّی نبی ﷺ! اس گروہ کو ہر اُمّی نبی تلاش
کرے گا۔ پس کہا جائے گا: محمد ﷺ اور آپ کی امت

7681- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 254 قال فی المجمع جلد 10 صفحہ 335 ورجال أحمد ورجال الصحيح غیر القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه غیر واحد۔ ورواہ المصنف فی مسند الشاميين رقم الحديث: 1993.

7682- قال فی المجمع جلد 10 صفحہ 409 ورجاله وثقوا۔ ورواہ المصنف فی مسند الشاميين رقم الحديث: 1995.

ہے۔ پھر ایک اور گروہ کھڑا ہو گا وہ کناروں کے درمیان کو بھر دے گا۔ ان کا نور چودھویں رات کے چاند کی مانند ہو گا۔ پس کہا جائے گا: اُمّی نبی! اس کو ہر نبی تلاش کرے گا۔ پس کہا جائے گا: محمد ﷺ اور آپ کی اُمت ہے۔ پھر تیسرا گروہ اٹھے گا جو کناروں کے درمیان کو بھر دے گا ان کا نور آسمان میں ستارے کی مانند ہو گا۔ پس کہا جائے گا: اُمّی نبی! پس اسے ہر نبی تلاش کرے گا پس کہا جائے گا: محمد ﷺ اور آپ کی اُمت۔ پس وہ کہے گا: اے محمد! یہ آپ کیلئے ہے اور اے محمد! یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے پھر میزان رکھ کر حساب لیا جائے گا۔

معاویہ بن یحییٰ صدیقی، حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کسی آدمی کے ہاتھ پر اسلام لائے وہ اس کا غلام ہے۔

الْأَفُقُ، نُورُهُمْ كَالشَّمْسِ فَيَقَالُ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيٍّ فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، ثُمَّ تَقُومُ ثَلَاثَةُ أُخْرَى تَسُدُّ مَا بَيْنَ الْأَفُقِ، نُورُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَيَقَالُ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيٍّ، فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، ثُمَّ تَقُومُ ثَلَاثَةُ أُخْرَى تَسُدُّ مَا بَيْنَ الْأَفُقِ نُورُهُمْ مِثْلُ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ، فَيَقَالُ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيٍّ، فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، ثُمَّ يَخْبِي خَيْتَيْنِ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَهَذَا مِنِّي لَكَ يَا مُحَمَّدُ، ثُمَّ يَوْضَعُ الْمِيزَانَ، وَيُؤْخَذُ فِي الْحِسَابِ

مَعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى

الصَّدْفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7683- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ

السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاةٌ

مَعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدْفِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ

سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7684- حَدَّثَنَا مُطْلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ
الْأَزْدِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ،
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا
وَلَا ذَهَبًا

7685- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ
الدِّمَشْقِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ لَهْيَعَةَ،
عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا

7686- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ،

سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دِمَشْقِي، حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان
رکھتا ہے وہ ریشم اور سونا نہ پہنے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان
رکھتا ہے وہ ریشم اور سونا نہ پہنے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان

7684- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 261 والحاکم جلد 4 صفحہ 191 وصححه ووافقه الذهبي وقال المنذرى فى الترغيب

جلد 4 صفحہ 168 رواه أحمد نفقات .

7685- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 261 .

7686- ورواہ الحاكم جلد 4 صفحہ 191 .

رکھتا ہے وہ ریشم اور سونانہ پہنے۔

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک جنازہ پڑھایا وہاں سات آدمی تھے آپ نے تین صفیں بنائیں دو دو کی۔

7687- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، وَمَعَهُ سَبْعَةُ نَفَرٍ، فَجَعَلَ ثَلَاثَةَ صَفًّا، وَالثَّنِينَ صَفًّا، وَالثَّنِينَ صَفًّا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے حضور ﷺ کے ساتھ حج کیا حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر آپ نے بہت زیادہ اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں ان میں یہ ہے کہ جو اہل کتاب سے اسلام لائے اس کے لیے دو گنا ثواب ہے اس کی مثال اور ہماری اور جو ہم پر اسلام لائیں مشرکوں میں اسلام لائے اس کے لیے ایک وہی ثواب ہے جو ہمارے لیے ثواب ہے اور اس کے لیے وہی گناہ ہے جو ہمارے لیے گناہ ہے۔

7688- حَدَّثَنَا مُطَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ قَوْلًا كَثِيرًا حَسَنًا جَمِيلًا، ثُمَّ كَانَ فِيمَا قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَهُ أَجْرُهُ

7687- قال في المعجم جلد 3 صفحہ 32 وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . قلت وله شاهد من حديث مالك بن هبيرة .

7688- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 259 قال في المعجم جلد 1 صفحہ 93 وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وقد ضعفه أحمد

وغيره . قلت: في اسناد عبد الله بن صالح كاتب الليث . وهو ضعيف .

وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا

ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

ثور بن یزید قاسم سے وہ حضرت
ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

7689- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْفَرَّابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ
الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاحِبُ
الْيَمِينِ أَمِينٌ عَلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِذَا عَمِلَ
حَسَنَةً أَتَتْهَا، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً قَالَ لَهُ صَاحِبُ
الْيَمِينِ: أَمْكُتْ سِتَّ سَاعَاتٍ، فَإِنْ اسْتَغْفَرَ لَمْ
يَكُتَبْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا أَتَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: دائیں طرف والے بائیں طرف
والوں کے امین ہیں اگر نیک عمل کرے تو وہ لکھتا ہے اور
جب بُرا عمل کرے تو اسے دائیں طرف والا کہتا ہے: چھ
گھنٹیاں رک جا! پس اگر وہ استغفار کرے تو وہ فرشتہ نہیں
لکھتا ورنہ وہ ایک بُرائی لکھتا ہے۔

ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ،

عَنِ الْقَاسِمِ

ثابت بن عجلان، حضرت قاسم سے
روایت کرتے ہیں

7690- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمَصِيُّ، ثنا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عز و جل فرماتا ہے: اے انسان!
جب میں تجھ سے تیری دو پیاری چیزیں (آنکھیں) لے

7689- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 468. وانظر تعليقا على مسند الشاميين.

7690- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 258-259 قال في المعجم جلد 2 صفحہ 208 وفي اسماعيل بن عياش وفيه كلام. قلت

وتابعه سويد بن عبد العزيز وهو ليس الحديث. انظر ما بعده. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 2277 ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1597 والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 535 قال في

الزوائد: اسناد حديث أبي امامة صحيح ورجاله ثقات. واسماعيل رواه عن الشاميين صحيحة وهذا منها.

لوں اور توبہ کرے اور یہ پہلی مصیبت کے وقت ہوتا ہے تو
میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ابْنُ
آدَمَ، إِذَا أَخَذْتُ مِنْكَ كَرِيمَتِكَ فَصَبَرْتَ،
وَاخْتَسَبْتَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ
ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جس آدمی کی
دو بیماری چیزیں میں لے لوں تو میں اس کیلئے جنت سے کم
ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔

7691- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ
كَرِيمَتِهِ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب سورج اپنے مطلع سے طلوع ہو
اور اس کی شکل عصر کی نماز کیلئے سورج کی شکل کی طرح
ہو جب وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو جس آدمی نے دو
رکعتیں چار سجدوں کے ساتھ پڑھیں تو اس کیلئے اس دن کا
ثواب لکھا جائے گا اور میرا یہ بھی گمان ہے کہ فرمایا: اگر وہ
اس دن فوت ہو جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔

7692- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ
الصَّوَّافِ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
قَالَا: ثنا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا
كَهَيَاتِهَا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ تَغْرُبُ مِنْ مَغْرِبِهَا،

7692- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 237 وفيه ميمون بن زيد قال الذهبي: لينة أبو حاتم. وذكره ابن حبان في الثقات

وقال: يخطئ وبقية رجاله موثقون الا أن فيهم ليث ابن أبي سليم وفيه كلام. ورواه المصنف في مسند الشاميين

رقم الحديث: 2279. فالحديث ضعيف.

فَصَلَّى رَجُلٌ رَكَعَتَيْنِ بَارِعِ سَجْدَاتٍ كُتِبَ لَهُ
أَجْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَحَسِبْتُهُ قَالَ: وَكَفَّرَ عَنْهُ
خَطِيئَتَهُ وَإِثْمَهُ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَإِنْ مَاتَ مِنْ
يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
حضور ﷺ کے پاس تھے آپ نے بہت زیادہ دعا کی
ہمیں یاد نہیں ہے پھر فرمایا: میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو
ہر چیز کو جمع کر دے یہ دعا کرو: ”اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِمَا
سَأَلْتَ اِلٰى آخِرِهِ“۔

7693- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَا: ثنا
الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَادٍ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ، قَالَا: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ ثَابِتِ
بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَدَعَا بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَا نَحْفَظُهُ، ثُمَّ قَالَ:
سَأْتُكُمْ بِشَيْءٍ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ تَقُولُونَ:
اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَنَسْتَعِيدُكَ بِمَا اسْتَعَاذَ بِهِ
نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَنْتَ
الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

7694- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَادٍ

7693- قال في المجموع جلد 10 صفحہ 180 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم

الحديث: 2278. وهو حديث ضعيف.

7694- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 41 جلد 4 صفحہ 40 فيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله

ثقات. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 2280.

حضور ﷺ کے ساتھ ایک جہاد میں تھے آپ نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا اس نے نداء دی کہ جو کمزور ہے وہ واپس چلا جائے۔ لوگ واپس جانے لگے یہاں تک کہ راستہ تنگ ہو گیا ایک آدمی کو اس کی اونٹنی نے اس طرح گرایا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ پس رسول کریم ﷺ نے اسے دیکھا تو مسلمانوں کو نداء دی۔ پس لوگ آپ کے پاس آئے رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارا کیا کام ہے اور تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! فلاں آدمی راستہ کی تنگ جگہ میں آیا اور اس کی اونٹنی نے اس کو گرا کر مار دیا۔ راوی کا بیان ہے: پس لوگوں نے آپ ﷺ کو اس پر نماز پڑھنے کی دعوت دی تو آپ نے انکار کیا اور منادی کو حکم دیا اس نے نداء کی: بے شک جنت عاصی کیلئے حلال نہیں ہے۔

خبردار! پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے ہر وہ جو کچلیوں والا ہو یا فرمایا: جو بچے سے شکار ہو۔

حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: ایک غزوہ میں ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی کمزور ہے اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ پس لوگوں نے واپس جانا شروع کیا تو راستہ تنگ ہو گیا۔ پس ایک آدمی کو لے کر اس کا اونٹ کھڑا ہوا (اور وہ

الدَّورْقِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يَحْدِثُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَأَمَرَ الْمُنَادِي، فَنَادَى: مَنْ كَانَ مُضْطَعًّا، فَلْيَرْجِعْ. فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَجِعُونَ حَتَّى بَلَّغُوا مَضِيقًا مِنَ الطَّرِيقِ، فَوَقَصَتْ بَرَجْلٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى بِالْمُسْلِمِينَ فَاتَاهُ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُكُمْ، وَمَا حَبَسَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَانِ اتَى الْمَضِيقَ مِنَ الطَّرِيقِ، فَوَقَصَتْ رَاحِلَتُهُ فَقَتَلَتْهُ. قَالَ: فَدَعَوْهُ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَبَى، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى: إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ

7695- أَلَا وَإِنَّ الْحُمْرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ،

وَكُلُّ سَبْعٍ ذِي نَابٍ أَوْ قَالَ ذِي ظُفْرِ

7696- حَدَّثَنَا بُجَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ

جَابِرِ الْمُحَارِبِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ

عَلِيٍّ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ

ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مر گیا)۔ پس نبی کریم ﷺ کو اس کے پاس لایا گیا، پس جب کسی نے اس کے بارے میں خبر دی تو آپ ﷺ نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد دی، انہوں نے عرض کی: حاضر ہوں! اے اللہ کے رسول! تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نداء کرو کہ عاصی کیلئے جنت حلال نہیں ہے۔

اور بے شک پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے اور بچے سے شکار کرنے والے یا کچلیوں والے درندوں کا گوشت حرام ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس بندہ پر اللہ کا انعام ہو وہ اس پر اللہ کی حمد کرے تو حمد کا ثواب نعمت سے بڑا ہوگا، اگرچہ نعمت بڑی ہو۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مُضَعَّفًا فَلْيَبْرِجْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَجِعُونَ، فَتَضَائِقُ الطَّرِيقِ، فَوَقَفَ بِرَجُلٍ يَبْعِرُهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَخْبَرَ عَنْهُ، أَبِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَادِ بِهَا، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ

7697- وَإِنَّ الْحُمْرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ، وَكُلُّ سَبْعٍ ذِي ظَفَرٍ أَوْ ذِي نَابٍ

7698- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغْلَبِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتْوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا سُلَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَصِيُّ، قَالَ: ثنا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلَ مِنْ بَلَدِكَ الْبَيْعَةِ، وَإِنْ عَظُمَتْ

الْعَبَّاسُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَبَّاسُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَضْرَتُ قَاسِمٍ سَ

عَنْ الْقَاسِمِ

7699- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ

يَحْيَى بْنِ حَمَزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
أَبِيهِ، ثنا حَدَّادُ الْعُدْرِيُّ، مَعَ ابْنِ جَابِرٍ، عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ مِمْوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
هَالَكَ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَيَجْلُ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ،
وَجَبْنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيَكْثِرْ أَنْ يَقُولَ:
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ
جَبَلٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُنْفَقَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ الْقَاسِمِ

7700- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ
الشَّامُ، وَفِيهَا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ،
وَلَيْدُ خَلَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِي ثَلَاثَةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس آدمی کو رات جگر کاوی سے
ڈرائے مال خرچ کرنے سے بخل کرے اور دشمن سے
مقابلے کے وقت اس پر بزدلی کی کیفیت طاری ہو جائے تو
اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے
کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے اور چاندی کے ان
پہاڑوں سے بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے
ہیں۔

عبد العزیز بن عبد اللہ حضرت قاسم

سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: ملک شام میں اللہ کی رحمت ہے اس
کی مخلوق اور بندوں پر بھی رحمت ہے میری امت کے لوگ
جنت میں داخل ہوں گے ضرور بضرور بغیر حساب و کتاب
کے۔

7700- قال في المعجم جلد 10 صفحہ 59؛ وفيه عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي وهو ضعيف. ورواه ابن عساكر في

تاريخ دمشق جلد 107 من طريق المصنف ورواه المصنف أيضا في مسند الشاميين رقم الحديث: 1341

بهذا الاسناد واللفظ .

وَلَا عَذَابَ

عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنِ الْقَاسِمِ

عتبہ بن عبد الرحمن، حضرت قاسم سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام نے ملک شام کا ذکر کیا، ان میں سے کچھ نے روم کا ذکر کیا، حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب روم والے شام والوں پر غالب آئیں گے، ان کو سمندر میں ایک قلعہ ملے گا، جس کا نام افق ہے، اُس سے قیامت کے دن اللہ عزوجل بارہ ہزار شہداء اٹھائے گا۔

7701- حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ

الْخَوْلَانِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَلَّالُ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ الْأَوْزَاعِيَّ، وَأَنَا جَالِسٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا الشَّامَ، وَمَنْ فِيهَا مِنَ الرُّومِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتُغْلِبُونَ عَلَى الشَّامِ، وَتُصِيرُوا عَلَى بَحْرِهَا حِصْنًا يُقَالُ لَهُ أَنْفَةُ، يَبْعَثُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ شَهِيدٍ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ

بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، حضرت
قاسم سے روایت کرتے ہیں

7702- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

مَذْرُكٍ الْقَصْرِيُّ، بِقَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو خَلِيدٍ عُتْبَةُ بْنُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس میں امانت نہیں اُس کا ایمان نہیں، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!

7701- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 62 وفيه من لم اعرفه .

7702- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 96 وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف عند الأكثرين . ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 171 موطوياً وانظر تعليقنا عليه .

تم جنت میں بغیر ایمان کے داخل نہیں ہو سکتے ہو۔

حَمَّادٌ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر والے سال جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو اعلان کیا گیا کہ ہر پھاڑنے والے جانور اور پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے۔

7703- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مُدْرِكٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو خَلِيدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: نُودِيَ فِينَا عَامَ خَيْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ، وَالْحُمْرُ الْأَهْلِيَّةُ حَرَامٌ

اور یقیناً جنت نافرمان کے لیے جائز نہیں۔

7704- وَأَنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو رات کو جگر کاوی کرنے سے ڈرے مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے جہاد کرنے سے بزدلی دکھائے اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ و بھمہ کا ورد کرے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سونے کا پہاڑ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

7705- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مُدْرِكٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، أَوْ بَخَلَ بِأَمْوَالٍ أَنْ يُنْفِقَهُ، أَوْ جَبَنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيَكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ جَبَلٍ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ

7703- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 173.

7705- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 94 وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وثقه عبدان وضعفه الجمهور والغالب على

بقية رجاله التوثيق. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 174 راجع تعليقنا عليه هناك.

اللہ عزَّ وَجَلَّ

ثَابِتُ بْنُ ثَوْبَانَ،

عَنِ الْقَاسِمِ

ثابت بن ثوبان، حضرت قاسم سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہام صفرِ عدویٰ اور دو ماہ مکمل تئیں دن کے نہیں ہوتے ہیں۔

7706- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسٍ بْنُ

مَالِكِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزَّالِيُّ الْجَرَّاشِيُّ، ثنا أَبُو خَلِيدٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا هَامَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا عَدَوَى، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَانِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا

علی بن یزید جن کی کنیت ابو عبد الملک

دمشقی ہے یہ حضرت قاسم یحییٰ بن

حارث ذماری سے وہ حضرت علی بن

یزید سے وہ حضرت قاسم سے روایت

کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ

الْمَلِكِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ

الْقَاسِمِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ

الدِّمَارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ

7707- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

7706- قال في المجمع جلد 5 صفحہ 102، وفيه عمرو بن محمد الغزالي ولم أعرفه وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقي رجاله ثقات. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 214 فرامعه.

7707- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 114، رواه الطبراني في الأوسط (440 مجمع البحرين) والكبير وفيه علي بن يزید الألہانی وهو ضعيف. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 897.

حضور ﷺ نے فرمایا: صبح کے وقت یہ دعا کرو: "اللّٰهُمَّ
لك الحمد الى آخره" تین دفعہ پڑھی اگر اس دن وہ
مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا اگر شام کو تین دفعہ پڑھی اور
اس شام کو مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا پھر حضور ﷺ نے
اس پر قسم اٹھائی حالانکہ آپ نے اس کے علاوہ یہ قسم نہیں
اٹھائی فرمایا: اللہ کی قسم! جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ
پڑھا اگر اس دن مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا اگر شام کو
تین دفعہ پڑھا اور اس دن مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا۔

الدِّمَاطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبِّي وَأَنَا
عَبْدُكَ، آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَكَ دِينِي،
أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،
أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سَيِّئِ عَمَلِي، وَأَسْتَغْفِرُكَ
لِذُنُوبِي الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ مَاتَ فِي
ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَ حِينَ يُمَسِّي
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَكَ
دِينِي، أَمْسَيْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سَيِّئِ عَمَلِي،
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ،
فَمَاتَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ: ثُمَّ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ
مَا لَا يَخْلِفُ عَلَى غَيْرِهِ يَقُولُ: وَاللَّهِ، مَا قَالَهَا
عَبْدٌ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَمُوتُ فِي
ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ
يُمَسِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَاتَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا
دَخَلَ الْجَنَّةَ

علی بن یزید عن القاسم عن علی بن یزید عن القاسم

فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ

7708- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَّاطِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْبَحْمَانِيُّ، قَالُوا: ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَهَدَى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحَقِ الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِيرِ، وَالْأَوْتَانِ، وَالصُّلْبِ، وَأَمَرَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَخَلَفَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِهِ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ مُتَعَمِّدًا إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا. وَلَا يَسْقِيهَا صَبِيًّا صَغِيرًا مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا، وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

7709- وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغْنِيَّاتِ وَلَا

فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَلِيٌّ بْنُ يَزِيدَ سَعْدٍ وَهُوَ قَاسِمٌ سَعْدٍ رَوَايَتُكَ هِيَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور تمام والوں کے لیے ہدایت، میرے رب نے مجھے سرنگیوں گانے بتوں کی عبادت اور صلیب لٹکانا اور جاہلیت والے کام کرنے سے منع کیا، میرے رب کی عزت کی قسم! جو کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی جان بوجھ کر پیتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اسی طرح پیپ پلائی جائے گی، خواہ بخشا ہوا ہو یا عذاب دیا گیا جو کوئی اللہ کے ڈر سے شراب پینے کو ترک کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے قدس کے حوضوں سے پلائے گا۔

فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ

گانے والیوں کی خرید و فروخت اور ان میں تجارت

شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَإِنَّمَا هُنَّ حَرَامٌ

کرنہ حرام ہے۔

عَبِيدُ بْنُ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ

بْنِ يَزِيدَ مُطَّرَحُ بْنُ يَزِيدَ

أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ

عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ

عبید بن زحر، علی بن یزید مطرح

بن یزید ابو مہلب سے وہ

عبید اللہ بن زحر سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ نے مجھے ہدایت اور تمام عالمین

کیلئے رحمت بنا کر بھیجا اور میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ

مزامیر معازف اور بت توڑ دوں اللہ کو چھوڑ کر جن کی

عبادت کی جاتی ہے میرے رب نے اپنی عزت کی قسم

فرمائی، میرے بندوں میں سے جو بھی میرا بندہ شراب پئے

گا تو میں اسے (جہنم کا) گرم پلاؤں گا (اس کے بعد) یا

میں اسے معاف کروں یا عذاب دوں۔ میرے رب نے

قسم فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی خواہ وہ

غیر عاقل بچہ ہی کیوں نہ ہو میں اسے گرم پانی پلاؤں گا

(اس کے بعد) خواہ میں اسے معاف کروں یا عذاب دوں

اور میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرے رب

سے میرے بندوں میں سے جو بندہ اسے چھوڑے گا تو میں

اسے ”حضیرۃ القدس“ میں پلاؤں گا۔

7710- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ

الْمُؤَدَّبُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ

الذَّبَّاعُ، ثنا الْمُشْتَمَلُ بْنُ مِلْحَانَ، عَنْ مُطَّرِحِ

بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: بَعَثَنِي اللَّهُ هَذِي وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،

وَأَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَذِقَ الْمَزَامِيرَ، وَالْمَعَازِفَ،

وَالْأَوْتَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ،

وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ عَبْدٌ مِنْ

عِبِيدِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنَ الْحَمِيمِ، فَإِمَّا أَغْفِرُ

لَهُ، وَإِمَّا أُعَذِّبُهُ، وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَسْقِي

عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِي صَبِيًّا لَا يَقْلُهُ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ

مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِيمِ، إِمَّا أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ

أُعَذِّبَهُ، وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَتْرُكُهُ عَبْدٌ مِنْ

عِبِيدِي مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهُ فِي حَضِيرَةٍ

الْقُدْسِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گانے والیوں کی خرید و فروخت اور ان میں تجارت کرنا حرام ہے اور ان کی ٹخنیں بھی حرام ہیں اور ان سے استمتاع بھی حرام ہے۔

7711- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو
الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا مُطَرِّحُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ،
وَلَا يَسْرَاؤُهُنَّ، وَلَا التَّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَأَثَمَانُهُنَّ
حَرَامٌ، وَالْإِسْتِمْتَاعُ إِلَيْهِنَّ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس سے جہنم کو ایک ہزار سال کی مسافت جتنا دور کر دے گا، جس پر عمدہ سدھائے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کیا جائے۔

7712- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ
مِهْرَانَ، عَنْ مُطَرِّحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَيْرٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ
يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ
مِيسِرَةَ مِائَةِ عَامٍ، وَكُفَّضَ الْفَرَسَ الْجَوَادَ
الْمُضْمِرَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس دین والوں پر عروج بھی آئے گا اور پھر زوال کا شکار بھی ہوں گے، خبردار! اس دین کا

7713- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ
الْمُؤَدَّبُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعُ، ثنا
الْمُشْمَعْلُ بْنُ مِلْحَانَ، عَنْ مُطَرِّحِ بْنِ يَزِيدَ،

7711- وقال في المجمع جلد 8 صفحہ 122 'وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف .

7712- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9683 . قال في المجمع جلد 3 صفحہ 194 'وفيه مطرح وهو ضعيف .

7713- قال في المجمع جلد 7 صفحہ 262، 271 'وفيه على بن يزيد وهو متروك . قلت: علمت حال غيره من رجال الاسناد آنفا .

عروج یہ ہے کہ ہر قبیلہ سارے کا سارا فقہ حاصل کرے حتیٰ کہ صرف ایک فاسق باقی رہ جائے اور دو فاسق اس میں ذلیل ہوں اگر وہ دونوں کلام کریں اور ان پر ظلم کیا جائے اور بے شک اس دین کا زوال یہ ہے کہ سارا کا سارا قبیلہ جفا کرے۔ صرف ایک فقیہ یا دو فقیہ رہ جائیں اور وہ ذلت کا شکار ہوں اگر وہ قاہرانہ گفتگو کریں اور ان پر ظلم کیا جائے حال یہ ہو کہ بعد میں آنے والے امتی پہلے امتیوں پر لعن طعن کریں۔ خبردار! ان (بعد والوں) پر لعنت حلال ہوگی یہاں تک کہ وہ علانیہ شراب پیئیں یہاں تک کہ عورت گروہ کے پاس سے گزرے گی تو ان میں سے کوئی اٹھ کر اس کے پیچھے جائے گا اور اس کے پلو کو اٹھائے گا جیسے بھری کی دُم اٹھائی جاتی ہے۔ پس ایک کہنے والا اس دن کہے گا: ارے اس کو دیوار کے پیچھے لے جا کر چھپا! اس وقت اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو ان میں اس کا مقام ایسے ہوگا جیسے آج تم میں ابو بکر و عمر کا مقام ہے پس اس وقت جو نیکی کا حکم دے گا اور بُرائی سے منع کرے گا تو اسے پچاس صحاب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان لائے اور میری اطاعت و پیروی کی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کھڑے ہوئے نماز شروع کرنے لگے ایک تھوک قبلہ کی جانب دیکھا آپ نے نعلین مبارک اتارے پھر چلے اس کو صاف کیا ایسا تین دفعہ کیا جب نماز مکمل کر

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذَا الدِّينِ إِقْبَالَ وَإِذْبَارًا، أَلَا وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ أَنْ تَفْقَهُ الْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الْفَاسِقُ، وَالْفَاسِقَانِ ذَلِيلَانِ فِيهَا، إِنْ تَكَلَّمَا قَهْرًا وَاضْطِهَدَا، وَإِنَّ مِنْ إِذْبَارِ هَذَا الدِّينِ، أَنْ تَجْفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ، فَهَمَا ذَلِيلَانِ إِنْ تَكَلَّمَا قَهْرًا وَاضْطِهَدَا، وَيَلْعَنُ آخِرُ الْأَمَةِ أَوْلَهَا، أَلَا وَعَلَيْهِمْ حَلَّتِ اللَّعْنَةُ حَتَّى يَشْرَبُوا الْخَمْرَ وَعَلَانِيَةً حَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بِالْقَوْمِ، فَيَقُومُ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ، فَيَرْفَعُ بِذَيْلِهَا كَمَا يَرْفَعُ بِذَنْبِ النَّعْجَةِ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: يَوْمَئِذٍ أَلَا وَارِ مِنْهَا وَرَاءَ الْحَائِطِ، فَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فِيكُمْ، فَمَنْ أَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِثْقَلِ رَأْيِي، وَآمَنَ بِي وَأَطَاعَنِي وَتَابَعَنِي

7714- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُطَرِّحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7714- قال في المعجم جلد 2 صفحہ 19 رواه الطبرانی من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف .

وعلمت حال مطرح وهو أيضا ضعيف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لی تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا: اے لوگو! جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ رب عظیم کے سامنے بڑے مقام پر ہوتا ہے تو وہ امر عظیم کا سوال کرتا ہے یعنی جنت کی کامیابی اور جہنم سے پناہ جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں جانب اس کے فرشتے ہوتے ہیں تم میں سے کوئی دائیں طرف اور سامنے کی جانب نہ تھو کے بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھو کے پھر سختی سے اسے رگڑ دے کیونکہ اس طرح گویا وہ شیطان کے کان رگڑتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے! جب تمہارے اور اس کے درمیان سے پردے ہٹ جائیں یا کلام کی اجازت مل جائے تو وہ اس چیز کی شکایت کرے اس سے جو اسے ملتا ہے۔

قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَامْتَفَتَحَ الصَّلَاةَ، فَرَأَى نُخَاعَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَخَلَعَ نَعْلَهُ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهَا فَحَثَّهَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يُوجِّهُهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ فِي مَقَامٍ عَظِيمٍ بَيْنَ يَدَيِ رَبِّ عَظِيمٍ يَسْأَلُ أَمْرًا عَظِيمًا الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ وَمَلِكُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَرِيبُهُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يَفْلَنُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ لِيَعْرُكَ فَلْيَشْدِدْ عَرَكَهُ، فَإِنَّمَا يَعْرُكَ أَذْنِي الشَّيْطَانِ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِذَا تَكَشَّفَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ الْحُجُبُ، أَوْ يُؤْذَنُ فِي الْكَلَامِ شَكَا مِمَّا يَلْقَى مِنْ ذَلِكَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں

7715- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلَوَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ

7715- ورواه في الصغير جلد 2 صفحہ 59 والأوسط (358 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 9 صفحہ 299 ورجال

الصغير ثقات. قلت: ان سند الصغير والأوسط واحد وفيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف لتدليس. ورواه أحمد

جلد 5 صفحہ 259 في حديث طويل قال في المجمع جلد 9 صفحہ 59 وجلد 10 صفحہ 262 مطرح بن يزيد وعلى

بن يزيد الألهاني مجمع على ضعفهما. وسند الكبير فيه عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد. ولكن للحديث

نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی میں نے کہا: یہ کون ہے؟ عرض کی: حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔

عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُدْخِلُ الْجَنَّةَ، فَمَسِمْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: بِلَالٌ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! تم علماء کی محفلوں میں بیٹھو اور حکماء کی باتیں سنو اللہ عزوجل تمہارے دل کو حکمت کے نور سے زندہ کر دے گا جس طرح زمین کو بارش کے قطروں سے زندہ کرتا ہے۔

7716- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَاطِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِقَمَانَ قَالَ لِأَبْنَيْهِ: يَا بَنِيَّ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ، وَاسْتَمِعْ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ

7717- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَاطِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبَّاسٍ، ثنا أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَا دَنَوْتُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ تَطَوُّعٍ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهِمْ لَاءِ الْكَلِمَاتِ الدَّعَوَاتِ، لَا يَزِيدُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ، اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي، وَاجْبِرْنِي، وَاهْدِنِي

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے آقا ﷺ کو فرض یا نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ سے سنا کہ آپ کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ الْآخِرَةَ“۔

لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي
لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

7718- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ

الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو عَسَانَ مَالِكُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ مُطَرِّحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
رَحِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ
تُرَافِثُ الرِّجَالَ، وَكَانَتْ بَذِينَةً، فَمَرَّتْ بِالنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ ثَرِيدًا عَلَى
طَرَبَانٍ، قَالَتْ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَجْلِسُ كَمَا
يَجْلِسُ الْعَبْدُ، وَيَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ
مِنِي. قَالَتْ: وَيَأْكُلُ وَلَا يُطْعَمُنِي. قَالَ:
فَكُلِّي. قَالَتْ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهَا قَالَتْ:
أَطْعَمْنِي مِمَّا فِي فَيْكِ فَأَعْطَاهَا، فَأَكَلَتْ،
فَغَلَبَهَا الْحَيَاءُ، فَلَمْ تُرَافِثْ أَحَدًا حَتَّى مَاتَتْ

7719- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ
بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے
ہیں کہ ایک عورت تھی جو مردوں کے ساتھ مذاق سے پیش
آتی بداخلاق تھی اور فحش کلام کرتی تھی، پس ایک دن وہ نبی
کریم ﷺ کے پاس سے گزری جبکہ آپ صاف ستھرا
ثرید تناول فرما رہے تھے۔ اس نے کہا: اس آدمی کی طرف
دیکھو! ایسے بیٹھتا ہے جیسے عام بندے بیٹھتے ہیں اور ایسے
کھاتا ہے جیسے عام بندے کھاتے ہیں۔ پس نبی
کریم ﷺ نے فرمایا: مجھ سے زیادہ اللہ کا عاجز بندہ کون
ہے؟ اس نے کہا: خود تو کھاتا ہے لیکن مجھے نہیں کھاتا ہے۔
آپ ﷺ نے فرمایا: تو بھی کھا۔ اس نے کہا: مجھے اپنے
ہاتھ والا قمیہ عنایت فرمائیں! آپ نے اسے دے دیا اس
نے پھر کہا: اب مجھے کھانے کیلئے وہ دیں جو آپ کے منہ
میں ہے۔ پس آپ نے وہ بھی دے دیا۔ پس اس نے کھایا
تو اس پر حیاء و شرم غالب آگئی اس کے بعد اس نے کسی
مرد (یا عورت سے بھی) مذاق نہیں کیا یہاں تک کہ اس پر
موت آگئی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے حورالعین کو زعفران
سے پیدا کیا۔

7718- قال في المعجم جلد 9 صفحہ 21 واسناده ضعيف .

7719- قال في المعجم جلد 10 صفحہ 419 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (479 مجمع البحرين) وفي اسنادهما

ضعفاء . قلت : هم يحيى الحماني ومن تقدم حالهم وعبد السلام بن حرب له اوهام .

زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللَّهُ الْخُورَ الْعَيْنَ مِنَ الزَّعْفَرَانِ

7720- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

أَبُو عَسَّانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَأَ

بِالسَّلَامِ، فَهُوَ أَوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، ثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُطَرِّحٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

7721- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، بِنِ

أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو سلام کرنے میں ابتداء کرتا ہے وہ
اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے اس کی
مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ نے مجھے دوست بنایا جس طرح
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، میرے دوست
حضرت ابوبکر ہیں۔

7722- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّجٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَغْصَمِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغُرَابُ الْأَغْصَمُ؟ قَالَ: الَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ بِنِضَاءٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورتوں میں نیک عورت کی مثال اعصم کوئے کی طرح ہے عرض کی: یا رسول اللہ! اعصم کوئے سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کے دونوں پاؤں میں سے ایک سفید ہو۔

7723- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ خَلْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّجٍ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّائِحَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى طَرِيقِ بَيْنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، سَرَابِيلُهَا مِنْ قَطْرَانٍ، وَتَغْشَى وَجْهَهَا النَّارُ، إِذَا لَمْ تَتُبْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نوحہ کرنے والی قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے درمیان والے راستہ میں ہوگی، اسے تارکول کی شلوار پہنائی جائے گی، اس کے چہرے کو جہنم ڈھانپ لے گی، اگر اس نے توبہ کی تو۔

7724- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ خَلْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّجٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی عزت نہ کرنے والا منافق ہوتا ہے: (۱) اسلام میں بزرگی پانے والے کی

7722- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 273 وفيه مطروح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه . قلت وعلى بن يزيد مثله .

7723- قال في المجمع جلد 3 صفحہ 14 وفيه عبید اللہ بن زحر وهو ضعيف . قلت: ومطروح بن يزيد وعلى بن يزيد كذلك .

7724- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 127 رواه الطبرانی في الكبير من رواية عبید اللہ بن زحر عن علی بن يزيد وكلاهما ضعيف . قلت: ومطروح مثلهما .

(۲) علماء کی (۳) عادل بادشاہ کی۔

بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا
يَسْتَحِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ: ذُو الشَّيْبَةِ فِي
الْإِسْلَامِ، وَذُو الْعِلْمِ، وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ

یحییٰ بن ایوب مصری، عبید اللہ بن زحر
سے، وہ علی بن یزید سے، وہ قاسم سے
وہ حضرت ابوامامہ الباہلی سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس
تھے ایک لونڈی آپ کے پاس شریڈ لے کر آئی اس نے کہا:
اے میری سردار! یہ کھاؤ! مجھے اس کی خوشبو اچھی لگی کہا: مجھ
سے دور ہو! اس پر اس نے قسم اٹھالی کہا: مجھ سے دور ہو!
حضور ﷺ نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا:
اگر تو نے قسم توڑی تو تجھ پر گناہ ہوگا۔

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

7725- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَفِيُّ

الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا
عِنْدَ عَائِشَةَ، فَجَاءَهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَوْ مَوْلَاةٌ
بَغْرِبْدَةٍ، فَقَالَتْ: كَلِّسِي هَذِهِ يَا سَيِّدَتِي، فَقَدْ
أَغْجَبَنِي طِبُّهَا، فَقَالَتْ: أَخْرِبِهَا عَنِّي،
فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَخْرِبِهَا عَنِّي، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ
أَحْبَبْتِهَا كَانَ عَلَيْكَ إِثْمُهَا

7725- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 183 وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم. قلت هذا يخالف ما تقدم منه

من انه مجمع على ضعفه. وفيه أيضا عبید اللہ بن زحر وهو مثله في الضعف.

7726- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافِ

الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَا يَمْسُحُهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرْنَيْنِ إِبْصَعَيْهِ

7727- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ضَحًى، فَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، اسْقِنَا ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا سَمْنًا وَكَبْنًا وَشَحْمًا وَلَحْمًا. وَمَا يُرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَشَارَتْ رِيحٌ وَغَبَسَرَةٌ، ثُمَّ اجْتَمَعَ سَحَابٌ، فَصَبَّتِ السَّمَاءُ، وَصَاحَ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ وَتَفَارَوْا إِلَى سَقَائِفِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَى بُيُوتِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جو بال آئے ان کے بدلے ثواب ملے گا جس نے اپنے پاس رہنے والے یتیم سے اچھا سلوک کیا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو گا آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مسجد میں نماز چاشت کے وقت کھڑے ہوئے آپ نے تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر یہ دعا کی: ”اللّٰهُمَّ اسْقِنَا الی آخرہ“ آسمان میں رانی کے دانہ کے برابر بھی بادل نہیں تھے، ہوا دار غبار آیا پھر بادل اکٹھے ہوئے بارش برسی بازار والے چیخ و پکار کر کے مسجد کے چیمبروں اور اپنے گھروں کی طرف بھاگے رسول اللہ ﷺ کھڑے تھے راستے پانی سے بھر گئے ہم نے بارش کے قطرے رسول اللہ ﷺ کے دونوں کندھوں پر زلفوں کے درمیان دیکھے اس طرح جیسے موتی چمک رہے ہوں۔ رسول اللہ ﷺ چلے میں بھی آپ کے ساتھ ہوا آپ اپنی چال کے مطابق چل رہے تھے آپ فرما رہے تھے: یہ تمہارے رب نے سب

7726- قال فی المجموع جلد 8 صفحہ 160 رواہ أحمد جلد 5 صفحہ 250، 265 والطبرانی وفيه على بن يزيد الألهاني وهو

ضعيف. قلت: وفيه عبيد الله بن زحر وهو مثله.

7727- قال فی المجموع جلد 2 صفحہ 214 وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف.

کچھ کیا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس سال گھی دودھ چربی اور گوشت بہت زیادہ دیکھا راستوں میں اس کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔

قَائِمٌ، فَسَالَتْ الطُّرُقُ، وَرَأَيْنَا ذَلِكَ الْمَطَرَ عَلَى أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى كَيْفِيهِ وَمَنْكِبَيْهِ كَأَنَّهُ الْجُمَانُ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْصَرَفَتْ أَمْشَى عَلَى مِشْيَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَحَدُ ثُكُمِ بَرِّيَّةٍ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: مَا رَأَيْتُ عَامًا أَكْثَرَ سَمْنًا وَلَبَنًا وَشَحْمًا وَلَحْمًا إِنَّ هَؤُلَاءِ فِي الطُّرُقِ مَا يَكَادُ يَشْتَرِيهِ أَحَدٌ

پھر آپ مردوں کی طرف گئے آپ نے ان کو منع کیا اور نصیحت کی پھر عورتوں کی طرف گئے ان کو وعظ کیا ریشم اور سونے کے متعلق سختی کی کہ ان کی زکوٰۃ دو۔ بنو عامر کا ایک آدمی آیا اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے ہم پر ریشم اور سونا پہننے میں سختی کی وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اگر میں چیتے کے چمڑے کی چھڑی بنا لوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور تکبر حق کو حقیر جانتا ہے اور لوگوں کو اپنی آنکھوں سے حقیر جانتا۔

7728- ثُمَّ انْصَرَفَ نَحْوَ الرِّجَالِ فَنَهَاهُمْ وَوَعَّظَهُمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ نَحْوَ النِّسَاءِ، فَوَعَّظَهُنَّ وَشَدَّ عَلَيْنَهُنَّ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَّغْنَا أَنَّكَ شَدَدْتَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لِأُحِبُّ الْجَمَالَ حَتَّى مِنْ حَبِي الْجَمَالَ لَوْ جَعَلْتُ خِرَازَ سَوْطِي هَذَا مِنْ جِلْدِ نَمِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَإِنَّمَا الْكِبَرُ مَنْ جَهِلَ الْحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ بَعِيْنَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین چیزوں کا تعلق جادو سے ہے: (شرکیہ کلمات پڑھ کر) دم کرنا، کھلے بندے جادو کرنا اور (شرکیہ کلمات لکھ کر) تعویذ ڈالنا۔

7729- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنَ
السَّحَرِ: الرُّقَى، وَالنَّوْلُ، وَالتَّمَائِمُ

7730- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ زُحَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: انْقَطَعَ قَبَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَرْجَعَ، فَقَالُوا: أَمْصِيئَةٌ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِمَّا
يَكْرَهُ، فَهُوَ مُصِيئَةٌ

7731- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا رَفَعَ رَجُلٌ صَوْتَهُ
بِعَقِيرَةٍ غَنَاءٍ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ بِشِطَّانَيْنِ يَجْلِسَانِ
عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِأَعْقَابِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ
حَتَّى يَسْكُتَ مَتَى مَا سَكَتَ

7732- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: هَلْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ
الْيَوْمَ صَائِمًا؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ کے نعلین مبارک کے تسمے ٹوٹ گئے تو آپ
نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی:
یا رسول اللہ! یہ مصیبت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو
مومن کو ناپسندشی پہنچے وہ مصیبت ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی گاتے ہوئے گانے
والی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو
شیطانوں کو بھیجتا ہے وہ دونوں اس کے دونوں کندھوں پر
بیٹھ جاتے ہیں وہ دونوں اپنی ایڑیاں اس کے سینے پر
مارتے رہتے ہیں اس کے خاموش ہونے تک جب تک وہ
خاموش ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے ایک دن صحابہ سے فرمایا: تم میں سے آج
روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے
عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے! پھر آپ نے فرمایا: آج تم

7730- قال فی المعجم جلد 2 صفحہ 331 باسناد ضعیف . قلت: بسبب عبید اللہ بن زحر وعلی بن یزید الالہانی .

7731- قال فی المعجم جلد 8 صفحہ 119-120 رواہ الطبرانی بأسانید ورجال أحدهما وثقوا وضعفوا .

7732- قال فی المعجم جلد 3 صفحہ 163 وفيه عبید اللہ بن زحر وفيه كلام وقد وثق . قلت: وعلی بن یزید ضعیف .

میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے! آپ ﷺ نے فرمایا: آج تم میں سے کس نے صدقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے! رسول اللہ ﷺ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کا مسکرانا زیادہ بلند ہوا پھر فرمایا: وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جس مؤمن میں یہ باتیں جمع ہوں وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چار افراد پر دنیا و آخرت میں لعنت ہوگی اور فرشتے آئین کہیں گے: (۱) ایک آدمی جس کو اللہ نے مرد بنایا، وہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے (۲) وہ عورت جس کو اللہ نے عورت بنایا اور وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہے (۳) وہ آدمی جو اندھے کو راستہ نہ بتائے (۴) بغیر شادی کے رہنے والا بغیر شادی کے اللہ نے صرف یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنایا تھا۔

اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ عَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْيَوْمَ بِصَدَقَةٍ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَعْلَى بِهِ الصَّحْكُ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا جَمَعَهُنَّ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِلَّا دَخَلَ بِهِنَّ الْجَنَّةَ

7733- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَخْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَمَنَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَجُلٌ جَعَلَهُ اللَّهُ ذَكَرًا فَأَنَّثَ نَفْسَهُ وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ، وَامْرَأَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ أُنْثَى فَتَذَكَّرَتْ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يُضِلُّ الْأَعْمَى، وَرَجُلٌ حَصُورٌ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ حَصُورًا إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7734- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا

7733- قال في المجمع جلد 8 صفحہ 125 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك . قلت: وعبيد الله بن زحر مثله .

7734- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 273 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق . قلت: وعبيد الله بن زحر ضعيف

حضور ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے معاذ! شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، نیک بیوی جو تیری دین و دنیا کے کاموں میں مدد کرے وہ مل جائے تو وہ تیرے لیے بہترین کمائی ہے جو لوگ کماتے ہیں۔

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا مُعَاذُ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ خَيْرٌ مَّا اكْتَسَبَهُ النَّاسُ

7735- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَغْطَى النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَالِ، أَوْ الْحَادِثُ دُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِأَلْصَابِيعِ دُو كَفَافٍ وَصَبْرٍ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: عَجَلْتُ مَنِيَّتَهُ، وَقَلْتُ بَوَاكِهَ، وَقَلْتُ تَرَانَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں میرے نزدیک قابل رشک وہ مؤمن ہے جو مال کم رکھتا ہے نماز مکمل پڑھتا ہے اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور چھپا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے لوگوں سے پوشیدہ اس کی طرف لوگوں میں سے کوئی بھی انگلی سے اشارہ نہیں کرتا اور تھوڑے پر صبر کرتا ہے پھر آپ نے ہاتھ پکڑا فرمایا: اس کی موت جلدی ہو رونا والیاں کم اور سامان بھی کم ہے۔

7736- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

- 7735- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 252، 255، والترمذی رقم الحديث: 2451 وحسنه والحمیدی رقم الحديث: 909، وكيف يكون حسنًا وفي اسنادہ عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد، ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 4117، وفي اسنادہ ايوب بن سليمان مجهول وصدقة بن عبد الله ضعيف. ورواه الحاكم جلد 4 صفحہ 123 مثل المصنف وقال: صحيح عندهم فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا بل الى الضعف هو. ورواه نعيم في زوائد الزهد لابن المبارك رقم الحديث: 196.
- 7736- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 326، وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدًا وفيه توثيق. قلت: وعبيد الله

حضور ﷺ نے فرمایا: عورتوں کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے بچو وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ان کے درمیان ہوتا ہے آدمی خنزیر کے ساتھ جو کچھڑ میں لت پت ہو اس سے مل جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو کسی ایسی عورت کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چار نیک کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے: (۱) جو اللہ کی راہ میں نگہبانی کرتے ہوئے مر گیا (۲) جس نے علم سکھایا مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا (۳) جس نے صدقہ دیا اس کا ثواب بھی اس کے لیے جاری رہے گا (۴) نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی رہی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک دن فرمایا: بیعت کون کرے گا رسول

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْخُلُوةَ بِالنِّسَاءِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَلَا رَجُلٌ وَامْرَأَةً إِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا، وَلِيزَحْمَ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ، أَوْ حَمَاقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزَحْمَ مِنْكِهَ مِنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ

7737- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا أُجْرِي لَهُ أَجْرُهُ مَا عَمِلَ بِهِ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا يَجْرِي لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا، فَهُوَ يَدْعُو لَهُ

7738- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ

بن زحر ضعيف .

7737- رَوَاهُ أَحْمَدُ جلد 5 صفحہ 260، 261، 269 وهو بمجموع طرقه حسن . قال في المجموع جلد 1 صفحہ 167 رواه

أحمد والطبرانی في الكبير والأوسط والبخاري وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم .

7738- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 93 وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . قلت: وعبيد الله بن زحر مثله .

عبيد الله بن علي بن القاسم عن أبي أمية الباهلي

اللہ ﷺ کے غلام حضرت ثوبان نے عرض کی: کس پر بیعت کرنی ہے؟ ہم تو ایک مرتبہ آپ کی بیعت کر چکے ہیں آپ نے فرمایا: اس پر کہ کسی سے کوئی شی نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ثواب کیا ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت! حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی بیعت کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مکہ میں جہاں لوگوں کا رش ہوتا تھا وہاں ان کا کوڑا گر جاتا جبکہ یہ سوار ہوتے آپ اتر کر ہی پکڑتے تھے حالانکہ بسا اوقات وہ کوڑا کسی آدمی کے کندھے پر گر جاتا تھا۔

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: مَنْ يُبَايِعُ؟ فَقَالَ ثُوبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَامَ نَبَايَعُ؟ أَلَيْسَ قَدْ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَدًا شَيْئًا. قَالَ ثُوبَانُ: فَمَا لَهُ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ. فَبَايَعَهُ ثُوبَانُ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ فِي أَجْمَعَ مَا يَكُونُ النَّاسُ يَسْقُطُ سَوْطُهُ، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَى عَاتِقِ رَجُلٍ، فَيَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فَيَنَالُوهُ، فَمَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں میری رحمت اس کی سماعت بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور آنکھ بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور دل بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے جب دعا کرے گا تو میں قبول کرتا ہوں اگر مجھ سے مانگے تو میں عطا کرتا ہوں جب مجھ سے مدد مانگے گا تو

7739- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَأَكُونُ أَنَا سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَقَلْبُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ،

7739- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 248 وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف. قلت: وعبيد الله بن زحر مثله. ورواه أبو عبد

الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية صفحہ 14 والبيهقي في الزهد الكبير رقم الحديث: 696.

میں اس کی مدد کرتا ہوں مجھے اپنے بندہ کی وہ عبادت پسند ہے جو خالص میرے لیے ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قریبی رشتے دار کو صدقہ دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں بطحاء مکہ کو سونا بناؤں میں نے عرض کی: جی نہیں! اے میرے رب! لیکن میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور تین دن بھوکا رہوں تو جب میں بھوکا ہوں تو تیرے سامنے عاجزی اور تیرا ذکر کروں جب میں سیر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیرا شکر یہ ادا کروں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں اور وہ عورت جس کے دونوں رخساروں پر دھواں لگا ہو اور اپنے بچہ کے لیے نرم اور اپنے

فَإِذَا دَعَا أَجَبْتُهُ، وَإِذَا سَأَلَنِي أُعْطِيتُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَرَنِي نَصَرْتُهُ، وَأَحَبُّ مَا تَعْبَدُ لِي عَبْدِي بِهِ النَّصْحُ لِي

7740 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ

7741 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لَا، يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ ثَلَاثًا، وَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ

7742 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ

7740 - قال في المعجم جلد 3 صفحہ 117 وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف - قلت: وعلى مثله .

7741 - ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 254 والترمذی رقم الحديث: 2451 وفيه عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد وهما

ضعيفان كما تقدم فهو ضعيف جدًا . ورواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية صفحہ 10-11 .

شوہر کی اطاعت کرنے والی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا۔

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفَعَاءُ الْخَدَنَيْنِ، إِذَا أَحْنَتُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَطَاعَتْ رَبَّهَا، وَأَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ

7743- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ: يَا رَبِّ أَنْزَلْتَنِي إِلَى الْأَرْضِ، وَجَعَلْتَنِي رَجِيمًا أَوْ كَمَا ذَكَرَ فَاجْعَلْ لِي بَيْتًا، قَالَ: الْحَمَامُ، قَالَ: فَاجْعَلْ لِي مَجْلِسًا، قَالَ: الْأَسْوَاقُ، وَمَجَامِعُ الطُّرُقِ، قَالَ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا، قَالَ: مَا لَا يُذَكِّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: اجْعَلْ لِي شَرَابًا، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ، قَالَ: اجْعَلْ لِي مُؤَدَّنًا، قَالَ: الْمَزَامِيرُ، قَالَ: اجْعَلْ لِي قُرْآنًا، قَالَ: الشُّعْرُ، قَالَ: اجْعَلْ لِي كِتَابًا، قَالَ: الْوَسْمُ، قَالَ: اجْعَلْ لِي حَدِيثًا، قَالَ: الْكَذِبُ، قَالَ: اجْعَلْ لِي مَصَايِدَ، قَالَ: النِّسَاءُ

7744- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: شیطان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو اس نے کہا: اے رب! تُو نے مجھے زمین پر بھیجا اور مجھ پر پھینکا ہے جس طرح کہ ذکر کیا، میرے لیے گھر بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا: تیرا گھر حمام ہے اس نے کہا: میرے لیے محلہ بنا! فرمایا: بازار اور جہاں لوگ رکتے ہوں۔ اس نے کہا: میرے لیے کھانا بنا! فرمایا: وہ کھانا تیرا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس نے کہا: میرے لیے مشروب بنا! فرمایا: شراب! اس نے کہا: میرے لیے اطلاع بنا! فرمایا: مزامیر! اس نے کہا: میرے لیے قرآن بنا! فرمایا: شعر! اس نے کہا: میرے لیے کتاب بنا! فرمایا: وسد (سیاہ خضاب)! اس نے کہا: میرے لیے حدیث بنا! فرمایا: جھوٹ! اس نے کہا: میرے لیے شکار گاہیں بنا! فرمایا: عورتیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7743- قال في المجموع جلد 8 صفحہ 119 'وفيه على بن يزيد الالهاني وهو ضعيف . قلت: وعبيد الله بن زحر مثله .

7744- ورواه في الأوسط قال في المجموع جلد 9 صفحہ 17 'وفيه على بن يزيد الالهاني وهو ضعيف . قلت: وعبيد الله مثله .

حضور ﷺ لوگوں سے زیادہ خوش طبع اور اچھی طبیعت والے تھے۔

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْحَكِ النَّاسِ، وَأَطْيَبِهِ نَفْسًا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرنے کے لیے آئے تو یہ دعا پڑھے: ”بسم اللہ اللھم جنبنی الی آخرہ“ اگر ان کیلئے تقدیر میں بیٹا لکھا ہے تو اسے شیطان کبھی نقصان نہ دے گا۔

7745- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافِ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي، وَجَنِّبْ مَا رَزَقْتَنِي الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ، فَإِنْ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو۔

7746- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَغُضَّضَنَّ أَبْصَارُكُمْ، وَلَتَحْفَظَنَّ فُرُوجُكُمْ، وَلَتَقِيمَنَّ وُجُوهَكُمْ أَوْ لَتُكْسِفَنَّ وُجُوهَكُمْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7747- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافِ

7745- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 293 وفيه على بن يزيد الإلهاني وهو ضعيف . قلت: وعبيد الله مثله .

7746- قال في المجمع جلد 8 صفحہ 63 وفيه على بن يزيد الإلهاني وهو متروك . قلت: وعبيد الله بن زحر مثله .

حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرنے کے لیے آئے تو یہ دعا پڑھے: ”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي إِلَى آخِرِهِ“ پس اگر ان کے درمیان اولاد ہو تو تقدیر میں ہے تو شیطان اسے کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

الْمُضَرِّي، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي، وَجَنِّبْ مَا رَزَقْتَنِي الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ، فَإِنْ قَلِدَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس مسلمان کی کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ اپنی نگاہیں نیچے کرے تو اللہ عزوجل اس کے لیے ایسی عبادت کر دے گا جس میں حلاوت و منہاس ہوگی۔

7748- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ أَوْ لَوْ رَمَقَهُ، ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَتْ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوتَهَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں آیا جبکہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے اس نے عرض کی: فلاں نے کھیتی بیج لی ہے پس اس نے دو گنا اجر لیا یا جیسے اس نے کہا۔ تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ بلکی سی دو رکعت نماز کی اس تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر

7749- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

7748- ررواہ احمد جلد 5 صفحہ 264 وفيه علی بن یزید الالہانی وهو متروک . کذا فی المجموع جلد 4 صفحہ 63 قلت:

وعبید اللہ مثله .

7749- قال فی المجموع جلد 2 صفحہ 257 وفيه عبید اللہ بن زحر وعلی بن یزید وکلاهما ضعیف .

ہیں اور اگر تم وہی کام کرتے ہو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم نے کھالیا اس کھیتی کو اور تم بد بخت بھی نہ ہوئے۔

عَنْهُمَا، فَقَالَ: زَرَعَ فَلَانُ زَرْعًا، فَأَضَعَفَ أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَلَوْ أَنْتُمْ تَفْعَلُونَ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ لَأَكَلْتُمْ غَيْرَاءَ زَرْعًا، وَلَا أَشْقِيَاءَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اسی اثناء میں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ تشریف فرما تھے آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جب رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: بے شک میرا گمان ہے کہ تمہارے شوہر تم سے جو کرتے ہیں تم اس کی خبر کرتی ہو۔ اس نے کہا: قسم بخدا! اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! ہم تو اس سے فخر کرتی ہیں۔ تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو کیونکہ جو ایسا کرے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے اس عورت سے فرمایا: میرا خیال ہے کہ تم میں سے کوئی عورت جب اس کا خاوند اس کے پاس آتے تو وہ دونوں اپنا بستر ایک طرف ہٹا دیتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے گویا کہ وہ گدھے ہیں۔ اس نے عرض کی: قسم بخدا! ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کام نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ

7750- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا جَالِسٌ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ، إِذْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَحْسِبُكَ تَخْبِرِينَ بِمَا يَفْعَلُ بَكْنٌ أَوْ وَاجِبُكَ. قَالَتْ: إِي وَاللَّهِ، يَا بِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَفْتَحِرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَفْعَلْنَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقُّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

7751- قَالَ لَهَا: إِنِّي لَا أَحْسِبُ إِحْدَاكُمَا إِذَا أَتَاهَا رَوْجُهَا لِيُكْشِفَانِ عَنْهُمَا الْبَحَافَ، يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ. قَالَتْ: إِي وَاللَّهِ، يَا بِي وَأُمِّي، إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقُّ عَلَى ذَلِكَ

ابن ایوب عن عبید اللہ عن علی عن القاسم عن ابی امامۃ الباہلی

اس پر ناراض ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تین پتھر مومن کی پاکیزگی کا سبب بن جاتے ہیں اور پانی بذاتِ خود پاک کرنے والا ہے۔

7752- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُطَهِّرُ الْمُؤْمِنَ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب عزوجل کو راضی کرنے والی ہے۔

7753- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّوَاكُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے تو مجھے مسواک کا حکم دیا حتیٰ کہ مجھے ڈر لگا کہ میرے منہ کا اگلا حصہ گھس جائے گا۔

7754- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسَّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَخْفِيَ مُقَدَّمَ فَمِي

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

7755- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا

7753- فی اسنادہ عبید اللہ و علی . وقد تقدم الكلام عليها مراراً .

7754- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 263 من طریق يحيى به وهو حديث ضعيف .

7755- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 152 وفيه عبید اللہ بن زحر و علی بن یزید و هما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما .

صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے پاس رسول کریم ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے لیے عرق نکال کر رکھا ہوا تھا یا انہوں نے آپ کو عرش پیش کیا پس وہ آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیا پھر عرق نکالایا عرق قریب کیا پس اس کو آپ ﷺ کے سامنے رکھا تو آپ ﷺ نے کھایا پھر مؤذن آئے تو کہا: وضو وضو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نکلنے والی چیز میں ہم پر وضو ہے داخل ہونے والی چیز میں نہیں ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ کلمات پڑھ لے اسے کوئی (خبیث طاقت) عاجز نہ کر سکے گی: اے اللہ! میں رجس پلید خبیث خباثت پھیلانے والے شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (اول اسلام میں) لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا تو وہ لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا پاتا تو اپنے پہلو میں کھڑے آدمی سے پوچھ لیتا تو وہ اسے بتا دیتا جو

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَرَفَتْ لَهُ، أَوْ فَقَرَّبَتْ لَهُ عَرَقًا، فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَرَفَتْ أَوْ قَرَّبَتْ آخَرَ، فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ أَتَى الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: الْوُضُوءُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا الْوُضُوءُ فِيمَا يَخْرُجُ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا يَدْخُلُ 7756 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْجِزُنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجَسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

7757 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا

7756 - ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 299 قال في الزوائد - اسنادہ ضعیف قال ابن حبان: اذا اجتمع في استاده خبر عبيد

اللہ بن زحر وعلی بن یزید القاسم فذاک مما عملته ابديهم -

7757 - قال في المعجم جلد 2 صفحہ 81 وفيه عبيد اللہ بن زحر عن علی بن یزید وهما ضعيفان -

دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ
سَأَلَ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ، فَيَخْبِرُهُ بِمَا فَاتَهُ لِيَقْضِي،
ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ حَتَّى آتَى مُعَاذَ يَوْمًا،
فَأَشَارُوا إِلَيْهِ إِنَّكَ قَدْ فَاتَكَ كَذَا وَكَذَا، فَأَبَى
أَنْ يُصَلِّيَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ مَا فَاتَهُ، فَذَكَرَ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
أَحْسَنَ مُعَاذَ، وَأَنْتُمْ فافْعَلُوا كَمَا فَعَلَ

7758- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشِيدٍ

الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كَانَتْ
جَارِيَةٌ لِأَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو تَرْغَى
عَنْهَا، فَعَطِثَتْ شَاةً مِنْهَا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا مِنْ
الْمَرْوَةِ فَذَبَحَتْهَا، فَأَتَتْ بِهَا إِلَى عُقْبَةَ بْنِ
عَمْرِو فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي بِهَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنْتِ،
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
هَلْ أَفْرَيْتِ الْأَوْدَاجَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ
مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٍّ، أَوْ حَزَّ
ظْفَرٍ

نماز کا حصہ پڑھ چکے ہوتے تاکہ وہ قضاء کر لے۔ پھر وہ
کھڑا ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھتا یہاں تک کہ ایک دن
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئے، پس صحابہ نے ان کی طرف
اشارہ کیا کہ اتنی رکعتیں فوت ہو گئی ہیں۔ پس ان کی طبیعت
نہ مانی کہ وہ (فوت شدہ رکعتیں پہلے) پڑھیں۔ پس
انہوں نے (پہلے جماعت کے ساتھ) نماز پڑھی پھر فوت
شدہ رکعتیں ادا کیں، پس انہوں نے رسول کریم ﷺ
سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: معاذ نے اچھا
کام کیا (آئندہ) تم بھی ایسے ہی کرو جیسے انہوں نے کیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے
ہیں کہ ابو مسعود عقبہ بن عمرو کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں
چراتی تھی ان میں سے ایک بکری مرنے لگی تو اُس نے مروہ
سے پھر توڑ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ اسے اٹھا کر عقبہ بن
عمرو کے پاس لائی تو اسے بتایا۔ پس اس نے لونڈی سے
کہا: اسے رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں لے جا، جس
حالت میں تُو ہے۔ پس رسول کریم ﷺ نے اس سے
پوچھا: کیا تُو نے گردن کی رگوں کو کاٹ کر خون نکالا؟ اس
نے جواب دیا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ چیز جو
گردن کی رگوں کو کاٹ کر خون نکال دے جب تک کہ وہ
دانت سے نہ کاٹا گیا یا ناخن سے نہ چھیلا گیا ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے تمام عالموں کیلئے تاکہ میں بتوں کو مٹاؤں گا نے بجانے کے آلے ختم کروں اور جاہلیت کے رواج بھی ختم کر دوں۔

پھر فرمایا: جس نے دنیا میں شراب نوشی کی قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کا گرم پانی پلائے گا خواہ وہ بخشا ہوا آدمی ہے یا عذاب دیا گیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی سفارش کی اور اس پر دوسرے بھائی نے کوئی تحفہ دیا اور اس نے قبول کیا تو اس نے سود کا بڑا دروازہ کھولا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا اللہ کی رحمت (جنت) میں غوطہ لگاتا ہے رسول کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے پھر فرمایا: جب وہ اس کے پاس بیٹھ جائے تو اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے مریض

7759- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعْتَبُ رَحْمَةً وَهَدًى لِلْعَالَمِينَ، لِمَخْقِ الْأَوْثَانِ، وَالْمَعَارِيفِ وَالْمَزَامِيرِ، وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

7760- ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّبًا، أَوْ مَغْفُورًا لَهُ

7761- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَشْفَعُ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ عَلَيْهَا هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ

7762- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، وَوَضَعَ

کی مکمل تیمارداری یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اس کے چہرے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پوچھے: کیسے ہو؟ اور تمہاری ایک دوسرے کے درمیان محبت کی کامل نشانی یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرو (ہاتھ ملاؤ)۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ، عَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، وَمِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، أَوْ عَلَى يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ، وَتَمَامُ مَحَبَّتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ

7763- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ شَرِي الْمَغْنِيَّاتِ، وَلَا بَيْعُهُنَّ، وَلَا تَجَارَةً فِيهِنَّ، وَتَمْنَهُنَّ حَرَامٌ، وَتَلَا هَذِهِ آيَةَ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) (لقمان: 6) الْآيَةَ

7764- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجُورُهُمْ مَرَّتَيْنِ: أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَرَجُلٌ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں ہے حلال گانے والیوں کی خریداری اور نہ ہی فروخت اور نہ ان میں تجارت جائز ہے اور ان کی کمائی ہوئی قیمت (جو انہوں نے بدلے میں دینی ہے) حرام ہے اور آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ”وہ ہیں جو مقصد سے غافل کر دینے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جاہل ہوتے ہوئے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔“

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار آدمی ایسے ہیں جن کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا: (۱) رسول کریم ﷺ کی ازواج مطہرات (۲) اہل کتاب میں سے ایمان لانے والا (۳) وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے آزاد کر دے باوجودیکہ اس کے کہ وہ اسے پسند ہو (۴) ایک وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا

کرتا ہے۔

كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ
تَزَوَّجَهَا، وَعَبَدَ مَمْلُوكٌ أَذَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ
سَادَتِهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک
آدمی اکیلے نماز پڑھنے لگا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیا
ہے کوئی آدمی جو اس (بھائی) پر صدقہ کرے؟ پس ایک
شخص کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی تو رسول
کریم ﷺ نے فرمایا: ان دو آدمیوں کی بھی جماعت
ہے۔

7765- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ
الْمُؤَدَّبُ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ يُصَلِّي
وَحْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ
رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَانِ جَمَاعَةٌ

بکر بن مضر، عبید اللہ بن زحر سے وہ
حضرت علی بن زید سے روایت
کرتے ہیں

بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَيْرٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث
مروی ہے فرماتے ہیں: جس نے پہلے سلام کیا، وہ اللہ اور
اس کے رسول کے زیادہ قریب ہے۔

7766- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ
خَالِدٍ الْخَرَّائِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: مَنْ
بَدَأَ بِالسَّلَامِ، فَهُوَ أَوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

7767- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

7765- ررواه أحمد جلد 5 صفحہ 269، 254 قال في المجمع جلد 2 صفحہ 45 وله طرق كلها ضعيفة .

7767- ررواه أحمد جلد 5 صفحہ 258، قال في المجمع جلد 2 صفحہ 90 وفيه عبید اللہ بن زحر عن علی بن یزید

کریم ﷺ نے فرمایا: صفیں برابر کیا کرو یہاں تک کہ چہرے بگڑیں یا تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں یا فرمایا: تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں۔

خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُسَوَّيَنَّ الصُّفُوفُ، أَوْ لَيُطْمَسَنَّ وُجُوهٌ، وَلَتُطْمَسَنَّ أَبْصَارُكُمْ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُكُمْ

لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ

7768- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا ابْنُ عَائِشَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ مِنْ أَعْبَطُ أَوْلِيَائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَأَطَاعَهُ فِي الشَّرِّ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَتْ مَعِيشَتُهُ كَفَافًا، وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَعَجَلْتُ مَنِيَّتَهُ، وَقَلَّ بَوَاكِيهِ، وَقَلَّ تَرَائِيهِ

7769- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے نزدیک میرے دوستوں میں سے جن پر سب سے زیادہ رشک کیا گیا وہ مؤمن ہے جو ہلکی پھلکی حفاظت رکھنے والا نماز اور روزے سے لذت پانے والا اپنے رب کی اچھے اور خوبصورت طریقے سے عبادت کرنے والا پوشیدگی میں اللہ کی اطاعت کرنے والا لوگوں میں چھپا ہوا کوئی بھی اپنی انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتا بقدر ضرورت روزی رکھتا ہے اور اس پر صبر کیا پس موت نے جلدی کی اس پر رونے والیاں نہ ہونے کے برابر اور میراث معمولی ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے رو

وہما ضعيفان . من طريق لَيْثِ بِهِ .

7768- ورواه البيهقي في الزهد الكبير رقم الحديث: 199, 198 .

7769- فيه لَيْثُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَهُمْ ضَعْفَاءُ . وَانْظُرْ مَا بَعْدَهُ .

ایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: گانے والیوں اور اس کی خرید و فروخت اور اس کی کمائی کھانا حرام ہے۔

خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ أَغْنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ تَعْلِيمَ الْمُغَنِّيَّاتِ، وَاشْتِرَاءَهُنَّ وَبَيْعَهُنَّ، وَأَكْلَ أَثْمَانِهِنَّ

خلاد الصفار حضرت عبید اللہ بن زحر سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گانے والیوں کی خرید و فروخت اور تجارت اور ان کی کمائی کھانا حرام ہے یہ آیت انہیں کے متعلق نازل ہوئی: ”لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بُری باتیں خریدتے ہیں۔“

خَلَادُ الصَّفَّارُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ

7770- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ خَلَادِ الصَّفَّارِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَّاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ، وَأَكْلُ أَثْمَانِهِنَّ حَرَامٌ، وَفِيهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) (لقمان: 6)

محمد بن عبید اللہ العرزمی حضرت عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اس دین والوں کیلئے

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرَزَمِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

7771- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ

خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ،

عروج و زوال ہے۔

عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ
بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذَا
الَّذِينَ إِقْبَالًا وَإِذْبَارًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

7772- حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ
الْمِصْرِيُّ، ثنا عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِرَقِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
الْعُرْزَمِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُ
الْبَارِحَةَ كَأَنِّي أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَخَرَجْتُ مِنْ
إِحْدَى أَبْوَابِهَا السَّمَانِيَّةِ، فَإِذَا أَنَا بِأُمِّي قِيَامًا،
فَعَرَضُوا عَلَيَّ رَجُلًا رَجُلًا، وَإِذَا بِمِيزَانٍ
مَنْصُوبٍ، فَوُضِعَتْ أُمِّي فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ
وَوُضِعَتْ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، فَرَجَحَتْ بِهِمْ .
ثُمَّ وَضِعَتْ أُمِّي كُلُّهُمْ جَمِيعًا فِي كِفَّةِ
الْمِيزَانِ، وَوُضِعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ وَضِعَ
جَمِيعُ أُمِّي فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَ ابْنُ
الْخَطَّابِ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ رُفِعَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے آج رات خواب دکھایا گیا کہ
میں جنت میں داخل ہوا، میں آٹھوں دروازوں میں سے
ایک دروازے سے نکلا وہاں میرا ایک اُمّی کھڑا تھا، مجھ پر
ایک ایک آدمی پیش کیا گیا، وہاں میزان کھڑا کیا گیا، ایک
پلڑے میں ایک اُمّی اور دوسرے میں مجھے رکھا گیا، میرا
وزن تمام اُمّیوں سے بھاری ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ
عنہ کا دوسرے میں رکھا تو اُن کا وزن ساری اُمّت سے
بھاری ہوا، پھر ساری اُمّت ایک پلڑے میں اور دوسرے
میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا تو حضرت
عمر کا پلڑا بھاری ہوا، پھر میزان کو اٹھایا گیا۔

محمد بن عبد اللہ عن عبد اللہ

7772- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 259 مطوّلًا قال في المجمع جلد 9 صفحہ 59 جلد 10 صفحہ 262 وفيهما (كذا) بل في

سند أحمد فقط) مطرح بن يزيد وعلى بن يزيد الألهاني وكلاهما مجمع على ضعفه. ومما يدل على ضعف هذا
أن عبد الرحمن بن عوف أحد اصحاب بدر والحديبية وأحد العشرة وهم أفضل الصحابة والحمد لله. قلت:
وفي اسناد المصنف عبيد الله بن زحر وهو ضعيف ومحمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري وهو متروك.

الْمِيزَانُ

مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ

7773- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ
الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي فِي شِدَّةِ حَرٍّ انْقَطَعَ شِسْعُهُ،
فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِسْعٍ، فَوَضَعَهُ فِي نَعْلِهِ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَعْلَمُ مَا
حَمَلْتَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، لَوْ تَعْلَمُ مَا حَمَلْتَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7774- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ
الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،

معان بن رفاعہ السلامی، حضرت علی

بن یزید سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ سخت گرمی میں چل رہے تھے آپ کے نعلین
مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، ایک آدمی تسمہ لے کر آیا، اُس نے
آپ ﷺ کے نعلین میں رکھا، حضور ﷺ نے فرمایا: کاش
تو جانتا کہ تو نے رسول اللہ ﷺ کو کس چیز پر سوار کیا ہے
کاش تجھے علم ہوتا کہ تو نے رسول اللہ ﷺ کو کس شی پر سوار
کیا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ سورہ
اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا آپ نے فرمایا: اس نے
واجب کر لی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

7773- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 265. قال فی المعجم جلد 8 صفحہ 182 'وفیه علی بن یزید الالہانی وهو ضعیف .

7774- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 266 الا أنه عنده بین معان وعلی بن یزید علی بن رفاعہ . قال فی المعجم جلد 7

صفحہ 145 'وفیه علی بن یزید وهو ضعیف .

فَقَالَ: أَوْجَبَ هَذَا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

7775- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،

ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمِنِذٍ مُرْدِفُ الْفُضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ. وَقَدْ كَانَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ) (المائدة: 101) الْآيَةَ، فَكُنَّا نَذْكُرُهَا كَثِيرًا، فَتَمَنَعْنَا مِنْ مَسْأَلَتِهِ. فَأَتَيْنَا أَغْرَابِيًّا فَرَشُونَاهُ بُرْدًا، فَأَعْتَمَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيَةَ الْبُرْدِ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا، وَبَيْنَ أَظْهُرِنَا الْمَصَاحِفُ قَدْ تَعَلَّمْنَا فِيهَا، وَعَلَّمْنَا نِسَاءَنَا وَذُرَارِيَنَا وَخَدَمَنَا، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ حُمْرَةٌ مِنَ الْغَضَبِ، فَقَالَ: أَيُّ ثِكَلَتِكَ أُمَّكَ، وَهَذِهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو نبی کریم ﷺ کھڑے ہوئے اس دن ایک ہی اونٹ پر حضرت فضل بن عباسؓ آپ ﷺ کے پیچھے سوار تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! علم ختم ہونے سے پہلے علم حاصل کر لو اور اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی: ”اے ایمان والو! ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بُری لگیں۔“ پس ہم اکثر اس کا ذکر کرتے تو یہ آیت ہمیں سوال کرنے سے روکتی۔ پس ہم ایک دیہاتی کے پاس آئے، ہم نے اسے ایک چادر دی، اس نے دیر لگائی یہاں تک کہ میں نے چادر کا کنارہ اس کے دائیں اُبرو پر دیکھا پھر ہم نے اس سے کہا: نبی کریم ﷺ سے ایک سوال تو کرو۔ پس اس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! ہم سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ مصاحف ہمارے پاس ہیں ان میں سے ہم نے علم سیکھا ہے اور ہم نے اپنی عورتوں، بچوں اور خادموں کو سکھایا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اس حال میں کہ غصے کی سرفخی چہرے پر چھا چکی تھی۔ فرمایا: ارے تیری ماں تجھے روئے! یہ یہودی و عیسائی

7775- قال فی المعجم جلد 1 صفحہ 20، رواہ أحمد جلد 5 صفحہ 266 والطبرانی فی الكبير وعند ابن ماجہ رقم

الحديث: 288 طرف منه واسناد الطبرانی أصح، لأن فی اسناد أحمد علی بن یزید وهو ضعيف جدًا، وهو عند الطبرانی رقم الحديث: 7906 من طرق فی بعضها الحجاج بن أرطاة وهو مدلس صدوق یکتب حديثه، وليس ممن یعمد الکذب واللہ اعلم.

ہیں ان کے درمیان بھی تو مصاحف آسمانی ہیں لیکن ایسے ایک حرف سے بھی ان کا تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے جو ان کے نبی لے کر آئے تھے۔ خبردار! علم اس طرح جائے گا کہ اہل علم باقی نہ رہیں گے تین بار فرمایا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ہم حضور ﷺ کے ساتھ سردیوں میں ایک سریہ میں نکلے پس ایک آدمی ایک غار کے پاس سے گزرا جس میں کچھ پانی تھا اس کے نفس کو کشش ہوئی کہ وہ اس غار میں مقیم ہو جائے اور اس تھوڑے بہت پانی کو ہی اپنی خوراک بنا لے اور اس غار کے آس پاس سے کچھ سبزیاں حاصل کر لے اور دنیا سے الگ ہو جائے (اللہ کی عبادت کیلئے)۔ پھر کہا: اگر میں نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں جاؤں اور ان سے ساری صورت حال عرض کروں۔ پس اگر تو آپ ﷺ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کام کروں ورنہ ایسا نہ کروں۔ پس وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی: اے اللہ کے نبی! (اتفاق سے) میں ایک غار کے پاس سے گزرا جس میں گزارے کی خوراک پانی اور سبزی موجود تھی میرے دل نے کہا: میں اس میں مقیم ہو کر دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤں۔ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں یہودیت و نصرانیت دے کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے پاکیزہ و نرم شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور مجاہدین کی صف میں کھڑا

الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهَرِهِمُ الْمَصَاحِفُ، لَمْ يُصْبِحُوا يَتَعَلَّقُوا بِالْحَرْفِ مِمَّا جَاءَ تَهُمْ بِهِ أَنْبَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ أَهْلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

7776- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،

لَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَجَذَبَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يَقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ، فَيَقُوتَ مَا فِيهِ مِنْ مَاءٍ، وَيُصِيبَ مِمَّا حَوْلَهُ مِنَ الْبَقْلِ، وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ أَذِنَ لِي فَعَلْتُ، وَإِلَّا لَمْ أَفْعَلْ. فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِغَارٍ فِيهِ مَا يَقُوتُنِي مِنَ الْمَاءِ وَالْبَقْلِ، فَجَذَبَتْ نَفْسِي بَأَنِّ أَقِيمَ، وَأَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْخِيفَةِ السَّمْحَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَعْدَاةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلِمَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاحِهِ سِتِينَ سَنَةً

عن ابن عباس عن علي بن يزيد

ہونا، تم میں سے کسی ایک کی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ حضور ﷺ شدید گرمی کے دن میں جنت البقیع کی طرف سے گزرے پس لوگ آپ ﷺ کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ پس جب آپ ﷺ نے لوگوں کی جوتیوں کی آوازیں سنیں۔ اس سے آپ کے دل کو قرار ہوا۔ پس آپ ﷺ نے قدم روک لیے یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے آگے کیا تاکہ آپ کے دل میں تکبر میں سے کوئی شی واقع نہ ہو جائے۔ پس جب جنت البقیع کے پاس سے گزرے تو دو قبریں دیکھیں جن میں مردوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ پس نبی کریم ﷺ رک گئے فرمایا: آج کے دن تم نے کس کو یہاں دفن کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! فلاں آدمی کو (نام لیا)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اب ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اپنی قبروں میں آزمائش میں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کس سبب سے؟ فرمایا: ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ ﷺ نے کھجور کی تر شاخ پکڑ کر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا پھر ان دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ کے یہ کام کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا: تاکہ ان دونوں سے عذاب ہلکا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! ان کو کب تک عذاب دیا جاتا رہے گا؟

7777- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مَعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقِدِ، فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النَّعَالِ، وَقَرَّ ذَلِكَ نَفْسَهُ، فَحَبَسَ حَتَّى قَلَّمَهُمْ أَمَامَهُ لئَلَا يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبَرِ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقِدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ قَدْ دَفِنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ دَفَنْتُمْ هَهُنَا الْيَوْمَ؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَلَانٌ. قَالَ: إِنَّهُمَا لَيَعَذَّبَانِ الْآنَ وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرَيْهِمَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّوْمِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ. وَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: لِيُخَفَّفَ عَنْهُمَا. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَحَتَّى مَتَى يُعَذَّبَانِ؟ قَالَ: غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: وَلَوْ لَا تَمَرُّجَا فِي قُلُوبِكُمْ، أَوْ تَزِيدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ سَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ.

آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایسا غیب ہے جس کو اللہ جانتا ہے (یا اس کے بتانے سے میں جانتا ہوں لیکن تم کو بتانے کی اجازت نہیں)۔ فرمایا: اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمہارے دلوں میں حرج واقع ہو جائے گا یا زیادہ باتیں بنانے کا سبب ہوگا تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ہمیں نصیحت کی اور نرم دل کرنے والی گفتگو کی۔ حضرت سعد بن ابوقاص رضی اللہ عنہ رو پڑے کثرت سے رونے لگے کہنے لگے: کاش! میں مر گیا ہوتا! حضور ﷺ نے فرمایا: اے سعد! کیا تو نے موت کی تمنا کی ہے؟ یہ بات تین دفعہ کی پھر فرمایا: اے سعد! اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جو تیری عمر لمبی ہوگی اور تیرے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیرے لیے بہتر ہوگا اگر تو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو کتنی بُری ہے وہ چیز جس کی طرف تو جلدی کر رہا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے خیال کیا کہ

7778- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانُ
بْنُ رِفَاعَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَّرْنَا وَرَقَفْنَا، فَبَكَى سَعْدُ
بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَكَثَرَ الْبُكَاءُ وَقَالَ: يَا لَيْتَنِي
مُتُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا
سَعْدُ، أَعِنْدِي تَمَنُّ الْمَوْتِ؟ فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا سَعْدُ، إِنْ تَكَ خُلِقْتَ
لِلْجَنَّةِ، فَمَا طَالَ عُمُرُكَ وَحَسَنَ عَمَلُكَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تَكُنْ خُلِقْتَ لِلنَّارِ، فَبَسَّسْتَ النَّبِيَّ
الشَّيْءَ تُتَعَجَّلُ إِلَيْهِ

7779- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،
ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ

7778- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 267 قال في المجموع جلد 10 صفحہ 203 وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . كذا في المخطوطة الشيء وفي الهامش التي وعليه كلمة لعله .

7779- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 265-266 قال في المجموع جلد 3 صفحہ 115 وفيه علي بن يزيد فيه كلام . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره جلد 1 صفحہ 586 معان بن رفاعه السلمي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا . وقال في المجموع جلد 1 صفحہ 109 ومداره علي بن يزيد وهو ضعيف .

آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے وہاں سے صحابہ کرام اٹھنے لگے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور بیٹھ گئے آپ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: اے ابوذر! کیا آج تو نے نماز پڑھی ہے؟ عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: اٹھو اور نماز پڑھو! پس جب انہوں نے چاشت کی چار رکعتیں پڑھ لیں تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پس کہا: اے ابوذر! کیا تُو نے جنوں اور انسانوں میں سے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے؟ عرض کی: جی ہاں! عرض کی: کیا انسانوں اور جنوں کے شیطان ایک دوسرے کے دل میں بات ڈالتے ہیں! اوٹ پٹانگ باتیں دھوکہ دیتے ہوئے۔

پھر فرمایا: اے ابوذر! کیا تمہیں جنت کے خزانوں کے متعلق بتاؤں! میں نے عرض کی: کیوں نہیں! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے! آپ ﷺ نے فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ۔

پھر آپ مجھ سے گفتگو کرنے سے خاموش رہے میں نے آپ سے گفتگو کی میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں زمانہ جاہلیت کا تھا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا! اللہ نے آپ ﷺ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ بتائیں کہ نماز کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بہتر ہے جو چاہے کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ روزہ کے متعلق بتائیں اور یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ہاں دگنا ثواب ہے۔

يَزِيدُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، وَكَانُوا يَطْطُونَ الْوُحَى يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَأَقْصَرُوا عَنْهُ حَتَّى جَاءَ أَبُو ذَرٍّ، فَأَفْتَحَ فَاتَاهُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ صَلَّيْتَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمُ قَصَلْ. فَلَمَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ الصُّحَى، أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، هَلْ تَعَوَّذْتَ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَهَلْ لِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُورِجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 7780- ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

7781- ثُمَّ سَكَتَ عَنِّي حَتَّى اسْتَطَأْتُ كَلَامَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، وَعِبَادَةَ أَوْثَانٍ، فَبَعَثَكَ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَرَأَيْتَ الصَّلَاةَ مَاذَا هِيَ؟ قَالَ: خَيْرٌ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ

7782- قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الصِّيَامَ مَاذَا هُوَ؟ قَالَ: أَضْعَافٌ مُضَعَّفَةٌ، وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ

7783- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ: سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ وَجُهْدٌ مِنْ مُقِلِّ

7784- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ

الشَّهْدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَفِكَ دَمَهُ وَعَقَرَ

جَوَادُهُ

7785- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّمَا آيَةٍ

أَنْزَلْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (اللَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة: 255) آيَةُ

الْكُرْسِيِّ

7786- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الرِّقَابِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا

7787- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَيُّ

الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: آدَمُ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ

اللَّهِ، أَوَّ نَبِيٍّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَبِيُّ مَكَلَّمٍ

خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، ثُمَّ قَالَ

لَهُ: يَا آدَمُ قَبِّلَا

7788- قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَمْ وَقَاءُ

عِلْدَةِ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ

وَعِشْرُونَ أَلْفًا، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةٍ

وَحَمْسَةُ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا

7789- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْفَرَبَابِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! افضل صدقہ کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: فقیر کو چھپا کر دینا، محنت کر کے دینا۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سی شہادت افضل

ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنا خون بہایا، اپنے

گھوڑے کی کوئیخیں کاٹیں۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سی آیت جو بڑی

آپ پر نازل کی گئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ لا

الہ الا هو الحي القيوم! آیت الکرسی۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا غلام آزاد کرنا

افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کی قیمت زیادہ ہو

اور زیادہ پسندیدہ بھی ہو۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! انبیاء میں سے سب

سے پہلے کون تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: آدم! میں نے

عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آدم نبی تھے؟ آپ ﷺ نے

فرمایا: جی ہاں! ان سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں اپنے

دستِ قدرت سے پیدا کیا! آپ میں روح پھونکی پھر فرمایا:

اے آدم! متوجہ ہو۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! انبیاء کی تعداد کتنی

ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسولوں کی

تعداد تین سو پندرہ کا گروہ۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک

روزہ رکھا تو اللہ عزوجل اس کے اور جہنم کے درمیان ایک سو سال کی مسافت جتنا فاصلہ کر دے گا۔

الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ رَفَاعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ

7790- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيُّ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ رَفَاعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ حَاطِبٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي اللَّهُ. قَالَ: وَيَحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ، قَلِيلٌ تُوَدَّى شُكْرُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ

7791- ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي مَالًا، قَالَ: وَيَحَكَ يَا ثَعْلَبَةُ، أَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَوْ سَأَلْتُ أَنْ يَسِيلَ لِي الْجِبَالُ ذَهَبًا وَفِضَّةً لَسَأَلْتُ

7792- ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي مَالًا، وَاللَّهِ لَئِنْ أَتَانِي اللَّهُ مَالًا لَا أُورِثَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَقَالَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس آئے عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے آپ نے فرمایا: اے ثعلبہ! تیرے لیے ہلاکت ہو! کم مال، جس کا شکر ادا کیا جائے زیادہ مال دار سے بہتر ہے تو اس کا شکر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

پھر آپ ﷺ کی طرف لوٹ کر عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے! آپ ﷺ نے فرمایا: اے ثعلبہ! تیرے لیے ہلاکت ہو! کیا تو پسند نہیں کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی طرح زندگی گزارے اللہ کی قسم! اگر میں چاہوں تو میرے لیے پہاڑ سونا و چاندی بن جائیں اور بہہ پڑیں۔

پھر آپ کی طرف رجوع کر کے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے مال عطا فرمائے۔ قسم بخدا! اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو میں ہر حق

7790- قال في المعجم جلد 7 صفحہ 32 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك. قلت ورواه ابن جرير رقم

الحديث: 16987 وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثُعْلَبَةَ مَالًا فَاتَّخَذَ غَنَمًا، فَنَمَتْ كَمَا يَنْسُمُو الدُّودَ حَتَّى ضَافَتْ عَنْهَا إِزْقَةُ الْمَدِينَةِ، فَتَنَحَّى بِهَا، وَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى تَعْدُرَتْ عَلَيْهِ مَرَاغِي الْمَدِينَةِ، فَتَنَحَّى بِهَا، فَكَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَمَتْ فَتَنَحَّى بِهَا، فَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَيَقُولُ: مَاذَا عِنْدَكُمْ مِنَ الْخَبِيرِ؟ وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة: 103) قَالَ: فَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَاتِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَكَتَبَ لَهُمَا سَنَةَ الصَّدَقَةِ وَأَسَانَهَا، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَصْذُقَا النَّاسَ، وَأَنْ يَمُرَّا بِثُعْلَبَةٍ، فَيَأْخُذَا مِنْهُ صَدَقَةً مَالِهِ، فَفَعَلَا حَتَّى ذَهَبَا إِلَى ثُعْلَبَةٍ، فَأَقْرَأَهُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَدَقَا النَّاسَ فَإِذَا فَرَعْتُمَا، فَمُرَّا بِي. فَفَعَلَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هَذِهِ إِلَّا أُخْيَةُ الْحِزْيَةِ، فَأَنْطَلَقَا حَتَّى لَحِقَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

والے کو حق ادا کروں۔ پس رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! ثعلبہ کو مال دے۔ پس حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے ریوڑ بنایا، پس وہ بڑھا، اس طرح جس طرح کیڑے کوڑے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ مدینہ کی گلیاں ان سے تنگ ہو گئیں۔ پس وہ مدینہ سے دُور ہو گئے لیکن نماز میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ شریک ہوتے پھر اس ریوڑ کی طرف جاتے پھر وہ ریوڑ اور بڑھ گیا یہاں تک کہ مدینہ کی چراگاہیں تنگ ہو گئیں۔ پس وہ کچھ اور دُور ہو گئے۔ پس وہ جمعہ اور جمعائیں چھوڑ بیٹھے پس کوئی اونٹوں پر سوار قافلہ ملتا تو اس سے کہتے: تمہارے پاس (میرے محبوب کی) کوئی خبر ہو؟ اور لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ پر یہ حکم نازل فرمایا: ”ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔“ راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے صدقات وصول کرنے کیلئے دو آدمی عامل مقرر فرمائے۔ ایک انصاری اور دوسرا بنو سلیم سے اور انہیں ایک سال اور کوئی سالوں کا صدقہ لکھ دیا، انہیں حکم دیا کہ وہ دونوں لوگوں سے صدقات وصول کریں اور ایک چکر جناب ثعلبہ کی طرف بھی لگائیں اور اس سے اسکے مال کا صدقہ وصول کریں۔ پس انہوں نے حکم پر عمل کیا یہاں تک کہ وہ ثعلبہ کے پاس جا پہنچے۔ پس انہوں نے رسول کریم ﷺ کا خط پڑھ کر اسے سنایا تو اس نے جواب دیا: لوگوں سے صدقات وصول کر لو! جب تم فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آنا۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے جواب دیا: قسم بخدا! یہ

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَيْنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ) (التوبة: 75) إِلَى قَوْلِهِ (يَكْذِبُونَ) (التوبة: 77) قَالَ: فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبَ لِعُكْبَةَ رَاحِلَةً حَتَّى أَتَى ثُعْلَبَةَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا ثُعْلَبَةُ، هَلَكْتَ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَذًّا، فَأَقْبَلَ ثُعْلَبَةُ، وَوَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ يَبْكِي، وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتَهُ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ قَدْ عَرَفْتَ مَوْقِعِي مِنْ قَوْمِي، وَمَكَانِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ مِنِّي، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ ثُعْلَبَةُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

جزیہ ہی کی ایک شکل ہے۔ پس وہ چل کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر وہ ہمیں عطا کرے اپنے فضل سے (وہ جھوٹ بولتے ہیں)۔“ پس ایک انصاری حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا قریبی سواری پر سوار ہو کر حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ کہا: افسوس! اے ثعلبہ! تو ہلاک ہوا۔ اللہ نے قرآن کی فلاں آیت تیری مذمت میں نازل فرمائی ہے۔ پس حضرت ثعلبہ اس حال میں آئے کہ انہوں نے سر پر مٹی ڈالی اور رو رہے تھے یہ عرض کرتے ہوئے: اے اللہ کے رسول! اے اللہ کے رسول! پس رسول کریم ﷺ نے اس سے اس کی زکوٰۃ قبول نہ فرمائی یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ دنیا سے پردہ فرما ہوئے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رسول کریم ﷺ کے وصال کے بعد آیا عرض کی: اے ابوبکر! تو جانتا ہے کہ میری قوم میں میری کیا حیثیت ہے اور رسول کریم ﷺ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو مجھ سے قبول کر لے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا تو آپ نے بھی اس سے زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا تو آپ نے بھی اس سے قبول نہ کی پھر ثعلبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہو گیا۔

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ

عثمان بن ابوالعاتکہ، حضرت علی بن یزید سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: خبردار! جہنم پاگلوں کے لیے پیدا کی
گئی ہیں، وہ عورتیں ہیں مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کریں۔

7793- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّابِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ:
ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا إِنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِلشُّفَهَاءِ،
وَهِيَ لِلنِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي أَطَاعَتْ قِيَمَهَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! تم علم اٹھائے جانے سے
پہلے حاصل کر لو، علم سیکھنے اور سکھانے والا ثواب میں برابر
کے شریک ہیں، اس کے علاوہ لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں
ہے۔

7794- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ بْنِ
جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْبَدَمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ
أَنْ يُقْبَضَ، الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي
الْآجِرِ، وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7795- حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ

7793- قال في المعجم جلد 4 صفحہ 314 وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد قيل فيه انه صلح وبقية رجاله

ثقات .

7794- ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 228 قال في الزوائد في اسناده علي بن يزيد والجمهور علي تضعيفه .

7795- ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 289 واسناده ضعيف قاله في الزوائد .

حضور ﷺ نے فرمایا: مسواک کرو کیونکہ مسواک منہ کی پاکی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔

الْخَوْلَانِي، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
الْعَاصِيَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَوَّكُوا، فَإِنَّ السَّوَاكَ مَطْيَبَةٌ
لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

7796- مَا جَاءَ كَيْ جَبْرِيلُ إِلَّا أَمَرَنِي
بِالسَّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ حَسِبْتُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَيَّ
وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي فَرَضْتُهُ
عَلَيْهِمْ، إِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ حَسِبْتُ أَنْ
أُخْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي

حضرت جبریل علیہ السلام جب میرے پاس آئے تو
مجھے مسواک کرنے کو کہا یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ
مسواک مجھ پر اور میری امت پر فرض ہو جائے گا۔ اگر مجھے
اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے
گی تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، بے شک میں
مسواک کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے اپنے منہ کے متورم ہونے کا
خوف ہوا۔

7797- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَرِيبِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ
خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِيَةِ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
فَاتَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخَلَ بِمَالِهِ أَنْ يُنْفِقَهُ،
وَجَبَنَ عَنِ الْعُدْوِ أَنْ يَقَاتِلَهُ، فَلْيَكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ جَبَلٍ
ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: جو آدمی رات کو جاگنے کی تکلیف گوارا
نہ کر سکے، مال کے ساتھ بخیل ہو کر اسے خرچ کرے اور دشمن
کے ساتھ مقابلے کے وقت بھی بزدل پڑ جائے تو اسے
چاہیے کہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے کیونکہ یہ دونوں
کلمات سونے اور چاندی کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے
سے زیادہ اس کو پیارے ہیں۔

7798- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس پیالہ تھا اس سے رسول اللہ ﷺ کو پلایا جاتا جب آپ نوش فرما لیتے اور وضو کرنے کا ارادہ کرتے تو اس سے وضو کرتے۔

الدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَدَحٌ مَقْضُصٌ بِنَحَاسٍ فِيهِ يَسْقِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ، وَفِيهِ يُوَضِّئُهُ إِذَا تَوَضَّأَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اللہ کی تین مرتبہ قسم اٹھائی اس میں ان شاء اللہ نہ کہا کہ زمین کے اوپر کوئی مسلمان بھی صبح یہ دعا کرے: ”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِلَى آخِرِهِ“ کرے اور اس دن اگر مرجائے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔

7799- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ بِاللَّهِ ثَلَاثًا لَا يَسْتَبِي: مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَكَ دِينِي، أَصَبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ سُوءِ عَمَلِي، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَيَمُوتُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابن آدم! جس نے میرے ولی کی اہانت کی اس نے میرے ساتھ دشمنی ڈالی تو ہرگز وہ

7800- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

7800- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 248 وفيه على بن يزيد وهو ضعيف . ورواه أبو نعيم في الطب (جلد 1 صفحہ 11)

نسخة الشيخ الفرجلاني . وقال ابن رجب في جامع العلوم ولا حكم صفحہ 314 عثمان وعلي بن يزيد ضعيفان

قال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث: هو منكر جدًا .

يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْعَدَاوَةِ ابْنُ آدَمَ، لَنْ تُذَرَ مَا عِنْدِي إِلَّا بِأَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَأَكُونَ قَلْبُهُ الَّذِي يَغْفُلُ بِهِ، وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فَإِذَا دَعَانِي أُجِبْتُهُ، وَإِذَا سَأَلَنِي أُعْطِيتُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَرَنِي نَصَرْتُهُ وَأَحَبُّ عِبَادَةِ عَبْدِي إِلَيَّ النَّصِيحَةُ

کچھ نہیں پاسکے گا جو میرے پاس ہے مگر یہ کہ تو وہ کام کرے جو میں نے تیرے اوپر فرض کیے میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میری محبت بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مجھے پسند آ جاتا ہے تو میری خاص قوت اس کا دل بن جاتی ہے جس سے وہ بولتا ہے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے پس جب وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے مدد مانگے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ میرے بندے کی طرف میری سب سے پسندیدہ عبادت میرے بندے کا مخلص ہونا ہے۔

7801- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْفَرِّيَابِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَفَادَ الْمُسْلِمُ فَاثِدَةً بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ فرماتے تھے: مسلمان کو پرہیزگاری کے بعد سب سے بہتر شئی نیک بیوی دی گئی ہے اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اگر اس کو دیکھے تو خوش ہو اگر اس پر قسم اٹھائے تو وہ پوری کرے اور اگر وہ اس کے پاس نہ ہو تب بھی اپنی جان کے معاملے میں اس کے ساتھ مخلص ہو۔

7802- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

7801- ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 1857 قال في الزوائد: في اسناده علي بن يزيد قال البخاري: منكر الحديث

وعثمان ابن ابي العاتكة مختلف فيه والحديث رواه النسائي من حديث ابي هريرة وسكت عليه وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر. قلت والمناوي في الفيض قال ايضا: فيه هشام بن عمار وفيه كلام. في المخطوطة خير

له. وانظر سلسلة الصحيحة جلد 4 صفحہ 453-455 حول حديث ابي هريرة.

رسول کریم ﷺ نے حضرت عمرو بن طفیل کو خیبر کی طرف بھیجا تا کہ وہ اپنی قوم سے امداد لے آئے اور فرمایا: اے عمرو! جا اور اپنی قوم سے ہمارے لیے امداد لے کر آ۔ تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ایسے وقت میں بھیج رہے ہیں جب حالت یہ ہے کہ جنگ اپنے زوروں پہ ہے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیا یہ بات تجھے خوش نہیں کرتی کہ تو اللہ کے رسول کا قاصد ہو؟

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ تشریف لے چلے پس حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے فرمایا: اے کھیلے! (حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی) تجھے کیا ہے! کیوں میلے کھیلے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ کیا عثمان گھر میں موجود نہیں ہیں؟ وہ بولیں: کیوں نہیں! (وہ موجود ہیں) لیکن اتنے اتنے عرصے سے وہ میرے بستر پر نہیں سوئے وہ صوم دھر رکھتے ہیں وہ تو افطار کرتے ہی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے کہنا میرے پاس آئے گا۔ پس جب وہ (گھر میں) آئے تو اُن کی بیوی نے ان سے کہا: (آپ ﷺ کی بارگاہ کی حاضری دو وہ فرما گئے ہیں)۔ پس حضرت عثمان آپ ﷺ کی طرف چلے۔ پس آپ ﷺ کو مسجد میں موجود پایا۔ پس آپ ﷺ کی

أَبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الطُّفَيْلِ إِلَى خَيْبَرَ لِيَسْتَمِدَّ لَهُ قَوْمَهُ، وَقَالَ: يَا عَمْرُو، انْطَلِقْ فَاسْتَمِدَّ لَنَا قَوْمَكَ. فَقَالَ عَمْرُو: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسَلْتَنِي وَقَدْ نَشَبَ الْقِتَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

7803- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسَيْرِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَقَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا كُحَيْلَةُ مُتَبَدِّلَةً، أَلَيْسَ عُثْمَانُ شَاهِدًا؟ قَالَتْ: بَلَى وَمَا اضْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، وَبِصُومِ الذَّهْرِ فَمَا يُفْطِرُ، فَقَالَ: مَرِيهْ أَنْ يَأْتِيَنِي. فَلَمَّا جَاءَ، قَالَتْ لَهُ: فَأَنْطَلِقْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ بَلَغَكَ عَنِّي أَمْرٌ قَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَصُومُ

الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ لَا تَضَعُ جَبِكَ عَلَى فِرَاشٍ؟ قَالَ عُثْمَانُ: قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِعَيْنِكَ حَظٌّ، وَلِحَسَدِكَ حَظٌّ، وَلِرَوْحِكَ حَظٌّ، فَصُمِّمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَأَنْتَ رَوْحُكَ، فَإِنِّي أَنَا أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَنَا وَأَقُومُ، وَأَتِي النِّسَاءَ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَى، وَمَنْ تَرَكَهَا ضَلَّ، فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فِتْرَةٌ، فَإِذَا كَانَتِ الْفِتْرَةُ إِلَى الْغَفْلَةِ فَهِيَ الْهَلَكَةُ، وَإِذَا كَانَتِ الْغَفْلَةُ إِلَى الْفَرِيضَةِ، لَا يَضُرُّ صَاحِبَهَا شَيْئًا، فَخُذْ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا تُطِيقُ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعُثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، فَلَا تُثْقِلْ عَلَيْكَ عِبَادَةُ رَبِّكَ لَا تَدْرِى مَا طُولُ عُمْرِكَ

خدمت میں جا بیٹھے تو حضور ﷺ نے منہ موڑ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ پھر عرض کی: جی ہاں! مجھے معلوم ہے جو بات میرے حوالے سے آپ کو پہنچی ہے۔ فرمایا: تو ہی وہ ہے جو صوم دھر رکھتا ہے پوری پوری رات قیام کرتا ہے اور اپنا پہلو بستر پر نہیں رکھتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں یہ سب کچھ بھلائی کی تلاش میں کرتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے روزے بھی رکھ افطار بھی کر سو بھی اور قیام بھی کر اور اپنی بیوی (کی خوابگاہ میں اس) کے پاس آ کیونکہ میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی آتا ہوں پس جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ ہدایت پا گیا جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا کیونکہ ہر عمل کیلئے ایک تیزی (چستی پھرتی) ہے اور ہر تیزی کیلئے ایک سستی (کمزوری ڈھیلا پن) ہے پس جب سستی کا رُخ غفلت کی طرف ہو تو اسی کا نام ہلاکت ہے اور جب غفلت کا رُخ فریضہ کی طرف ہو تو تو فریضہ والے کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پس اعمال میں سے وہی کر جس کی تُو طاقت رکھتا ہے۔ میں تو پاکیزہ اور نرم شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ پس اپنے رب کی عبادت کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنا تجھے کیا معلوم تیری عمر کتنی لمبی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن

7804- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

نبی کریم ﷺ تشریف لے چکے حضرات ابو بکر، عمر، زید بن ثابت، عبد اللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور عبد اللہ بن عباس بھی ساتھ تھے رسول کریم ﷺ اپنی اونٹنی جدعاء پر سوار تھے۔ پس جب ظاہر ہوئے تو رسول کریم ﷺ نے کسی آدمی کو کہتے ہوئے سنا: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رسول کریم ﷺ کے قدم رک گئے اور آپ غور سے سننے لگے۔ پس جب اس نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس نے حق کی گواہی دی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! پس جب اس نے کہا: اشهد ان لا اله الا الله! فرمایا: یہ آگ سے بری ہو گیا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! تین بار فرمایا، پھر فرمایا: یہ کتے والا ہے۔ پس حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے تو اس کو ویسے ہی پایا (جیسے آپ ﷺ نے فرمایا تھا)۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اسلام کے کوہان کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔

التُسْتَرِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْجَدْعَاءِ، فَلَمَّا بَرَزُوا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَوَقَفَ يَسْتَمِعُ، فَلَمَّا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَهِدَ هَذَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ. فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: بَرَاءَ هَذَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا صَاحِبُ كِلَابٍ. فَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ

7805- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذُرْوَةُ سَنَامٍ

الإِسْلَام: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَنَالُهُ إِلَّا أَفْضَلُهُمْ

7806- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسَيْرِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ
الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو
حَفْصٍ الْقَاضِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ أَعْمَى، وَهُوَ الَّذِي
أُنْزِلَتْ فِيهِ: (عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى)
(عبس: 2)، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَنَا كَمَا تَرَانِي قَدْ
كَبُرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَذَهَبَ بَصَرِي،
وَلِي قَائِدٌ لَا يَلَاوُمُنِي قِيَادَةَ إِبَائِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي
مِنْ رُخْصَةٍ أَصَلِّي فِي بَيْتِي الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْمَعُ
الْمُؤَذِّنَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَا أَجِدُ لَكَ مِنْ رُخْصَةٍ، وَلَوْ يَعْلَمُ هَذَا
الْمُتَخَلِّفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ مَا لِهَذَا
الْمَاشِي إِلَيْهَا لَأَتَاهَا، وَلَوْ حَبَّوْا عَلَى يَدَيْهِ
وَرَجَلَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت
ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے آپ نابینا تھے یہ آیت
نازل ہوئی: ”توری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ آپ
کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔“ قریش سے ایک آدمی
حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ!
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! میں ایسا ہوں جس
طرح آپ دیکھ رہے ہیں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور
میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میری بینائی چلی گئی ہے
میرے لیے راہنما ہی کوئی نہیں ہے کیا میرے لیے
اجازت ہے کہ میں گھر میں ہی نمازیں پڑھ لوں؟
حضور ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں تو ہوتا ہے اس سے
مؤذن کی آواز سنتا ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! اے
اللہ کے رسول! رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں تیرے
لیے کوئی رخصت نہیں دیکھتا ہوں اور اگر جماعت میں شامل
ہونے سے پیچھے رہنے والے کو اگر علم ہوتا کہ جماعت کی
طرف چل کر جانے والے کیلئے کیا اجر ہے تو ضرور آتا
اگرچہ اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے بل چل کر
آتا۔

عثمان بن ابی العاتکہ عن علی بن یزید

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا ثواب علیین میں لکھا جائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مکہ سے مٹی کی طرف جا رہے تھے آٹھویں ذوالحجہ کے دن آپ آئے آپ کی ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑا تھا اس کے ذریعہ آپ پر پردہ کیا تھا سورج کی تپش سے بچنے کے لیے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں اس سے بھی وسیع گھر بنائے گا۔

7807- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو
الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
صَلَاةٌ عَلَى آثَرِ صَلَاةٍ، كِتَابٌ فِي عِلِّيْنَ

7808- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي
الْمِصِّصِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحُمْصِيُّ،
ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي
الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَاحَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ مَنَى يَوْمَ التَّوْرَةِ،
فَقَدِمَ وَإِلَى جَانِبِهِ بِلَالٌ مَعَهُ ثَوْبٌ عَلَى عُودٍ
يَسْتُرُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ

7809- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ
الصَّامِدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْمَعْمَرِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ
بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيٍّ
بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ
مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنْهُ

7808- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 232-233 رواه أحمد جلد 5 صفحہ 268 هكذا - أي عن أبي أمامة عن رأي رسول الله - وفي الاسنادين علي بن يزيد وفيه كلام وقد وثق . وعلمت حال عثمان ابن أبي العاتكة .

7809- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 8 وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . وعلمت حال عثمان ابن أبي العاتكة .

7810- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى

الِدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (الشعراء: 214) جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَجْلَسَهُمْ عَلَى الْبَابِ، وَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ، فَأَجْلَسَهُمْ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ أَطْلَعَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا بَنِي هَاشِمٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَاسْعَوْا فِي فِكَائِكُمْ رِقَابِكُمْ، وَافْتَكُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

7811- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ:

يَا عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَيَا حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَيَا أُمَّ سَلَمَةَ وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَيَا أُمَّ الزُّبَيْرِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَاسْعَوْا فِي فِكَائِكُمْ رِقَابِكُمْ، فَإِنِّي لَا أَطْلُبُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا أَغْنِي فَبِكُتِّ عَائِشَةَ، وَقَالَتْ: يَا حَبِيبِي، وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنَّا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (الأنبياء: 47) (الآيَتَيْنِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا أَغْنِي

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت: ”آپ اپنے قریبوں کو ڈرائیں“ نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کے دروازے کے باہر بٹھایا اور عورتوں اور بچوں کو جمع کیا، ان کو گھر کے اندر بٹھایا، پھر آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا: اے بنی ہاشم! جہنم سے آزادی کے لیے کوئی اعمال کرو غلاموں کو آزاد کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی شی کا مالک نہیں ہوں۔

پھر اپنے والوں کے پاس آئے فرمایا: اے عائشہ بنت ابوبکر! اے حفصہ بنت عمر بن خطاب! اے ام سلمہ! اے فاطمہ بنت محمد! اے رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی ام زبیر! اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اعمال کرو اور غلاموں کو آزاد کرو کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی شی طلب نہیں کروں گا نہ سختی کروں گا۔ حضرت عائشہ رو پڑیں، عرض کرنے لگیں: اے میرے حبیب! کیا آپ ہمیں قیامت کے دن کوئی نفع نہیں دیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! تین جگہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پس اس وقت میں تمہارے لیے کسی شی میں سختی نہیں کروں گا اللہ

کے ہاں نور کے پاس جس کیلئے اللہ چاہے گا اس کا نور مکمل فرمائے گا اور جس کو چاہے گا اندھیروں میں اوندھے منہ ڈالے گا اور پل صراط پر جس کو اللہ چاہے گا (نیچے دوزخ میں گرنے سے) محفوظ رکھے گا اور جس کو چاہے گا اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَعِنْدَ النَّورِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَمَّ لَهُ نُورُهُ، وَمَنْ شَاءَ أَكَبَهُ فِي الظُّلُمَاتِ، يَغْمُهُ فِيهَا، فَلَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَلَا أُغْنِي لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ سَلَّمَهُ وَأَجَارَهُ، وَمَنْ شَاءَ لِيَكَبَّهُ فِي النَّارِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: اے میرے حبیب! ہم کو علم ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں ایک میں کوئی شی رکھی جائے گی، ان میں سے ایک جھک جائے گا دوسرا ہلکا ہوگا، ہمیں علم ہے کہ نور کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے، پل صراط کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک راستہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، لوگ اس پر سے گزریں گے وہ اُترے کی مانند تیز ہے فرشتے دائیں بائیں جانب صف بنائے ہوں گے اس کے ارد گرد خاردار پورے کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے وہ دوزخیوں کو ان کے ساتھ اُچک لیں گے فرشتے عرض کر رہے ہوں گے: اے اللہ! محفوظ رکھ! محفوظ رکھ! جس کو اللہ چاہے گا بچالے گا اور جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا۔

7812- قَالَتْ عَائِشَةُ: أُنَى حَتَّى، قَدْ عَلِمْنَا الْمَوَازِينَ هِيَ الْكِفَتَانِ، فَيُوضَعُ فِي هَذِهِ الشَّيْءُ فَيُرْجَحُ أَحَدُهُمَا، وَيَخْفُفُ الْآخَرَى، وَقَدْ عَلِمْنَا مَا النَّورُ، وَمَا الظُّلْمَةُ فَمَا الصِّرَاطُ؟ فَقَالَ: طَرِيقٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَجُوزُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِثْلُ حَدِّ الْمَوْسَى، وَالْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَخْطِفُوهُمْ بِالْكَلاَلِ بِمِثْلِ شَوْكِ السَّعْدَانِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَاقْتَدِ بِهِمْ هَوَاءٌ، فَمَنْ شَاءَ اللَّهُ سَلَّمَهُ، وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ لِيَكَبَّهُ فِيهَا

ابوعبدالرحیم خالد بن ابی یزید
ابوعبدالملک علی بن یزید سے
وہ حضرت قاسم سے روایت

أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ
أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الْمَلِكِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ،

عَنِ الْقَاسِمِ

کرتے ہیں

7813- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

الْبَرَاءِ، ثنا الْمُعَاوِيَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ
أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ،
عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: أَصْعَافُ
مُصْعَفَةٍ، وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ، ثُمَّ قَرَأَ: (مَنْ ذَا
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً) (البقرة: 245)

7814- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ

الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ، أَوْ جُهْدٌ
مِنْ مُقِلٍّ، ثُمَّ قَرَأَ: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْمَا
هِيَ، وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ
لَكُمْ) (البقرة: 271) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

7815- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

الْبَرَاءِ، ثنا الْمُعَاوِيَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ
أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
جَلَسَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِي
نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَرَفَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت
ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! صدقہ کیا ہے؟
آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا ثواب دگنا ہوتا ہے اللہ کے
ہاں اور زیادہ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”کون ہے جو
اللہ کو قرض حسد دے، پس وہ اس کو اس کیلئے کئی گنا زیادہ کر
دے۔“

عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا صدقہ افضل ہے؟
آپ ﷺ نے فرمایا: جو چھپا کر کسی فقیر کو دیا جائے اور
محنت کر کے کمایا ہو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”اگر تم
صرف صدقات ظاہر کرو تو یہ بھی بہتر ہے اگر چھپا کر فقیر
کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔“

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ صحابہ کرام کے ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے
تھے حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک اٹھایا فرمایا: کون
بیعت کرے گا؟ تین مرتبہ فرمایا سوائے حضرت ثوبان رضی
اللہ عنہ کے کوئی کھڑا نہ ہوا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے
عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان

ہوں! میں نے ایک مرتبہ بیعت کی ہے اب دوسری مرتبہ کروں گا یا رسول اللہ! بیعت کس پر کرنی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں سے کوئی شی نہ مانگنا تم جنتی ہو گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم بیعت کرتے ہیں جب لوگوں سے کوئی شی نہ مانگوں تو میرے لیے جنت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! اگر اللہ نے چاہا! حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! جب تک میں زندہ رہوں گا کوئی شی نہیں مانگوں گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے جب بھی نماز پڑھی میں نے ہر فرض نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا: ”اللھم اغفر لی خطایای وذنوبی کلھا الی آخرہ“۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ، فَقَالَ: مَنْ يُبَايِعُنِي؟، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا ثَوْبَانُ، فَقَالَ: يَا أَبِیْ أَنْتَ وَأُمِّی قَدْ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً، وَأَنَا أَبَايَعُكَ الثَّانِيَةَ، فَعَلَّامُ أَبَايَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا وَلَكُمْ الْجَنَّةُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَنَا بَايَعْتُكَ، وَلَمْ أَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا فَلِي الْجَنَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَسْأَلُ شَيْئًا مَا يَبْقِي فِي الدُّنْيَا

7816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَائِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ أُعَيْنٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ الْحَرَائِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَرِيبٌ مِنْهُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي وَأَجِرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

7817- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ سے یہ کلمات یاد کیے ہیں: مال دینے سے بڑھتا ہے لوگوں کا اضافہ کنجوسی میں ہے یہ معاملہ سخت ہی ہو گا قیامت بڑے لوگوں پر آئے گی۔

بْنِ عَقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَلِمَاتٌ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزْدَادُ الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ إِلَّا شُحًّا، وَلَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ

7818- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ

نَصْرِ الْحَدَّاءِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَيَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَى بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاولَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنْتَ أَوْلَى بِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ: خُذْ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْقَدَحَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ خُذْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْرَبْ، فَإِنَّ الْبَرَكَهَ فِي أَكْبَارِنَا، فَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُجَلِّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ ابو عبیدہ بن جراح اور صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لایا گیا حضور ﷺ نے وہ ابو عبیدہ کو پکڑایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں؟ آپ نے فرمایا: پکڑ لو! پس حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ پیالہ پکڑ لیا پینے سے پہلے ایک بار پھر عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ لے لیں! نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہوا کیونکہ برکت تو ہمارے بڑوں میں ہے پس جس نے ہمارے چھوڑوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور دوسرا میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا میں نے اُن کے ہاتھ کی ٹھنڈک سینے اور کندھے کے درمیان پائی عرض کی: اے محمد! تکبیر کہیں اور لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ پڑھیں اور کہیں: ”سبحان رب الاولین والآخرین“۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس ہستی کے لیے تیاری کرو جس کے رہنے والے ظالم ہیں یعنی خیر، کیونکہ اللہ نے چاہا تو تم کو فتح ہوگی میرے ساتھ کمزور اور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہو وہ نہ نکلے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس گئے کہا: مجھے بھی تیار کریں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جہاد کی تیاری کے لیے حکم دیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا: ٹو جائے اور مجھے چھوڑ دے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی کہنی داخل نہیں کروں گی مگر تو میرے ساتھ ہو۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نہیں رہنا چاہتا آپ کی والدہ نے اپنا پستان نکالا

7819- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ نَبِيَّ جَبْرِيلُ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى صَدْرِي، وَالْأُخْرَى بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ الْمَاءِ عَلَى صَدْرِي بَيْنَ كَتِفَيْ، وَالَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، كَبِيرُ الْكَبِيرِ، وَهَلِيلُ الْيَقِينِ، وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

7820- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجَهَّزُوا إِلَى هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا يَعْنِي خَيْبَرَ، فَإِنَّ اللَّهَ فَاتِحُهَا عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَا يَخْرُجَنَّ مَعِيَ ضَعِيفٌ وَلَا مُضَعَفٌ. فَاِنْ طَلَّقَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: جَهَّزْنِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالْجَهَّازِ لِلْغَزْوِ، فَقَالَتْ: تَنْطَلِقُ

ابو عبد الرحيم عن أبي عبد الملك عن القاسم

فَنَزَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا الطَّفِيلَ بْنَ عَامِرِ بْنِ الْحَارِثِ
الْحَزْرَاعِيَّ، فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى قَوْمِكَ
فَاسْتَمِدَّهُمْ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا،
فَإِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُهَا عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ
الطَّفِيلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُعَذِّبُنِي مِنْكَ، وَاللَّهِ
لَأَنْ أَمُوتَ، وَأَنَا مِنْكَ قَرِيبٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ
الْحَيَاةِ وَأَنَا مِنْكَ بَعِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا لَا بُدَّ مِنْهُ
فَإِنْطَلِقْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، لَعَلِّي لَا أَلْقَاكَ، فَرَزِدْنِي شَيْئًا أَعِيشُ بِهِ
قَالَ: أَتَمْلِكُ لِسَانَكَ؟ قَالَ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا
لَمْ أَمْلِكْ لِسَانِي؟ قَالَ: أَتَمْلِكُ يَدَكَ؟ قَالَ:
فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدَيَّ؟ قَالَ: فَلَا تَقُلْ
بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى
خَيْرٍ

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الملك بن القاسم

حارث خزاعی کو بلا کر فرمایا: اپنی قوم کے پاس جا کر اس
دیہات والوں کے خلاف مدد طلب کرو جس کے رہنے
والے ظالم ہیں کیونکہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا! ان شاء
اللہ! حضرت طفیل نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ
مجھے اپنے سے دور کر رہے ہیں قسم بخدا! مجھے آپ کے
قریب رہ کر مرنا آپ سے دُور زندہ رہنے سے زیادہ
پسند ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: یہ ضروری کاموں
میں سے ایک ضروری کام ہے تم جاؤ۔ پس اس نے عرض
کی: اے اللہ کے رسول! ممکن ہے (آئندہ) میری آپ
سے ملاقات نہ ہو سکے! پس مجھے کوئی چیز بطور زوروارہ عطا فرما
دیں جس کے سہارے میں زندہ رہوں۔ آپ ﷺ نے
فرمایا: کیا تو اپنی زبان کا مالک ہے؟ عرض کی: جب
میں اپنی زبان کا مالک نہیں تو کس چیز کا مالک ہوں؟ آپ
نے فرمایا: کیا تو اپنے ہاتھ کا مالک ہے؟ اس نے عرض کی:
میں پھر کس چیز کا مالک ہوں! اگر اپنے ہاتھ کا ہی مالک نہیں
ہوں؟ فرمایا: اپنی زبان سے صرف نیکی کی بات کر اور ہاتھ
صرف بھلائی کیلئے پھیلا۔

ابن ابی کریمہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد
عبدالرحیم کے خط میں میں نے ان کے خط کے ساتھ یہ
حدیث پائی ہے حضور ﷺ نے ان کو فرمایا: سلام عام کرو
کھانا کھاؤ! اللہ سے حیاء کرو جس طرح تم میں سے کوئی
بڑے آدمی سے حیاء کرتا ہے! اپنے اخلاق کو اچھا کرو جب
تجھ سے کوئی بُرے اخلاق سے پیش آئے تو اس کے ساتھ
نیکی کرو کیونکہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔

7822- قَالَ ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ: وَجَدْتُ

فِي كِتَابِ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ بِخَطِّهِ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ، وَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَفَشِ السَّلَامَ، وَأَبْذِلِ الطَّعَامَ،
وَأَسْتَحِیْ اللَّهَ بِمَا تَسْتَحِیْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِكَ
ذِي هَيَاةٍ، وَلْتَحْسِنْ خُلُقَكَ، وَإِذَا أَسَأْتَ
فَأَحْسِنْ، فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اس حالت میں کہ آپ جدعاء نامی اونٹنی پر سوار تھے آپ کے پیچھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما تھے آپ فرما رہے تھے: اللہ کے معاملہ میں سستی نہ کرو اور اللہ کے معاملہ میں سستی نہ کرو جو اللہ کے معاملہ میں سستی کرے گا اللہ عزوجل اس سے ناراض ہوگا۔

7823- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي
كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى الْجَدْعَاءِ،
وَحَلْفُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَأْلُوا عَلَى
اللَّهِ، لَا تَأْلُوا عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّى عَلَى اللَّهِ
أَكْذَبَهُ اللَّهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا جس وقت رسول اللہ ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اس پر رو رہے ہیں! وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے بیٹے کی وفات کی ہے! مجھے ان پر افسوس ہے! ان سب پر میں نے زندہ حالت میں مٹی ڈالی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تجھ سے رحمت لے لی گئی ہے! دل پریشان ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں! ابراہیم پر جی ہاں! (ایسے حال میں) ہم اپنے منہ سے ایسی بات نہیں کرتے جو تیرے میرے رب کو ناراض کر دے لیکن ہمیں ابراہیم کے جانے کا غم

7824- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي
كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَفَّى إِبْرَاهِيمَ
وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، تَبْكِي عَلَى
هَذَا السَّخِلِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ دَفَنْتُ
اثنَى عَشَرَ وَلَدًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُمْ أَسَفُ مِنْهُ،
كُلُّهُمْ أَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ أَحْيَاءَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا ذَاكَ بِأَنَّ كَانَتْ
الرَّحْمَةُ ذَهَبَتْ مِنْكَ، يَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَتَدْمَعُ

7823- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 208 'وفيه على بن يزيد الألہانی وهو ضعيف . وقال جلد 3 صفحہ 712 'وفيه على ابن

يزيد وهو ضعيف وقد وثق .

7824- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 18 'وفيه على بن يزيد الألہانی وهو ضعيف .

الْعَيْنُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ
الرَّبَّ، وَإِنَّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب اللہ عزوجل کسی
بندہ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مرنے سے
پہلے معاف کرتا ہے، عرض کی: طہور العبد سے مراد کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے پھر اس کو
موت دیتا ہے۔

7825- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ
كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا
طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا
طَهُّورُ الْعَبْدِ؟ قَالَ: عَمَلٌ صَالِحٌ يُلْهِمُهُ إِيَّاهُ،
حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ایک نماز کے بعد
دوسری نماز پڑھنے تک جن دونوں کے درمیان لغو بات نہ
ہو تو علیین میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

7826- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: صَلَاةٌ عَلَى آثَرِ صَلَاةٍ، لَا لَفْوٌ بَيْنَهُمَا
كِتَابٌ فِي عِلَّتَيْنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کی رضا کے
لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کو جہنم سے
ایک سو سال کی مسافت پر جو عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر
کرنے اتنی مقدار دور کر دے گا۔

7827- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ
كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ
مِنْ جَهَنَّمَ مِائَةَ عَامٍ رَكَضَ الْفَارِسِ الْجَوَادِ
الْمُضْمَرِ

7828- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ

الْحَدَّاءُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي
كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحِيمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَتْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ بِدَيْنَةِ اللِّسَانِ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ
مِنْهَا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَدِيدٌ يَأْكُلُهُ، فَأَخَذَ قَدِيدَةً فِيهَا
غَضَبٌ، فَأَلْقَاهَا إِلَى فِيهِ، فَهُوَ يَلُوكُهَا مَرَّةً عَلَى
جَانِبِهِ هَذَا، وَمَرَّةً عَلَى جَانِبِهِ الْآخَرَ، فَقَالَتْ
الْمَرْأَةُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تُطْعِمُنِي؟ قَالَ: بَلَى .
فَنَاولَهَا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا الَّذِي فِي
فِيكَ، فَأَخْرَجَهُ فَأَعْطَاهَا، فَأَخَذَتْهُ فَأَلْقَتْهُ إِلَى
فَمِمْهَا، فَلَمْ تَزَلْ تَلُوكُهُ حَتَّى ابْتَلَعَتْهُ، فَلَمْ يَعْلَمْ
مِنْ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَتْ
عَلَيْهِ مِنَ الْبِدَاءِ وَالذِّرَابَةِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْعَرَزَمِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ،
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
عورت حضور ﷺ کے پاس آئی وہ بڑی تیز زبان تھی یہ
اس کے متعلق معروف تھا جبکہ آپ ﷺ کے آگے بھونا
ہوا خشک گوشت تھا جو آپ کھا رہے تھے آپ نے ایک ٹکڑا
بھونے ہوئے گوشت کا اس کو پکڑا دیا۔ پس اس نے وہ ٹکڑا
آپ ﷺ کے منہ کی طرف پھینک دیا اپنے منہ میں ڈالا
کبھی اس طرف سے چبانے لگے کبھی دوسری جانب سے
چبانے لگے۔ اس عورت نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا
آپ مجھے نہیں کھلائیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں!
آپ نے اپنے آگے سے اس کو پکڑا لیا اس نے عرض کی:
نہیں! وہ دیں جو آپ کے منہ اطہر میں ہے۔ آپ نے
اپنے منہ مبارک سے نوالا نکالا اور اسے دیا اس نے پکڑا
اور اپنے منہ میں ڈالا وہ اس کو نگلنے تک چباتی رہی اس کو
چبانے کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ وہی عورت
ہے تیز زبان والی۔

محمد بن عبید اللہ العرزمی

علی بن یزید سے وہ قاسم سے
وہ حضرت ابو امامہ سے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو تم کو دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو۔

7829- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ

سُورَةَ الْبَغْدَادِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ بْنِ بَكْرِ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِزْرَمِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ

عثمان بن ابی العاتکہ قاسم سے وہ ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7830- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے تک جن دونوں کے درمیان لغو بات نہ ہو تو علیین میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ عَلَى آثَرِ صَلَاةٍ، لَا لَفْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلَّتَيْنِ

ولید بن ابومالک قاسم سے وہ ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7831- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: علم ختم ہونے سے پہلے سیکھ لو۔ تین مرتبہ فرمایا: صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! علم کیسے ختم

وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا أَبُو

عُمَرَ الصَّرِيرُ، قَالَ: ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُذَ. ثَلَاثًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَنْقُذُ، وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ؟ فَغَضِبَ لَا يُغْضِبُهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: تَكَلَّمْتُكُمْ أُمَمَاتِكُمْ، أَلَمْ تَكُنِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ شَيْئًا. إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ ذَهَابُ حَمَلَتِهِ ثَلَاثًا.

7832- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَاوِيُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ

7833- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ

ہوگا جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے؟ آپ ﷺ ناراض ہوئے آپ کو اللہ کبھی ناراض نہ کرے آپ نے فرمایا: اللہ تمہیں ہلاک کرے! پھر فرمایا: تمہاری مائیں تم پر روئیں! بنی اسرائیل کے پاس تورات اور انجیل نہیں تھی انہوں نے کوئی نفع نہ اٹھایا، علم جانے سے مرادی ہے کہ علماء چلے جائیں گے تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مسلمان ایک دوسرے کو پناہ دے سکتے ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مسلمان ایک دوسرے کو پناہ دے سکتے ہیں۔

الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنِ الْقَاسِمِ

7834- حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِيقِ الْحَمِصِيِّ،
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَّابِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ
الْحَمِصِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
أَبِي السَّائِبِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، إِذْ لَحِقْنَا عُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ الْأَنْصَارِيَّ
فِي حُلَّةٍ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ،
وَيَتَوَاصَعُ لِلَّهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ
عَبْدِكَ، وَابْنُ أُمَّتِكَ حَتَّى سَمِعَهَا عُمَرُو بْنُ
زُرَّارَةَ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْمَسُ
السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: يَا عُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ خَلْقِهِ يَا عُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُسْلِينَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ تَحْتَ رُكْبَةِ نَفْسِهِ،
فَقَالَ: يَا عُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ،

الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنِ الْقَاسِمِ

ولید بن سلمان بن ابوالسائب، قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
حضور ﷺ کے ساتھ تھے اچانک ہمیں حضرت عمرو بن
زرارہ انصاری ایک چادر اور تہبند جو لٹکا رکھا تھا پہنے ہوئے
ملے حضور ﷺ کپڑے کا ایک حصہ پکڑنے لگے اور اللہ
کیلئے عاجزی کرنے لگے اور فرمانے لگے: اے اللہ! تیرا
بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہے۔ یہ
حضرت عمرو بن زرارہ نے سنا تو حضور ﷺ کی طرف متوجہ
ہوئے عرض کی: یا رسول اللہ! میں دونوں کو پتھریوں تک
اٹھاؤں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عمرو بن زرارہ! اللہ
عزوجل نے ہر شی کو خوبصورت بنایا ہے اے عمرو بن
زرارہ! اللہ عزوجل کپڑا لٹکانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے
پھر حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی تھیلی اپنے گھٹنے سے نیچے کی
طرف اشارہ کیا فرمایا: اے عمرو! یہ تہبند رکھنے کی جگہ
ہے۔ پھر بلند کیا پھر اس کے نیچے رکھا فرمایا: اے عمرو بن
زرارہ! یہ تہبند باندھنے کی جگہ ہے پھر اٹھایا پھر اس سے
نیچے رکھا فرمایا: اے عمرو بن زرارہ! یہ تہبند باندھنے کی جگہ
ہے۔

ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ

7835- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُعَمَّرِيُّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُونُ فِتْنَةٌ يَضِيحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُنْسِي كَافِرًا إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ

الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ،
عَنِ الْقَاسِمِ

7836- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْعَبْدَانِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا عَالِمٌ وَالْآخَرُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فتنے ہوں گے اس زمانہ میں صبح کے وقت مؤمن ہوگا اور رات کو کافر سوائے اس کے جس کو اللہ عزوجل نے علم کے ساتھ زندہ کیا۔

ولید بن جمیل دمشق، قاسم سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ایک عام اور ایک عبادت گزار اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ پر ہے۔

عَابِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

7837- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ

الْحَلَّالِ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا

سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ حَتَّى

النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ

لَيَصْلُونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ

7838- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُفْرِيُّ،

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْعَبْدَانِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ

رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَحِمَ ذَبِيحَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ اور اس کے فرشتے اور چوٹیاں
اپنے سوراخ میں یہاں تک کہ مچھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی
کی تعلیم دینے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو ذبیحہ پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر
قیامت کے دن رحم کرے گا۔

7837- ورواه الترمذی رقم الحديث: 2825 وقال حسن غريب صحيح . أما الحافظ الهيثمي . فقال في المعجم

جلد 125 وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وثقه البخاري وضعفه أحمد . هكذا في نسخة من الترمذی حسن

غريب صحيح وفي بعض النسخ حسن غريب فقط . قال شيخنا في تخريج أحاديث المشكاة في التصحيح بعد

لان في كل من الوليد بن جميل وسلمة بن رجاء كلاماً ثم ذكر له شواهد فراجع .

7838- قال في المعجم جلد 4 صفحہ 33 ورجاله ثقات . ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 371 وتمام في

الفوائد جلد 1 صفحہ 194 وسنده حسن كما قاله شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 27 .

7839- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو

الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا
سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مُبْطِطٍ عَلَى
وَجْهِهِ، فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: قُمْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ
جَهَنَّمِيَّةٌ

7840- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ

الْجَنْدِيسِيُّ بُوْرِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، ثنا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
رَحِمَ، وَلَوْ ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

7841- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا

مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا
الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو چہرے
کے بل سویا ہوا تھا آپ نے اپنے پاؤں سے اُسے مارا اور
فرمایا: اٹھو! یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو رحم کرتا ہے اگرچہ چڑیا کے ذبح
کرتے وقت تو اللہ اس پر قیامت کے دن رحم کرے گا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: صدقات میں سے افضل یہ ہے کہ
اللہ کی راہ خیمے کا سایہ دینا اور دودھ دینے والا جانور اللہ کی
راہ میں دینا۔

7839- ورواہ ابن ماجہ رقم الحدیث: 3725 قال فی الزوائد الولید بن جمیل لہ ابو زرعة' وقال أبو حاتم: شیخ روی عن
القاسم احادیث منكرة' وقال أبو داود: لیس بہ بأس' وذكرہ ابن حبان فی الثقات . وسلمة بن رجاء ويعقوب بن
حمید مختلف فیہما .

7841- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 269-270' وجد عبد اللہ فی کتاب ابیہ بخط یدہ' ویظن أنه سمعه من الحكم . ورواہ
الترمذی رقم الحدیث: 1677 من طریق یزید بن ہارون . وقال حسن صحیح . وهو حدیث حسن کما تقدم من
حال الولید بن جمیل وسلمة بن رجاء .

أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ: ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، أَوْ طُرُوقَةٌ فَحُلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

7842- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا

مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا
الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ
صَلَاتَيْنِ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ، وَعَنْ
لِبَسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ

7843- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا

مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا
الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَآثَرَيْنِ:
قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةٌ دَمٍ تَهْرَاقُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْآثَرَانِ: فَأَثَرُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَأَثَرُ فِي قَرِيبَةٍ مِنْ قَرَابَتِ اللَّهِ

7844- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا

مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا
الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ: مِثْلُ
رَبِيعَةٍ وَمُضَرٍّ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے دو نمازیں، دو روزے، دو نکاح، دو لباس اور
دو بیعتیں کرنے سے منع کیا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل دو قطرے اور دو اثر کو
سب چیزوں سے زیادہ پسند کرتا ہے: ایک اللہ کے خوف
سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی
راہ میں بہے اور دو اثر: ایک اثر اللہ کی راہ میں اور ایک اثر
اللہ کے فرضوں میں ایک فرض ادا کرنے کے لیے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایمان والے میری
شفاعت کی وجہ سے قبیلہ ربیعہ اور مضر جتنے داخل ہوں گے۔

7845- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعُ آيَاتٍ نَزَلْنَ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ، لَمْ يَنْزِلْ مِنْهُنَّ شَيْءٌ غَيْرُهُنَّ: أُمُّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (وَأِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٍ) (الزخرف: 4)، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَالْكَوْثَرُ

7846- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

7847- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يُجَلِّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

7845- ضعه شيخنا .

7846- كرر هذا الحديث في الأصل سندًا ومثلاً . ورواه الترمذی: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي أمامة . قال

شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 2 صفحہ 101 'وهو كما قال' وفي الوليد وشیخہ کلام لا ينزل حديثهما عن رتبة

الحسن' لا سيما وللحديث شاهدان ثم ذكرهما .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چار آیتیں عرش کے نیچے والے خزانہ سے اُتری ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں اُتری وہ سورہ فاتحہ ہے کیونکہ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا: ”بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی اور حکمت والا ہے“ آیہ الکرسی سورہ بقرہ اور سورہ کوثر۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ کر دے گا جس طرح کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو ہمارے بزرگوں کا احترام اور بچوں پر شفقت نہیں کرتا ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

7848- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى

الِدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ

الِدِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْوَلِيدِ

بْنِ جَمِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ،

فَإِذَا أَنَا بِخَشْفَةٍ بَيْنَ يَدَيَّ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا

جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا بِلَالُ الْمُؤَذِّنِ فَظَرْتُ،

فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ،

وَإِذَا أَقَلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْأَغْنِيَاءُ وَالنِّسَاءُ، قُلْتُ

لَهُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ

يُحْبَسُونَ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ يَحَاسِبُونَ

وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النِّسَاءُ، فَالْهَاهُنَ الْأَحْمَرَانِ

الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى أَبْوَابِ

الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، فَإِذَا بِالْمِيزَانِ، فَأَخَذَ كِفَّةً

فَوَضَعَ فِيهَا جَمِيعَ أُمَّتِي، وَجَعَلْتُ فِي الْكِفَّةِ

الْأُخْرَى، فَرَجَحَتْ بِهِمْ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ

أُمَّتِي رَجُلًا رَجُلًا، فَاسْتَبَطْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

عَوْفٍ، فَلَمَّا جَاءَ، قُلْتُ: مَا حَبَسَكَ؟ فَبَكَى

إِلَيَّ، وَبَكَيتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ

هُنَاكَ وَرَاءَ الْبَابِ أَحَاسِبُ وَأُمَحَّصُ حَتَّى

ظَنَنْتُ أَنِّي لَنْ أَرَاكَ، وَلَنْ تَرَانِي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرٍ

عبد الله بن علاء بن زبرد مشقي

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے کسی کی آواز سنی میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہے؟ عرض کی: یہ بلال مؤذن ہے میں نے دیکھا تو جنت میں اکثر کمزور اور مساکین تھے جنت میں مال دار اور عورتیں بہت کم تھیں میں نے کہا: اے جبریل! یہ کیا بات ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: مال دار جنت کے دروازے پر روک لیے گئے ہیں اور ان سے حساب لیا جا رہا ہے عورتوں کو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے کی بناء پر۔ پھر میں جنت کے آٹھویں دروازے کے پاس آیا وہاں میزان تھا ایک پلڑے میں مجھے اور دوسرے میں ساری اُمت کو رکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا پھر مجھ پر میری اُمت کا ایک ایک آدمی پیش کیا گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیر سے پیش کیا گیا جب یہ آئے تو میں نے کہا: آپ کو کیسے روکا گیا؟ آپ مجھے دیکھ کر رو پڑے میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا عرض کی: یا رسول اللہ! جنت کے دروازے کے باہر مجھے حساب کے لیے روک لیا گیا یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ مجھے نہیں دیکھیں گے اور میں آپ کو نہیں دیکھوں گا۔

حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ انصار کے بزرگوں کے پاس آئے، ان کی داڑھیاں سفید تھیں، آپ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! سرخ کرو اور زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7849- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عِرْقٍ الْجَمْعِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الدِّمَشْقِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشِيخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضَ لِحَاهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْاشِرَ الْأَنْصَارِ، حَمَرُوا وَصَفَرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! اہل کتاب نہ موزے پہنتے ہیں اور نہ نعلین۔ آپ ﷺ نے فرمایا: موزے پہنو اور نعلین بھی پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

7850- فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلُ الْكِتَابِ، لَا يَتَخَفُّونَ، وَلَا يَتَعَلُّونَ، فَقَالَ: تَخَفُّوا وَاتَّعَلُّوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! اہل کتاب سر کے بال کم رکھتے ہیں اور مونچھیں لمبی رکھتے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا: تم مونچھیں کاٹو اور سر کے بال بڑھاؤ۔

7851- قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْصُونَ عَثَانِيَهُمْ، وَيَطِيلُونَ سِبَالَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُوا سِبَالَكُمْ، وَاعْفُوا عَثَانِيَكُمْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں

7852- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

7849- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 264-265 قال في المجمع جلد 5 صفحہ 131 ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. قال شيخنا في حجاب المرأة المسلمة صفحہ 94 زيد بن يحيى ليس من رجال الصحيح فجعله منهم سهو. وحسنه الحافظ في الفتح جلد 10 صفحہ 354.

7852- ورواه ابن معين في التاريخ جلد 4 صفحہ 420 وابن ماجه رقم الحديث: 3856 والطحاوي في مشكل الآثار جلد 1 صفحہ 63 والفریابی في فضائل القرآن جلد 1 صفحہ 184 وتسام في الفوائد جلد 2 صفحہ 36 وأبو عبد الله

کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اسم اعظم وہ ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے وہ تین سورتوں میں ہے: سورہ بقرہ آل عمران اور طہ میں۔

التَّسْتَرِي، وَثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ
الْجَوْنِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي
إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي ثَلَاثِ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ:
فِي الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه

عیسیٰ بن سعید، حضرت قاسم سے
روایت کرتے ہیں

عِيسَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنِ الْقَاسِمِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات
کے ساتھ دعا کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری
شفاعت حلال ہوگی وہ یہ دعا ہے کہ ”اللّٰهُمَّ اعْطِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ اِلَى آخِرِهِ“۔

7853- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التَّسْتَرِي، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ،
عَنْ مَطْرَحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
عِيسَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا
بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِثْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَاجْعَلْهُ فِي الْمُصْطَفَيْنِ
مَحَبَّتَهُ، وَفِي الْعَالَمِينَ دَرَجَتَهُ، وَفِي الْمَقَرَّرِينَ
ذِكْرَ دَارِهِ

عیسیٰ بن سعید عن القاسم

ابن مروان القرشي في الفوائد (2/110/25) والحاكم جلد 1 صفحہ 506 والمصنف في مسند الشاميين رقم
الحديث: 778 كلهم من طريق عبد الله بن العلاء به . قال شيخنا في الصحيحة جلد 2 صفحہ 383 وهذا اسناد
حسن لان القاسم ثقة لكن في حفظه شيء . وعبد الله بن العلاء هو ابن زيد وهو ثقة وقد تابعه غيلان بن أنس .
7853- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 112 وفيه مطروح بن يزيد وهو ضعيف .

بِشْرُ أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ

بِشْرُ ابْنِ نَصْرٍ، حَضْرَتِ قَاسِمِ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو دنیا کی طمع میں سے کسی طمع پر قادر ہو وہ اس کو کرے اور اگر چاہے تو پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) جیسے چاہے گا موٹی آنکھوں والی حور سے اس کا نکاح کرے گا۔

7854- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيُّوبَ، صَاحِبُ الْمَغَازِي، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسَيْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّانٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ، أَخْبَرَنِي بِشْرُ أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَدِرَ عَلَى طَمَعٍ مِنْ طَمَعِ الدُّنْيَا فَأَدَّاهُ، وَلَوْ شَاءَ لَمْ يُؤَدِّهِ، زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ حَيْثُ شَاءَ

خالد بن ابوعمران مصری، حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی شفاعت کی اُس نے اسے ہدیہ دیا، اس نے قبول کیا تو وہ سود کے بڑے دروازے پر آیا۔

خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمِصْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ

7855- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيُّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهْيَعَةَ، ثنا غَيْثُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ

7854- لم يتكلم عليه في المعجم جلد 10 صفحہ 296۔ أبو المهلب هو مطروح بن يزيد وهو ضعيف وبشر أبو نصر مجهول. فالحديث ضعيف.

7855- رواه أحمد جلد 5 صفحہ 261 وأبو داؤد رقم الحديث: 3524 وهو حسن.

شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى أَبَا
عَظِيمًا مِنَ الرِّبَا

7856- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

الذِّمِّيَّ طَبِطَبِي، ثنا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، ثنا
ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ
الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ
مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ

عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي
أُمِيَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ

7857- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ

الْعُصْفَرِيُّ البَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الشَّهِيدِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُحَرِّكُ
شَفَتَيْ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟ قُلْتُ:
أَذْكُرُ اللَّهَ. قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ
مِنْ ذِكْرِكَ اللَّهَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ؟ تَقُولُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس
کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

عبد الکریم بن ابی امیہ حضرت قاسم
سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میرے دونوں ہونٹ حرکت
کر رہے تھے آپ نے فرمایا: اے ابوامامہ! کیا پڑھ رہے
ہو؟ میں نے عرض کی: میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں آپ نے
فرمایا: کیا میں تمہیں اس ذکر کے متعلق نہ بتاؤں جس کا
ثواب زیادہ ہے تیرے دن و رات کرنے سے تو پڑھ:
”الحمد لله عدد ما خلق الى آخره“ پھر اپنے بعد
والوں کو بھی سکھا دے۔

7856- فی بکر بن سهل کلام' وابن لهيعة ضعيف لأن الراوى عنه ليس من العبادلة .

7857- قال فی المجموع جلد 10 صفحہ 93 'وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس . قلت: صرح بالتحديث . قلت: بل هو

خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ اللَّهُ مِثْلَهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: تَعْلَمُهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ

بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ،

عَنِ الْقَاسِمِ

بشر بن نمیر، حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں

7858- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسْلِمٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرَّغَبِ مِنْ مَسِيرِ شَهْرٍ، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَيْبُضٍ وَأَسْوَدٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْفَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا

7859- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيِّ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے چار چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں، میری ایک ماہ کی مسافت سے رعب سے مدد کی گئی ہے، مجھے ہر سفید اور کالے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا اور میرے لیے روئے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنی جان اور اپنی اولاد و بیوی پر خرچ کیا اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔

نَفَقَةً عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ
وَعَلَى وَلَدِهِ

7860- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو

الْعُكْبَرِيُّ، ثنا عَسَّانُ بْنُ الْفَضْلِ الْغَلَابِيُّ، ثنا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ بَشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ،
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَجْهَرُ
بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي
يُخْفِي الْقُرْآنَ كَالَّذِي يُخْفِي الصَّدَقَةَ

7861- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ

حَاجِبِ الْأَنْطَاكِيِّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، ثنا
أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَّازِيُّ، عَنْ بَشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ
خَيْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّا مُصِيبُكُمْ، فَاضْطَرُّوا وَتَقَوُّوا

7862- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسَيْرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ، ثنا الْمُسَيْبُ
بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ بَشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا
ظِلُّهُ: رَجُلٌ حَيْثُ تَوَجَّهَ عِلْمٌ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو جہراً قرآن پڑھتا ہے اُسے جہراً
صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے
اُس کو چھپا کر صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر
کا جہاد تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا: میں ان کے پاس صبح
کروں گا وہ مجبور ہو جائیں گے اور ڈر جائیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کو اللہ کی رحمت کا سایہ
ملے گا (۱) وہ آدمی جو جس طرف بھی چلا اس نے یقین کیا
کہ اللہ اس کے ساتھ ہے (۲) وہ آدمی جس کو کسی اجنبی
عورت نے (خواہش پوری کرنے کی) دعوت دی لیکن اللہ
سے ڈرتے ہوئے اُس نے اسے چھوڑ دیا (۳) وہ آدمی

7860- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 266 فيه بشر بن نمير وهو متروك .

7861- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 160 وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف .

7862- قال في المجموع جلد 10 صفحہ 279 وفيه بشر بن نمير وهو متروك .

جس نے اللہ کی بزرگی میں پیار کیا۔

وَرَجُلٌ دَعَا أَمْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا فَتَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ أَحَبَّ بِجَلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اہل جنت زمینوں والی جنتی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے پس علیین والے اپنے سے نیچے والوں سے ملاقات کو آئیں گے اور جوان سے نیچے ہوں گے وہ اوپر والوں کی ملاقات صرف اللہ کی محبت میں کریں گے کیونکہ جنتی جہاں چاہیں گے ان کو جنت کے اس حصے میں ملاقات کو جانے کی اجازت ہوگی۔

7863- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا الْمُسَيْبُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ بَشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى نُوقٍ عَلَيْهَا الْحَشَايَا، فَيُزَوِّرُ أَهْلُ عِلِّيِّينَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، وَلَا يُزَوِّرُ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ أَهْلُ عِلِّيِّينَ إِلَّا الْمُتَحَابِّينَ لِي اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے قرض لیا اور اس کے دل میں پورا کرنے کا ارادہ ہے لیکن وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور جیسے چاہے گا اس کے قرض خواہ راضی کرے گا اور جس نے قرض لیا اور پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے پس وہ مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے قرض خواہوں کو بدلہ دلوائے گا۔

7864- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ بَشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَايَنَ بَدَيْنِ، وَفِي نَفْسِهِ وَقَاؤُهُ، فَمَاتَ تَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ، وَمَنْ دَايَنَ بَدَيْنِ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَقَاؤُهُ، فَمَاتَ، اقْتَصَّ اللَّهُ لَغَرِيمِهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

7863- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 279 وفيه بشر بن نمير وهو متروك .

7864- ورواه الحاكم جلد 2 صفحہ 23 قال الذهبي: وبشر متروك . وقال المنذرى في الترغيب جلد 4 صفحہ 53 وهو

7865- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ

الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ، عَنْ بَشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَرْبَعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَاقٍ،

وَمَنَانٍ، وَمُدْمِنٌ خَمْرٍ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ

7866- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ

الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ، عَنْ بَشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
خُذُوا مِنَ الْعِبَادَةِ مَا تَطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأَمُ
حَتَّى تَسْأَمُوا

جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ،

عَنِ الْقَاسِمِ

7867- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ

الشَّيْرَازِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللَّهُ
الْخَلْقَ، وَقَضَى الْقَضِيَّةَ، وَأَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: چار بندے ایسے ہیں جن کی طرف
قیامت کے دن اللہ نظر نہ فرمائے گا: (۱) والدین کا نافرمان
(۲) احسان جتلانے والا (۳) عادی شرابی (۴) تقدیر کو
جھٹلانے والا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اتنی عبادت کرو جتنی تم طاقت رکھتے
ہو کیونکہ اللہ نہیں تھکتا ہے تم تھک جاتے ہو۔

جعفر بن زبیر، حضرت قاسم سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے مخلوق کو پیدا کیا اور
فیصلہ کیا اور نبیوں سے پختہ وعدہ لیا اس وقت اس کا عرش
پانی پر تھا جنت والے جنت والے ہیں اور جہنم والے جہنم
والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! پھر اعمال

7865- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 206 وفيه بشر بن نمير وهو متروك .

7866- قال في المجموع فيه بشر بن نمير ضعيف . قلت له شاهد من حديث عائشة في الصحيح .

7867- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 189 وفيه جعفر بن زبير وهو ضعيف ورواه في الأوسط (382 مجمع البحرين)

مطولا وفي اسنادہ سالم بن سالم وهو ضعيف .

کس لیے ہیں؟ فرمایا: ہر گروہ اپنی منزل کیلئے عمل کرتا ہے۔
پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے
رسول! پھر تو ہم خوب محنت سے عمل کریں۔

وَعَرُسُهُ عَلَى الْمَاءِ، فَأَهْلَ الْجَنَّةِ أَهْلُهَا وَأَهْلُ
النَّارِ أَهْلُهَا. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فِيمَ الْأَعْمَالُ؟
قَالَ: يَعْمَلُ كُلُّ قَوْمٍ لِمَنْزِلَتِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ: إِذَا نَجَّهْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے
کے ساتھ ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرا اس کو
ایمان کا حلقہ پہنایا جاتا ہے تیسرا اس کو اختیار دیا جاتا ہے
کہ جس موٹی آنکھوں والی حور سے چاہے شادی کرے۔

7868- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ
الْبُسَيْرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ
تَقْطُرُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ تُكَفِّرُ بِهَا ذُنُوبَهُ، وَالثَّانِيَةُ
يُكْسَى حُلَّ الْإِيمَانِ، وَالثَّالِثَةُ يُزَوَّجُ مِنَ الْخُورِ
الْعَيْنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: مؤذن کی آواز لمبی ہونے کی حد
تک اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کا اجر ان سب
لوگوں کے برابر ہوگا جو اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔

7869- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ
الْبُسَيْرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَأَجْرُهُ
مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا
اور قضیہ کا فیصلہ فرمایا تو دائیں ہاتھ والوں کو اپنے دائیں
ہاتھ سے پکڑا اور بائیں ہاتھ والوں کو بائیں سے۔ فرمایا:

7870- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا
عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ

7868- قال في المجموع جلد 5 صفحہ 293 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

7869- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 326 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

7870- فيه جعفر بن الزبير أيضا .

اے دائیں ہاتھ والو! انہوں نے عرض کی: حاضر ہیں اور سعادت تیری طرف سے۔ فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کی: کیوں نہیں! فرمایا: اے بائیں طرف والو! انہوں نے عرض کی: حاضر ہیں اور سعادت تجھ سے ہے۔ فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! پھر ان سب کو ملا دیا! پس کسی کہنے والے نے عرض کی: اے میرے رب! تو نے ان کو ملا کیوں دیا؟ فرمایا: ان کے اعمال اس کے مخالف ہیں جو وہ عمل کرنے والے ہیں قیامت کے دن کہیں گے: ہم اس سے غافل رہے پھر ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں لوٹا دیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر فرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے! اگر نفل پڑھے گا تو ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: عرض کی: میں نے نماز کے دوران اپنے ذکر کو چھوڑا ہے آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے وہ تیرے جسم کا حصہ ہے۔

وَجَلَّ الْخَلْقَ، وَقَضَى الْقَضِيَّةَ أَخَذَ أَهْلَ الْيَمِينِ بِيَمِينِهِ، وَأَهْلَ الشِّمَالِ بِشِمَالِهِ. فَقَالَ: يَا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، قَالُوا: لَكَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: يَا أَصْحَابَ الشِّمَالِ قَالُوا: لَكَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، ثُمَّ خَلَطَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَبِّ لِمَ خَلَطْتَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: لَهُمْ أَغْمَسَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ، هُمْ لَهَا عَامِلُونَ أَنْ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، ثُمَّ رَدَّاهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ

7871 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَحَاجَةٍ، وَإِنْ صَلَّى تَطَوُّعًا كَانَتْ لَهُ كَعُمْرَةٍ

7872 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَسِسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا أَصْلِي،
فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُوَ جَذِيَّةٌ مِنْكَ

7873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: يَقُومُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لِأَخِيهِ إِلَّا بَنِي
هَاشِمٍ لَا يَقُومُونَ لِأَحَدٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی اپنی جگہ سے اپنے بھائی کے
لیے اٹھے جبکہ وہ بنی ہاشم سے ہو اس کے علاوہ اور کسی کے
لیے نہ اٹھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ سے ”فرش المرفوعة“ کے متعلق پوچھا
گیا آپ نے فرمایا: فراش کو اوپر سے پھینکا جائے تو نیچے
سوسال تک گرتا رہے گا۔

7874- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْجَلِّيُّ،
ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفُرْشِ الْمَرْفُوعَةِ، فَقَالَ: لَوْ
طُرِحَ فِرَاشٌ مِنْ أَغْلَاهَا لَهَوَى إِلَى قَرَارِهَا مِائَةً
خَرِيفٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ آرام کرتے تو آپ کے خرائے بھرنے کی
آواز آتی پھر فرمایا: وضو اس پر ہے جو پہلو کے بل لیٹے

7875- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِلْيَ الْقَاضِي
الْحِمَصِيُّ، ثنا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، ثنا عَطَاءُ
بْنُ جَبَلَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ،

7873- قال في المجموع جلد 8 صفحہ 40 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك . قلت قال شيخنا في الضعيفة جلد 1
صفحہ 350 موضوع ورواه أبو جعفر في سنة مجالس من الأمالي فراجعہ .

7874- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 120 فيه جعفر بن الزبير الحنفی وهو ضعيف . قلت: قال شيخنا في سلسلة
الصحيحة جلد 1 صفحہ 350 بل كذاب وضاع ولذلك كذبه شعبه وقال وضع على رسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلم أربع منة حديث .

7875- قال في المجموع جلد 1 صفحہ 248 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

(اور سو جائے۔)

عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَالَ: الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ اضْطَجَعَ

7876- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا

حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ إِذَا نَامَ دِينًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اسْتَدَانَ دِينًا، وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَمَاتَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَخْذُ لِعَبْدِي حَقَّهُ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُجْعَلُ فِي حَسَنَاتِ الْآخِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخِرِ فَيُجْعَلَتْ عَلَيْهِ

7877- حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ

مَاسِغَمَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى صَاحِبَ الدِّينِ بِمَا شَاءَ، وَعِنْدَ اللَّهِ رِضَاهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو قرض لینا ہے ادا کرنے کی نیت سے تو اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا قیامت کے دن جس نے قرض ادا نہ کیا ہوا اور وہ مر گیا تو اللہ عزوجل روز قیامت فرمائے گا: میرا خیال تھا کہ میں اپنے بندہ کا حق نہ لوں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، دوسرے بندے کے اعمال میں رکھ دی جائیں گی اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیئے جائیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کے ذمہ قرض ہو اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو وہ اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی شی نہ چھوڑے اور مر جائے تو اللہ عزوجل اس سے درگزر کرے گا اور قرض لینے والے کو راضی کرے گا جس طرح جائے گا اور اللہ کے پاس اس کیلئے خوشی ہوگی۔

7878- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَسْرٍ بِنِ

حَبِيبِ الْبَيْرُوتِيِّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الِدِمَشْقِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ
حُمَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَأْتِيَ أَخَاهُ، فَيَسْأَلَهُ
قَرْضًا وَهُوَ يَجِدُهُ فَيَمْنَعُ

7879- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُمُعَةُ عَلَى الْخَمْسِينَ رَجُلًا،
وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ

7880- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

7881- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: کسی بندہ کے لیے مناسب نہیں ہے
کہ اُس سے اس کا بھائی قرض مانگے اور اس کے پاس
دینے کے لیے ہو تو وہ منع نہ کرے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جمعہ پچاس آدمیوں پر ہے پچاس
سے کم پر نہیں ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ انگوشی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: نقلی روزہ رکھنے والے کو نصف نہار

7878- قال في المعجم جلد 4 صفحہ 126 وفيه جعفر بن الزبير الحنفى وهو متروك .

7879- قال في المعجم جلد 2 صفحہ 176 وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدًا .

7880- قال في المعجم جلد 5 صفحہ 153 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

7881- ورواه البيهقي جلد 4 صفحہ 278 على بن غراب مدلس وجعفر تقدم الكلام فيه .

تک اختیار ہے (کہ اگر چاہے تو روزے کی نیت کر لے
اگر چاہے تو نہ کرے رات کے وقت نیت ضروری نہیں
ہے)۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ
میں داخل ہو تو غسل فرض ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ سے پوچھا گیا: کیا جنت والے ایک دوسرے
کی زیارت کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اوپر والے
نیچے والوں کی زیارت کریں گے لیکن نیچے والے اوپر
والوں کی زیارت نہیں کریں گے مگر وہ جو اللہ کی رضا کے
لیے محبت کرتے ہوں گے وہ ان کے پاس آئیں گے
جہاں جائیں گے ان اونٹنیوں پر جن پر زینیں سجائی گئی ہوں
گی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے اس آیت ”وہ اس میں کئی ہتھ رہیں
گے“ کی تفسیر بیان کی فرمایا: ایک ہتھ سے مراد تیس ہزار

عَرَاب، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِلَى
نِصْفِ النَّهَارِ

7882 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا وَكَيْعٌ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِطَانُ الْخِطَانَ
وَجَبَ الْغُسْلُ

7883 - حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ،
ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سِئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، أَيَتَزَوَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: يَزُورُ الْأَعْلَى
الْأَسْفَلَ، وَلَا يَزُورُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى إِلَّا الَّذِينَ
يَتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَأْتُونَ مِنْهَا حَيْثُ
شَاءُوا عَلَى الثُّوقِ مُحْتَقِبِينَ الْحَشَايَا

7884 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلِمَانَ
الْحَرَمِيُّ، الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ
الْحَلَبِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

7882 - قال في المعجم جلد 1 صفحه 267 وفيه جعفر بن الزبير عن القاسم وكلاهما ضعيف .

7883 - وفيه جعفر بن الزبير وتقدم الكلام فيه .

7884 - قال في المعجم جلد 7 صفحه 133 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

سال ہیں۔

الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَتَيْنِ فِيهَا أَحْقَابًا) (النبأ: 23) الْحَقْبُ الْوَاحِدُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ سَنَةٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس کنود کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا: کنود وہ ہے جو اکیلا کھاتا ہے اور کھلانے سے روکتا ہے اور اپنے غلام کو مارتا ہے۔

7885- حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ مَاعِظَةً، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْكُنُودُ قَالَ: الْكُنُودُ الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تیمم میں ایک ضرب چہرے اور ایک دونوں ہتھیلیوں کے لیے ہے۔

7886- حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ مَاعِظَةً، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التِّسْمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے قبلہ کی جانب تھوکا اور اسے صاف نہ کیا تو وہ قیامت کے دن پکھلی ہوئی چربی بن کر آئے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان چمٹ

7887- حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ مَاعِظَةً، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

7885- قال في المجموع جلد 7 صفحہ 142 فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

7886- قال في المجموع جلد 1 صفحہ 262 وفيه جعفر بن الزبير قال شعبة فيه وضع أربع مئة حديث .

7887- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 19 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَرَّقَ فِي قِبَلَتِهِ،
وَلَمْ يُوَارِهَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَامًا تَكُونُ
حَتَّى تَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو حدیث بیان کرے جس طرح
اسے سنا ہوا اگر درست اور سچ ہے تو اس کا تجھے ثواب ہے
اور اگر جھوٹ ہے تو اس کے ذمہ گناہ ہے جس نے سب
سے پہلے اسے بیان کیا۔

7888- حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ،
ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا كَمَا سَمِعَ،
فَإِنْ كَانَ بَرًّا وَصِدْقًا فَلَكَ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا
فَعَلَى مَنْ بَدَأَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو
پسند کرتا ہے۔

7889- حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ،
ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو حلقہ کی گردنیں پھلانگے ان کی
اجازت کے بغیر وہ گناہ گار ہے۔

7890- حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ،
ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَخَطَّى حَلَقَةَ قَوْمٍ بِغَيْرِ
إِذْنِهِمْ فَهُوَ عَاصٍ

7888- قال في المجموع جلد 1 صفحہ 154 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

7889- قال في المجموع جلد 5 صفحہ 134 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك .

7890- قال في المجموع جلد 8 صفحہ 63 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك .

7891- حَدَّثَنَا عَلَانُ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَجِعُوا حَرَائِبِنَ، وَحَتَّى يَعْبُدَ الرَّجُلُ إِلَى النِّبْطِيَّةِ فَيَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَعِيشَتِهِ، وَيَتْرَكَ بِنْتَ عَمِّهِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا

7892- حَدَّثَنَا عَلَانُ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنْ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِيَ السُّوقَ، فَيَتَّاعُ الْقَمِيصَ يَنْصِفُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثِ دِينَارٍ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ إِذَا لَبَسَهُ، فَلَا يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ

7893- حَدَّثَنَا عَلَانُ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَلُوا اللَّهَ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهَا سِرَّةُ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ أَهْلَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دو جنگیں نہ ہوں، ایک آدمی نبطیہ کی طرف جائے گا، وہ آدمی شادی مال داری کی بناء پر کرے گا، اپنی چچا زاد کو چھوڑے گا اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت سے جو بازار میں آئے قمیص نصف دینار یا تہائی دینار کی خریدے، جب اسے پہنے تو اللہ کی حمد کرے وہ قمیص اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچی ہوگی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل سے جنت الفردوس مانگو کیونکہ یہ عمدہ و افضل جنت ہے اور فردوس والے عرش کی آوازیں گے۔

7891- قال في المعجم جلد 4 صفحہ 260 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

7892- قال في المعجم جلد 5 صفحہ 119 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك . وحكم شيخنا بوضعه .

7893- قال في المعجم جلد 10 صفحہ 398 وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك . ورواه الحاكم جلد 2 صفحہ 37 وقال: هذا

حديث لم نكتبه الا من هذا الاسناد ولم نجد جديداً من اخر اوجه . فتعقبه الذهبي بقوله: جعفر هالك . ولكن لعله

شاهد من حديث العرياض بن سارية .

الْفَرْدُوسِ لَيْسَمُونَ أَطِيطَ الْعَرْشِ

7894- حَدَّثَنَا عَلَانُ، ثنا عُمَرُ بْنُ

مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ

الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ

7895- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ

سَهْلٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ
عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنَّ
الْمَسَاكِينَ صَدَقُوا مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ

7896- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمٍ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكَيْتَيْنِ عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمَ كَانَتْهَا زَرْعٌ
هَاجٍ، وَاحْمَرَّتْ تَخْفُقُ أَبْوَابُهَا

7897- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ

الْعُصْفَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اگر مساکین جھوٹ نہ بولتے تو ان
کو خالی لوٹاتا وہ فلاح نہ پاتا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اگر مساکین سچ بولیں تو ان کو خالی
لوٹانے والا کبھی کامیاب نہ ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جہنم والوں پر ایسا دن ضرور آئے گا
گویا کہ کھیتی پکی اور سرخ ہو اور ان کے دروازے کھلتے
ہوں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اگر انسان کے پاس مال کی دو

7894- قال في المجمع جلد 3 صفحہ 12 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف . وانظر تعليقنا على مسند الشهاب رقم

الحديث: 1428 .

7896- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 360 وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

7897- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 244 وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب .

وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا مال تو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہے انسان کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی اللہ توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔

السَّوَّاقُ الْعَبْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ لَتَمَنَّى وَادِيَا ثَلَاثًا، وَمَا جُعِلَ الْمَالُ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَا يُشْبِعُ ابْنُ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دائیں طرف والا، بائیں طرف والے پر امین ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب گناہ کرتا ہے اور بائیں طرف والا لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے: رک جا! وہ رک جاتا ہے اگر اللہ سے بخشش مانگے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے اگر بخشش نہ مانگے تو اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔

7898- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ الْعَبْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَاحِبُ الْيَمِينِ أَمِينٌ عَلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ حَسَنَةً كَتَبَهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً، وَأَرَادَ صَاحِبُ الشِّمَالِ أَنْ يَكْتُبَهَا قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْيَمِينِ: أَمْسِكْ عَنْهَا، فَيُمْسِكُ عَنْهَا، فَإِنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ لَمْ يَكْتُبْ، وَإِنْ سَكَتَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں ہے۔

7899- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

7900- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا يَسْتَقِظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَذَاهُ حَرُّ الشَّمْسِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَقِظَ مَكثُوا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَدَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

7901- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْعَمِّيُّ

النَّحَّاسُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّي، وَأَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلِّ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَحَدٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ جَمَاعَةٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ نے ساتھ ایک سفر میں تھے رسول اللہ ﷺ جاگے یہاں تک کہ سورج کی تپش آپ کے دونوں آندھوں کے درمیان پڑی جب آپ اٹھے تو آپ ٹھہرے نماز کے لیے اقامت پڑھی آپ آگے ہوئے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سو جائے تو اس کی نیند اس پر غالب آجائے تو وہ اس طرح کرے کیونکہ جب نفس سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک قسم کی موت دے دیتا ہے اور بعض پر ان کی نیند میں موت نہیں آتی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی حضور ﷺ نے اس کو فرمایا: تو نماز پڑھا پھر فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس پر صدقہ کرے گا؟ اس کے ساتھ نماز پڑھ کر! ایک آدمی کھڑا ہوا اُس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور ﷺ نے فرمایا: یہ جماعت ہے۔

ثنی بن صباح، حضرت قاسم
ابوعبدالرحمن سے روایت

المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ،
عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي

عَبْدُ الرَّحْمَنِ

کرتے ہیں

7902- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، أَنَّ مَوْلَاهُ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَاشِمٍ أَجْلَسَتْهُ فِي السِّتْرِ بِدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَضَمَضَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَشْرَخَرَجَتْ مِنْ أَنْفِهِ، فَكَذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ الْقَدَمَيْنِ، فَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ كَانَتْ كَحَبَّةٍ مَبْرُورَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ كَانَتْ كَعُمُرَةٍ مَبْرُورَةٍ

عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ،

عَنِ الْقَاسِمِ

7903- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ

خَلْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ

حضرت قاسم شامی سے روایت ہے کہ ام ہاشم نامی ان کی ایک آقا تھیں وہ پردے میں قلم دوات دے کر ان کو بٹھاتی تھیں۔ اور ابوامامہ کی طرف ایک حدیث پوچھنے کے لیے آدمی بھیجا جو انہوں نے رسول کریم ﷺ سے وضو کے بارے سنی تھی انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو آدمی وضو کیلئے کھڑا ہوا اس نے ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں سے خطائیں نکل گئیں۔ پس جب کھٹی کی تو منہ سے خطائیں ختم ہو گئیں جب ناک میں پانی ڈالا تو ناک سے نکل گئیں پس اسی طرح حتیٰ کہ وہ پاؤں دھوئے پس اگر فرض نماز کی طرف نکلا تو فرض نماز مقبول حج کی طرح ہوگی اور اگر نفل نماز کی طرف کیا تو نفل نماز عمرے کی طرح ہوگا۔

عتبہ بن حمید حضرت قاسم سے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اس نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا: صدقہ دینے کا ثواب دس گنا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے قرض دینے کا دس گنا ثواب ہے۔

الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا، وَالْقَرَضُ بِمِثْلِهِ عَشْرٌ

عمر بن موسیٰ بن وجیہ، حضرت قاسم
سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے قرآن میں (چل کر کھلے بندوں)
کھانا عیب ہے۔

عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ
وَجِيهٍ، عَنِ الْقَاسِمِ

7904- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، ثنا أَبِي أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
سُلَيْمَانَ لَوْثٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ
بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَكْلُ فِي
السُّوقِ ذَنَاءٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف
کے قلعہ سے ایک غلام ملا اس کا آقا آیا اس نے عرض کی:
یا رسول اللہ! میرا غلام واپس کریں! آپ ﷺ نے فرمایا:
غلام جب اپنے آقا سے پہلے اسلام لے آئے تو اس کو
واپس نہیں کیا جاتا ہے اگر آقا اسلام لے آئے اور پھر غلام
اسلام لائے تو اس کو دیا جاتا ہے۔

7905- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ،
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، ثَنَا عُمَرُ
بْنُ مُوسَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:
تَدَلَّى عَبْدٌ مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ، فَجَاءَ مَوْلَاهُ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُدَّ عَلَيَّ غُلَامِي، فَقَالَ:
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْلَاهُ لَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ، وَإِذَا
أَسْلَمَ الْمَوْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ

سعید بن عبد اللہ ادوی، حضرت

سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ،

7904- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 25 وفيه عمر بن موسى بن وجیه وهو طعيف . وما بين المعكوفين من رواية
فاطمة .

7905- قال في المجمع جلد 3 صفحہ 246 وفيه عمر بن موسى بن وجیه وهو متروك .

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

7906- حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ
 الْخَوْلَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ
 الْجُمَيْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
 كَبِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ:
 شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا
 مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ
 أَحَدٌ مِنْ إِبْرَائِيلَ، فَسَوِّتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ،
 فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا
 فَلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ
 يَقُولُ: يَا فَلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعًا،
 ثُمَّ يَقُولُ: يَا فَلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ:
 أَرْشَدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ -
 فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا
 شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ
 دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ

حضرت سعد بن عبد اللہ اودی فرماتے ہیں کہ میں
 حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے نزاع کے وقت حاضر تھا۔
 پس انہوں نے فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے
 ساتھ ایسے ہی کرنا جیسے رسول کریم ﷺ کا حکم ہے کہ ہم
 اپنے مردوں کے ساتھ کریں۔ رسول کریم ﷺ نے ہمیں
 حکم دیا فرمایا: جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو
 جائے اور اس کی قبر پر تم مٹی برابر کر لو تو تم میں سے ایک اس
 کی قبر کے سر ہانے کھڑا ہو کر کہے: اے فلاں بن فلاں!
 (یعنی اس کا اور اس کی ماں کا نام لے) کیونکہ وہ سنتا ہے
 لیکن جواب نہیں دیتا ہے پھر کہے: اے فلاں بن فلاں! وہ
 اٹھ کر بیٹھ جائے گا پھر کہے: اے فلاں بن فلاں! تو وہ کہے
 گا: ہماری راہنمائی کرو! اللہ آپ پر رحم کرے! لیکن تم اس
 بات کا شعور نہیں رکھتے پس اسے چاہیے کہ وہ کہے: اس
 دین اور کلمہ کو یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا ہے مثلاً گواہی کہ
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور
 رسول ہیں اور اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے
 پر محمد ﷺ کے نبی ہونے پر اور قرآن کے پیشوا ہونے پر
 تو راضی تھا۔ پس منکر نکیر میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ
 پکڑ کر کہے گا: آؤ چلیں! جس کو اس کی دلیل سکھادی گئی، ہم

7906- قال في المجمع جلد 3 صفحہ 45 وفي اسنادہ جماعة لم أعرفهم . قلت: وقال ابن القيم في زاد المعاد جلد 1

صفحہ 523 فهذا حديث رفعه لا يصح رفعه . وضعفه النووي وغيره . وقال ابن القيم شرح تهذيب السنن جلد 13

صفحہ 293 هذا الحديث متفق على ضعفه . وقال الحافظ في تخريج أحاديث الأذكار: حديث غريب وسند

الحديث من الطريقين ضعيف جدًا . كما في شرح الأذكار جلد 4 صفحہ 196 لابن علان .

اس کے پاس نہ بیٹھیں گے۔ پس ان دونوں کے سامنے ایسے ہی ہوگا کہ اللہ اس کو جواب سکھا رہا ہے۔ پس ایک آدمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر تلقین کرنے والے کو اس ماں کا نام یاد نہ ہو؟ فرمایا: حضرت حوا کی طرف اس کی نسبت کر کے کہیں: اے فلاں بن حوا۔

اسماعیل الشامی، ان کا نسب معلوم نہیں ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس کے اور رب کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں وہ اٹھ دیئے جاتے ہیں اور حورالعین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک ناک صاف نہ کرے۔

مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لَقِنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللَّهُ حَاجِبَهُ ذُوْنَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمُّهُ؟ قَالَ: فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَاءَ، يَا فَلَانُ بْنُ حَوَاءَ

إِسْمَاعِيلُ الشَّامِيُّ
لَمْ يُنْسَبْ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ

7907- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَدُّوعِيُّ الْقَاضِي، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَعْدَرِيُّ، ثنا طَرِيفُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو غَالِبٍ، ثنا حَاجُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَكُشِفَتْ لَهُ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَاسْتَقْبَلَتْهُ الْحُورُ الْعِينُ، مَا لَمْ يَمْتَحِطْ أَوْ يَتَخَفَّ

مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَزْرِيُّ، مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَزْرِيُّ،

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

7908- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثنا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ
وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ، يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ مِنْ
ظَاهِرِهِ

الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7909- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ:
اللَّهُمَّ، اهْدِنِي لَصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ،
فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لَصَالِحِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَصْرِفُ
سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بدھ
جمعرات جمعہ کے روزے رکھے تو اللہ عزوجل اس کے لیے
جنت میں گھر بنائے گا جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور
باہر والا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔

زبیر بن خریق، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
حضور ﷺ نے قریب بیٹھا ہوا تھا میں نے آپ ﷺ کو
یہ دعا کرتے ہوئے سنا: ”اللھم اھدنی لصالح
الاعمال والاخلاق الی آخرہ“۔

جو اہل کوفہ میں سے ہے جو حضرت
ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں
حضرت سالم بن ابوالجعد حضرت
ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی منہ کی گھی کرتا
ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب چہرہ
دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں
جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گناہ معاف ہو
جاتے ہیں جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی اُن کے پاس آیا اس
نے کہا: ابو امامہ دیکھو کہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ ہم رسول
اللہ ﷺ کے پاس رہے ہیں ہم نے آپ ﷺ سے نہیں
سنا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ
نے کہا: اگر میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک یا دو مرتبہ سنا
ہوتا تو میں بیان نہ کرتا۔

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی منہ کی گھی کرتا

مَنْ رَوَى، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ
الْبَاهِلِيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ
سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7910- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقُرَاطِيُّ،
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا مَضَمَضَ أَحَدُكُمْ فَاةً، حُطَّ مَا أَصَابَ بِفِيهِ،
وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ حُطَّ مَا أَصَابَ وَجْهَهُ، وَإِذَا
غَسَلَ يَدَيْهِ حُطَّ مَا أَصَابَ بِيَدِهِ، وَإِذَا غَسَلَ
رِجْلَيْهِ حُطَّ مَا أَصَابَ بِرِجْلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ
ذَلِكَ: انْظُرْ مَا تَحَدِّثُ يَا أَبَا أَمَامَةَ صَحِبْنَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا سَمِعْنَاهُ
يَقُولُ مَا تَقُولُ، فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ
إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَحَدِّثْ بِهِ

7911- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ
يَحْيَى الرَّقِيُّ، ثَنَا أَبُو فَرَوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

مَنْ رَوَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الرَّهَاطِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ يَمْسُحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ

7912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهَا صَبِيَانُ لَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُنَّ. فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ تَمْرَةً وَأُمْسَكَتْ وَاحِدَةً، فَبَكَى صَبِيَانَهَا. فَأَخَذَتْ تِلْكَ التَّمْرَةَ، فَشَقَّتْهَا نِصْفَيْنِ،

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ﷺ کے پاس آئی اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے حضور ﷺ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو ان کے پاس صرف تین کھجوریں تھیں آپ نے وہ انہیں دیں تو اُس عورت نے ہر بچہ کو ایک کھجور دی اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی اس کے بچے رونے لگے تو اس نے وہ کھجور پکڑی اور اس کے دو حصے کیے اور دونوں بچوں کو آدھی آدھی دے دی حضور ﷺ نے فرمایا: حاملہ اور دودھ پلانے والی اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے اگر یہ شوہروں کو تنگ نہ کرتی ہوتیں تو یہ جنت میں داخل ہو جاتیں۔

فَأَعْطَتْ هَذَا نِصْفًا وَهَذَا نِصْفًا. فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَامِلَاتُ وَالِدَاتِ
مُرْضِعَاتٍ رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْلَا مَا يَأْتِيَن
إِلَى أَرْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصْلِيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

7913- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَابٍ

الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ، ثنا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ بْنُ أَبِي
الْجَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا صَبِيَّانَ لَهَا
صَبِيٌّ تَرْضِعُهُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُعْطِيهَا حَتَّى
أَصَابَ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ،
فَأَعْطَتْ هَذَا وَاحِدًا، وَهَذَا وَاحِدًا، وَأَمْسَكَتْ
تَمْرَةً، فَبَكَى أَحَدُ الصَّبِيِّينَ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ
نِصْفَيْنِ، فَأَعْطَتْ هَذَا نِصْفًا وَهَذَا نِصْفًا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَامِلَاتُ
وَالِدَاتِ مُرْضِعَاتٍ، رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ، لَوْلَا
مَا يَأْتِيَن إِلَى أَرْوَاجِهِنَّ لَدَخَلَ مُصْلِيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

7914- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
عورت حضور ﷺ کے پاس آئی اس کے ساتھ اس کے دو
بچے بھی تھے حضور ﷺ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو
ان کے پاس صرف تین کھجوریں تھیں آپ نے وہ انہیں
دیں تو اس عورت نے ہر بچہ کو ایک کھجور دی اور ایک کھجور
اپنے لیے رکھ لی اس کے بچے رونے لگے تو اس نے وہ
کھجور پکڑ لی اور اس کے دو حصے کیے اور دونوں بچوں کو آدھی
آدھی دے دی حضور ﷺ نے فرمایا: حاملہ اور دودھ
پلانے والی اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے اگر یہ شوہروں کو
ٹنک نہ کرتی ہوتیں تو یہ جنت میں داخل ہو جاتیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

7914- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 93 وفيه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي وقد نسب الى الكذب روثقه ابن

حبان وقال: يخطئ ويخالف وبقي رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله. ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 246 عن

هشام بن عبد الملك عن أبي عوانة عن حصين بن فاعلة الانقطاع بين سالم وأبي أمامة. قال في المجمع: ورجالہ

رجال الصحيح. وهذا لا يعني أنه صحيح.

حضور ﷺ نے فرمایا: ”الحمد لله عدد ما خلق الله الى آخره“۔

حَبِيبٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَخْصَى كِتَابَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ.

عَامِرُ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7915- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَارُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَزَّازُ، ثنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

فِطْرًا، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ

7916- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَضِرِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا

عامر الشعمي، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔

فطر، حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس

7915- قال في المجموع جلد 1 صفحہ 167 'وفيه على ابن أبي طالب البزاز ضعفه يحيى بن معين وابن عدى .

7916- قال في المجموع جلد 1 صفحہ 230 'رواه الطبرانی في الكبير من طريق سميع عنه واستاده حسن وسميع ذكره ابن

حبان في الثقات جلد 4 صفحہ 342 'وقال لا أدري من هو ولا ابن من هو .

اچانک ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کے بچے تھے بعض کو اٹھائے ہوئے تھی اور بعض اس کے ساتھ چل رہے تھے اس نے حضور ﷺ سے کچھ مانگا اس نے کوئی شی بھی مانگی اس کو دی گئی وہ چلنے لگی حضور ﷺ نے فرمایا: حاملہ اور دودھ پلانے والیاں اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہیں اگر اپنے شوہروں کو تنگ نہ کرتی ہوں تو ان کی نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں۔

يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكَاسَعُونِيُّ، ثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ فِطْرِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، إِذْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا وَلَدُهَا تَحْمِلُ بَعْضُهُمْ، وَيَمْشِي بَعْضُهُمْ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَسْأَلْهُ يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاَهَا لَهَا، فَطَلَعَتْ تَمْشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ، لَوْلَا مَا يَأْتِيَنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصْلِيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

سمیع الزیات حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے وضو کیا اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور تین مرتبہ گئی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور کلائیوں کو تین مرتبہ دھویا۔ یہ الفاظ حدیث کے ابو عمر کے ہیں۔

سُمَيْعُ الزِّيَّاتُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7917- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَفَصَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضَمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاللِّفْظُ

لِحَدِيثِ أَبِي عُمَرَ

مَنْ رَوَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
الْحَكَمُ بْنُ فَضَالَةَ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7918- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ التُّسْتَرِيِّ،
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ
الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ قُرْعَةَ، عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ، وَذَكَرَ لَهُ
أَعْمَالُ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: الصَّدَقَةُ حَقٌّ، وَعَمَلُهَا
فِي السَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

7919- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ، أَنَا قُرْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ حَكِيمِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ
جَمُصٍ، فَإِذَا فِيهِ أَبُو أُمَامَةَ يَتَقَلَّى فِيهِ، وَيَذْفِنُ
الْقَمْلَ فِيهِ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَبَّحَ ثَلَاثًا، وَكَبَّرَ
ثَلَاثًا، وَحَمِدَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: خَفِيفَاتُ عَلَى
الِلِّسَانِ، ثَقِيلَاتُ فِي الْمِيزَانِ تَصْعَدَنَّ إِلَى
الرَّحْمَنِ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَنَا مِنْ أَهْلِ

بصرہ والوں میں سے جو ابوامامہ سے
روایت کرتے ہیں، حضرت حکم بن
فضالہ، حضرت ابوامامہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت حکم بن فضالہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ نے صدقہ کے اعمال
کا ذکر کیا، فرمایا: صدقہ حق ہے اس کے لینے والے (اگر کمی
کریں) تو جہنم میں ہوں گے حضور ﷺ کے ارشاد کی وجہ
سے۔

حضرت حکم بن فضالہ فرماتے ہیں کہ میں حمص کی مسجد
میں داخل ہوا وہاں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر
جوئیں نکال رہے تھے اور جوؤں کو اس میں ہی دفن کر دیتے
تھے۔ پس میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے تین
بار سبحان اللہ کہا، تین بار اللہ اکبر اور تین بار الحمد للہ۔ پھر کہا:
زبان پر یہ کلمات بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہوں
گے اور رحمان خدا کی طرف چڑھتے ہیں، میں نے عرض کی:
اے ابوامامہ! میں جنگل والوں میں سے ہوں، صدقہ لینے
والے ہم پر زیادتی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: صدقہ

حق ہے صدقہ کو بیچنے والا جہنم میں ہے۔ رسول کریم ﷺ کا فرمان ہے: وہ کم کرے یا زیادہ مال لے آؤ اس سے کوئی چیز غائب نہ کرو جو غائب کی وہ خبیث ہوگی اور جب تم ان کو آتا دیکھو تو ان کو گالی نہ دو اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔

ابوالعالیہ حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چھ اعمال میں سے جو کوئی ایک بھی کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن وعدہ ہے ان میں سے ہر ایک جو کوئی نماز ادا کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا حج و روزہ اور امانت ادا کرتا رہا اور صلہ رحمی کرتا رہا۔

لقیط ابوالمشاء حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الْبَادِيَةِ، وَإِنَّ الْمُصْطَفِينَ كَانُوا يَتَعَدُّونَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: الصَّدَقَةُ حَقٌّ، وَتَبَاعُهَا فِي النَّارِ، قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَصْرٌ أَوْ تَعَدَّى جِئْتُمْ بِالْمَالِ وَالْفِدَاءِ، وَلَا تَغَيُّبُوا مِنْهَا فَتُخْشُوا مَا غَيَّبْتُمْ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَلَا تَسُبُّوهُمْ، وَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ

أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7920- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُثَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبَّةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتٌّ مَنْ جَاءَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَاءَ وَلَهُ عَهْدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تَقُولُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: قَدْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَالصَّيَامِ، وَأَذَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ

لَقِيطُ أَبُو الْمَشَاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7921- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ

أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ لَقِيطُ أَبُو الْمَشَاءِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7920- قال في المجموع جلد 1 صفحہ 46 وفيه يونس ابن أبي خيثمة لم أر أحدا ذكره .

7921- قال في المجموع جلد 5 صفحہ 260 وفيه يحيى بن راشد الميزاني ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان وقال:

حضور ﷺ کا ایک گھوڑا تھا؟ پس آپ ﷺ نے انصار کے ایک آدمی کو تھمہ دیا؟ آپ اس گھوڑے کے ہنہانے کی آواز سنا کرتے تھے پھر آواز نہ سنی حضور ﷺ نے فرمایا: تم نے گھوڑے کو کیا کیا؟ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اس کو خسی کروایا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی اور غنیمت ہے اس کا دفاع اور ثواب ہے۔

حُمَيْدُ الْبَغْدَادِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّوْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ لَقِيطِ أَبِي الْمَشَاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسٌ، فَوَهَبَهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَانَ يَسْمَعُ صَهِيلَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ فَقَدَهُ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ فَرَسُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَصَيْتُهُ. فَقَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَوَاصِيهَا دِفَاقُهَا، وَأَذَانُهَا مَذَابُهَا

7922- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا لَقِيطُ أَبُو الْمَشَاءِ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، فِي حَدِيثٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيُمَضِّمُ فَاَهُ، وَيَتَوَضَّأُ كَمَا أُمِرَ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ يَوْمَيْهِ مَا نَطَقَ بِهِ فَمُهُ، وَمَا مَسَّ يَدَهُ، وَمَا مَسَى إِلَيْهِ حَتَّى إِنَّ الْخَطَايَا تَحَادَرُ مِنْ أَطْرَافِهِ، ثُمَّ هُوَ إِذَا مَسَى إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَجُلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً، وَأُخْرَى تُمَحِّي سَيِّئَةً

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اپنے ہاتھ دھوتا ہے اور لکھی کرتا ہے اور وضو کرتا ہے جس طرح اس کو حکم دیا گیا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے منہ اور ہاتھ سے ہوئے ہوں جس چیز تک وہ چل کر گیا ہو یہاں تک کہ گناہ صغیرہ اس کے اطراف سے بھی گر جاتے ہیں پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے پر بُرائی مٹا دی جاتی ہے۔

یخطی وبخالف. وانظر ما بعده.

7922- قال في المجموع جلد 1 صفحه 223 وفيه لقيط أبو المشاء روى عن أبي أُمَامَةَ وَرَوَى عَنْهُ الْحَرِيرِيُّ وَقُرَّةُ ابْنِ خَالِدٍ

وفد ذكره ابن حبان في الثقات جلد 5 صفحه 344 وقال: يخطی وبخالف

حسن بصری، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن غسل کرنے سے بالوں
کی جڑوں سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔

عاصم بن عمرو بن بکلی، حضرت ابوامامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کے لوگ ضرور بھروسہ
کھانے اور کھیل کود پر رات گزاریں گے، پھر صبح کے وقت
ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی طرح ہوں گی۔

الحسن البصری، عن أبي أممة

7923- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْبَزَّازُ التُّسَيْرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ
مَنْصُورٍ، ثنا مَسْكِينُ أَبُو فَاطِمَةَ، ثنا حَوْشَبُ
بْنُ عَقِيلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي أُمَّةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسْتَلُّ الْخَطَايَا مِنْ أَصُولِ الشَّعْرِ
اسْتِلَاةً

عاصم بن عمرو البجلي، عن أبي أممة الباهلي

7924- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ،

وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحٍ،
ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، ثنا السَّبَّحِيُّ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ عَمْرِو الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَّةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَبْسُتَنَّ
أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ، ثُمَّ

7923- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 174 'ورجاله ثقات . قلت: مسكين أبو فاطمة ضعيف كما قال الدارقطني والحسن

مجلس وقد عمن فالحديث ضعيف .

7924- رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2161 'وَأَحْمَدُ جلد 5 صفحہ 259 'وَفَرَّقَ ضَعِيفٌ 'وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ

فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ جلد 5 صفحہ 329 'وَانْظُرِ الْمَجْمُوعُ جلد 5 صفحہ 75 'وَسَلْسَلَةُ الصَّحِيحَةِ جلد 2

صفحہ 135-137 'حَيْثُ حَسَنَهُ بِسَبَبِ شَوَاهِدِهِ .

لِيُضَبِّحَنَّ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ

شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

شعيب بن حباب، حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

7925- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا فَضَالَةُ بْنُ
حُصَيْنٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ كُلَّ
يَوْمٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ
قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ
بَعْدَ الْعِشَاءِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دس سال نماز پڑھی آپ کی
سنتیں دو رکعت تھیں دو فجر کی دو عصر سے پہلے دو مغرب
کے بعد اور دو عشاء کے بعد۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

عبد اللہ بن حفص، حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

7926- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ

شُعَيْبُ السَّمْسَارُ، ثنا خَالِدُ بْنُ خَدَّاشٍ، ثنا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي أَيُّوبَ بْنِ زَيْدٍ: يَا أَبَا أَيُّوبَ،
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے ابو ایوب بن زید سے فرمایا: اے
ابو ایوب! میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ اور اس کے
رسول کو پسند ہے! عرض کی: کیوں نہیں! آپ ﷺ نے
فرمایا: لوگوں کے درمیان صلح کرو اور جب وہ آپس میں
ناراض ہوں اور قریب کرو جب وہ دور ہوں۔

شعيب بن ابي امامة، عبد الله بن ابي امامة

7925- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 231 وفيه فضالة بن حصين قال ابو حاتم: مضطرب الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح.

7926- قال في المجمع جلد 8 صفحہ 80 وعبد الله بن حفص صاحب أبي امامة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

قَالَ: بَلَى. قَالَ: تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا
تَفَاسَدُوا، وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا

سَيَّارُ الشَّامِيِّ كَانَ

يَنْزِلُ الْبَصْرَةَ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

سیار الشامی حضرت ابوامامہ سے
روایت کرتے ہیں یہ بصرہ میں
آئے تھے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اس امت سے کچھ لوگ نکلیں گے
ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے جس طرح گائے کی
ڈم ہوتی ہے وہ صبح اللہ کی ناراضگی اور شام اللہ کے غضب
میں کریں گے۔

7927- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ

سُورَةَ الْبَغْدَادِيِّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلَيْسِيُّ، ح
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
بُجَيْرٍ الْقَيْسِيُّ، عَنْ سَيَّارِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَّاطٌ
كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ،
وَيُرَوِّحُونَ فِي غَضَبِهِ

7928- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ،
عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَاَوْ قَالَ أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے مجھے تمام انبیاء پر
فضیلت دی ہے یا فرمایا: میری امت کو تمام امتوں پر چار
لحاظ سے فضیلت ہے مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر
بھیجا گیا ہے اور میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری

7927- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 250 والمصنف في الأوسط (221 مجمع البحرين) وابن الأعرابي في معجمه (214

213) والحاكم جلد 4 صفحہ 436 وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي قال شيخنا في سلسلة الصحيحة

جلد 4 صفحہ 517 وهو كما قال: قال في المجمع جلد 5 صفحہ 234 ورجال أحمد ثقات.

7928- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 248، 256 وهو حديث صحيح.

روئے زمین کو پاک کرنے والا کر دیا گیا ہے میری امت کا کوئی آدمی جہاں نماز کا وقت پائے وہیں اس کی مسجد ہے میری ایک ماہ کی مسافت جتنے فاصلہ سے رعب سے مدد کی گئی ہے اور میرے لیے مالی غنیمت کو حلال کیا گیا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

ابو ملیح بن اسامہ ہذلی حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے سات لمبی سورتیں تورات کی جگہ اور دو سو انجیل کی جگہ مجھے مفصل سورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

بَارِئِ: أَرْسَلَنِي إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجَعَلَ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي وَلَا مَنِي طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيْنَمَا أَذْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ، فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ، وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، وَنُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّ لِي الْغَنَائِمُ

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَمَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سَلِيمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَبُو مَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7929- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آتَانِي رَبِّي السَّبْعَ الطُّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَةِ، وَالْمِثِينَ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفْصَلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي السَّمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

يونس بن شعيب، حضرت ابوامامہ
سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ
اٹھائی، ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟
آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے فرشتے کو دیکھا جو حضرت
سلمان کی نیکی لے کر چڑھ رہا تھا۔

7930- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ بِنِ
حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُونُسَ
السَّمْنِيُّ، ثنا عَبْدُ النَّوْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يُونُسُ
بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْخَصُ بَبَصَرِهِ إِلَى
السَّمَاءِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ:
رَأَيْتُ مَلَكًا عَرَجَ بِعَمَلِ سَلْمَانَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے
ہوئے سنا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عزوجل جنت میں میرا
نکاح حضرت مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی بہن کلثم اور فرعون کی بیوی سے کرے گا۔

7931- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ بِنِ
حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُونُسَ
السَّمْنِيُّ، ثنا عَبْدُ النَّوْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يُونُسُ
بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَائِشَةَ:
أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَزَّوَجَنِي فِي الْجَنَّةِ
مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَكَلْثَمَ أُخْتَ مُوسَى،
وَأَمْرَأَةً فِرْعَوْنَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی

7932- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ بِنِ

7931- قال في المجمع جلد 9 صفحہ 218 وفيه خالد بن يوسف السمني وهو ضعيف . قلت : وعبد النور قال عنه كذاب .

انظر ما بعد هذا الحديث . ورواه العقيلي في الضعفاء صفحہ 469 . وأبو الشيخ في التاريخ صفحہ 288 من طريق
أبي النور به . وانظر سلسلة الضعيفة جلد 2 صفحہ 220 لشيخنا حيث حكم عليه بأنه منكر .

7932- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 307 وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب . قلت : وخالد ضعيف .

نے رسول اللہ ﷺ سے مانگا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر عورت اپنے گھر سے نکلے پھر واپس آئے اگر دیکھے کہ شوہر کے اعضاء کوڑھ کی وجہ سے گل سر کر جدا ہو گئے ہیں اور اس کے ناک سے رینٹھ بہہ رہی ہے تو اپنی زبان سے اس کو صاف کرنے تو پھر بھی اس نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا عورت اپنے شوہر کے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت سے نکلے اور شوہر کے گھر سے کوئی شے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ لے۔

حَرْبُ الْعَسْكَرِيِّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوْسُفَ السَّمْعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ النَّوْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَذَتْ حَقَّهُ، وَمَا لَامْرَأَةٌ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا أَنْ تُعْطَى مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَدَاءِ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7933- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَدَاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَوْ كَيْتَيْنِ

أَيْمَنُ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ

7934- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

عبد الرحمن بن عداء حضرت ابو امامہ
سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک دینار یا دو دینار چھوڑے حضور ﷺ نے فرمایا: ایک سانپ یا دو سانپ چھوڑے ہیں

ایمن حضرت ابو امامہ سے
روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا سات مرتبہ فرمایا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا سات مرتبہ فرمایا۔

ابوالجعد، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صفہ والوں میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا اس نے ایک دینار چھوڑا حضور ﷺ نے فرمایا: ایک سانپ! دوسرا فوت ہوا اور اُس نے دو دینار چھوڑے تو حضور ﷺ نے فرمایا: دو سانپ۔

التَّمَارُ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ رَأَى، وَآمَنَ بِهِ، وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَهُ، وَآمَنَ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

7935- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طُوبَى لِمَنْ رَأَى، وَآمَنَ بِهِ، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ

أَبُو الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7936- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَعْدِ، مَوْلَى بَنِي ضُبَيْعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تَوَقَّى وَتَرَكَ دِينَارًا، فَقَالَ رَسُولُ

وصححه فتعقبه الذهبي بقوله قلت: جميعه واه. ورواه ابن حبان رقم الحديث: 2303 الا أن في موارد الظمان أبو هريرة بدل أبي أمامة. قال في المجمع جلد 10 صفحہ 67 رواه أحمد والطبرانی بأسانيد ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة: قلت: وأيمن مجهول واختلف على همام فرواه أبو عامر العقدي عنه به وقال أبو هريرة بدل أبي أمامة كما رواه ابن حبان. لكن له شاهد من حديث أنس. وقد اطنب شيخنا في تخريج الحديث في سلسلة الصحيحة جلد 3 صفحہ 244-247.

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَ . وَنُوقِي
أَخْرُ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْتَانِ

7937- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ
الْبَغَوِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ أَوْ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ،
اشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ فُلَانٍ، فَرَبِحْتُ عَلَيْهِ كَذَا
وَكَذَا، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ رِبْحًا؟
قَالَ: وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: رَجُلٌ تَعَلَّمَ آيَاتِ
فَذَهَبَ، فَتَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ

7938- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ
الْجُنْدِي سَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، ثنا
النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ،
عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ
عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ وَرَجُلٌ يَقْصُ، فَسَكَّتِ
الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
حضور ﷺ کے پاس آیا عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے
فلاں سے مقسم خریدنا مجھے اس پر اتنا اتنا نفع ہوا آپ نے
فرمایا: کیا تم کو نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ نفع والی ہو؟ اس
نے عرض کی: جو اس سے زیادہ نفع والی شی ہے؟ آپ ﷺ
نے فرمایا: تم کچھ آیتیں سیکھو۔ وہ آدمی گیا اس نے دس
آیتیں سیکھیں، حضور ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ہمارے پاس آئے اس حالت میں کہ ایک
آدمی قصہ سن رہا تھا وہ آدمی خاموش ہو گیا، حضور ﷺ
نے فرمایا: اس جگہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھنا سورج کے بلند
ہونے تک مجھے زیادہ پسند ہے چار غلام آزاد کرنے سے
نماز عصر پڑھ کر سورج کے غروب ہونے تک بیٹھنا مجھے

7937- ورواہ فی الأوسط (309 مجلد البحرین) قال فی المجمع جلد 7 صفحہ 165، ورجالہ رجال الصحیح . وانظر ما

بعده .

7938- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 261 فیہ أبو الجعد عن أبي أمامة فان كان هو الغطفاني فهو من رجال الصحیح . وان

كان غيره فلم أعرفه كذا فی المجمع جلد 1 صفحہ 190 .

زیادہ پسند ہے غلام آزاد کرنے سے۔

فَصَّ، وَلَآنَ أَقْعَدَ هَذَا الْمُقْعَدَ مِنْ حِينَ تُصَلِّي
الْغَدَاةَ إِلَى أَنْ تَشْرِقَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ، وَلَآنَ أَقْعَدَ مِنْ حِينَ
تُصَلِّي إِلَيَّ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ

عبدالرحمن ابو یزید، حضرت ابوامامہ
سے روایت کرتے ہیں

عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو يَزِيدَ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: نیکی کے کام کرنے سے بُرائی اور
رسوائی ہے خفیہ طور پر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا
ہے اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔

7939- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ
الْحِجَنَّاوِيُّ، ثنا سَيَّارُ بْنُ قُرُوحٍ، ثنا عِيسَى بْنُ
شُعَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَنَاعُ
الْمَعْرُوفِ تَقْيِي مَصَارِعِ الشُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ
تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي
الْعُمُرِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت
میں بھی نیکی کرنے والے ہوں گے جنت میں سب سے
پہلے نیکی کرنے والے داخل ہوں گے۔

7940- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ
الْحِجَنَّاوِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ قُرُوحٍ، ثنا عِيسَى بْنُ
شُعَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7939- قال في المجمع جلد 3 صفحہ 115 'واستاده حسن . وكذا قال المنذرى في الترغيب جلد 2 صفحہ 169 .

7940- قال في المجمع جلد 7 صفحہ 263 'وفيه من لم أعرفه . لكن الشطر الأول منه صحيح . وورد من حديث عدة من

أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ
فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّ أَوَّلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ
أَهْلُ الْمَعْرُوفِ

قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى مَوْلَى
زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7941- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمَرٍ
السَّدُوسِيُّ، ثنا أَبُو بَلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا
الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَادٍ الْحَنْفِيُّ، عَنْ
أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ،
عَنْ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا
إِلَى الصَّلَاةِ الْآخَرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا
إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخَرَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ
إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى
الْحَجِّ

7942- ثُمَّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ
مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحْجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

فَضَالُ بْنُ جَبْرِ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ: فَضَالُ بْنُ

حضرت زیاد کے غلام قزعه بن یحییٰ،
حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: فرض نماز دوسری نماز
تک ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور جمعہ دوسرے
جمعہ تک ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے رمضان کا مہینہ
دوسرے رمضان تک ہونے والے گناہوں کو معاف کرتا
ہے اور حج دوسرے حج تک ہونے والے گناہوں کو صاف
کرتا ہے۔

پھر فرمایا: کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ حج کرے سوائے اپنے زوج یا محرم کے ساتھ۔

فضال بن جبیر، حضرت ابوامامہ سے
روایت کرتے ہیں

اور محمد بن عرعرہ نے فرمایا: فضال بن زبیر غدافی ہے

اور صحیح فضال بن جبیر ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! جہنم سے بچو! اگرچہ کھجور کا ایک حصہ صدقہ کرنے سے ہو۔

الزُبَيْرُ الْقُدَانِيُّ، وَالصَّحِيحُ فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ
7943- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ الْبِرْنَدِيُّ، ثنا فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَبُو مُهَنْدٍ الْقُدَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ صَدِّيَّ بْنَ عَجَلَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دوا میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور شر مگاہوں کی حفاظت کرو اور ہاتھوں کو روکے رکھو۔

7944- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ، ثنا فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْفُلُوا إِلَى بَيْتِي أَكْفُلْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، وَإِذَا أَوْثِمَ فَلَا يَخُنْ، وَغَضُّوا أَنْبَارَكُمْ، وَاحْفَظُوا أَرْوَاجَكُمْ، وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کے دل میں تین چیزیں ہوں

7945- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ، ثنا فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ

7943- ورواه في الأوسط (122 مجمع البحرين) وفيه فضال بن جبیر وهو ضعيف .

7944- قال في المعجم جلد 10 صفحہ 301 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (505 مجمع البحرين) وفيه فضال بن

الزبیر ويقال ابن جبیر وهو ضعيف . قلت: ورواه ابن عدی جلد 1 صفحہ 325 والسلفی في معجم السفر جلد 2 صفحہ 137 وابن الجوزی فی ذم الهوی صفحہ 138، 83 من طریق فضال به . لكن له شاهد من حديث عبادة بن الصامت أورده شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم الحديث: 1470 .

7945- قال في المعجم جلد 1 صفحہ 89، 55 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (12 مجمع البحرين) وفيه فضال بن

جبیر لا يحل الاحتجاج به . قلت: له شاهد في الصحيح من حديث أنس .

اُس نے ایمان کی مٹھاس پالی: (۱) اللہ اور اللہ کا رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو (۲) آدمی محبت صرف اللہ کے لیے کرے (۳) کفر کی طرف واپس جانا ویسے ہی ناپسند کرے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي قَلْبِهِ وَجَدَ خَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

7946 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ، ثنا فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَاللَّهِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُمَا نَجْدٌ خَيْرٌ، وَنَجْدٌ شَرٌّ، فَمَا جَعَلَ نَجْدَ الشَّرِّ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ

7947 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ، ثنا فَضَالُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ اور بے شک جو تھوڑا اور کافی ہے وہ بہتر ہے سستی سے زیادہ کام کرنے سے اے لوگو! یہ دونوں بھلائی اور بُرائی کے ٹیلے ہیں اس نے بُرائی کے ٹیلے کو بھلائی کے ٹیلے سے تمہیں زیادہ پسندیدہ نہیں بنایا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! مسلمان کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

7948 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7946 - قال في المجمع جلد 10 صفحہ 256 'وفضال ضعيف . ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1263' وله شواهد ذكرتها في تخریج احاديث مسند الشهاب .

7947 - قال في المجمع جلد 1 صفحہ 56 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (8 مجمع البحرين) 'وفيه فضال بن جبیر لا يحل الاحتجاج به . لكن له شواهد في الصحيح والسنن من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وائالة .

7948 - قال في المجمع جلد 8 صفحہ 9 'وفيه فضال بن جبیر وهو ضعيف وأنكر هذا الحديث . لكن له شاهد من حديث

حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔

الْحَنَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: ثنا طَالُوتُ بْنُ عَبَادٍ، ثنا فَضَالُ بْنُ جَبْرِ، ثنا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ الْآيَاتِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ تین ہیں اگر میں ان پر قسم اٹھاؤں تو میں ضرور بری ہوں گا چوتھا اگر ان پر قسم اٹھاؤں تو میں اُمید کرتا ہوں کہ گناہ نہیں ہوگا اللہ اس کے لیے اسلام میں حصہ نہ بنائے جس کا اس میں حصہ نہیں کوئی کسی آدمی کا ولی نہ بنے دنیا و آخرت میں اس کے علاوہ ولی ہوں قوم میں کوئی غلام ہوگا تو اللہ عزوجل اس کو ان کے ساتھ اٹھائے گا چوتھا جس کے عیب پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا قیامت کے دن بھی پردہ ڈالے گا۔

7949- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: ثنا طَالُوتُ بْنُ عَبَادٍ، ثنا فَضَالُ بْنُ جَبْرِ، ثنا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَوْ خَلَفْتُ عَلَيْهِنَّ لَكَبَّرْتُ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ خَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آتَمُ: أَنْ لَا يَجْعَلَ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَلَا يَتَوَلَّى عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، فَيَوْلِيهِ غَيْرُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا عَبْدٌ قَوْمًا إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَهُمْ وَبَيْنَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْمَعَادِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا نے رسول کریم ﷺ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں بھاری جسامت کی

7950- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْحَنَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: ثنا طَالُوتُ بْنُ عَبَادٍ، ثنا فَضَالُ بْنُ جَبْرِ، ثنا أَبُو

عبد اللہ بن عمرو عند مسلم وغیرہ۔

7949- قال في المجمع جلد 1 صفحہ 37 وفيه فضال بن جبیر وهو ضعيف . ورواه أبو بكر الشافعي في الرباعيات (2/106/1) وأبو عبد الله الصاعدی فی السداسیات جلد 2 صفحہ 4 وله شاهد صحيح عند أبي يعلى جلد 2

صفحہ 216 من حديث عبد الله بن مسعود وانظر سلسلة الصحيحة رقم: 1387 .

7950- قال في المجمع جلد 10 صفحہ 92 وفيه فضال بن جبیر وهو ضعيف .

عورت ہوں مجھے کچھ دعائیں سکھا دیجئے جن سے اللہ مجھے نفع دے۔ فرمایا: پڑھ! سو بار سبحان اللہ! یہ سوغلام اللہ کی رضا کیلئے آزاد کرنے کے برابر ہے سو بار الحمد للہ! یہ سوغھوڑے اللہ کی راہ میں تیار کر کے دینے کے برابر ہے سو بار اللہ اکبر! یہ سو قربانیاں جن کوچ کا قلاہ پہنایا گیا ہو بیت اللہ کی طرف ہدیہ کرنے کے برابر ہے سو بار اللہ واحد شرک کے بعد کوئی گناہ تجھے نہ پاسکے گا۔

أَمَامَةً قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ هَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَمْرَأَةٌ ثَقُلْتُ، فَعَلَسْنِي دَعَوَاتِ يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهِنَّ. قَالَ: قُولِي: سُبْحَانَ اللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، تَعْدِلُ مِائَةَ رَقِيَّةٍ تُعْتَقُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاحْمَدِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَعْدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُلْحَمٍ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَثِّبِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَعْدِلُ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ تُهْدَى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَوَحْدِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا يُذَرِّكَ ذَنْبٌ بَعْدَ الشَّرِكِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عمل کرنے والے کے عمل کو نہ دیکھو تم دیکھو کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔

7951- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ، ثنا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے تم الدخان جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن پڑھی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

7952- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَازِنِيُّ، ثنا فَضَالُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَمْدَ الدَّخَانِ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

7951- ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 941 قال في المجمع جلد 2 صفحہ 168 وفيه فضال بن جبیر

وهو ضعيف . لكن له شاهد من حديث أنس عند أحمد جلد 3 صفحہ 123، 120، 230، 257 .

7952- قال في المجمع جلد 2 صفحہ 168 وفيه فضال بن جبیر وهو ضعيف جدًا .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ صبح وشام یہ دعا کرتے تھے: ”اللّٰهُمَّ اَنْتَ
اَحَقُّ مِنْ ذِكْرِ اِلٰهِ اٰخِرِهِ“۔

7953 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَارُ
الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا
هَشَامُ بْنُ هِشَامٍ الْكُوفِيُّ، ثنا فَصَّالُ بْنُ جُبَيْرٍ،
عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى دَعَا
بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مِنْ ذِكْرِكَ،
وَأَحَقُّ مَنْ أُعْطِيَ، أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ،
وَالْفَرْدُ لَا تَهْلِكُ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ
لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، وَلَمْ تُعَصَّ إِلَّا بِعِلْمِكَ،
تُطَاعُ فَتَشْكُرُ، وَتُعَصَّى فَتُغْفِرُ، أَقْرَبُ شَهِيدٍ
وَأَذْنَى حَفِيطٍ حُلَّتْ دُونَ الثُّغُورِ، وَأَخَذَتْ
بِالنَّوَاصِي، وَكُتِبَتْ الْأَنْفَارُ، وَنَسَخَتْ الْأَجَالَ،
الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَّةٌ، وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عِلَاقِيَّةٌ،
وَالْحَلَالُ مَا أَحْلَلْتَ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ،
وَالْبَدِينُ مَا شَرَعْتَ، وَالْأَمْرُ مَا قَضَيْتَ،
وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَأَنْتَ اللَّهُ
الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي
أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ
لَكَ، وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَنِي فِي هَذِهِ
الْعَدَاةِ، أَوْ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ، وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ
النَّارِ بِقُدْرَتِكَ

فضال بن جبیر عن ابی امامہ

أَبُو طَالِبِ الضَّبْعِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

ابوطالب ضبعی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

7954- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكُشِّيُّ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي طَالِبِ الضَّبْعِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَكْبَرُ، وَأَهْلِلُ، وَأَسْبَحُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے اولادِ اسماعیل سے چار غلام آزاد کرنے سے اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا زیادہ پسند ہے اولادِ اسماعیل سے اتنے اتنے غلام آزاد کرنے سے۔

أَبُو حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

ابو حکیم، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

7955- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7954- ورواہ أحمد جلد 5 صفحہ 253، 254، 255 قال فی المجموع جلد 10 صفحہ 104 'وأسانیده حسنة .

7955- قال فی المجموع جلد 6 صفحہ 295 رواہ الطبرانی باسنادین فی أحدهما حکیم ابن ابی حکیم، وفي الأخری لیث ابن

ابی حکیم وکلاهما عن ابی امامة ولم أعرفهما وبقیة رجال أحدهما ثقات . قلت لعل حرفت کلمة لیث عن الی

لیث بن فی نسخه . واللیث هو ابن ابی سلیم وحاله معروف . ولكن الحدیث صح من حدیث ابی هريرة .

حضور ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے کسی قوم کے پردہ سے اندر جھانکا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تو (اس کا قصاص کوئی نہیں) وہ ضائع ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے کسی قوم کے پردہ سے اندر جھانکا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تو (اس کا قصاص کوئی نہیں) وہ ضائع ہے۔ حضرت حفص کا قول ہے: قترہ سے مراد پردہ ہے۔

ابورصافہ الشامیؒ یہ کوفہ میں آئے تھے حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی مسلمان فرض نماز سے پہلے اچھا وضو کرے پھر نماز پڑھی اور اچھی نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطْلَعَ مِنْ سُتْرَةٍ إِلَى قَوْمٍ، فَفَقِشَتْ عَيْنُهُ، فَهِيَ هَذَرٌ

7956- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ

الصَّوَّافُ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِيهِمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطْلَعَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ قَتْرَةٍ فَفَقِشَتْ عَيْنُهُ فَهِيَ هَذَرٌ قَالَ حَفْصٌ: وَالْقَتْرَةُ: الْكُوفَةُ

أَبُو الرَّصَافَةِ الشَّامِيُّ

كَانَ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ،

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

7957- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

أَبُو نَعِيمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَرٍّ، عَنْ أَبِي الرَّصَافَةِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ بِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ

ابو مسلم حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں یہ کوفہ والوں کے بزرگ ہیں ان کا نسب معلوم نہیں

أَبُو مُسْلِمٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَمْ يُنْسَبْ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ

7958- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَبِيعٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا أَبَانُ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ وَهُوَ يَفْلِي فِي الْمَسْجِدِ، وَيَذْفِنُ الْقَمَلَ فِي الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ، فَاسْتَبَحَّ الْوُضُوءَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ رِجْلَاهُ، وَقَبِضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ، وَسَمِعَتْ إِلَيْهِ أَذْنَاهُ، وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ سُوءٍ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِيهِ

حضرت ابو مسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر جوئیں نکال رہے تھے اور جوؤں کو کنکریوں میں دفن کر دیتے تھے۔ میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! ایک آدمی نے آپ سے روایت کر کے مجھے یہ حدیث سنائی کہ آپ نے رسول کریم ﷺ سے سنا: جس نے اچھی طرح وضو کیا، اپنے ہاتھ اور چہرہ کو دھویا، اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا پھر فرض نماز پڑھنے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن میں بخش دے گا جتنے قدم وہ اس گناہ کی طرف چلا اس کے ہاتھوں نے اسے پکڑا اور اس کے کانوں نے اسے سنا اس کی آنکھوں نے جو دیکھ کر گناہ کیے اور اس کے دل نے اس سے جو بُری بات کی، پس آپ نے فرمایا: قسم بخدا! میں نے نبی کریم ﷺ سے اتنی بار سنی ہے کہ میں گن نہیں سکتا ہوں۔

ابو مسلم شیعہ من اهل الكوفة لم ينسب عن ابي امامة

7958- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 263 قال في المجمع جلد 1 صفحہ 300 رواه الطبرانی في الكبير من رواية أبي مسلم الشعلی عنه ولم أر من ذكره. وبقية رجاله موثقون. وقال في المجمع جلد 1 صفحہ 222 وفيه أبو مسلم ولم أجد من ترجمه بثقة ولا جرح غير أن الحاكم ذكره في الكنى وقال: روى عنه أبو حازم وهنا روى عنه أبان بن عبد الله وكذلك ذكره ابن أبي حاتم (436/2/4). قلت: وذكره البخاري في الكنى صفحہ 68 وقال كما قال أبو حاتم روى عنه أبان بن عبد الله. فهو مجهول.

أَبُو غَالِبٍ صَاحِبُ

الْمُحَجَّنِ، وَاسْمُهُ حَزُورٌ

ابو غالب صاحب مجن،

ان کا نام حزور ہے

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: جب ازارقہ کے سر لائے گئے اور ان کو دمشق کی سیڑھیوں میں گاڑ دیا گیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آئے، پس جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے پھر فرمایا: آپ کے کتے، دوزخی کتے، آسمان کی چھت کے نیچے جتنے لوگ قتل ہوئے یہ سب سے بُرے ہیں اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا (جو ان میں سے قتل ہوئے) وہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بہتر مقتول ہیں۔ میں نے عرض کی: کیا بات ہے! آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے؟ ان سینے رحم کرتے ہوئے فرمایا: بے شک وہ اہل اسلام سے تھے۔ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کی: دوزخی کتے! آپ نے اپنی رائے سے کہا یا کوئی شی رسول کریم ﷺ سے سنی ہے؟ فرمایا: اگر میں اپنی رائے سے ایسی بات کہوں تو میں جبری ہوں میں نے کئی بار رسول کریم ﷺ سے سنا پھر یہ آیت پڑھی: ”جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہمیں اس میں رہیں گے“ پڑھتے ہوئے یہاں پہنچے: ”وہی اللہ ہے جس نے نازل کی یہ کتاب اور اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں“ حتیٰ کہ ”اولو الالباب“ تک پہنچ گئے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: بہر حال یہ تیرے ملک میں بہت ہیں اللہ ان سے اپنی پناہ میں

7959- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: لَمَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ، فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ، فَلَمَّا رَأَاهُمْ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: كِلَابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ، هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ دَمِعَتْ عَيْنَاكَ؟ قَالَ: رَحِمَةُ لَهُمْ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. قَالَ: قُلْتُ: أَبْرَأَيْكَ قُلْتُ كِلَابُ النَّارِ، أَمْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ، بَلَّ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا ثِنْتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ فَعَدَّدَ مِرَارًا، ثُمَّ تَلَا: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ) (آل عمران: 106) حَتَّى بَلَغَ (فِيهَا خَالِدُونَ) (آل عمران: 107)، وَتَلَا: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ) (آل عمران: 7) حَتَّى بَلَغَ: (أُولُو الْأَلْبَابِ)، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَمَّا

ابو غالب صاحب المعجم واسمہ حزور

رکھے۔

إِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ، فَأَعَادَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ

7960- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ

الْحُبَابِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ
الطَّوِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَرُ
النَّافِلُ الْبَصْرِيُّ، ثنا طَالُوثُ بْنُ عُبَادٍ، قَالَ: ثنا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ
أُمْسِي مَعَ أَبِي أَمَامَةَ، وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ حَتَّى
انْتَهَيْنَا إِلَى دَرَجٍ دَمَشْقٍ، فَإِذَا رُءُوسٌ مَضُوبَةٌ،
فَقَالَ: مَا هَذِهِ الرُّءُوسُ؟ فَقِيلَ: رُءُوسُ
الْخَوَارِجِ جِئَ بِهَا مِنَ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: كِلَابُ
النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ - ثَلَاثًا - حَسَرْتُ قَتْلِي فِتَلْتُ
تَحْتَ السَّمَاءِ - ثَلَاثًا يَقُولُهَا - خَيْرُ قَتْلِي مَنْ
قَتَلَهُ هَؤُلَاءِ - ثَلَاثًا يَقُولُهَا - طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ
وَقَتْلُوهُ - ثَلَاثًا يَقُولُهَا - ثُمَّ بَكَى فَقُلْتُ: مَا
يُسْكِيكَ يَا أَبَا أَمَامَةَ؟ قَالَ: رَحْمَةٌ لَهُمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَخَرَجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ،
ثُمَّ قَرَأَ: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) (آل
عمران: 7) حَتَّى فَرَعَ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ قَرَأَ:
(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) (آل عمران: 105) حَتَّى
بَلَغَ (فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
(آل عمران: 107) ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: میں حضرت ابو امامہ
رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا جبکہ وہ گدھے پر سوار تھے
حتیٰ کہ ہم جامع دمشق کی سیڑھیوں تک پہنچے۔ ہم نے
دیکھا: وہاں سر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا: یہ کن کے
سر ہیں؟ انہیں بتایا گیا: یہ خارجیوں کے سر ہیں، عراق سے
لائے گئے ہیں۔ فرمایا: جنہی کتے! تین بار آسمان کے نیچے
بڑے تین مقتول۔ تین بار فرمایا۔ جن کو ان لوگوں نے قتل کیا
وہ بہترین مقتول ہیں۔ تین بار فرمایا۔ مبارک ہو ان کو
جنہوں نے ان کو اور ان کو جنہیں انہوں نے قتل کیا۔ تین
بار فرمایا۔ پھر روئے میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! روئے
کیوں؟ فرمایا: ان پر رحم آیا، کبھی تو یہ بھی مسلمان تھے۔ پس
اسلام سے فارغ ہوئے پھر یہ آیت پڑھی: ”وہی اللہ ہے
جس نے تم پر کتاب اتاری اور اس کی کچھ آیتیں صاف معنی
رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں“ حتیٰ کہ آیات سے فارغ
ہوئے پھر پڑھا: ”اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ
گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں آ
چکی تھیں“ حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے: ”اور وہ اللہ کی رحمت
میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے“۔ میں نے عرض کی:
اے ابو امامہ! کیا ان سے مراد یہی ہیں؟ فرمایا: جی ہاں!
میں نے عرض کی: آپ نے اپنی رائے سے بات کی یا
رسول کریم ﷺ سے سنی؟ فرمایا: پھر تو میں جبری ہوا۔ تین
بار فرمایا۔ تحقیق میں نے رسول کریم ﷺ سے ایک دو بار

نہیں سات بار سنا۔ پھر اپنی انگلی اپنے کانوں میں رکھی اور فرمایا: ورنہ میں خاموش رہتا۔

هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ أَمْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ -ثَلَاثًا- لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّةً وَلَا اثْنَتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً، ثُمَّ وَضَعَ إصْبَعَهُ فِي أُذُنِهِ، فَقَالَ: وَإِلَّا فَصَمَمَا

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: میں شام میں تھا پس مہلب نے خارجیوں کے ستر سر بھیجے مسجد کے دروازے پر ان کو رکھ دیا گیا! میں اپنے گھر کی چھت پر تھا! حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں جانے کے ارادہ سے گزرے۔ پس جب وہ ان کے پاس جا کر رُکے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا: سبحان اللہ! بنی آدم کے ساتھ شیطان نے کیا کر دیا۔ تین بار فرمایا۔ فرمایا: جہنمی کتے ہیں! آسمان کے سائے کے نیچے بُرے تین مقتول ہیں! جن کو انہوں نے قتل کیا وہ آسمان کے نیچے بہترین مقتول ہیں۔ تین بار فرمایا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا: اے ابو غالب! تمہارے ملک میں یہ لوگ کثیر ہیں! پس اللہ تجھے ان سے اپنی پناہ میں رکھے! کیا آپ نے وہ آیات پڑھی ہیں جو سورہ آل عمران میں ہیں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ فرمایا: مجھے ان پر رحم آیا تو میں رو دیا! کسی وقت تو یہ لوگ مسلمان تھے۔ اس کے بعد تلاوت کی: ”اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آپ پر کتاب سے محکم آیات نازل کیں“ یہاں تک پہنچے: ”فنتہ اٹھانے کو اور اس کی تاویل میں“

7961- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُصَّاءٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَابٍ، ثنا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، فَبَعَثَ الْمُهَلَّبُ سَبْعِينَ رَأْسًا مِنَ الْخَوَارِجِ، فَنَصَبُوا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَكُنْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لِي، فَمَرَّ أَبُو أُمَامَةَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا يَفْعَلُ الشَّيْطَانُ بِنَبِيِّ آدَمَ -ثَلَاثًا- قَالَ: كِلَابُ جَهَنَّمَ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ قَالَ: خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ -ثَلَاثًا- ثُمَّ انْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا غَالِبٍ، إِنَّكَ بَارِضٌ هَؤُلَاءِ بِهَا كَثِيرٌ، فَأَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ، هَلْ تَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا آلُ عِمْرَانَ؟ قُلْتُ: بَلَى، إِنِّي رَأَيْتُكَ دَمَعْتَ عَيْنَاكَ. قَالَ: بِكَيْفٍ رَحِمَةً لَهُمْ، كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَتَلَا: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ) (آل عمران)

اور یہ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں کبھی تھی اس کے ساتھ یہ کج ادا بن گئے۔ پھر تلاوت کی: ”نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو بکھر گئے“ یہاں تک پہنچے: ”کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے“۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! یہی لوگ مراد ہیں؟ فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: کیا آپ نے اپنی ربائے سے یا رسول کریم ﷺ سے سن کر کہا؟ فرمایا: پھر تو میں جری ہوا۔ تین بار کہا۔ بلکہ یہ ایسی شے ہے جو میں نے رسول کریم ﷺ سے ایک بار نہیں دو بار نہیں یہاں تک کہ سات تک پہنچے سنی ہے۔

(7) إِلَى أَنْ بَلَغَ: (اِئْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَائْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) (آل عمران: 7) وَإِنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَزَيَّغْ بِهِمْ، ثُمَّ تَلَا: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) (آل عمران: 105) إِلَى أَنْ بَلَغَ: (اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (آل عمران: 106) قُلْتُ: هَؤُلَاءِ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ مِنْ قَبْلِ رَأَيْكَ تَقُولُ، أَمْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي لَجَرِيءٌ - ثَلَاثًا - بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّةً، وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ سِتَّةً

پھر فرماتے ہیں: بیشک بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بٹے یا بہتر فرمایا اور یہ اُمت ان پر ایک فرقہ زیادہ ہوگی سوادِ اعظم کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! کیا آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا عمل کریں گے؟ فرمایا: ان کے اعمال کی ذمہ داری ان پر ہے اور تمہارے اوپر تمہارے اعمال کا حساب ہے اگر تم اطاعت گزار ہو تو ہدایت یافتہ ہو۔

7962- ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً - أَوْ قَالَ: اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً - وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَلَا تَرَاهُمْ مَا يَعْمَلُونَ؟ قَالَ: عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

حضرت ابوغالب فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کو دیکھا جبکہ آپ جامع دمشق کی سڑکیوں میں خارجیوں کے سر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا: میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: یہ جہنمی کتے

7963- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ أَبْصَرَ رُءُوسَ الْخَوَارِجِ عَلَى دَرَجٍ دِمَشْقَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ

ہیں۔ تین بار فرمایا پھر رو دیئے۔ فرمایا: آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بڑے مقتول ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول ہیں۔ حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: کیا آپ نے یہ رسول کریم ﷺ سے سنا؟ فرمایا: اگر نہیں سنا تو پھر میں جرأت کرنے والوں سے ہوں میں نے رسول کریم ﷺ سے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں (اس سے زیادہ بار) سنا۔

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: اسی دوران کہ میں دمشق میں تھا کہ خارجیوں کے پتر سر لائے گئے ان کو جامع دمشق کی سیڑھیوں میں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابوامامہ صحابی رسول آئے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی جو چاہی پس جب نکلے تو رو پڑے پھر فرمایا: جہنمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور وہی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔“ پھر پڑھا: ”اور جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے وہ جن کے چہرے کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔“ پس یہ وہی ہیں۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! یہ چیز آپ نے رسول کریم ﷺ سے سنی یا اپنی رائے سے فرما رہے ہیں؟ فرمایا: پھر تو میں جری ہوا میں نے رسول

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ بَكَى، وَقَالَ: شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ قَالَ أَبُو غَالِبٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ

7964- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَا: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، ثنا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا بِدِمَشْقٍ إِذْ جِئَءَ بِسَبْعِينَ رَأْسًا مِنْ زُءُوسِ الْخَوَارِجِ، فَانْصَبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقٍ، وَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى مَا بَدَأَ لَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ) (آل عمران: 7)، ثُمَّ قَرَأَ: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

کریم ﷺ سے کئی بار سنی، دو بار نہیں، تین بار نہیں حتیٰ کہ سات کے عدد تک پہنچے۔

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) (آل عمران: 106) فَهَمْ هَؤُلَاءِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، هَذَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَى سَبْعٍ

7965- حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنْسَائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ بْنِ حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، ثَنَا سَلَامُ بْنُ مُسْكِينٍ، ثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: أَتَيْتُ بَرَاءَ وَبِ حَرُورِيَّةٍ، فَنُصِبَتْ عَلَيَّ دَرَجٌ دِمَشْقَ، فَظَنَرْتُ إِلَيْهَا أَبُو أُمَامَةَ وَهِيَ مَنْصُوبَةٌ، فَقَالَ: شَرُّ قَتَلِي تَحْتَ السَّمَاءِ هَؤُلَاءِ - ثَلَاثًا - طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَشَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ، أَمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ - ثَلَاثًا - سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ

7966- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ حروریہ کے سر لائے گئے جامع دمشق کی سیڑھیوں میں گاڑ دیے گئے وہ گڑھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا فرمایا: آسمان کے نیچے یہ بُرے ترین مقتول ہیں، تین بار فرمایا: مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو قتل کیا اور مبارک ہو جن کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! کیا کوئی چیز آپ نے اپنی رائے سے کہی یا رسول کریم ﷺ سے سنی ہے فرمایا: پھر تو میں جری ہوا، تین بار فرمایا، میں نے یہ رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے اسی کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: میں دمشق میں ایک

گھر کی چھت پر تھا، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ گزرے میں ان کے پیچھے چلا، ہم مسجد کی سیڑھیوں میں خارجیوں کے سیدھے کھڑے سروں کے پاس گئے، فرمایا: آسمان کے سریہ میں برے ترین مقتول اور جن کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول۔ میں نے عرض کی: آپ نے یہ رسول کریم ﷺ سے سنا؟ فرمایا: رب کعبہ کی قسم! کئی بار (سنا ہے)۔ پھر روئے میں نے عرض کی: کیا آپ روتے ہیں؟ حالانکہ آپ یہ باتیں کہہ چکے ہیں۔ فرمایا: میں ان سے زیادہ مہربان ہوں یا مجھے ان پر رحم آیا؟ یہ ایسا گروہ تھا جس نے ایک چیز کے حصول کا ارادہ کیا لیکن حاصل نہ کر سکے، لیکن آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں یہ لوگ بہت ہیں پس اللہ آپ کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کا ذکر کیا، فرمایا: جہنم کے کتے ہیں، عرض کی گئی: آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں کیسے جرات کر سکتا ہوں اگر میں نے آپ ﷺ سے سنا نہ ہوتا تو میں بیان نہ کرتا۔

الْحَنَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَشْعَبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ بِدِمَشْقَ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ، فَمَرَّ بِي أَبُو أُمَامَةَ، فَاتَّبَعْتُهُ، فَإِذَا نَحْنُ بِرُءُوسِ الْخَوَارِجِ عَلَى دَرَجِ الْمَسْجِدِ مَنْصُوبَةً، فَقَالَ: شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ. قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مِرَارًا، ثُمَّ بَكَى، فَقُلْتُ: أَتَبْكِي، وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي أَرْحَمُهُمْ قَوْمٌ، أَرَادُوا شَيْئًا، فَلَمْ يُصِيبُوهُ أَمَا إِنَّكَ بِأَرْضِ هُمْ بِهَا كَثِيرٌ، فَأَعَادَكَ اللَّهُ مِنْهُ

7967- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حُسَيْنِ الْخُرَّاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: كِلَابُ النَّارِ، فَقَالُوا: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ، إِنْ قُلْتُ مَا لَمْ أَسْمَعْ

7968- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7968- ورواه في الصغير جلد 2 صفحہ 117 من طريق عبد الملك بن قريش الأصمعي عن أبيه عن أبي غالب وقال: لم يروه عن قريش أبي الأصمعي إلا ابنه وعمرو بن عاصم. ورواه عن قطن بن عبد الله أبو مري به ابن أبي شيبة

حضور ﷺ نے فرمایا: خوارج جہنم کے کتے ہیں۔

الْفَزَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ،
ثنا أَبُو قَطْنٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو
غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْخَوَارِجُ كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ

7969- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحَارِثِيُّ، ثنا أَبُو خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّي أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ
كِلابَ النَّارِ

7970- حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو الْبَرَّازُ، ثنا

حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ
مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي
غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ رَأَى رُءُوسَ
الْخَوَارِجِ فَقَالَ: شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ
. قُلْتُ: شَيْئًا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ
مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُ بِهِ

7971- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي
خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہواء
والے جہنم کے کتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
انہوں نے خارجیوں کے سر دیکھے فرمایا: آسمان کے سایہ
کے نیچے بڑے ترین مقتول ہیں۔ میں نے عرض کی: یہ چیز
آپ نے اپنی رائے سے کہی ہے۔ فرمایا: اگر میں نے نبی
کریم ﷺ سے ایک بار دو بار یا تین بار حتیٰ کہ سات تک
پہنچ گئے نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تم اسلام سے ایسے نکلو گے جیسے تیز
کمان سے نکلتا ہے تم اس میں واپس نہ آؤ گے یہاں تک

کہ تیر واپس آجائے اس کے اوپر دوزخی کتے ہیں۔

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَخْرُجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا تَرْجِعُونَ فِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ كِلَابُ النَّارِ

حضرت حمید بن مہران فرماتے ہیں: میں نے اس آیت کے بارے حضرت ابو غالب سے پوچھا: ”وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری اور اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے“ یہاں تک ”اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو“ فرمایا: مجھے ابو امامہ نے حدیث سنائی رسول کریم ﷺ سے روایت کر کے فرمایا: وہ خارجی ہیں اور میں نے اس آیت کے بارے پوچھا: ”اور وہ جن کے چہرے کالے ہوئے“ کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب پکھو اپنے کفر کا بدلہ“ فرمایا: رسول کریم ﷺ سے روایت کر کے مجھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ وہ خارجی ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اس آیت کی تفسیر یوں مروی ہے: ”اے ایمان والو! غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ! وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے“ ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے ہر (دشمنی) ان کی باتوں سے جھلک اٹھی اور وہ جو سینے میں چھپاتے ہیں اور بڑا ہے

7972- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

كَيْسَانَ الْمِصْبِصِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا غَالِبٍ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) (آل عمران: 7) إِلَى (الْبَغَاءِ تَأْوِيلِهِ) (آل عمران: 7)، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هُمُ الْخَوَارِجُ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) (آل عمران: 106)، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمُ الْخَوَارِجُ

7973- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ

الصَّوَّافِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنِي، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا

ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر بیان کر دیں اگر تم عقل والے ہو۔ فرمایا: وہ خارجی ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَلْوَاهِهِمْ، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْثَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (آل عمران: 118) قَالَ: هُمُ الْخَوَارِجُ

7974- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبَادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَبْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا حَمِيدُ الْخِطَّاطِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى صَاحِبِ الْقَصَبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا غَالِبٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) (الحجر: 2)، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْخَوَارِجِ، حِينَ رَأَوْا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَنِ الْأُمَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالُوا: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ

7975- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصْبِصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا ابْنُ شَوْذِبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَّائِصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذِبٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْبَابِ، فَإِذَا رءُ

حضرت زکریا بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو غالب سے پوچھا اس آیت کے متعلق: ”وہ لوگ خواہش کریں گے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے۔“ فرمایا: مجھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ آیت خارجیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا، امت اور جماعت کو تو وہ کہیں گے: کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کی طرف نکلا، پس جب وہ دروازے کے پاس تھے تو وہاں خارجیوں کے سر موجود تھے، پس جب انہوں نے اُن کی طرف دیکھا تو رو دیے۔ فرمایا: شیطان نے کیا کیا، تین بار فرمایا: دوزخی کتے، تین بار فرمایا۔ پھر فرمایا: آسمان کے سائے میں سب سے بُرے مقتول ہیں، جس کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول

ہیں۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رسول کریم ﷺ سے یہ بات سنی ہے؟ فرمایا: اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو حدیث رسول کے خلاف جرات کرنے والا ہوں کیا تو نے وہ آیات پڑھی ہیں جو سورہ آل عمران کی ابتداء میں ہیں: ”پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے پس وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں“۔ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ تو پڑھے وہ آیت جو آل عمران کے درمیان میں ہے: ”اس دن کئی چہرے سفید اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے“ انہیں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے عرض کی: اے ابوامامہ! آپ روئے کیوں ہیں؟ فرمایا: یہ لوگ مسلمان یا مؤمن کہلاتے ہیں۔

وَسْ مِنْ رُءُوسِ الْخَوَارِجِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا بَكَى، فَقَالَ: مَاذَا صَنَعَ الشَّيْطَانُ - ثَلَاثًا - كِلَابِ النَّارِ - ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ: شَرُّ قَتْلِي تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ - ثَلَاثًا - مَنْ قَتَلُوهُ كَانَ خَيْرَ قَتِيلٍ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ. قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَنْتَ تَقُولُهُ أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ، هَلْ تَفَرَأُ الْآيَاتِ الَّتِي فِي أَوَّلِ آلِ عِمْرَانَ: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ) (آل عمران: 7)، فِي هَؤُلَاءِ أَنْزَلْتُ حَتَّى تَفَرَأُ الْآيَةَ الَّتِي فِي وَسْطِ آلِ عِمْرَانَ: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (آل عمران: 106) فِي هَؤُلَاءِ أَنْزَلْتُ. قُلْتُ: مَا يَبْنِيكَ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ - أَوْ قَالَ: مُسْلِمِينَ -

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں شام میں تھا ابوامامہ صدیق بن عجلان صحابی رسول بھی وہاں تھے میرا ایک دوست تھا پس حروریہ (خارجیوں) کے سر لانے گئے۔ آگے نبی کریم ﷺ سے روایت کر کے اس جیسی حدیث ذکر کرے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَاصِطُ خَرِثِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَاهِلِيُّ الْبَاصِطُ خَرِثِيُّ، ثنا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَاصِطُ خَرِثِيُّ، ثنا مَبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، وَبِهَا أَبُو أُمَامَةَ صَدِيقِي بْنُ عَجَلَانَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَجِئْتُ بَرَاءَ وَسِ الْحَرُورِيَّةِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

7976- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الصَّبِيّ، ثنا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَلَابِيّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ السُّلَيْكِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ بِدِمَشْقَ، رَمَنَ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَأَتَى بَرَاءُ وَسِ الْخَوَارِجَ، فَضَبَّتْ عَلَى أَغْوَادٍ، فَجِئْتُ لِأَنْظُرَ هَلْ فِيهَا أَحَدٌ أَعْرِفُهُ؟ فَإِذَا أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَهَا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْأَغْوَادِ فَقَالَ: كَلَابُ النَّارِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَمَنْ قَتَلُوهُ خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ -قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ اسْتَبَكَّنِي فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا يُبْكِيكَ؟ كَانُوا عَلَى دِينِنَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ مَا هُمْ صَانِرُونَ إِلَيْهِ غَدًا -فَقُلْتُ لَهُ: شَيْنًا تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ، أَمْ شَيْنًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا إِلَى السَّبْعِ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (آل عمران: 106) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: میں عبد الملک کے زمانے میں دمشق میں تھا تو خارجیوں کے سر لا کر لکڑیوں پر لٹکا دیے گئے۔ پس میں ان کو دیکھنے کیلئے آیا کہ میں کسی کو جانتا ہوں؟ میں نے ان کے پاس حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا میں ان کے قریب ہوا۔ میں نے لکڑیوں کی طرف دیکھا پس انہوں نے فرمایا: دوزخی کہتے ہیں تین بار فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بُرے مقتول۔ یہ بات بھی تین بار کہی پھر رو پڑے۔ پس میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! کیوں روئے ہو؟ وہ ہمارے دین پر تھے پھر میں نے ذکر کیا: وہ کل اس کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ میں نے ان سے عرض کی: آپ نے کوئی چیز اپنی رائے سے کہی یا رسول کریم ﷺ سے سنی؟ فرمایا: اگر میں نے ایک دو تین یا سات بار رسول کریم ﷺ سے نہ سنی ہوتی تو میں تمہیں کبھی بیان نہ کرتا کیا آپ آل عمران میں یہ آیت نہیں پڑھتے: ”جس دن کچھ چہرے خوشی سے جگمگا رہے ہوں گے اور کچھ چہرے خوف کے سبب سیاہ پڑ چکے ہوں گے۔“

7976- قال في المعجم جلد 6 صفحہ 234 قلت: رواه ابن ماجه رقم الحديث: 176، والترمذی باختصار رقم

الحديث: 4086 رواه الطبرانی ورجاله ثقات. قلت ورواه الحارث ابن أبي أسامة كما في المطالب العالیة

(87/86/3) وكذلك رواه أحمد جلد 5 صفحہ 269, 250 من طرق أخرى مختصرة.

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (آل عمران: 107)

7977- ثُمَّ قَالَ: اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ عَلَى

إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً سَبْعِينَ مِنَ النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، وَاخْتَلَفَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً إِحْدَى وَسَبْعُونَ فِرْقَةً فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ. فَقُلْنَا: انْعَمْتُمْ لَنَا، قَالَ: السَّوَادُ الْأَعْظَمُ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْجَمَانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

7978- حَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، ثنا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ثنا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَفَرَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى مَا تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَزِيدُ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ فَقُلْنَا: يَا أَبَا أُمَامَةَ: أَوْ لَيْسَ فِي السَّوَادِ مَا يَكْفِيهِ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنَنْكَرُ مَا تَعْمَلُونَ

7979- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ

پھر فرمایا: یہودیوں کے اکہتر فرقے بنے ان میں سے ستر دوزخ میں اور ایک جنت میں نصاریٰ کے بہتر فرقے بنے جن میں سے ایک جنت میں اور اکہتر دوزخ میں جائیں گے اور اس امت کے تہتر فرقے ہوں گے جن میں سے بہتر دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ ہم نے عرض کی: ہمیں اس کی نشانی بتائیں! فرمایا: سوادِ اعظم (سب جماعتوں سے بڑی جماعت)۔

ایک اور سند سے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے اس جیسی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اسی بناء پر جس پر بنی اسرائیل فرقوں میں بنے ایک فرقہ ان پر زائد ہوگا سوائے سوادِ اعظم کے سب جہنمی ہوں گے۔ پس ہم نے عرض کی: اے ابوامامہ! کیا سوادِ اعظم میں ایسی بات ہے جو اس کو کافی ہو؟ فرمایا: قسم بخدا! بے شک ہم ان کے اعمال کا انکار کریں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بٹے ان پر ایک فرقہ زیادہ میری امت کا ہوگا سوا اِظْطَم کے سوا سارے دوزخی ہوں گے۔

الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ، ثَنَا سَلَمُ بْنُ زُرَّيْرٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً تَزِيدُ عَلَيْهَا أُمِّي فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ

7980- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي قَطَنُ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: جَاءَتْ رُءُوسُ الْأَزَارِقَةِ سَبْعِينَ رَأْسًا، فَأَقِيمُوا عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ السَّبْعَةِ، وَكَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ، فَجَاءَ أَبُو أَمَامَةَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ سَارِيَةٍ، وَقَالَ: كِلَابُ النَّارِ ثَلَاثًا شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ شَيْءٌ تَقُولُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ، لَا بَلَّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: ازارقہ کے ستر سر آئے سات دن انہیں دمشق (مسجد) کی سیڑھیوں میں گاڑ دیا گیا سات میں سے تین دن گزرے تھے چوتھا دن تھا پس حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے ستون کے پاس دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا: دوزخی کتے ہیں تین بار فرمایا آسمان کے سائے کے نیچے بڑے مقتول ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا وہ بہترین مقتول ہیں۔ میں نے عرض کی: اے ابو امامہ! کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے رسول کریم ﷺ سے سنی ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا: پھر تو میں جری ہوا نہیں! بلکہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اسے سنا ایک یا دو بار نہیں سات تک تعداد پہنچی۔

7981- حَدَّثَنَا أَبُو الدَّحْدَاحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَوِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: خوارج کے سرائے گئے انہیں جامع دمشق کی سیڑھیوں میں نصب کر دیا گیا لوگ دیکھنے گئے میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے نکلا پس

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ گدھے پر آئے ان پر سنبلائی
 قیص تھی پس انہوں نے ان کی طرف دیکھا فرمایا:
 شیطان نے اس اُمت کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کلمات تین
 بار کہے آسمان کے سایہ میں یہ بُرے مقتول ہیں جن کو
 انہوں نے قتل کیا وہ بہتر مقتول ہیں یہ دوزخی کتے ہیں۔ تین
 بار کہا پھر روئے پھر واپس ہوئے پس ابوغالب کہتے ہیں:
 میں ان کے پیچھے چلا پس میں نے عرض کی: میں نے ابھی
 جو بات سنی ہے کیا آپ نے اپنی طرف سے کہی ہے؟
 فرمایا: سبحان اللہ! پھر تو میں جری ہوا بلکہ میں نے یہ رسول
 کریم ﷺ سے کئی بار سنی ہے میں نے ان سے عرض کی:
 میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا فرمایا: ان پر رحم آیا۔
 ایک بار تو وہ اہل اسلام میں داخل ہوئے پھر مجھ سے فرمایا:
 کیا تو نہیں پڑھتا؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! فرمایا: کیا
 تو نہیں سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: ”جس دن کچھ
 چہرے خوشی سے جگمگا رہے ہوں گے اور کچھ چہرے خوف
 کے سبب سیاہ پڑ چکے ہوں گے انہیں کہا جائے گا: کیا تم
 ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے۔“ میں نے عرض کی: اے
 ابوامامہ! یہ وہی ہیں؟ فرمایا: ہاں! یہ وہی ہیں۔ یہ حدیث
 خلید بن دعلج سے روایت نہیں ہے صرف ولید سے مروی
 ہے۔

ثَنَا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ، ثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ: جِئْتُ
 بُرْءَ وَسِ الْخَوَارِجِ فَصَبَّ عَلَى دَرَجٍ دِمَشْقٍ،
 فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَخَرَجْتُ أَنَا أَنْظُرُ
 إِلَيْهَا، فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ عَلَى حِمَارٍ، وَعَلَيْهِ
 قَمِيصٌ سُنْبُلَانِيٌّ، فَظَنَرُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا صَنَعَ
 الشَّيْطَانُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ؟ يَقُولُهَا ثَلَاثًا - شَرُّ
 قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ هَؤُلَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى
 تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلَهُ هَؤُلَاءِ كِلَابُ
 النَّارِ - يَقُولُهَا ثَلَاثًا - ثُمَّ بَكَى، ثُمَّ انْصَرَفَ،
 فَقَالَ أَبُو غَالِبٍ: فَاتَّبَعْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُكَ
 تَقُولُ قَوْلًا قَبْلَ، أَفَأَنْتَ قُلْتَهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ
 اللَّهِ، إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ بَلْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَارًا .
 قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تَبْكِي، فَقَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ،
 كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ لِي: أَمَا
 تَقْرَأُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَاقْرَأْ مِنْ آلِ عِمْرَانَ
 فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: أَمَا تَسْمَعُ اللَّهُ يَقُولُ: (فَأَمَّا
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)
 (آل عمران: 7) كَانَ فِي قُلُوبِ هَؤُلَاءِ زَيْغٌ
 فَزَيَّغَ بِهِمْ، اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ الْمِنَةِ فَقَرَأْتُ حَتَّى
 إِذَا بَلَغْتُ: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ،
 فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ
 إِيْمَانِكُمْ) (آل عمران: 106) فَقُلْتُ: يَا أَبَا
 أُمَامَةَ، إِنَّهُمْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَهُمْ هَؤُلَاءِ لَمْ

يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ دَعْلَجٍ إِلَّا الْوَلِيدَ

7982- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكُشَيْ، قَالَا: ثَنَا حَاجُّ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرٍ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَوَهَبَ أَحَدَهُمَا لِغُلَيْبِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ: لَا تَضْرِبُهُ، فَلَمَّا نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي. وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا، وَقَالَ: اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ الْغُلَامُ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ؟ قَالَ: أَمَرْتَنِي أَنْ اسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفًا، فَأَعْتَقْتُهُ

7983- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّي، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ رَبِيعَةٍ، وَمُضَرٍّ

7984- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمُرَوِّزِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ خیبر سے آئے اور آپ کے ساتھ دو غلام تھے پس آپ ﷺ نے ان میں سے ایک حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو عطا کیا اور فرمایا: اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے روکتا ہوں میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک غلام حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا اور فرمایا: میں اس کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ پس انہوں نے اس کو آزاد کر دیا پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو غلام میں نے تجھے دیا تھا اس سے کیا کیا؟ عرض کی: آپ نے مجھے اس کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی۔ پس میں نے اسے آزاد کر دیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جہنم سے میرے امتی میری شفاعت کے صدقے سے قبیلہ مضر اور ربیعہ سے زیادہ نکالے جائیں گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں میری امت میری شفاعت کے صدقے سے قبیلہ مضر والوں کی تعداد سے زیادہ داخل

ہو آدمی اپنے گھر والوں کی سفارش کرے گا اور وہ اپنے عملوں کی مقدار کے مطابق عمل کرے گا۔

بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مُضَرٍّ، وَيَشْفَعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَيَشْفَعُ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے نافلہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے لیے نفل تھے اور تمہارے لیے فضیلت ہیں۔

7985- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ، قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةً، وَلَكُمْ فَضِيلَةٌ

حضرت ابو غالب سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: جو مسلمان اذان سنتا ہے تو وضو کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے وضو کے پہلے قطرہ میں گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جو وہ اس پانی میں سے بہاتا ہے پس اس قطرے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخشا ہے پس وہ نماز کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نفل ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی: کیا آپ نے رسول کریم ﷺ سے سنا؟ اے ابوامامہ! فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، بشیر و نذیر بنا کر، کئی بار سنا دو یا تین چار بلکہ دس بار اور اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔

7986- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانًا، فَقَامَ إِلَى وَضُوئِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ يَصُبُّ كَفَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ الْقَطْرِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَيَقُومُ إِلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ نَافِلَةٌ. قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثًا، وَلَا أَرْبَعًا، وَلَا

7985- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4842. قال في المجمع جلد 8 صفحہ 265 بعض أسانيد أحمد وغيره حسن.

7986- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 254 والمصنف في الصغير جلد 2 صفحہ 118 قال في المجمع جلد 1 صفحہ 223 وأبو

غالب مختلف في الاحتجاج به وبقيته رجاله ثقات وقد حسن الترمذی لأبي غالب وصحح أيضًا.

عَشْرًا وَطَبَّقَ بِيَدِهِ

7987- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ

الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَيَّانَ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ
يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَ الظُّهُورَ مَوَاضِعَهُ، قَعَدْتَ
مَغْفُورًا لَكَ، فَإِنْ كُنْتَ تُصَلِّي كَأَنَّكَ لَكَ
فَضِيلَةٌ وَأَجْرًا، وَإِنْ قَعَدْتَ قَعَدْتَ مَغْفُورًا لَكَ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ
فَصَلَّى، يَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ، وَهُوَ يَشْقَى فِي
الدُّنُوبِ وَالْخَطَايَا؟ يَكُونُ لَكَ فَضِيلَةٌ وَأَجْرًا

7988- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ
بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حُسَيْنِ
الْخُرَّاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فَيَضَعُ وَضْوءَهُ مَوَاضِعَهُ
إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَدَنِهِ
وَرِجْلَيْهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ لَهُ فَضْلًا

7989- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں: میں نے حضرت

ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے سنا: جب تُو وضو اپنے مقامات پر
درست کرے تو بخش دیا جائے گا، پس اگر تُو نماز پڑھے تو وہ
تیرے لیے فضیلت اور اجر کا باعث ہوگی اور اگر (وضو کر
کے) تو بیٹھ گیا تو اس حال میں بیٹھا کہ تجھے بخش دیا گیا۔
پس ایک آدمی نے ان سے عرض کی: آپ کا کیا خیال ہے
کہ اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ نفل ہوئی، اس
حال میں کہ وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے بد بخت
ہو گیا ہے؟ فرمایا: وہ بھی اس کیلئے فضیلت اور اجر ہوگی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے وضو
والے اعضاء دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کان، آنکھ اور
بدن اور پاؤں سے صاف ہو جاتے ہیں نماز اس کے لیے
اضائی ثواب ہوگا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ انیس رکعت وتر پڑھتے تھے آپ کا بدن

7987- قال في المجمع جلد 1 صفحه 223، ورجاله موثقون .

7989- قال في المجمع جلد 2 صفحه 241، رواه أحمد جلد 5 صفحه 255، والطبرانی ورجال أحمد ثقات .

بھاری اور گوشت زیادہ ہو گیا تو آپ سات رکعت پڑھتے تھے دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے ان میں سورت اذا زلزلت قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔

بُنْ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحَبَابِ الْجَمَحِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَادَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا بَدَنَ وَكَثُرَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَجَدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ إِذَا زُلْزِلَتْ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ دو رکعتیں نفل و ترو کے بعد بیٹھ کر پڑھتے تھے ان میں اذا زلزلت اور قل یا ایہا الکافرون پڑھتے تھے۔

7990- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّيَابِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمِصْبِصِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُتْرِ، وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نو رکعت وتر پڑھتے تھے جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ سات رکعت وتر پڑھتے تھے۔

7991- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا أَبُو قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، فَلَمَّا ثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ 7992- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ ثَنَا أَبُو

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: جو لوگ ہدایت کے بعد گمراہ ہوئے ہیں جس ہدایت پر وہ تھے تو وہ اس حال میں لائے جائیں گے کہ جھگڑ رہے ہوں گے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”انہوں نے صرف ناجائز جھگڑے کیلئے ہی یہ مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو“۔

بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَلِيدٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوْتُوا جَدَلًا، ثُمَّ قَرَأَ: (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) (الزخرف: 58)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم ایسے ملک سے گزر دو جس کے رہنے والوں کو ہلاک کیا گیا تو تیزی سے چلو۔

7993- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأُسْفَاطِيُّ، ثنا جَهُوَرُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو الْحَارِثِ الْجَرْمُوزِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَرَرْتُمْ عَلَى أَرْضٍ قَدْ أَهْلَكَ أَهْلُهَا فَأَعْدُوا السَّيْرَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم ایسے ملک کے پاس سے گزر دو جس کے رہنے والوں کو ہلاک کیا گیا ہے تو تیزی سے چلو۔

7994- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا جَهُوَرُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِأَرْضٍ قَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ أَهْلَهَا، فَأَجِدُوا السَّيْرَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

7995- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو

حضور ﷺ جب وضو کرتے تو دائرہ می کا خلال کرتے تھے۔

بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
الْمُرُوزِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ،
قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، ثنا عُمَرُ بْنُ سَلِيمٍ
الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
تَوَضَّأَ خَلَلَ لِحْيَتَهُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نصف مد پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے۔

7996- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ
التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا زَيْدُ بْنُ
الْحَبَابِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَنْصِفُ مِدَّ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ آپ عصا
پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم
آپ کے لیے کھڑے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا: ایسے
نہ کرو جس طرح عجمی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے
ہیں۔

7997- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ:
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ
أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الْعَدْبَسِ، عَنْ أَبِي
مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو غالب صاحب المعجم واسمہ حوزہ

7996- قال في المجمع جلد 1 صفحه 218 وفيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه .
7997- وزواه أحمد جلد 5 صفحه 253 وأبو داود رقم الحديث: 5230، والراهمرمزى في المحدث الفاصل (296-297) وتمتم في الفوائد جلد 2 صفحه 41 من طريق مسعر به . وروى من طريق أخرى عند أحمد جلد 5 صفحه 253 وابن ماجه رقم الحديث: 3836، والرويانى في مسنده (2/225/30) وعبد الغنى المقدسى في الترغيب في الدعاء جلد 2 صفحه 93، وهو حديث ضعيف أبو العديس مجهول، وفي الأسانيد الأخرى اضطراب شديد وفي بعضها أبو مرزوق وهو لين كما قال الحافظ .

وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى عَصَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا إِلَيْهِ،
فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ الْأَعَاجِمُ يَقُومُ
بَعْضُهَا لِبَعْضٍ

7998- فَقُلْنَا: اِسْتَهْنَأْنَا أَنْ تَذَعُو لَنَا،

فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا،
وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ،
وَأَصْلِحْ شَأْنَنَا كُلَّهُ. قَالَ: فَإِنَّا اِسْتَهْنَأْنَا أَنْ
تَزِيدَنَا، فَقَالَ: أَوْ لَيْسَ قَدْ جَمَعْنَا الْخَيْرَ؟

7999- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنُ عِيَّاشٍ
الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ هُرْمَزٍ الْقَسَمَلِيُّ،
عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِي
فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ، وَأَنَا طَارٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ
يَأْكُلُونَ دَمًا، فَقُلْتُ: إِنَّمَا جِئْتُ أَنْهَاكُمْ عَنْ
هَذَا، فَوَضَعْتُ رَأْسِي، فَقُمْتُ وَأَنَا مَغْلُوبٌ،
فَاتَّانِي آتٍ فِي مَنَامِي بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَقَالَ:
خُذْ هَذَا وَاشْرَبْ، ثُمَّ كَطَيْتِي بَطْنِي فَشَبَعْتُ،
ثُمَّ رَوَيْتُ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: أَتَاكُمْ رَجُلٌ مِنْ
سَرَاةِ قَوْمِكُمْ فَلَمْ تَجْعُوهُ بِالْمَدِيقَةِ، فَأَنَوْنِي
بِمَدِيقَتِهِمْ فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، إِنَّ اللَّهَ

پس ہم نے عرض کی: ہماری خواہش ہے کہ آپ
ہمارے لیے دعا کریں آپ نے یوں دعا کی: اے اللہ!
ہماری مغفرت فرما! ہم پر رحم فرما! ہم سے راضی ہوا! ہم سے
قبول فرما! ہمیں جنت میں داخل فرما! دوزخ سے نجات
دے اور ہمارے کاموں کی اصلاح فرما! فرماتے ہیں:
ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمیں اور دعا دیں۔ فرمایا: ان
کلمات نے ساری بھلائیاں جمع کر لی ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم ﷺ نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا، میں ان کے
پاس گیا اس حال میں کہ میں کپڑا لپیٹے ہوئے تھا جب
میں ان کے پاس پہنچا تو وہ خون کھا رہے تھے میں نے کہا:
میں تمہیں اس سے منع کرنے آیا ہوں۔ پس میں نے
اپنا سر رکھا، میں اس حال میں کھڑا ہوا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ
تھا پس نیند میں میرے پاس ایک آدمی آیا اس کے پاس
شربت والا برتن تھا۔ اس نے کہا: یہ پکڑ کر پی لے! پھر
میرے پیٹ نے سیر ہولیا، پھر میں نے پلایا، پس میں نے
ان کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے: تمہاری قوم کے سرداروں میں
سے ایک آدمی آیا ہے کم ہی اسے تم نے کھانے کی کوئی چیز
دی ہے پس وہ اپنا کھانا میرے پاس لائے میں نے کہا:
مجھے ضرورت نہیں! بے شک اللہ نے مجھے کھلا پلا دیا ہے پس

میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا، پس وہ سارے کے سارے اسلام لائے۔

أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، فَأَرَيْتُهُمْ بَطْنِي، فَأَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے میری قوم کی طرف بھیجا کہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں اور ان کے سامنے اسلام کے احکام بیان کروں۔ پس میں ان کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ اپنے اونٹوں کو پلا رہے تھے ان کا دودھ نکال کر پی رہے تھے پس جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا: خوش آمدید! صدی بن عجلان کو۔ انہوں نے کہا: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ کر اس آدمی کا دین اختیار کر لیا ہے۔ میں نے کہا: (میں نے دین) نہیں (چھوڑا) میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام اور احکام اسلام پیش کروں۔ ہم اسی اثناء میں تھے کہ وہ خون کا پیالہ لائے اس کو رکھ کر اس پر اکٹھے ہوئے اور اسے کھانا شروع کر دیا انہوں نے کہا: اے صدی! آؤ۔ میں نے کہا: تم پر افسوس ہے! میں اس ہستی سے تمہاری طرف آیا ہوں جس نے اس کو حرام کیا ہے اس کلام کے ساتھ جو اس پر اللہ نے اتاری ہے۔ انہوں نے کہا: جو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یہ آیت نازل ہوئی ہے: ”تم پر حرام ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت“ یہاں تک ”وان تستقسموا بالازلام“۔ پس میں نے

8000- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْمُقَرِّيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ سُرَيْجٍ، ثَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ قَوْمِي أَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ شُرَاعَ الْإِسْلَامِ فَأَتَيْتُهُمْ، وَقَدْ سَقَوْا إِبِلَهُمْ وَاخْتَلَبَوْهَا وَشَرَبُوا، فَلَمَّا رَأَوْنِي قَالُوا: مَرْحَبًا بِالصُّدِيِّ بْنِ عَجْلَانَ، قَالُوا: بَلَّغْنَا أَنَّكَ صَبَوْتَ إِلَيَّ هَذَا الرَّجُلِ، قُلْتَ: لَا وَلَكِنْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ أَعْرِضْ عَلَيْكُمْ الْإِسْلَامَ وَشُرَائِعَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ فَبَاءُوا بِقَضَعَةِ دَمٍ، فَوَضَعُوهَا وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَأْكُلُونَهَا، قَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدِيُّ، قُلْتَ: وَنَحْكُمُ، إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ مَنْ يُحَرِّمُ هَذَا عَلَيْكُمْ بِمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَمَا قَالَ؟ قُلْتَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (المائدة: 3) إِلَى

تو غالب صاحب المعجم واسمہ ضرور

قَوْلِهِ: (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ) (المائدة: 3). فَجَعَلْتُ أَذْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَأْبُونُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: وَيَحْكُمُ اثْنَتَا بَشَى مِنْ مَاءٍ، فَلِإِنِّي شَدِيدُ الْعَطَشِ. قَالَ: وَعَلَى عِمَامَتِي، قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ نَدْعُكَ تَمُوتُ عَطَشًا، قَالَ: فَاغْتَمَمْتُ وَضَرَبْتُ رَأْسِي فِي الْعِمَامَةِ، وَبَسْتُ فِي الرَّمْضَاءِ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، فَاتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي بِقَدَحٍ زُجَاجٍ لَمْ يَرِ النَّاسُ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَفِيهِ شَرَابٌ لَمْ يَرِ النَّاسُ أَلَذَّ مِنْهُ، فَأَمْكَنِي مِنْهَا فَشَرِبْتُهَا، فَحَيْثُ فَرَعْتُ مِنْ شَرَابِي اسْتَيْقَظْتُ، وَلَا وَاللَّهِ مَا عَطِشْتُ، وَلَا عَرَفْتُ عَطَشًا بَعْدَ تَيْكِ الشَّرْبَةِ

آہستہ آہستہ انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا اور وہ انکار کرنے لگے۔ میں نے ان سے کہا: افسوس ہے تم پر میرے پاس پانی میں سے کچھ لو، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ فرماتے ہیں: میرے سر پر عمامہ تھا۔ انہوں نے کہا: نہیں! بلکہ ہم تجھے بددعا دیتے ہیں کہ تو پیاس سے مر جائے۔ فرماتے ہیں: میں نے عمامہ باندھا اور اپنے سر کو عمامہ میں کس دیا اور سخت گرمی اور موسم گرما میں سو گیا۔ خواب میں کوئی آدمی شیشے کا پیالہ لایا انتہائی خوبصورت اس میں شربت تھا لوگوں نے اس سے زیادہ مزیدار نہ دیکھا ہوگا اس نے میرے آگے کیا میں نے اس سے پیا جب میں فارغ ہوا جاگا: قسم ہے اس کے بعد مجھے پیاس نہیں لگی اور نہ ہی اس شربت کے بعد میں نے جانا ہے کہ پیاس کیا ہوتی ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز کے بعد پاؤں پھیلانے سے پہلے سو بار پڑھا: ”لا الہ الا اللہ الی آخرہ“ تو اس دن روئے زمین پر اس سے افضل کوئی نہ ہو گا سوائے اس کے جس نے اسی کی مثل پڑھایا اس سے زیادہ پڑھا۔

8001- حَدَّثَنَا الْيَقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا آدَمُ بْنُ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا أَبِي، ثنا آدَمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَدَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَّه لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُحْيِي بِيَدِهِ

الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْشِئَ رَجُلِيَّهٖ، كَانَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ

8002- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

الرَّاسِبِيُّ، ثنا مُهَلَّبُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانَ الصَّفَّارُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَصَافَحَ الْمُسْلِمَانِ لَمْ تَفْرُقْ أَكْفُهُمَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا

8003- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ

أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيِّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْحَدَّاءُ، ثنا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْحُجْمِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مِيتًا، فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنُوبِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ

8004- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهَرَانِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے میت کو غسل دیا، اس کا کوئی عیب دکھائی دیا، اس کو چھپایا تو اللہ اس پر پردہ ڈالے گا، جس نے میت کو کفن دیا، اللہ عزوجل اس کو سندس (ایک قسم کا ریشم) پہنائے گا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے میت کو غسل دیا، اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، جس نے میت کو کفن دیا، اللہ عزوجل اس کو سندس (ایک قسم کا

8002- قال في المعجم جلد 8 صفحہ 37 وفيه مهلب بن العلاء ولم أعرفه وبقيته رجاله ثقات .

8003- لم يتكلم عليه في المعجم . ورواه ابن بشران وحسنه شيخنا .

8004- قال في المعجم جلد 3 صفحہ 21 وفيه أبو عبد الله الشامي روى عن أبي خالد ولم أجد من ترجمه .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، فَكَتَمَ عَلَيْهِ طَهْرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَإِنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ

8005- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُسَيَّبِ،

وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَارِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إِمَامٌ ظَلُومٌ، وَكُلٌّ غَالٍ مَارِقٍ

8006- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ

حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافِ، قَالُوا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الْجِهَادِ إِلَى اللَّهِ كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ لِإِمَامٍ جَائِرٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کے دو قسم کے لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی: (۱) ظالم حکمران (۲) قتل عاۃ کرنے والے کی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ہاں زیادہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔

8005- ورواہ أبو اسحاق الحریری فی غریب الحدیث (2/120) 'والبحر جانی فی الفوائد جلد 1 صفحہ 112 وابن ابی

الحدید السلمی فی حدیث ابی الفضل السلمی جلد 1 صفحہ 2' وأبو بکر الکلاباذی فی مفتاح المعانی جلد 2

صفحہ 360' ورجاله ثقات کما قال فی المجمع جلد 5 صفحہ 235' ورواہ فی الأوسط (220 مجمع البحرین) من

طریق آخر فیہ ضعیفان' وانظر سلسلة الأحادیث الصحیحة لشیخنا محمد ناصر الدین الألبانی رقم: 471 .

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حمرات کے پاس عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔

8007- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ عِنْدَ الْحُمْرَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ووراہت تقسیم کرنے حق والے کا حق کم نہ کرو اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ دشمن سے لڑتے وقت بزدلی نہ دکھاؤ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی چیز نہ چھپاؤ اور مظلوم سے ظالم کا ہاتھ روک دو۔

8008- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصِ النَّفِيلِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مَرْوَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اضْمَنُوا لِي سِتَّ خِصَالٍ أَضْمَنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ. قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا تَظْلِمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِكُمْ، وَانْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَجْنُبُوا عِنْدَ قِتَالٍ عَدُوَّكُمْ، وَلَا تَغْلُوا غَنَائِمَكُمْ، وَامْنَعُوا ظَالِمَكُمْ مِنْ مَظْلُومِكُمْ

8007- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 251، 256 وابن ماجہ رقم الحديث: 4012 والمخلص في بعض الفوائد جلد 1 صفحہ 260 والروای فی مسنده (2/215/30) وأبو بكر بن سلمان الفقيه في المنتقى من حديثه جلد 1 صفحہ 96 وأبو القاسم السمرقندی فی جزء من الفوائد المنتقا جلد 1 صفحہ 112 وابن عدی جلد 2 صفحہ 112 والبيهقي في الشعب (1/438/2) والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1288 والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 2473 من طرق عن حماد به. قال شيخنا في سلسلة الصحيحة رقم: 490 وهذا اسناد حسن وفي أبي غالب خلاف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن أو حديثه هذا صحيح لشواهدہ.

8008- قال في المجمع جلد 4 صفحہ 139 وفيه العلاء بن سليمان الرقي وهو ضعيف. قلت: وهذا تعليل قاصر، فشيوخه أيضا ضعيف وهو خليل بن مرة.

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کچا لہسن، پیاز اور سرخی ہونی یئگنیاں (جوزرہ کو دھونے کے کام آتی ہیں) شیطان کی خوشبو ہے۔

8009- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعُمِيُّ، ثنا صَاحِبُ لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكَرَّاثُ مِنْ سُلَيْمِ إِبْلِيسَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابوالدرداء اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔

8010- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ الْأَهْوَازِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا جِسْرُ بْنُ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا بَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَسَلْمَانَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اُن کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے آنے کے مطابق نیکیاں لکھتے ہیں جب امام نکلتا ہے تو رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے میں نے کہا: امام سے نکلنے کے بعد جو آئے اس کا جمعہ نہیں ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں! لیکن اس کا نام رجسٹر میں

8011- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدٍ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مَبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَقُومُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَعَهُمْ

8009- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 18 'وفيه رجل يقال له أبو سعيد روى عن أبي غالب' وروى عنه عبد العزيز بن عبد الصمد ولم أحد من ترجمه .

8010- قال في المجموع جلد 8 صفحہ 172 'وفيه جسر بن فرقند وهو ضعيف .

8011- قال في المجموع جلد 2 صفحہ 177 'رواه أحمد جلد 5 صفحہ 263' والطبرانی في الكبير . وفيه مبارك بن فضالة وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون . قلت: وهو مدلس وقد عنعن . وفي سلمة بن رجاء كلام .

نہیں ہوگا۔

الصُّحُفُ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ
طَوَيْتِ الصُّحُفُ. فَقُلْتُ: لَيْسَ لِمَنْ خَرَجَ
بَعْدَ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ
فِيهَا فِي الصُّحُفِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو
کہا کہ آگے ہو وہ آگے ہوئی، اے کہا: پیچھے ہو! وہ پیچھے
ہوئی، فرمایا: مجھے تیری عزت کی قسم! تجھ سے زیادہ کوئی مخلوق
مجھے خوش کرنے والی نہیں ہے تیری وجہ سے میں عطا کرتا
ہوں تیرے ساتھ ثواب ہے اور تیرے اوپر ہی سزا ہے۔

8012- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ
مَنْدَه الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ
شُجَاعٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْفَضْلِ الْقُرَشِيُّ، ثنا عُمَرُ
بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْعَتَكِيُّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ
فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَذْبِرْ فَأَذْبَرَ، قَالَ: وَعِزَّتِي مَا
خَلَقْتُ خَلْقًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْكَ، بِكَ أُعْطِيَ
وَبِكَ الثَّوَابُ، وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ مسکرائے پھر فرمایا: مجھے تعجب ہوا ایسے لوگوں
پر جو جنت میں بھیجے جائیں گے، ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے

8013- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَمَامٍ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي

8012- قال في المجموع جلد 8 صفحہ 28 رواه الطبرانی في الكبير والأوسط (264 مجمع البحرين) وفيه عمر ابن أبي
صالح قال الذهبي . لا يعرف . قال الحافظ في المطالب العالیة جلد 3 صفحہ 13 'ومن كتاب العقل لداود بن
المعبر أودعها الحارث ابن أبي أسامة في مسنده وهي موضوعة كلها لا يثبت منها شيء . ورواه العقيلي في
الضعفاء صفحہ 284 'وقال: عمر ابن أبي صالح العتكي عن أبي غالب حديثه منكر' وعمر هذا وسعيد بن الفضل
الراوي عنه مجهولان جميعًا بالنقل ولا يتابع على حديثه' ولا يثبت في هذا المتن شيء . فهو حديث موضوع .

8013- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 256, 249 'قال في المجموع جلد 5 صفحہ 333' وأحمد اسنادی أحمد رجاله رجال
الصحيح .

اس حال میں کہ وہ مجبور ہوں گے۔

غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: اسْتَضَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: عَجِبْتُ لِأَقْوَامٍ يُسَافِرُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ، وَهُمْ كَارِهُونَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل ہر روزہ کی افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔

8014- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَتَقَاءَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل ہر روزہ کی افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔

8015- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ عَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی نماز ان کے سروں

8016- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

8014- قال في المجموع جلد 3 صفحہ 143 رواه أحمد جلد 5 صفحہ 256 والطبرانی في الكبير ورجالہ موثوقون وله

شواہد .

8016- ورواه الترمذی رقم الحديث: 357 وحسنه . ورواه البغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 838 وهو حديث

حسن .

کے اوپر سے نہیں گزرتی ہیں: (۱) بھاگے ہوئے غلام کی
(۲) وہ عورت جس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں رات
گزارے (۳) وہ امام جو لوگوں کی امامت کروائے اور
لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔

شَقِيقٍ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي
غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ
صَلَاتُهُمْ رُءُوسَهُمْ: الْعَبْدُ الْيَاقِي، وَالْمَرْأَةُ
تَبَيْتَ وَزَوْجَهَا عَلَيْهَا سَاحِطٌ، وَإِمَامٌ أَمَّ قَوْمًا
وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

8017- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا
الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الْبَزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَةٌ، وَدَفْنُهُ
حَسَنَةٌ

8018- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَضَاءٍ
الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، أَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ تَنَحَّجَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدْفِنْهُ
فَسَيِّئَةٌ، وَإِنْ دَفَنَهُ حَسَنَةٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَضَاءٍ الْجَوْهَرِيُّ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: مسجد میں تھوکنے اور اس کو دفن نہ کرنا
گناہ ہے اگر دفن کر دیا تو نیکی ملے گی۔

ابو غالب صاحب المعجم واسمہ حرور

8017- ورواہ احمد جلد 5 صفحہ 260 قال فی المعجم جلد 2 صفحہ 18 ورجال احمد موثقون - ورواہ ابن ابی شیبہ فی

المصنف جلد 2 صفحہ 365 .

8018- قال فی المعجم جلد 2 صفحہ 260 ورجالہ موثقون .

مثل روایت کرتے ہیں۔

الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ مِثْلَهُ

8019- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ

الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُوَيْدَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ

8020- حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ زَيْدُ بْنُ

الْمُهَنْدِي الْمُرُوذِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا لِكَيْ يَفْهَمَ عَنْهُ

8021- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمُرُوذِيُّ، ثنا ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مسجد میں تھوکننا منع ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب گفتگو کرتے تو تین دفعہ کرتے تھے تاکہ سمجھا جائے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عورتوں سے فرمایا: اس بچے کو مت زلانا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ (جو اس وقت بچے تھے) فرماتے ہیں: اُم سلمہ کی باری کا دن تھا پس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے رسول کریم ﷺ حجرہ

شریف میں داخل ہوئے اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: میرے پاس کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ پس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے پس جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھا کہ آپ حجرہ میں ہیں تو داخل ہونا چاہا، لیکن حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پکڑ کر گود میں ڈال لیا، پس بہلانے پھلانے لگیں (کہ حضور ﷺ کے پاس نہ جائیں کہ آپ ﷺ نے منع کیا ہے) پس جب وہ زیادہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پس وہ داخل ہو کر نبی کریم ﷺ کی گود میں بیٹھ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا وہ اس کو قتل کریں گے اور وہ مؤمن ہوں گے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! قتل کریں گے۔ پس جبریل علیہ السلام نے (ان کے قتل کی) مٹی پکڑ کر کہا: فلاں فلاں جگہ کی ہے۔ پس رسول کریم ﷺ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لے کر نکلے دل کی حالت غمگین اور بدلی ہوئی تھی۔ پس حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے گمان کیا کہ بچے کے داخل ہونے کی وجہ سے غصے میں ہیں عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں آپ پر قربان آپ نے فرمایا تھا: اس بچے کو نہ زلانا اور مجھے حکم دیا کہ کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ پس یہ آئے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پس آپ ﷺ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، پس آپ نکل کر صحابہ کی طرف چلے

وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ: لَا تُبْكُوا هَذَا الصَّبِيَّ - يَعْنِي حُسَيْنًا - قَالَ: وَكَانَ يَوْمَئِذٍ أُمُّ سَلَمَةَ، فَتَزَلَّ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّاخلَ، وَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: لَا تَدْعِي أَحَدًا يَدْخُلُ عَلَيَّ فَجَاءَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ، فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَأَخْطَضَتْهُ وَجَعَلَتْ تَنَاقِيهِ وَتُسْكِنُهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ فِي الْبُكَاءِ خَلَّتْ عَنْهُ، فَدَخَلَ حَتَّى جَلَسَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ ابْنَكَ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْتُلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِي؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْتُلُونَهُ، فَتَنَاولَ جَبْرِيلُ ثُرْبَةً، فَقَالَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اخْتَضَنَ حُسَيْنًا كَأَسَفِ الْبَالِ، مَهْمُومًا، فَظَنَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّهُ غَضِبَ مِنْ دُخُولِ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ، إِنَّكَ قُلْتَ لَنَا لَا تُبْكُوا هَذَا الصَّبِيَّ، وَأَمَرْتَنِي أَنْ لَا أَدْعَ يَدْخُلُ عَلَيْكَ، فَجَاءَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أُمَّتِي يَقْتُلُونَ هَذَا. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَا أَجْرًا الْقَوْمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَفْتُلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَذِهِ تَرْبُتُهُ وَأَرَاهُمْ إِيَّاهَا

گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے فرمایا: بے شک میری اُمت اس (بچے) کو قتل کرے گی۔ لوگوں میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ دونوں حضرات آپ ﷺ کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے ان دونوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! وہ مؤمن ہو کر بھی قتل کریں گے؟ فرمایا: جی ہاں! یہ ان (کے قتل) کی مٹی ہے! اور ان سب کو دکھائی۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت والا ہوتا ہے۔

8022- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے نہیں گزرتی ہیں: (۱) بھاگے ہوئے غلام کی (۲) وہ عورت جس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے (۳) وہ امام جو لوگوں کی امامت کروائے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔

8023- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ أَذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا: الْعَبْدُ الْبَاقِي، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَؤُوحَهَا عَلَيْهَا سَاحِطٌ، وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

8024- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَسِ بْنِ

كَامِلِ السَّرَاجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ
 بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ
 أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَاهِلَةَ، فَاتَيْتُ
 وَهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَرَجَّوْا بِي وَأَكْرَمُونِي،
 وَقَالُوا: تَعَالِ فَكُلْ، فَقُلْتُ: جِئْتُ لِأَنْهَاكُمْ
 عَنْ هَذَا الطَّعَامِ، وَأَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَيْتُكُمْ لِتُزْمِنُوا بِهِ، فَكَذَّبُونِي
 وَزَبَرُونِي، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا جَائِعٌ ظَمْآنٌ قَدْ نَزَلَ
 بِي جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَنِمْتُ فَاتَيْتُ فِي مَنَامِي
 بِشَرِبَةٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ وَرَوَيْتُ وَعَظُمَ
 بَطْنِي، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَتَاكُمْ رَجُلٌ مِنْ خِيَارِكُمْ
 وَأَشْرَافِكُمْ فَرَدَّ ذِمَّتُوهُ، فَادْهَبُوا إِلَيْهِ فَأَطْعِمُوهُ
 مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَا يَشْتَهِي، فَأَتُونِي
 بِطَّعَامٍ، قُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِي طَعَامِكُمْ
 وَشَرَابِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي -
 فَانْظُرُوا إِلَى الْحَالِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، فَانْظُرُوا
 فَاْمُنُوا بِي، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَبُو غَالِبٍ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ وَأَسَمُهُ حُرُورٌ

حضور ﷺ نے مجھے بنو باہلہ کی طرف بھیجا، میں ان کے پاس اس حال میں پہنچا کہ وہ کھانے کے دسترخوان پر اکٹھے تھے پس انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میری عزت کی اور کہا: آ اور کھا! میں نے کہا: میں تمہیں اس کھانے سے منع کرنے آیا ہوں، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ پس انہوں نے میری بات کو جھٹلایا اور مجھے روکا۔ پس میں وہاں سے اس حال میں چلا کہ بھوکا پیاسا تھا، تھکاوٹ سے چور چور پس میں سو گیا۔ خواب میں مجھے دودھ لا کر دیا گیا، میں نے پیا، خوب سیر ہوا اور میرا پیٹ بڑا ہوا۔ پس قوم نے کہا: تمہارے پاس تمہارے پسندیدہ اور اشراف میں سے ایک آدمی آیا لیکن تم نے ان کی بات کو رد کر دیا، اس کی طرف جا کر اسے کچھ کھلاؤ، پلاؤ جو اسے خواہش ہے۔ پس وہ میرے پاس کھانا لائے۔ میں نے کہا: مجھے ضرورت نہیں نہ تمہارے کھانے میں نہ پینے میں، کیونکہ اللہ نے مجھے کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ پس اس حال کی طرف جس پر میں ہوں، پس انہوں نے دیکھا تو ایمان لائے مجھ پر اور جو میں رسول کریم ﷺ کی طرف سے لایا تھا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

8025- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

8025- ورواه أحمد جلد 5 صفحہ 250، 258 قال في المعجم جلد 4 صفحہ 238 و مدار الحديث على أبي غالب وهو ثقة

وقد ضعف

علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کی: مجھے ایک غلام دیں! آپ ﷺ نے فرمایا: گھر میں تین غلام ہیں ان میں سے ایک لے لو۔ عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لیے آپ پسند کریں! آپ ﷺ نے فرمایا: یہ غلام لے لو! کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے جب سے ہمارے پاس آیا اس کو مارنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں نمازی آدمی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فرشتے جمعہ کے دن مساجد کے دروازے پر بیٹھتے ہیں اور دوم سوم نمبر پر آنے والے کے ثواب کو لکھتے ہیں جب امام نکلتا ہے تو رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔

الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ هَارُونَ الْعُكْلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ عَلِيًّا: قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْفَعْ إِلَيَّ خَادِمًا، فَقَالَ لَهُ: فِي الْبَيْتِ ثَلَاثَةٌ اخْتَرْتَهُ مِنْهُمْ وَاحِدًا - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اخْتَرْتَنِي أَنْتَ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا الْغُلَامَ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ صَلَّى مِنْذُ خَرَجْنَا مِنْ جَبَلِ جَبَلٍ وَلَا تَضُرُّنِي، فَإِنَّا نُهَيِّنَا عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ

8026- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ

8027- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقْعُدُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ،

وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصُّحُفُ

8028- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدَةُ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَيُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَأْتِفُ، وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ الْمُسْكِينِ وَالضَّعِيفِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے کہا: ہمیں حضور ﷺ کی حدیث سنائیں! حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ﷺ کی گفتگو قرآن اور کثرت ذکر، مختصر خطبہ اور لمبی نماز کسی کو حقیر نہ جانئے، تکبر نہ کرے کہ مسکین اور کمزور کے ساتھ نہ جائیں یہاں تک کہ اس کی ضرورت مکمل کر کے آئے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو غلام دیا، فرمایا: جو تو خود کھائے اس کو بھی کھلا، جو خود پہنے اس کو بھی پہنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑا آیا تو اس کے دو حصے کیے ایک حصہ اس غلام کو دے دیا اور ایک حصہ کا اپنے لیے تہبند بنایا۔ حضور ﷺ نے اسے فرمایا: میں آپ کے کپڑے کو اس طرح کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ان کو کھلاؤ اس سے جو تم خود کھاتے ہو اور ان کو پہناؤ، اس سے جو تم خود پہنتے ہو؟ فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: میں اسے آزاد کرادوں۔ فرمایا: اے ابوذر! اللہ تجھے اجر دے۔

8029- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا لَيْثُ بْنُ هَارُونَ الْعُكْلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدَةُ، قَالَ: ثنا زَيْدُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَبَا ذَرٍّ قِنًا فَقَالَ: أَطْعِمْهُ مِمَّا تَأْكُلُ، وَآخِصْهِ مِمَّا تَلْبَسُ، وَكَانَ لِأَبِي ذَرٍّ ثَوْبٌ، فَشَقَّهُ نِصْفَيْنِ، فَانْتَزَرَ نِصْفَهُ، وَأَعْطَى الْغُلَامَ نِصْفَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَرَى ثَوْبَكَ هَكَذَا؟ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتُ: أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا
تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ؟ قَالَ:
نَعَمْ. قُلْتُ: أَعْتَقُهُ؟ قَالَ: أَجْرَكَ اللَّهُ يَا أَبَا
ذَرٍّ

